

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ تم کو دین میں کہے لڑا اور میں منع کریں اس باز آجاؤ۔“

مَا أَتَاكُمْ مِنَ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَنْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

سُنَنِ ابْنِ دَاوُدَ شَرِيف

مترجم اردو مع مختصر شرح

جلد سوم

تالیف: امام ابو حنیفہ اور شیخ ابی اسحاق شیبانی رحمہما علیہما

مترجم: مولانا خورشید حسن قاسمی (فریق دارالافتاء دارالعلوم دیوبند)

نظارتی: حافظ محبوب احمد خان

مکتبۃ اسلامیہ
لاہور
۱۸-۱۷۷۷ بلالہ لائبریری پاکستان

فَاَلْتَمِسُكَ يَا رَبِّ سَيِّدِي وَوَلِيَّيْكَ يَا رَبِّ عِنْدَ مَا فَانَتُمُو
اللہ کے رسول کو کچھ تم کو دیں، اس کو لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ

سنتن الوداد و سیرت مرتجم

جلد سوم

تالیف: امام الوداد و سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ علیہ

مترجم: مولانا خورشید حسن قاسمی

نظر ثانی: حافظ محبوب احمد خان

ناشر

۱۸- اردو بازار لاہور پاکستان
Ph: 7231788- 7211788

مکتبۃ العلم

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔



نام کتاب سنن ابوداؤد شریف جلد سوئم
تالیف: امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث ^{رحمۃ اللہ علیہ} سجستانی
مترجم مولانا خورشید حسن قاسمی
نظر ثانی: حافظ محبوب احمد خان
طابع خالد مقبول
مطبع



❖ مکتبہ رحمانیہ، اقراء سنٹر، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ 7224228

❖ مکتبہ علوم اسلامیہ، اقراء سنٹر، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ 7221395

❖ مکتبہ حوریہ ۱۸- اردو بازار ۵ لاہور ۵ پاکستان 7211788



- کتوں کی قیمت لینے کا بیان ۵۰
- شراب اور مُردار کی قیمت لینے کا بیان ۵۱
- غلہ پر قبضہ سے قبل اس کو فروخت کرنے کا بیان ۵۲
- کوئی شے فروخت کرتے وقت کوئی یہ کہہ دے اس چیز میں دھوکا نہیں ہے تو اسکا کیا حکم ہے؟ ۵۳
- بیع عربان ۵۵
- اپنے پاس جو شے موجود نہ ہو اس کو فروخت کرنا درست نہیں ۵۶
- بیع میں شرط لگانا ۵۶
- غلام اور باندی خریدنے کا بیان ۵۷
- ایک شخص نے غلام خریدا اور اس کو استعمال کیا کام لیا پھر اس میں عیب ظاہر ہوا ۵۷
- جس وقت فروخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان اختلاف ہو جائے اور بیع موجود ہو ۵۸
- شفہہ کے احکام ۵۹
- کوئی شخص کسی شخص سے کوئی شے لے کر مفلس ہو جائے پھر قرض دینے والا اپنا سامان دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ ۶۱
- جو شخص ناکارہ قرار دیئے ہوئے جانور کو غذا یا دوا کے ذریعے ٹھیک کر لے؟ ۶۳
- گروی رکھنے کا بیان ۶۳
- جو شخص اپنی اولاد کی آمدنی استعمال کرے تو جائز ہے۔۔ ۶۴
- کوئی شخص اپنی شے بعتہ دوسرے شخص کے پاس دیکھے تو اپنی شے لے سکتا ہے ۶۵
- اگر کوئی شخص مال امانت سے اپنے حق کے بقدر وصول کرے؟
- تختے قبول کرنا ۶۷
- ہبہ میں رجوع کرنے کا بیان ۶۸
- کسی قسم کی ضرورت پوری کرنے پر ہدیہ قبول کرنا ۶۹
- اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو سب سے زیادہ دینے کا بیان ۷۵
- اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں سے کچھ دے دے؟ ۷۷
- تمام عمر کے لئے کوئی چیز دینا درست ہے ۷۸
- جو شخص کوئی چیز تمام زندگی کے لئے دے اور دیتے وقت ورثاء کا بھی تذکرہ کر دے؟ ۷۸
- رقعی کا بیان ۸۱
- جو شخص کوئی چیز مانگ کر لے پھر ضائع ہو جائے؟ ۸۲
- جو شخص کسی کی کوئی شے ضائع کر دے تو اس جیسی شے ضمان میں ادا کرے ۸۳
- اگر کسی کے چوپائے دوسرے شخص کی بھیتی برباد کر دیں؟ ۸۴
- کتاب القضاء**
- منصب قضاء کا مطالبہ کرنا ۸۶
- اگر قاضی سے غلطی سرزد ہو جائے؟ ۸۶
- فیصلہ میں عجلت کرنے اور منصب قضاء کی خواہش کرنے کا بیان ۸۸
- مذمت رشوت ۸۸
- قاضیوں کو تحائف ملنے کے احکام ۸۹
- فیصلہ کرنے کا طریقہ ۸۹

- نہیں؟
- کسی آدمی کو کسی واقعہ کے علم کی بنا پر قسم دینا جبکہ وہ واقعہ اس کی موجودگی میں نہیں ہوا ۱۰۷
- کافر ذمی کو کس طریقہ سے قسم دلائی جائے؟ ۱۰۸
- اپنے حق کی خاطر کسی کا قسم کھانا ۱۰۹
- قرض کی بناء پر کسی کو قید کرنے کا بیان ۱۰۹
- وکالت کا بیان ۱۱۰
- قضاء کے مزید احکام ۱۱۰

کتاب العلم

- فضیلت علم ۱۱۱
- اہل کتاب سے روایت بیان کرنے کا بیان ۱۱۵
- علم کی باتوں کو لکھنے کا بیان ۱۱۶
- آنحضرت ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی شدید وعید کا بیان ۱۱۸
- قرآن کریم کے بغیر سمجھے ہوئے معنی بیان کرنا ۱۱۸
- ایک ایک بات کو چند مرتبہ کہنے کا بیان ۱۱۸
- جلدی جلدی باتیں کرنے کا بیان ۱۱۸
- فتویٰ دینے میں احتیاط کا حکم ۱۱۹
- علم چھپانے کا گناہ ۱۱۹
- علم کی نشر و اشاعت کی فضیلت کا بیان ۱۲۰
- بنی اسرائیل سے روایت کرنے کا بیان ۱۲۰
- غیر اللہ کے لئے علم حاصل کرنے کا بیان ۱۲۰
- قصہ کہانیاں بیان کرنا ۱۲۱

- اگر قاضی فیصلہ کرنے میں غلطی کر دے؟ ۹۰
- قاضی کے رو بر ذمہ مدعا علیہ کس طرح بیٹھیں؟ ۹۲
- قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ (نہ) کرے؟ ۹۲
- قاضی کفار کے درمیان کس طرح فیصلہ کرے؟ ۹۳

پارہ (۲۳)

- فیصلہ میں اپنی رائے کو دخل دینا ۹۴
- شہادات کا بیان ۹۶
- کوئی شخص فریقین میں کسی ایک کا تعاون کرے اور اس کا علم نہ ہو کہ کونسا فریق حق پر ہے؟ ۹۷
- جھوٹی شہادت دینا ۹۷
- کس شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی ۹۸
- جنگل کے رہنے والے شخص کی شہادوں پر گواہی ۹۸
- دودھ پلانے کی شہادت ۹۹
- دوران سفر وصیت سے متعلق کافر ذمی کی گواہی ۱۰۰
- جس وقت ایک شخص کی شہادت پر قاضی کو یقین ہو جائے کہ یہ سچا ہے تو اس پر فیصلہ دے سکتا ہے ۱۰۱
- ایک حلف اور ایک گواہ کی گواہی پر فیصلہ کرنے کا بیان - ۱۰۲
- دو آدمیوں کے ایک شے کے مدعی ہونے اور کسی کے پاس گواہ نہ ہونے کا بیان ۱۰۳
- اگر مدعی کے پاس گواہ موجود نہ ہوں تو مدعا علیہ کو حلف لینا چاہئے ۱۰۴
- حلف لینے کا طریقہ ۱۰۴
- جس وقت مدعا علیہ کافر ذمی ہو تو اس سے حلف لیا جائے یا

کتاب الاطعمۃ

- دعوت قبول کرنے کا بیان ۱۳۵
- نکاح کے لئے ولیمہ کے مستحب ہونے کا بیان ۱۳۷
- سفر سے واپسی کے بعد کھانا کھلانے کا بیان ۱۳۸
- مہمان نوازی کرنے کا بیان ۱۳۸
- دعوت ولیمہ کتنے روز تک کی جائے؟ ۱۳۹
- مہمانداری کا مزید بیان ۱۵۰
- دوسرے شخص کا مال کھانے کے حکم کے منسوخ ہونے کا بیان
- پارہ (۲۳)
- بطور فخر ایک دوسرے کی ضد کے لئے کھانا کھلانے والوں کا بیان ۱۵۲
- دعوت والے گھر میں خلاف شریعت کام ہو رہے ہوں تو دعوت منظور کرنا جائز نہیں
- جب بیک وقت دو اشخاص مدعو کریں تو کس شخص کے یہاں جانا چاہئے؟ ۱۵۳
- جب شام کا کھانا پیش ہو اور عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو جائے؟
- کھانا کھانے کے وقت دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہئے -- ۱۵۵
- کھانے سے قبل ہاتھ دھونا
- عجلت کے وقت ہاتھ دھوئے بغیر کھانا
- کھانے کی مذمت کرنا بری بات ہے
- تمام لوگوں کا یکجا کھانا کھانا باعث برکت ہے
- کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھنے کا بیان ۱۵۶

کتاب الاشربة

- حرمت شراب ۱۳۳
- شراب بنانے کے لئے انگور نچوڑنے کا بیان ۱۳۴
- شراب کا سرکہ بنانے کا بیان ۱۳۵
- کون کونسی اشیاء سے شراب تیار کی جاتی ہے؟
- نشہ کا بیان ۱۳۷
- شراب کی قسم دازی کے حرام ہونے کا بیان ۱۳۰
- شراب کے برتنوں کا بیان ۱۳۱
- مخلوط اشیاء سے نبیذ بنانے کا بیان ۱۳۵
- کچی کچی کھجور کی نبیذ بنانے کا بیان ۱۳۷
- نبیذ کب تک پی جا سکتی ہے؟
- شہد کے شربت پینے کا بیان ۱۳۸
- جب نبیذ میں شدت پیدا ہو جائے تو اسکا استعمال کرنا؟ -- ۱۳۹
- کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیان
- مشکلینے کے منہ سے پینے کا بیان
- مشک کا منہ موڑ کر اس میں سے پانی پینے کا بیان
- پیالہ میں سے ٹوٹی ہوئی جگہ یا سوراخ میں سے پینا ۱۴۱
- سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے کا بیان
- کسی برتن میں منہ ڈال کر پانی پینا
- ساتی پانی کب پئے ۱۴۲
- پانی میں پھونک مارنے کا بیان ۱۴۳
- دودھ پی کر کیا دعا مانگی جائے؟
- برتنوں کو ڈھکنے کا بیان ۱۴۴

- ۱۲۳ سرکہ کھانے کا بیان
- لہسن کھانے کا بیان
- ۱۲۶ کھجور کھانے کا بیان
- کھجور کھاتے وقت کھجور کو دیکھنا اور اس کو صاف کرتے جانا
- ایک مرتبہ میں دو دو تین تین کھجوروں سے ملا کر کھانا
- ۱۲۷ دو طرح کے کھانوں کو ملا کر کھانا
- ۱۲۸ اہل کتاب کے برتنوں کے استعمال کا بیان
- ۱۲۹ سمندری جانور کے بارے میں احکام
- ۱۸۰ چوہاگھی میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
- ۱۸۱ اگر کھسی کھانے میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟
- کھاتے وقت اگر لقمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے؟
- ۱۸۲ ملازم اور غلام کو ساتھ کھانا کھلانا افضل ہے
- رومال سے ہاتھ خشک کرنے کا بیان
- ۱۸۳ کھانا کھانے کے بعد کی دعا
- ۱۸۳ کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ صاف کرنے کا حکم
- کھانا کھلانے والے شخص کے لئے دعائے خیر کرنے کا بیان
- جن حیوانات کی حرمت کا قرآن وحدیث میں تذکرہ نہیں ہے
- ۱۵۸ سہارا لگا کر کھانا کھانے کا بیان
- پیالہ یا پلیٹ کے درمیان سے کھانے کا بیان
- جس دسترخوان پر ناجائز چیزیں ہوں وہاں نہیں بیٹھنا چاہئے
- ۱۶۰ دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم
- گوشت کھانے کا بیان
- ۱۶۱ کبدہ کھانے کا بیان
- ۱۶۲ شید کا بیان
- کسی کھانے سے نفرت کرنا ناجائز ہے
- ناپاکی کھانے والے جانور کے گوشت کھانے اور دودھ پینے سے ممانعت
- گھوڑے کا گوشت کھانے کا بیان
- ۱۶۳ خرگوش کھانے کا بیان
- گوہ کھانے کا بیان
- ۱۶۶ جباری (نامی چیزیا) کے گوشت کھانے کا بیان
- زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے کا بیان
- بچو کھانے کا بیان
- ۱۶۷ درندوں کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان
- ۱۶۹ پالتو گدھوں کے گوشت کھانے کا بیان
- ۱۷۰ نڈی کھانے کا بیان
- جو مچھلی مرنے کے بعد پانی پر تیرنے لگے اس کے کھانے کا
- بیان
- سخت ترین مجبوری میں مردار کھانے کا بیان
- ۱۷۲ بیک وقت مختلف قسم کے کھانے پکانا اور کھانا
- ۱۷۳ پتیر کھانے کا بیان
- کتاب الطب
- ۱۸۷ علاج کرنا چاہئے
- ۱۸۸ پرہیز کرنے کا بیان
- سینگلی لگانے کا بیان
- ۱۸۹ کس جگہ سینگلی لگائی جائے؟
- سینگلی لگوانا کب مستحب ہے؟

پارہ ۲۵

کتاب العتق

- غلام آزاد کرنے کا بیان -----
- مکاتب اپنے بدل مکاتب میں سے کچھ ادا کر دے پھر وہ عاجز ہو جائے یا مر جائے ----- ۲۱۳
- جب کتابت کا عقد فسخ ہو جائے تو مکاتب کو فروخت کرنا جائز ہے ----- ۲۱۴
- کوئی شرط لگا کر آزاد کرنے کا بیان ----- ۲۱۶
- جو شخص غلام میں سے کچھ حصہ آزاد کر دے؟ -----
- جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے --- ۲۱۷
- غلام آزاد کرنے والا اگر غریب ہے تو غلام سے مزدوری کرائی جائے گی -----
- جن حضرات کے نزدیک مال نہ ہونے کے باوجود (غلام سے) مزدوری نہ کرائی جائے انکی دلیل ----- ۲۱۹
- جو رشتہ دار کسی محرم کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا -----
- اُم ولد اپنے آقا کے انتقال کے بعد آزاد ہو جائے گی - ۲۲۲
- مدبر کو فروخت کرنے کا بیان ----- ۲۲۳
- جو شخص اپنے غلاموں کو آزاد کر دے اگر وہ غلام تہائی مال سے زیادہ ہوں تو کیا حکم ہے؟ ----- ۲۲۴
- جو شخص اپنے دولت مند غلام کو آزاد کرے تو اس کے مال کا مالک کون ہوگا؟ ----- ۲۲۵
- زنا سے پیدا شدہ باندی، غلام آزاد کرنے کا حکم -----

- رگ کاٹنے اور سبکی لگانے کی جگہ ----- ۱۸۹
- داغ لگانے کا بیان ----- ۱۹۰
- ناک میں دو اڈالنے کا بیان -----
- نشرہ (شیاطین کے ناموں کے) ایک قسم کے منتر کا بیان -----
- تریاق کا بیان ----- ۱۹۱
- مکروہ دواؤں کے استعمال کا بیان -----
- عجوبہ کھجور کی (ایک اعلیٰ قسم) کی فضیلت کا بیان ----- ۱۹۳
- بچوں کے حلق دبانے کا بیان -----
- سرمہ لگانے کا بیان ----- ۱۹۴
- نظر لگ جانے کا بیان -----
- جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے صحبت نہ کی جائے -----
- تعویذ ڈالنے کا بیان ----- ۱۹۵
- جھاڑ پھونک کرنے کا بیان ----- ۱۹۶
- جھاڑ پھونک کیسے کی جائے؟ ----- ۱۹۸
- فرجہ کرنے کا بیان -----

کتاب الکھانۃ والتطیر

- غیب کی باتیں بتلانے والے یا پیشین گوئیاں کرنے والے شخص کے پاس جانے کی ممانعت ----- ۲۰۴
- علم نجوم -----
- رمل کی باتوں پر ایمان لانا اور پرندوں کی آواز سے فال لینے کی ممانعت کا بیان ----- ۲۰۶
- بری فال لینا اور رمل کرنے کا بیان -----

- ۲۵۷ ----- سفید لباس کی فضیلت
- ۲۵۸ ----- پرانے کپڑوں کا دھونا اور صاف ستھرا رہنا
- ۲۵۹ ----- زرد رنگ کے استعمال کا بیان
- ۲۶۰ ----- سبز رنگ کا بیان
- لال رنگ کے بارے میں
- ۲۶۳ ----- لال رنگ کی رخصت و اجازت
- کالے رنگ کے استعمال کرنے کا بیان
- کپڑے کا کنارہ استعمال کرنے کا بیان
- ۲۶۴ ----- عمامہ کے استعمال کرنے کا بیان
- ۲۶۵ ----- بطور صماء کپڑا پلینا منع ہے
- قیص کے گریبان کھلے رہنے کا بیان
- ۲۶۶ ----- کپڑے سے سر ڈھانپنے کا بیان
- ۲۶۷ ----- تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیان
- ۲۷۲ ----- تکبر اور غرور کی برائی
- ۲۷۳ ----- تہبند کس جگہ تک باندھے؟

پارہ ۲۶

- ۲۷۵ ----- خواتین کے لباس کا بیان
- آیت: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَخْسِفْ لِبَاسُكُمْ فِيْ الْبَيْتِ مِنْ جِلْدٍ مِّمَّا كَسَبْتُمْ اَوْ مِنْ نَّمْلِ اَوْ مِنْ عِصْيَانٍ﴾ (عورتیں اپنی چادریں لٹکا کر رکھیں)
- ۲۷۶ ----- آیت کریمہ: ”اور دوپٹوں کو گرہ یا نون پر ڈالے رکھیں“ کے بارے میں
- ۲۷۷ ----- عورت کو نسا سنگھا رطاہر کر سکتی ہے؟
- غلام کا اپنی مالکہ کا سر کھلا ہوا دیکھنے کا بیان

- ۲۲۶ ----- غلام آزاد کرنے کے ثواب کا بیان
- ۲۲۷ ----- کس قسم کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟
- ۲۲۸ ----- تندرستی کی حالت میں غلام باندی آزاد کرنے کا بیان

کتاب الحروف والقراءت

کتاب الحمام

- ۲۳۰ ----- ننگے ہونے کی ممانعت
- ۲۳۱ ----- برہنہ ہو کر چلنے کا بیان

کتاب اللباس

- ۲۳۲ ----- نیا لباس پہننے والے کے لئے کیا ڈعا پڑھی جائے؟
- قیص کا بیان
- ۲۳۵ ----- قبا کا بیان
- شہرت حاصل کرنے کیلئے لباس پہننے کا بیان
- ۲۳۷ ----- کھال اور بالوں کا لباس پہننے کا بیان
- خز (ایک قسم کے ریشمی کپڑے) کے استعمال کا بیان
- ۲۵۰ ----- ریشم پہننے کا بیان
- ریشمی لباس پہننے کی ممانعت
- کپڑے پر اگر ریشمی نقوش ہوں یا کپڑا ریشم سے سلا ہوا ہو تو وہ ممنوع نہیں
- ۲۵۵ ----- بوجہ عذر ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے
- ۲۵۶ ----- خواتین کے لئے خالص ریشمی لباس پہننا جائز ہے
- حبرہ (ایک قسم کے بینی نقش و نگار والے) کپڑے کے پہننے کا بیان

- ۳۰۴ بال رکھنے کا بیان
- ۳۰۵ (سر میں) مانگ نکالنے کا بیان
- ۳۰۷ سر کے بال لمبا رکھنے کا بیان
- مرد کے سر کے بالوں کو گوندھنے کا بیان
- سر منڈانے کا بیان
- ۳۰۸ لڑکوں کی زلفیں رکھنے کا بیان
- بچوں کو زلفیں رکھنے کی اجازت کا بیان
- ۳۰۹ موچھیں کترنا
- ۳۱۰ (داڑھی یا سر کے) سفید بال اکھاڑنے کا بیان
- ۳۱۱ خضاب کا بیان
- زرد رنگ کا خضاب استعمال کرنے کا بیان
- ۳۱۲ کالے رنگ سے خضاب کرنا

کتاب الخاتم

- ۳۱۵ ہاتھی کے دانت استعمال کرنے کا بیان
- انگوٹھی بنانے کا بیان
- ۳۱۸ انگوٹھی نہ پہننے کا بیان
- مرد کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننے کا بیان
- لوہے کی انگوٹھی پہننے کا بیان
- ۳۲۱ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننے یا بائیں میں؟
- ۳۲۲ گھونگر و پہننے کا بیان
- سونے سے دانت بندھوانے کا بیان
- ۳۲۳ خواتین کو سونا پہننا؟

- ارشاد باری تعالیٰ: ﴿غَيْرَ أُولَىٰ الْأَرْبَةِ﴾ کے بارے میں
- ارشاد ربانی: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾
- کے بارے میں ۲۷۹
- سر پر دوپٹہ اوڑھنے کا بیان ۲۸۰
- خواتین کے لئے باریک کپڑا پہننے کا بیان ۲۸۱
- عورت تہبند کتنا لگائے؟
- مرے ہوئے جانور کی کھال کے بارے میں ۲۸۲
- جن حضرات کی رائے میں مرے ہوئے جانور کی کھال
- دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتی ۲۸۳
- چھیتوں کی کھال کے بارے میں ۲۸۵
- جو تے پہننے کے بارے میں ۲۸۷
- بستر کا بیان ۲۸۹
- پردہ لگانا ۲۹۱
- جس کپڑے پر صلیب کی تصویر بنی ہوئی ہو
- تصاویر کا بیان ۲۹۲

کتاب الترجل

- خوشبو استعمال کرنا آپ ﷺ کی سنت ہے ۲۹۷
- بالوں کو ٹھیک رکھنے کا بیان
- خواتین کے لئے مہندی لگانے کا بیان
- دوسرے کے بال اپنے بالوں میں ملانا ۲۹۹
- خوشبو واپس کر دینے کا بیان ۳۰۰
- کوئی خاتون اگر گھر سے نکلنے کے لئے خوشبو استعمال کرے؟
- مردوں کے لئے خلوق لگانے کا بیان ۳۰۲

- ۳۶۵ دریائے فرات سے خزانہ نکلنے کا بیان
 ۳۶۶ قیامت سے پہلے دجال کا نکلنا
 ۳۶۹ دجال ملعون کے جاسوسوں کے بارے میں
 ۳۷۲ ابن صیاد کے بارے میں
 ۳۷۴ اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کرنا
 ۳۷۹ قیامت قائم ہونے کا بیان

کتاب الحدود

- ۳۸۱ جو شخص موحد ہو جائے
 ۳۸۶ گستاخ رسول (ﷺ) کی سزا
 ۳۸۷ رہزنی کرنے کا بیان
 ۳۹۰ شرعی حد معاف کرنے کے لئے سفارش کرنے کا بیان
 جس وقت تک حدود کا معاملہ قاضی کے سامنے پیش نہ ہو تو اس
 کو معاف کرنا اچھا ہے۔ ۳۹۲
 اگر کسی سے حد کا کام صادر ہو جائے تو جہاں تک ہو سکے اس کو
 چھپایا جائے۔ ۳۹۳
 حد والا جرم کر کے حاکم کے پاس آ کر اقرار کر لے۔
 حد کے لئے تلقین کئے جانے کا بیان۔ ۳۹۴
 کوئی شخص حد لازم ہونے کا اعتراف کرے لیکن یہ نہ کہے کہ
 کوئی حد ہے؟ ۳۹۵
 تفتیش کے لئے مجرم کو مارنا پیٹنا۔
 کس قدر مال میں چور کا ہاتھ کاٹنا درست ہے؟ ۳۹۶
 جن اشیاء کی چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا
 جائے گا۔ ۳۹۸

کتاب الفتن

آنحضرت ﷺ نے جن فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی۔

پارہ (۲۷)

- ۳۴۳ فتنہ میں کوشش کرنے کی ممانعت
 ۳۴۷ فتنہ کے دور میں زبان کو روکنا بہت بہتر ہے
 ۳۴۸ فتنہ کے زمانہ میں جنگل میں چلے جانے کی اجازت
 ۳۴۹ مؤمن کو قتل کرنے کی وعید
 ۳۵۱ قتل کے بعد مغفرت کی توقع کا بیان

کتاب المہدی

کتاب الملاحم

- ۳۵۷ ہر ایک صدی کا بیان
 روم کے معرکوں کے بارے میں
 آپ کے بیان فرمودہ فتنوں اور جنگوں کی علامات۔ ۳۵۸
 یکے بعد دیگرے معرکوں کا بیان۔ ۳۵۹
 اہل اسلام پر اقوام عالم کا چڑھ دوڑنا
 جنگ میں اہل اسلام کا کس جگہ قیام ہوگا؟ ۳۶۰
 لڑائیوں سے فتنوں کا پیدا ہونا
 ترک اور حبش کو بلا وجہ بھڑکانے کی ممانعت
 ترک کفار سے جنگ کرنا۔ ۳۶۱
 شہر بصرہ کے بارے میں۔ ۳۶۲
 حبشہ کا تذکرہ
 علامات قیامت۔ ۳۶۴

- ۲۲۸ ----- اغلام بازی کرنے والے کی سزا
- ۲۲۹ ----- جانور سے بدکاری کرنے والے کی سزا
- اگر کوئی مرد اقرار زنا کر لے اور عورت منکر رہے؟
- کوئی شخص کسی عورت سے صحبت کے علاوہ تمام کام کرے پھر
- ۲۳۰ ----- پکڑے جانے سے قبل تاب ہو جائے؟
- ۲۳۱ ----- غیر شادی شدہ باندی زنا کرے تو اس کی سزا
- ۲۳۲ ----- مریض پر حد جاری کرنے کا بیان
- ۲۳۳ ----- جھوٹی تہمت لگانے والے کی حد کا بیان
- حد شراب
- ۲۳۴ ----- جو شخص کئی مرتبہ شراب پیئے تو اسکی کیا سزا ہے؟
- مسجد میں حد لگائے جانے کا بیان
- ۲۳۵ ----- حد میں منہ پر مارنے کا بیان
- تعزیر کا بیان

کتاب الدیات

- جان کے عوض جان لینا
- بھائی یا والد کے قصور کرنے کی وجہ سے بھائی یا بیٹے پر گرفت
- ۲۳۲ ----- نہیں کی جائے گی
- اگر حاکم صاحب حق کو خون کی معافی کا حکم دے
- مقتول کا ولی اگر دیت لینے پر رضامند ہو تو دیت دلائی جائے
- ۲۳۶ ----- گی
- ۲۳۷ ----- قاتل سے دیت وصول کر کے قتل کرنا
- زہر کھلانے والے شخص سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟
- جو شخص اپنے غلام کو قتل کر دے یا اس کا کوئی عضو کاٹ دے تو

پارہ ۱۸

- علی الاعلان کوئی چیز چھیننے یا امانت میں خیانت کرنے والے
- ۳۹۹ ----- کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا
- جو شخص کسی شے کو محفوظ جگہ سے چوری کر لے؟
- ۴۰۰ ----- عاریت پر کوئی شے لے کر مکر جانے والے کا ہاتھ کاٹ دیا
- جائے گا
- اگر کوئی مجنون چوری یا حد کے لائق کوئی جرم کرے تو اس پر حد
- ۴۰۲ ----- نہیں لگائی جائے گی
- اس لڑکے کے بارے میں جو کہ لائق حد جرم کرے
- ۴۰۳ ----- جو شخص سفر جہاد کے دوران چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا
- جائے گا
- ۴۰۵ ----- کفن چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جانے کا بیان
- ۴۰۶ ----- متعدد مرتبہ چوری کرنے والے شخص کی سزا
- ۴۰۷ ----- چوری کرنے والے شخص کا ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کے گلے
- میں لٹکا دینے کا بیان
- سنگسار کرنا
- ۴۰۸ ----- قبیلہ جہینہ کی ایک عورت کا واقعہ کہ جس نے زنا کا ارتکاب کیا
- اور آپ نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا
- ۴۱۸ ----- یہودی اور یہودیہ کو زنا میں سنگسار کرنا
- ۴۲۱ ----- اگر کوئی شخص اپنی محرم عورت سے زنا کا مرتکب ہو تو اس کی سزا
- کیا ہے؟
- ۴۲۶ ----- اگر کوئی شخص بیوی کی باندی سے زنا کر لے تو اس کی کیا سزا
- ہے؟
- ۴۲۷ -----

۴۷۷ دانت کا قصاص

کوئی جانور کسی کے لات مار دے تو اس کے مالک سے دارو

گیر نہ ہوگی۔ ۴۷۸

اس آگ کے بارے میں جو کہ پھیلتی چلی جائے

اگر نادار فقیر آدمی کا بچہ کسی قسم کی جنایت کرے تو اس سے

دیت کی دارو گیر نہ ہوگی۔ ۴۷۹

جو شخص اندھیر نگری میں قتل کیا جائے؟

کتاب السنۃ

سنت کی تشریح

قرآن کریم کے بارے میں جھگڑا کرنے اور قرآن کریم کے

تساہبات کی جستجو۔ ۴۸۱

بدعتی لوگوں کی صحبت سے بچنے اور ان سے بغض رکھنے کا بیان

اہل بدعت کو سلام کے جواب نہ دینے کا بیان۔ ۴۸۲

قرآن کریم میں جھگڑنے کی ممانعت۔ ۴۸۳

سنت نبوی کی اتباع لازمی ہے۔

اتباع سنت کی فضیلت کا بیان۔ ۴۹۲

صحابہ میں سب سے زیادہ کون افضل ہے؟ ۴۹۳

خلافت کا بیان۔ ۴۹۴

فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیان۔ ۵۰۵

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت کی ممانعت کا بیان

سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کئے جانے کا بیان۔ ۵۰۷

قتنہ کے زمانہ میں خاموش رہنے کا حکم۔ ۵۰۸

حضرات انبیاء علیہم السلام میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا۔ ۵۱۰

۴۴۹ قصاص لیا جائے گا

پارہ (۱۹)

۴۵۲ قسامت کا بیان

۴۵۳ قسامت میں قصاص ترک کرنے کا بیان

کیا جس طرح قاتل نے پتھر وغیرہ سے قتل کیا اسی طریقہ سے

اسے بھی قتل کیا جائے۔ ۴۵۶

مسلمان کو کافر کے بدلے قتل کئے جانے کا بیان۔ ۴۵۷

جو شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر شخص کو پائے کیا وہ اس شخص

کو قتل کر دے۔ ۴۵۸

اگر عامل کے ہاتھ سے غلطی سے کسی کے چوٹ لگ جائے؟

مارنے پینے کی وجہ سے قصاص لینا اور حاکم کو اپنے سے قصاص

دلانے کا بیان۔ ۴۶۰

خواتین بھی قصاص معاف کر سکتی ہیں۔

مقدار دیت۔ ۴۶۱

قتل خطا اور قتل شبہ عمد کی دیت کا بیان۔ ۴۶۳

اعضاء کی دیت کا بیان۔ ۴۶۶

پیٹ کے بچہ کی دیت سے متعلق۔ ۴۷۰

مکاتب کی دیت۔ ۴۷۵

ذمی کی دیت۔ ۴۷۶

کوئی شخص کسی سے لڑائی کر رہا ہو اور وہ اپنا دفاع کرتے

ہوئے اس کا نقصان کر دے۔

جو شخص علم طب سے واقف نہ ہو اور وہ کسی کا معالجہ کرتے

ہوئے نقصان پہنچا دے؟

- ۵۶۰ حسن معاشرت اور مہذب رہنے کا بیان
- ۵۶۲ شرم و حیا کے بارے میں
- ۵۶۳ خوش اخلاقی کا بیان
- ۵۶۴ شیخی بھگانے کی ممانعت
- ۵۶۵ خوشامد چاہلوسی کی مذمت
- ۵۶۶ نرمی کرنے کا بیان
- ۵۶۷ احسان کا شکر ادا کرنا لازمی ہے
- ۵۶۸ راستہ میں بیٹھنے کا بیان
- ۵۶۹ کشادہ ہو کر بیٹھنا
- کچھ دھوپ اور کچھ سایہ میں بیٹھنے کا بیان
- حلقہ بنا کر بیٹھنا کیسا ہے؟
- حلقہ کے درمیان میں بیٹھنے کا بیان
- ۵۷۰ کسی شخص کا دوسرے کے لئے اپنی جگہ سے اٹھنا
- ۵۷۱ کس شخص کی صحبت میں بیٹھنا چاہئے؟
- ۵۷۲ جھگڑے فساد کی ممانعت کا بیان
- ۵۷۳ طریق گفتگو
- خطبہ کے بارے میں
- ۵۷۴ ہر ایک شخص کو اس کے درجہ پر رکھنا چاہئے
- کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان ان کی بلا اجازت نہ بیٹھے
- ۵۷۵ کس طرح بیٹھنا چاہئے؟
- ناپسندیدہ نشست
- ۵۷۶ بعد عشاء گفتگو کرنے کا بیان
- ۵۷۷ آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کا بیان
- سرگوشی کرنے کا بیان

- ۵۱۳ فرقہ مر جیہ کی تردید
- ۵۱۵ ایمان کے کم زیادہ ہونے کے دلائل
- پارہ ۳۰
- ۵۱۹ تقدیر کے بارے میں ارشادات رسول ﷺ
- ۵۲۸ اولادِ مشرکین کا بیان
- ۵۳۲ جہمیہ کا بیان
- ۵۳۵ دیدارِ الہی
- ۵۳۷ قرآن کریم کا بیان
- ۵۳۹ قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے والے صور کا بیان
- شفاعت کا بیان
- ۵۴۰ جنت، دوزخ دونوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر چکے ہیں
- ۵۴۱ حوضِ کوثر
- ۵۴۲ قبر میں سوال اور عذابِ قبر
- ۵۴۶ میزان کا بیان
- ۵۴۷ دجال کا تذکرہ
- ۵۴۸ خارجی لوگوں کو قتل کرنے کا بیان
- ۵۵۴ چوروں سے مقابلہ کرنا

کتاب الادب

- ۵۵۵ تحمل اور اخلاق نبوی ﷺ
- باوقار رہنے کی فضیلت کا بیان
- ۵۵۷ غصہ پر قابو رکھنے کی فضیلت
- ۵۵۸ غصہ آنے کے وقت کیا پڑھنا چاہئے؟
- ۵۵۹ معاف کر دینے کا بیان

- ۶۲۰ نہیں اس کی دلیل
- چھینکا
- ۶۲۱ کثیت اور نام دونوں رکھنے کی اجازت کا بیان
- کوئی آدمی کثیت تو رکھے مگر اس کے بیٹا نہ ہو
- ۶۲۲ عورت کی کثیت رکھنے کا بیان
- ذومعنی گفتگو کرنا
- لفظ زعموا یعنی لوگوں کا گمان ہے کہنا
- خطبہ میں اُما بعد کہنے کا بیان
- اگر کوئی کریم کہنے اور زبان کو مشتبہ اور مشکوک الفاظ سے روکنے کی ممانعت
- ۶۲۳ باندی یا غلام اپنے مالک کو اے میرے رب نہ کہے
- اس طرح نہ کہو کہ میرا نفس خمیث ہو گیا ہے
- ۶۲۴ نمازِ عشاء کو عتمہ کہنا؟
- جھوٹ بولنے کی وعید
- ۶۲۵ اس کے متعلق اجازت کا بیان
- ہر ایک شخص کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا حکم
- ۶۲۶ وعدہ کا بیان
- جو شخص بطور فخر یا دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانے کے لئے وہ چیزیں بیان کرے جو اس کے پاس نہیں
- ۶۲۷ خوش طبعی کرنے کا بیان
- تفریح طبع میں کسی کی کوئی شے لے لینا
- ۶۲۸ ترتر باتیں بنانا
- (چہر چہر گفتگو کرنا)
- ۶۲۹ شعر کے بارے میں
- خواب کے بارے میں
- جہائی لینے کا بیان
- چھینکنے والے شخص کا کس طرح جواب دینا چاہئے؟
- کتنی مرتبہ چھینک کا جواب دیا جائے؟
- کافر ذمی کی چھینک کا کس طریقہ سے جواب دینا چاہئے؟
- جس شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ نہ کہے تو؟
- ابواب النوم
- اگر کوئی پیٹ کے بل لیتے تو کیسا ہے؟
- جو آدمی کسی چھت پر سوئے کہ جس پر کوئی رکاوٹ نہ ہو
- با وضو ہونا
- جس وقت انسان سوئے تو کس طرف چہرہ کرے؟
- سوتے وقت کیا دعا مانگے؟
- پارہ (۳۲)
- انسان کی جب رات میں آنکھ کھل جائے تو کیا دعا مانگے؟
- سوتے وقت سبحان اللہ کی فضیلت کا بیان
- بوقت صبح کیا دعا مانگے؟
- جب چاند دیکھے تو کیا دعا پڑھے؟
- گھر سے نکلتے وقت کی دعا
- گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا
- آندھی طوفان کے وقت کی دعا؟
- بارش کے بارے میں
- مرغ اور چوہاؤں کے بارے میں
- بچے کے کان میں (اس کی پیدائش کے بعد) اذان دینا

- ۶۱۸ ----- کوئی شخص کسی شخص سے پناہ مانگے تو کیسا ہے؟
- ۶۱۹ ----- دوسرے رفق کرنے کا طریقہ -----
- جو غلام اپنے آزاد کرنے والے کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا آزاد کرنے والا بتلائے؟ ----- ۶۲۰
- ۶۲۱ ----- حسب و نسب پر ناز کرنا -----
- تعصب کرنا -----
- جس سے محبت کرے تو کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ایک شخص کا دوسرے سے کسی نیک کام کی وجہ سے محبت رکھنا مشورہ کا بیان ----- ۶۲۲
- ۶۲۳ ----- نیک کام کی رہنمائی کرنے والا نیک کام کرنے والے کے برابر ہے -----
- خواہش نفس -----
- سفارش سے متعلق ----- ۶۲۵
- خط لکھتے وقت اپنا نام پہلے -----
- کافر و مشرک کو کس طریقہ سے خط تحریر کیا جائے؟ -----
- ۶۲۶ ----- والدین سے حسن سلوک -----
- ۶۲۸ ----- یتیم بچوں کی پرورش کرنے کا ثواب -----
- یتیم بچے کی پرورش کی ذمہ داری لینے والا شخص -----
- ۶۲۹ ----- پڑوسی کا حق -----
- ۶۸۱ ----- غلام باندی کے حقوق -----
- غلام یا باندی جب اپنے مالک کے ساتھ بھلائی کریں تو ان کے لئے کس قدر اجر ہے ----- ۶۸۲
- جو شخص کسی شخص کے غلام باندی کو بھڑکائے تو اس کو کس قدر سخت گناہ ملے گا ----- ۶۸۵
- اجازت حاصل کرنے کا بیان -----
- ۶۸۷ ----- انسان اجازت لینے کے لئے کتنی مرتبہ سلام کرے -----
- بوقت اجازت دروازہ کھٹکھٹانا -----
- ۶۹۰ ----- کیا کسی شخص کا بلایا جانا اس کے لئے اجازت ہوگا؟ -----
- ۶۹۱ ----- علیحدگی کے تین اوقات میں اجازت لینے کا حکم -----
- ابواب السلام
- ۶۹۲ ----- بوقت ملاقات سلام کرنا -----
- ۶۹۳ ----- کس طریقہ سے سلام کیا جائے؟ -----
- سلام میں پہل کرنے کی فضیلت -----
- سلام کس کو کرے؟ -----
- جب کوئی شخص دوسرے سے علیحدہ ہو کر دوبارہ ملاقات کرے تو سلام کرنا چاہئے -----
- ۶۹۴ ----- بچوں کو سلام کرنے کا بیان -----
- خواتین کو سلام کرنے کا بیان -----
- ۶۹۵ ----- کفار کو کس طریقہ سے سلام کیا جائے؟ -----
- ۶۹۶ ----- مجلس سے اٹھتے وقت سلام کرنا چاہئے -----
- لفظ علیک السلام کہنے کی کراہت -----
- جماعت میں سے کوئی ایک شخص سلام کا جواب دے دے تو کافی ہے -----
- ۶۹۷ ----- مصافحہ کرنے کا بیان -----
- معانقہ کرنے کا بیان -----
- کسی کی عظمت و عزت افزائی کے لئے کھڑے ہونے کا بیان اپنے بچے کو پیار کرنا ----- ۷۰۳

- ۷۰۸ ایک شخص دوسرے سے کہے اللہ تعالیٰ تم کو ہنستا رکھے۔
- ۷۰۹ مکان تیار کرنا۔
- بالا خانہ بنانا۔
- ۷۱۰ پیری کے درخت کا ثنا۔
- ۷۱۱ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔
- ۷۱۲ سوتے وقت چراغ بجھا دینا چاہئے۔
- سایوں کو مار ڈالنا۔
- ۷۱۵ گرگٹ کو مار ڈالنا۔
- چیونٹی مارنا۔
- ۷۱۷ مینڈک مار ڈالنا۔
- ۷۱۸ کنکریاں مارنا۔
- خفتہ کرنے کا بیان۔
- راستہ میں خواتین کس طریقہ سے چلیں۔
- ۷۱۹ زمانہ کو برا کہنے کے بارے میں۔
- ۷۰۳ دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دینا۔
- رخسار پر بوسہ دینا کیسا ہے؟
- ہاتھ کا بوسہ لینا۔
- ۷۰۴ بدن کی دوسری جگہ کا بوسہ دینا۔
- ۷۰۵ پیر کا بوسہ لینا۔
- کوئی دوسرے سے کہے اللہ عزوجل تم پر مجھ کو قربان کرے؟
- ۷۰۶ کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھیں؟
- کوئی شخص دوسرے سے کہے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔
- کسی کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونے کا بیان۔
- ۷۰۷ کسی کا سلام پہنچانا اور جواب دینا۔
- ۷۰۸ کسی کی پکار پر لبیک کہنے کا بیان۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پارہ ۲۲

باب: ممانعت مزارعت

باب فِي التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

۱: عبد الملک بن شعیب ان کے والد ان کے دادا عمیل ابن شہاب سالم سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی اراضی کو بنائی پر دیتے تھے یہاں تک کہ ان کو اس بات کی اطلاع ملی کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ زمین کو بنائی پر دینے سے منع فرماتے تھے تو عبد اللہ بن عمر نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا: اے ابن خدیج! تم آنحضرت ﷺ سے زمین کا کرایہ دینے سے متعلق کیا حدیث بیان کرتے ہو؟ رافع نے بیان کیا کہ میں نے اپنے دونوں بچاؤں سے جو کہ غزوہ بدر میں شریک تھے سنا ہے وہ گھر والوں سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آنحضرت نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ دو ربوی میں زمین کرایہ پر دی جاتی تھی پھر حضرت عبد اللہ کو خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے آنحضرت نے اس سلسلہ میں کوئی جدید حکم جاری فرمایا ہو کہ جس کی اطلاع انہیں نہ ہوئی ہو تو انہوں نے زمین کو کرایہ پر دینا چھوڑ دیا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ایوب عبید اللہ بن کثیر بن فرقد اور مالک نے نافع سے رافع آنحضرت سے روایت کیا ہے اور اوزاعی نے حفص بن عمنان کے واسطے سے نافع رافع سے روایت بیان کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ابی بردہ نے حکم کے واسطے سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے اور انہوں نے حضرت رافع کے پاس آ کر معلوم کیا کہ آپ نے آنحضرت سے سنا

۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تَحَدَّثُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ عَمِّي وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدَتْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عِلْمَهُ فَرَكَ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَعَبِيدُ اللَّهِ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقِدٍ وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عِمَّانَ الْحَنْفِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ

ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا جی ہاں۔ اسی طرح عکرمہ بن عمار نے ابونجاشی کے واسطہ سے روایت کیا انہوں نے رافع سے روایت کیا ہے اور اوزاعی نے ابونجاشی کے واسطہ سے انہوں نے رافع بن خدیج سے اور ان کے چچا ظہیر بن رافع نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

وَكَمَا قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عَمِّهِ ظَهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

زمین بٹائی کے جواز کی بحث:

مذکورہ حدیث کی تشریح میں بعض حضرات نے فرمایا ہے آپ نے جس مزارعت سے منع فرمایا تھا وہ مزارعت تھی کہ جس میں کوئی فاسد شرط لگائی گئی ہو جیسے کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ میں کسی خاص جگہ کی پیداوار لوں گا وغیرہ وغیرہ بہر حال آدھے تہائی پیداوار سے لینے پر بٹائی کا معاملہ کرنا درست ہے۔ ہدایہ آخرین کتاب البیوع میں اس مسئلہ کی مفصل بحث مذکور ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہے۔

۲: عبید اللہ بن عمر خالد بن حارث سعید یعلیٰ بن حکیم سلیمان بن یسار رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو رنبوی میں ہم لوگ مزارعت کرتے تھے تو ایک مرتبہ میرا ایک چچا آیا اور انہوں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے اس معاملہ سے منع فرمایا ہے کہ جس میں ہم لوگوں کا فائدہ تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی فرمانبرداری کرنا ہم لوگوں کیلئے بہت زیادہ فائدہ بخش ہے ہم لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس زمین موجود ہو تو وہ شخص خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کیلئے دے دے اور اس زمین کو تہائی یا چوتھائی پیداوار پر نہ دے اور نہ متعین نغلہ پر دے۔

۲: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمومِهِ أَنَاهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَلِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِبْهَا بِثَلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مَسْمُومٍ.

ممنوع صورت:

مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کوئٹل دو کوئٹل پر زمین نہ دے کیونکہ اس کا کسی کو علم نہیں کہ کس قدر نغلہ پیدا ہوگا اور پیدا بھی ہو گا یا نہیں؟

۳: محمد بن عبید حماد بن زید ایوب یعلیٰ بن حکیم سلیمان بن یسار سے سابقہ حدیث جیسی روایت بیان کی گئی ہے۔

۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ بِمَعْنَى إِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدِيثِهِ.

۴: ابوبکر بن ابی شیبہ وکیع عمرو بن ذر مجاہد رافع حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد ابورافع آنحضرت ﷺ کے

۴: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ

پاس آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں آنحضرت ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا جو ہمارے لیے آسان تھا لیکن ہم لوگوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا زیادہ آسان ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کی زمین کاشت نہ کرے الا یہ کہ وہ خود اس کا مالک ہو یا کوئی دوسرا آدمی اسے ہدیہ دے۔

حَدِيثٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا وَطَاعَةَ اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ أَرْفُقُ بِنَا نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ.

عاریتاً زمین دینا:

مطلب یہ ہے کہ اپنی زمین بطور عاریت غلہ پیدا کرنے کے لئے دے دے البتہ زمین کی پیداوار میں سے اپنے لئے کوئی حصہ مقرر نہ کرے۔

۵: محمد بن کثیر سفیان منصور مجاہد اسید بن ظہیر سے مروی ہے کہ رافع بن خدیج ہمارے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ آنحضرت ﷺ تم لوگوں کو اس کام سے منع فرماتے ہیں جس میں تم لوگوں کا فائدہ تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری تم لوگوں کو زیادہ فائدہ بخشنے گی۔ بلاشبہ آنحضرت ﷺ تم لوگوں کو کھل سے یعنی مزارعت سے منع فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اپنی زمین کی کاشت کی ضرورت نہ ہو تو وہ شخص یا تو وہ زمین کو (بلا قیمت) اپنے بھائی کو دے دے یا یوں ہی چھوڑ دے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح شعبہ نے بیان کیا ہے اور مفضل بن مصلح نے منصور سے روایت کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اسید بن ظہیر رافع بن خدیج کے پیچھے ہیں۔

۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَسِيدَ بْنَ ظَهَيْرٍ قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةَ اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنْ اسْتَعْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدِّعْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفَضَّلُ بْنُ مَهْلَهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ شُعْبَةُ أَسِيدُ ابْنُ أُخِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ.

۶: محمد بن بشر یحییٰ حضرت ابو جعفر خطمی سے مروی ہے کہ میرے چچا نے مجھے اور اپنے ایک غلام کو حضرت سعید بن المسیب کی خدمت میں بھیجا۔ ہم نے یہ معلوم کیا کہ آپ کی طرف سے مزارعت کے سلسلے میں ایک روایت پہنچی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب نے بیان فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مزارعت میں کسی قسم کا حرج نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ ان کو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث کا علم ہوا تو وہ رافع بن خدیج کے پاس آئے اور ان سے معلوم کیا۔ رافع نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے قبیلہ بنی حارثہ کے پاس تشریف لائے آپ ﷺ نے ظہیر کی زمین میں کھیت دیکھا اور فرمایا ظہیر کا کیا ہی عمدہ

۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ قَالَ بَعَثَنِي عَمِي أَنَا وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَّغْنَا عَنْكَ فِي الْمَزَارَعَةِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَّغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثَ فَاتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظَهَيْرٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظَهَيْرٍ قَالُوا لَيْسَ لظَهَيْرٍ قَالَ أَلَيْسَ أَرْضُ ظَهَيْرٍ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ

قَالَ فَحُدُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ رَافِعٌ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ سَعِيدٌ أَفْقِرَ أَحَاكَ أَوْ أَكْرِهَ بِالذَّرَاهِمِ۔

کھیت ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ ظہیر کا کھیت نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ زمین ظہیر کی نہیں ہے؟ لوگوں نے بیان کیا کہ جی ہاں زمین تو ظہیر کی ہے البتہ کھیت دوسرے شخص کا ہے آپ نے فرمایا تم اپنا کھیت واپس لے لو اور محنت کرنے والے شخص کو اس کی اجرت ادا کر دو۔ رافع نے کہا کہ ہم نے اپنی کھیتی لے لی اور محنت کرنے والے کو اس کی اجرت ادا کر دی۔ سعید نے کہا تو اپنے بھائی کی ناداری دور کر دو (یعنی کرایہ کے بغیر عاریتاً زمین اس کو دے دو تا کہ وہ اس سے نفع حاصل کرے) یا دراہم کے عوض زمین کرایہ پر دے دو۔

۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مَنَحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَمَى أَرْضًا يَذْهَبُ أَوْ فِصَّةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَيَّ سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيَّ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمْ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ أَبِي شِجَاعٍ حَدَّثَنِي عُمَانُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ إِنِّي لَتَيْمٍ فِي حِجْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَحَاجَجْتُ مَعَهُ فَبَجَانَهُ أَحْيَى عِمْرَانَ بْنَ سَهْلٍ فَقَالَ أَكْرَيْتَنَا أَرْضَنَا فَلَانَةَ بِمَائَتِي دِرْهَمٍ فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ۔

۷: مسدّد ابوالاحوص طارق سعید بن مسیب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے محاقلا اور مزابنہ سے منع فرمایا اور فرمایا کہ زراعت کی تین صورتیں ہوتی ہیں: ایک تو وہ شخص زراعت کرتا ہے جس کی اپنی زمین ہو۔ دوسرے وہ شخص کہ جس نے ماگی ہوئی زمین لی ہو اور وہ اسی میں زراعت کرتا ہے۔ تیسرے وہ شخص کہ جس نے چاندی یا سونے کے عوض زمین کرایہ پر لی ہو۔ ابوداؤد نے بیان فرمایا کہ میں نے سعید بن یعقوب طالقانی کو پڑھ کر سنایا کہ آپ سے عبد اللہ بن مبارک نے حدیث کو بیان کیا، انہوں نے سعید بن ابی شجاع سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی عثمان بن سہل بن رافع بن خدیج نے کہ میں یتیم تھا رافع بن خدیج کی گود میں پرورش پا رہا تھا اور میں نے انکے ساتھ حج ادا کیا تو ان کے پاس میرے بھائی عمران بن سہیل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں خاتون کو اپنی زمین دو سو درہم کے عوض کرائے پر دے دی ہے۔ رافع نے ان سے کہا کہ تم اس معاملہ کو چھوڑ دو کیونکہ نبی نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے۔

محاقلا، مزابنہ کی تعریف:

مذکورہ حدیث میں محاقلا، مزابنہ کا تذکرہ ہے محاقلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص گیبوں کے کھیت کو سوکھے ہوئے گیہوں کے عوض فروخت کرے اور مزابنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ درختوں پر پھل، کھجور، انگور، آم وغیرہ کا تخمینہ لگا کر اس کو سوکھی ہوئی کھجور وغیرہ کے عوض فروخت کیا جاتا ہے ہدایہ آخرین کتاب البيوع میں مذکورہ اقسام کی مفصل بحث مذکور ہے۔

۸: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّتْ

۸: ہارون بن عبد اللہ فضل بن دکین، بکیر حضرت ابن ابی نعیم فرماتے ہیں کہ رافع بن خدیج نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک زمین کاشت کی۔ اس زمین پر نبی کا گزر ہوا جبکہ رافع اپنے کھیت میں پانی دے

رہے تھے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کھیت کس شخص کا ہے اور یہ زمین کس شخص کی ہے؟ رافع نے عرض کیا کہ یہ کھیت میرا ہے اور بیج بھی میرا ہے اور محنت بھی میری ہے اس شرط پر کہ مجھے آدھی پیداوار ملے اور (زمین کا جو مالک) فلاں شخص ہے اسکو آدھی پیداوار ملے۔ آپ نے فرمایا تم نے سود کا معاملہ کیا۔ تم زمین کو لوٹا دو اور اپنے اخراجات وصول کر لو۔

بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيهَا
فَسَأَلَهُ لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ فَقَالَ زَرَعِي
بِيَدِي وَعَمَلِي لِي الشَّطْرُ وَلِي الشَّطْرُ فَلَانَ الشَّطْرُ
فَقَالَ أَرَيْتُمَا فَرَدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخَذَ
نَفَقَتَكَ.

باب: مالک زمین کی اجازت کے بغیر کھیتی کرنے

بَاب فِي زَرْعِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ

کابیان

صَاحِبِهَا

۹: تہیبہ بن سعید شریک ابو اسحق عطاء حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی قوم کی زمین اس کی اجازت کے بغیر کاشت کی تو اس کاشت میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں البتہ اس کی لاگت کو وصول کرنا اس کا حق ہے۔

۹: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بِغَيْرِ
إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

باب: مخاברה کا بیان

بَاب فِي الْمَخَابَرَةِ

۱۰: احمد بن حنبل اسماعیل (دوسری سند) مسدد حماد عبد الوارث ایوب حضرت ابو زبیر حماد اور سعید بن میناء تینوں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت بیان فرمائی لگے ہوئے کھیت کو فروخت کرنے اور درخت پر پھل کو فروخت کرنے سے اور مخاברה سے اور معاومہ سے اور استثناء کرنے سے البتہ آپ نے عریا کی اجازت دی۔

۱۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمَادًا وَعَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَانَهُمْ
كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ عَنْ حَمَادٍ
وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَخَابَرَةِ وَالْمَزَانِبَةِ
وَالْمَخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ قَالَ عَنْ حَمَادٍ وَ قَالَ
أَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةَ وَقَالَ الْآخَرُ بَيْعُ التَّيْنِينَ ثُمَّ
اتَّفَقُوا وَعَنِ الْفُتَيْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَا.

معاومہ!

چند سالوں تک کے لئے پھل فروخت کرنے کے معاومہ کہا جاتا ہے یعنی آئندہ آنے والی فصلوں کو فروخت کرنا معاومہ کہا جاتا ہے یہ ناجائز ہے۔ کیونکہ پیداوار ہی نامعلوم ہے۔ یہی بات استثناء میں بھی ہے کہ مثلاً سارا باغ فروخت کر دیا جائے اور اس کا نام معلوم حصہ فروخت سے بچا لیا جائے یہ صورت بھی ناجائز ہے کیونکہ معلوم نہیں کہ کتنا حصہ مستثنیٰ ہوا ہے۔

۱۱: عمرو بن یزید عماد بن عوام سفیان یونس عطاء حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا درخت پر پھل کو

۱۱: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرٌ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ
حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ

يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابِنَةِ وَالْمَحَاقِلَةِ وَعَنِ الشُّبَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ۔

فروخت کرنے سے اور لگے ہوئے کھیت کو فروخت کرنے سے اور استثناء کرنے سے مگر جب اس کی مقدار کا علم ہو۔

کھیت فروخت کرنے کی ایک صورت:

مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس طریقہ سے کہے کہ میں نے اس باغ کے پھلوں، انگوروں، کھجوروں وغیرہ کو فروخت کیا لیکن میں نے ایک حصہ فروخت نہیں کیا تو یہ درست نہیں ہے لیکن اگر جس حصہ کو مستثنیٰ کیا ہے وہ معلوم ہو جیسے تہائی، آدھا وغیرہ تو جائز ہے۔

۱۲: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ يُعْنَى لَمْحَى قَالَ ابْنُ حُثَيْمٍ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَدْرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔

۱۲: یحییٰ بن معین، ابن رجا، ابن حثیم، ابو الزبیر، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ جس شخص نے مخابره کو نہیں چھوڑا تو وہ شخص (مطلع رہے) کہ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے جنگ کر رہا ہے۔

بٹائی کا معاملہ:

اس حدیث کے بارے میں بعض حضرات کی رائے ہے کہ مذکورہ حدیث خیبر کے واقعہ کی حدیث سے منسوخ ہے اور آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں سے کھیتی کو بٹائی پر دیے پر فیصلہ فرمایا۔

۱۳: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ قُلْتُ وَمَا الْمُخَابَرَةُ قَالَ أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ۔

۱۳: ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر بن ایوب، جعفر بن برقان، ثابت بن حجاج، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابره سے منع فرمایا میں نے عرض کیا کہ مخابره کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آدمی، تہائی یا چوتھائی پیداوار کے بدلے میں زمین لے کر کاشت کرو۔

بَابُ فِي الْمَسَاقَاةِ

باب: مساقاة کا بیان

۱۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ۔

۱۴: احمد بن حنبل، یحییٰ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے کھیتی اور پھلوں کی گل پیداوار کے آدھے حصے پر معاملہ فرمایا۔

۱۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُعْنَى ابْنُ عَنَجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ

۱۵: قتیبہ بن سعید، لیث، محمد بن عبد الرحمن، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کو خیبر کی زمین اور کھجور کے درخت اس شرط پر واپس کئے کہ وہ اس زمین کو

آباد کریں گے اور اس زمین کی کل پیداوار میں سے آدھی پیداوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔

۱۶: ایوب بن محمد، عمر بن ایوب، جعفر بن برقان، میمون، مقسم، ابن عباس سے مروی ہے کہ آنحضرت نے خیبر کو فتح فرمایا اور آپ نے یہ شرط مقرر فرمائی کہ زمین سونا اور چاندی سب ہمارا ہوگا اہل خیبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ لوگوں کی بہ نسبت زمین کے متعلق ہم لوگ زیادہ واقف ہیں۔ تو آپ یہ زمین اس شرط پر ہمارے حوالے فرمادیں کہ آدھی پیداوار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آدھی پیداوار ہم رکھیں گے راوی کا خیال ہے کہ آپ نے اس شرط پر وہ زمین ان لوگوں کو عنایت فرمادی۔ جس وقت کھجور کے کٹنے کا وقت آتا تو آپ عبد اللہ بن رواحہ کو بھیج دیتے وہ جا کر کھجوروں کا اندازہ کر لیتے اور اسی تخمینہ لگانے کو اہل مدینہ الخرص کہتے ہیں اور فرماتے کہ اس باغ میں اس قدر کھجوریں نکلیں گی۔ اہل خیبر بیان کرتے اے عبد اللہ بن رواحہ کہ تم نے بہت زیادہ اندازہ لگایا۔ عبد اللہ بن رواحہ فرماتے کہ میں اولاً کھجوروں کے توڑنے کا انتظار کروں گا اور میں نے جو اندازہ لگایا ہے اس کا آدھا حصہ تم لوگوں کو دے دوں گا۔ اہل خیبر یہ بات سن کر کہتے کہ بلاشبہ اسی کو حق کہتے ہیں اور اسی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ ہم لوگ تمہارے تخمینہ کے مطابق پھل لینے کے لئے تیار ہیں۔

۱۷: حضرت علی بن سہل الرلی زید جعفر بن برقان سے سابقہ حدیث کی طرح روایت ہے اور اس حدیث میں لفظ فَحَزَرَ ہے اور كُلُّ صَفْرَاءٍ وَبَيْضَاءٍ کی تشریح چاندی سونے سے بیان کی گئی ہے۔

خَيْرٍ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا۔

۱۶: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَهْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مِقْسَمِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ أَفْتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ أَنْ لَهُ الْأَرْضُ وَكُلُّ صَفْرَاءٍ وَبَيْضَاءٍ قَالَ أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ فَأَعْطَيْنَاهَا عَلَى أَنْ لَكُمْ نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفُ فَرَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِي ذِهِ كَذَا وَكَذَا قَالُوا أَكْثَرَتْ عَلَيْنَا يَا أَبْنُ رَوَاحَةَ فَقَالَ فَأَنَا أَلِي حَزَرَ النَّخْلَ وَأَعْطَيْتُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُمْ قَالُوا هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتُمْ۔

۱۷: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ يَأْسُنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَحَزَرَ وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكُلُّ صَفْرَاءٍ وَبَيْضَاءٍ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ۔

یہود سے عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا عمل:

ایک مرتبہ یہودیوں نے حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر زیورات بطور رشوت پیش کئے اس سے مقصد ان لوگوں کا یہ تھا کہ وہ یہودیوں سے پیداوار کی وصولیابی میں اعانت کریں لیکن حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار فرمادیا۔

۱۸: محمد بن سلیمان، کثیر، جعفر بن برقان، حضرت میمون، مقسم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب خیبر فتح فرمایا پھر اوپر کی حدیث کی طرح روایت کیا اور اس میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ

۱۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَبْرَارِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ عَنْ مِقْسَمِ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

رضی اللہ عنہ نے کھجوروں کا تخمینہ لگایا اور فرمایا کہ میں کھجور کے اترنے تک انتظار کروں گا اور میں نے جو تخمینہ لگایا ہے اس کا ادھاتم لوگوں کو دے دوں گا۔

باب: پھلوں کا درختوں پر تخمینہ لگانا

۱۹: یحییٰ بن معین، حجاج، ابن جریج، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر میں بھیجے وہ کھجوروں کا تخمینہ لگاتے جب کھجوریں پکنے لگتیں اس سے پہلے کہ وہ کھانے کے لائق ہوں پھر آپ یہودیوں کو اختیار دیتے کہ تم لوگ اس تخمینہ کا نصف قبول کر کے اپنے تحویل میں رکھ لو یا اسی انداز کے مطابق وہ مسلمانوں کو دے دیں تاکہ زکوٰۃ کا حساب ہو اس سے پہلے کہ لوگ پھلوں کو کھائیں اور علیحدہ ہو جائیں۔

۲۰: ابن ابی خلف، محمد بن سابق، ابن طہمان، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو خیبر عنایت فرمایا تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو اس پر برقرار رکھا اور کھیتی میں شریک ہو گئے پھر آپ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا انہوں نے وہاں پہنچ کر پھلوں کا تخمینہ کیا۔

۲۱: احمد بن حنبل، عبد الرزاق، محمد بن بکر، ابن جریج، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کا تخمینہ چالیس ہزار وسق لگایا۔ راوی کا خیال ہے کہ جب حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یہود کو اختیار دیا تو ان لوگوں نے پھل اپنی تحویل میں رکھے اور تیس ہزار وسق ادا کرنا منظور کر لیا۔

باب فی الخرص

۱۹: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُوَكَّلَ الْفِئَامُ وَتُفْرَقَ۔

۲۰: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ۔

۲۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الْقَمْرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسَقٍ۔

أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ

باب: تعلیم دینے والے کو تعلیم کی اجرت لینا

۲۲: ابو بکر بن ابی شیبہ، کعب، حمید، مغیرہ بن زیاد، عبادہ بن نسی، اسود، حضرت

فی کسب المعلم

۲۲: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے کچھ حضرات کو قرآن کریم پڑھایا اور قرآن کریم کے لکھنے کی تعلیم دی تو میرے تلامذہ میں سے ایک نے مجھے ایک کمان تحفہ دی۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی مالیت کی چیز نہیں ہے اور میں اللہ کے راستہ میں اس سے تیر چلاؤں گا لیکن میں خدمت نبوی میں حاضر ہوں گا اور آپ سے دریافت کروں گا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا ایک شخص نے نہ کہ جس کو میں نے قرآن کریم کی تعلیم دی اور اس کو قرآن پڑھنا سکھایا اس نے مجھے ایک کمان تحفہ پیش کی اور میں اس سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم آگ کا ایک طوق پہننا چاہو تو تم یہ کمان رکھ لو۔

وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ عَنْ مُغْبِرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ نَعْلَبَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَايْتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أَعَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتُ تُحِبُّ أَنْ تَطُوقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَأَقْبَلْهَا۔

تعلیم قرآن پر اجرت:

مذکورہ حدیث سے حضرت امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم قرآن پر معاوضہ لینے کے ناجائز ہونے پر استدلال فرمایا ہے لیکن بعد کے زمانہ میں اسلامی بیت المال ختم ہو گئے اس لئے بوجہ ضرورت متاخرین حنفیہ نے تعلیم قرآن امامت وغیرہ پر اجرت لینے کو درست فرمایا ہے شرع عقود رسم اہلسنی میں اس مسئلہ کی تفصیلی بحث مذکور ہے۔

۲۳: حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَبِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ عُمَرُو وَحَدَّثَنِي عِبَادَةُ بْنُ نُسَيْبٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَالْأَوَّلُ أَنْتُمْ فَقُلْتُ مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جُمْرَةٌ بَيْنَ كَيْفَيْكَ تَقَلَّدَتْهَا أَوْ تَعَلَّقَتْهَا۔

۲۳: عمرو بن عثمان، کبیر بن عبید، قالا حدیثنا بقیة حدیثی بشر بن عبد اللہ بن یسار قال عمرو و حدیثی عبادہ بن نسیب عن جنادة بن ابی امیة عن عبادہ بن الصامت نحو هذا الخبر والاول انتم فقلت ما ترى فيها یا رسول اللہ فقال جمرة بین کیفیک تقلدتها أو تعلقتھا۔

خلاصہ الباب: ”کمان کوئی مال نہیں ہے“ سے حضرت عبادہ کی یہ مراد تھی کہ کمان ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے مال یا اجرت شمار کیا جائے بلکہ یہ تو لڑائی کا ایک سامان ہے جسے میں خدا کی راہ میں استعمال کروں گا بایں طور کہ جہاد میں اس کے ذریعے تیر اندازی کروں گا۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے انہیں متنبہ فرمایا کہ یہ کمان اگرچہ تمہیں کلام اللہ کی اجرت کے طور پر نہیں ملی ہے اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے اجرت شمار کیا جاسکے لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ تمہارے اس اخلاص کو ختم کر دے گی۔ جو تمہاری خدمت تعلیم کا محور تھا جس سے سرشار ہو کر تم نے ان لوگوں کو قرآن و دین کی تعلیم دی تھی لہذا تمہارے لئے مناسب یہی ہے کہ تم اسے قبول نہ کرو۔ جو علماء قرآن و دین کی تعلیم دینے کی اجرت لینے کو حرام کہتے ہیں وہ اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن متاخرین احناف کا مسلک ہم نے اوپر بیان کر دیا۔ (عبدالرشید)

باب: اطباء کو اجرت لینا کیسا ہے؟

۲۳: مسدّد ابوعوانہ ابوالبشر ابوالتوکل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سفر میں گئی اور وہ لوگ عرب کے کسی قبیلہ کے پاس پہنچے اور ان لوگوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا لیکن ان لوگوں نے مہمانی قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر قبیلہ کے سردار کو (سانپ یا بچھو نے) ڈس لیا اور ان لوگوں نے ہر طرح سے اس کا علاج کیا لیکن کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس چلو جو کہ یہاں پر پٹھرے ہیں ہو سکتا ہے ان لوگوں کے پاس کوئی دوا ہو کہ جس سے تمہارے دوست کو کچھ نفع ہو۔ پھر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو (سانپ یا بچھو نے) ڈس لیا ہے تو تم لوگوں کے پاس کوئی تعویذ ہے؟ ایک شخص نے کہا ہاں میرے پاس تعویذ اور دم ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے تم سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا مگر تم نے انکار کر دیا میں اب دم نہیں کروں گا جب تک تم معاوضہ نہ ادا کرو۔ ان لوگوں نے بکریوں کا ایک ریوز دینا مقرر کیا پھر وہ شخص آیا اور اس نے الحمد شریف پڑھ کر تھوکنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ شخص چنگا بھلا ہو گیا گویا کہ وہ شخص رہا ہو گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے جو معاوضہ متعین کیا تھا وہ ادا کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا لاؤ اس کو تقسیم کر لیں مگر جس شخص نے دم کیا تھا اس نے کہا نہیں تم لوگ ٹھہر جاؤ جب تک کہ ہم حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آنحضرت ﷺ سے دریافت نہ کر لیں۔ پھر صبح کو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ عمل (دم) ہے خیر چلو تم نے اچھا کیا میرا بھی ایک حصہ اپنے ساتھ مقرر کر لو۔

باب فی کسب الاطباء

۲۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا فَتَزَلُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمْ قَالَ فَلِدِعَ سَيْدٌ ذَلِكَ الْحَيَّ فَشَفَّوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ آتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبِكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لِدِعَ فَشَفَّيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِي صَاحِبَنَا يَعْنِي رُقِيَّةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّقُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَيَتِفَلُ حَتَّى بَرَّءَ كَأَنَّمَا أَنْشَطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَوْفَاهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى تَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمِرَهُ فَعَدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ أَحْسَنْتُمْ وَأَضْرَبُوا لِي مَعَكُمْ بِسُهُمٍ۔

تعویذ کرنا:

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عمل یا وظیفہ کرنا درست ہے اور اس پر معاوضہ لینا درست ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ تعویذ کرنے والا اس فن سے واقف ہو اور جائز اجرت لے اور مذکورہ حدیث کا جملہ ”زیبوں میں جکڑا ہوا تھا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے

حس و حرکت تھا سورہ فاتحہ کی برکت سے اچھا ہو گیا۔

۲۵: حسن بن علی یزید ہشام محمد بن سیرین معبد بن سیرین حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

۲۵: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَخِيهِ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔

۲۶: عبید اللہ بن معاذ ان کے والد شعبہ عبد اللہ شعمی خارجہ بن ابی صلت سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے سنا کہ ان کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا تو اس قوم کے لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اس آدمی (نبی) کے پاس سے خیر و برکت لائے ہو تو تم ہمارے اس آدمی پر عمل پڑھو پھر وہ لوگ ایسے شخص کو لائے جو کہ بجنون تھا رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے تین دن تک اس شخص پر صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھی۔ جب وہ سورہ فاتحہ (کا عمل) ختم کرتے تو منہ میں تھوک اکٹھا کر کے اس پر تھوک دیتے۔ پھر وہ شخص ایسا ہو گیا کہ گویا وہ قید سے رہا ہو گیا یعنی تندرست ہو گیا۔ ان لوگوں نے ان کو (یعنی میرے چچا کو) کچھ پیش کیا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کھا لو میری عمر کی قسم لوگ تو جھوٹے عمل (منتر) کر کے کھا لیتے ہیں تم نے تو سچا دم کیا ہے (یعنی سورہ فاتحہ ہر قسم کی بیماری کے لئے بہترین عمل ہے)

۲۶: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَاتَوْهُ فَقَالُوا إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارْقُبْ لَنَا هَذَا الرَّجُلُ فَاتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُورٍ فِي الْقُبُودِ فَرَأَاهُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدُوءَ وَعَشِيَّةً وَكَلَّمَا حَتَمَهَا جَمَعَ بُرْأَقَهُ ثُمَّ تَفَلَّ فَكَانَمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ فَلَعْمَرِي لَمَنْ أَكَمَلَ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتُ بِرُقِيَّةَ حَقٍّ۔

خلاصہ الباب: ”باطل منتر“ ایسی جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں جس میں ستاروں اور ارواح خبیثہ جنات اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کا ذکر ہو اور ان میں سے مدد مانگی جاتی ہو چنانچہ ایسے عملیات جو غیر اللہ کے ذکر یا غیر اللہ سے مدد مانگنے کی وجہ سے غیر شرعی ہوں جس طرح ان کو اختیار کرنا ناجائز ہے اسی طرح ان کی اجرت کھانا بھی حرام ہے۔

”حق منتر“ ایسی جھاڑ پھونک اور عملیات کو کہتے ہیں جن میں ذکر اللہ اور قرآن کریم کی آیتیں ہوں خواہ ان کا تعلق پڑھ کر دم کرنے سے ہو یا تعویذ وغیرہ لکھ کر دینے سے ہو۔

حدیث کے الفاظ: فَلَعْمَرِي (پس قسم ہے اپنی زندگی کی) سے یہ اشکال واقع ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کی قسم کھانا منع ہے پھر آپ ﷺ نے اپنی زندگی کی قسم کس طرح کھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ”فَلَعْمَرِي“ سے قسم مراد نہیں ہے بلکہ دراصل یہ اہل عرب کے کلام کا ایک خاص لفظ ہے جو اکثر و بیشتر دوران گفتگو ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے یا پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی۔

اور علامہ طبری یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اس قسم کی قسمیں کھانے کی اجازت حاصل ہو لہذا اس کا تعلق ان چیزوں سے ہوگا جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ شخص ہیں کہ وہ آپ ﷺ کے لئے تو جائز تھیں دوسروں کے لئے جائز نہیں ہیں۔

باب: سینگلی لگانے کی اجرت

باب فی کسب الحجام

۲۷: موسیٰ بن اسماعیل ابان یحییٰ ابراہیم سائب بن یزید حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سینگلی لگا کر اجرت لینے کا پیشہ اختیار کرنا برا ہے اور کتے کی قیمت ناپاک ہے اور بدکار عورت کی اجرت ناپاک ہے۔

۲۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْزُبِي ابْنَ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَتَمَنُّ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ۔

۲۸: عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب ابن محبضہ ان کے والد حضرت محبضہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سینگلی لگا کر اجرت لینے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اس سے منع فرمادیا۔ پھر وہ ہمیشہ آپ سے اس کی اجازت چاہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے اپنے اونٹ کو گھاس (وغیرہ) کھلا دو یا غلام کو دے دو۔

۲۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهَا عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يُسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ أَنْ أُعْلِفَهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ۔

۲۹: مسدذ بن خالد عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے سینگلی لگوائی اور آپ نے سینگلی لگانے والے شخص کو اس کی اجرت عنایت فرمائی۔ آپ اگر اس کو برا خیال فرماتے تو اجرت نہ عنایت فرماتے۔

۲۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَحْتَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ۔

حجام یعنی سینگلی لگانے والے کی اجرت:

حجامت سے مراد سینگلی لگانا ہے سینگلی لگانے کو پیشہ بنا لینا مکروہ ہے اور اس کی اجرت میں کراہت ہے۔ آپ سے اس کی ممانعت اور سینگلی پر اجرت دینا دونوں ثابت ہے۔ بہر حال سینگلی لگانے کی اجرت حرام نہیں ہے اور لفظ خبیث سے مراد کراہت ہے: و کسب

الحجام خبیث مع انه ليس بحرام اتفاقا فقولہ خبیث ای ليس بطیب فهو مکروہ۔ (بذل المجہود ص ۲۶۵ ج ۴)

۳۰: یعنی مالک حمید انس بن مالک ابوطیبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سینگلی لگوائی۔ آپ ﷺ نے اس کو کھجور کا ایک صاع عنایت فرمانے کا حکم فرمایا اور آپ ﷺ نے اس کے مالکوں کو حکم فرمایا کہ اس کے خراج میں کچھ تخفیف کر دیں۔

۳۰: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ حَجَّامٌ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاஜِهِ۔

خراج سے مراد:

خراج سے مراد یہ ہے کہ باندی کی آمدنی میں سے جو لیا جاتا ہے اس میں سے کسی قدر تخفیف کر دی جائے۔

باب: باندیوں کی آمدنی لینے کا بیان

۳۱: عبید اللہ بن معاذ، ان کے والد شعبہ، محمد بن مجاہد، ابو حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کی آمدنی (لینے سے) منع فرمایا۔

باب فی کسب الائماء

۳۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ۔

باندیوں کی آمدنی:

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کمائی سے مراد زنا ہے بہر حال حاصل حدیث یہ ہے کہ باندیوں کی کمائی ناجائز ہے جب تک کہ ان کی آمدنی کا ذریعہ معلوم نہ ہو۔ عرب میں ان پر لوگ ٹیکس، محصول مقرر کرتے وہ اس کو پورا کرنے کے لئے جائز ناجائز ذریعہ سے آمدنی کرتیں یہاں تک کہ زنا کرنا بھی لاکر دیتی اس لئے ان کی آمدنی سے منع فرمایا گیا۔

۳۲: ہارون بن عبد اللہ ہاشم، طارق بن عبد الرحمن قرشی سے مروی ہے کہ رافع بن رفاعہ انصاری کی مجلس میں آئے اور بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں آج کچھ اشیاء سے منع فرمایا پھر انہوں نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اور کہا کہ آپ نے ہمیں منع فرمایا باندی کی آمدنی (لینے سے) مگر جو آمدنی وہ محنت کر کے حاصل کرے پھر انہوں نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا جیسے روٹی پکانا، چرخہ کا تانا اور نقش و نگار وغیرہ۔

۳۲: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ وَنَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْرِ وَالْفُزْلِ وَالنَّفْسِ۔

۳۳: احمد بن صالح، ابن ابی ندیک، عبید اللہ، ان کے والد ان کے دادا رافع بن خدیج سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں باندی کی آمدنی لینے سے منع فرمایا جب تک کہ اس کے حال کا علم نہ ہو (کہ کہاں سے آمدنی ہوئی) اگر جائز طریقہ پر آمدنی حاصل کی تو لینا درست ہے)

۳۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ هُرَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ۔

باب: مؤنث پر مذکر کو چڑھانے یعنی جفتی کرانے

باب فی عَسْبِ

کی اجرت

الْفُحْلِ

۳۴: مسدد بن مسرہد، اسماعیل، علی بن حکم، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکر جانور کو مؤنث جانور پر چڑھانے کی مزدوری لینے سے منع فرمایا۔

۳۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرُهَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ۔

خلاصہ النیات: ز جانور خواہ اونٹ ہو خواہ گھوڑا اور خواہ کوئی اور جانور اس کو مادہ پر چھوڑنے کے لئے کسی کو دینا اور اس کی اجرت وصول کرنا منع ہے کیونکہ اس میں ایک ایسے نام کی اجرت وصول کرنا لازم آتا ہے جس کا وقوع پذیر ہونا متیقن نہیں ہوتا۔

بایں طور کہ زجانور کبھی تو جست کر جاتا ہے اور کبھی جست نہیں کرتا اسی طرح مادہ کبھی تو بار آور ہوتی ہے اور کبھی نہیں اسی لئے اکثر صحابہ اور فقہاء نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں زجانور کو مادہ پر جست کرنے کے لئے عاریتاً دینا مستحب ہے۔ البتہ عاریتہ دینے کے بعد اگر مادہ کا مالک اپنی طرف سے اسے کچھ بطریق انعام دے تو اس کو قبول کر لینا درست ہے۔

باب: سنار کے متعلق فرمان نبوی

بَابُ فِي الصَّائِغِ

۳۵: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاق، علاء بن عبد الرحمن، ابوماجدہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی لڑکے کا کان کاٹ دیا یا میرا کان کسی شخص نے کاٹ دیا (راوی کو وہم ہے حدیث کے راوی ابوماجدہ نے کیا جملہ بیان کیا) پھر ابو بکر ہمارے پاس حج کیلئے تشریف لائے۔ ہم تمام لوگ انکی خدمت میں اکٹھا ہوئے۔ انہوں نے عمر کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس میں قصاص واجب ہو سکتا ہے۔ تم لوگ کسی حجام کو بلا لاؤ تاکہ وہ قصاص میں اس شخص کا کان کاٹ دے جب حجام آیا تو عمر نے فرمایا میں نے آنحضرت سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی خالہ کی خدمت میں ایک غلام بطور ہبہ پیش کیا مجھ کو توقع ہے کہ اس غلام میں انکو خیر و برکت حاصل ہوگی میں نے ان سے کہا کہ اس غلام کو حجام یا سنار یا قصاب کے حوالے نہ کرنا۔

۳۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ قَالَ قَطَعْتُ مِنْ أُنْ غُلَامٍ أَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِي فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًّا فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَرَفَعْنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَقْتَصِرَ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ لَهَا فِيهِ فَقُلْتُ لَهَا لَا تَسْلِمِيهِ حَجَّامًا وَلَا صَائِغًا وَلَا قِصَابًا۔

۳۶: فضل بن یعقوب، عبدالاعلیٰ، محمد بن اسحاق، علاء بن عبد الرحمن، بنو سہم کے ایک شخص ابوماجدہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ حدیث کی طرح روایت بیان فرمائی۔

۳۶: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيِّ عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ۔

۳۷: یوسف بن موسیٰ، سلمہ بن فضل، ابن اسحاق، علاء بن عبد الرحمن، ابوماجدہ سہمی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح روایت بیان کی ہے۔

۳۷: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيِّ عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ۔

باب: اگر ایک غلام فروخت کیا جائے اور اس کے

بَابُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ

پاس مال موجود ہو تو مال کا کون حق دار ہے؟

وَكُلُّ مَالٍ

۳۸: احمد بن حنبل، سفیان، زہری، سالم نے اپنے والد سے روایت کیا ہے

۳۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غلام فروخت کیا اور غلام کے پاس مال موجود ہو تو غلام کا مال فروخت کرنے والے کا ہوگا مگر یہ کہ خریدنے والا شرط کرے (کہ مال سمیت خریدوگا) جس شخص نے پیوند شدہ کھجور فروخت کیا اس کا پھل فروخت کرنے والے کا ہوگا مگر یہ کہ خریدنے والا شخص فروخت کرنے والے سے شرط مقرر کرے (کہ مال یا پھل میں لوں گا اور فروخت کرنے والا شخص اس کو قبول کر لے تو خریدنے والا ہی لے گا)۔

۳۹: تعنی مالک نافع ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف غلام کا واقعہ اور نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کھجور کا واقعہ بیان کیا ہے۔

۴۰: مسدد یحییٰ سفیان حضرت سلمہ بن کھیل فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو یہ نرماتے ہوئے سنا کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غلام فروخت کیا اور غلام کے پاس مال موجود ہو تو اس غلام کے مال کا حقدار فروخت کرنے والا شخص ہے مگر یہ کہ خریدار شرط لگا دے (کہ مال سمیت غلام خریدوں گا)

باب: سوداگروں سے بازار میں آنے سے قبل

ملاقات کرنا

۴۱: عبد اللہ بن مسلمہ تعنی مالک نافع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کی فروخت پر اپنا سامان فروخت نہ کرے (یعنی دوسرے کا خریدار اس دوران دخل اندازی نہ کرے اور سوداٹے ہونے دے) جب تک تاجر بازار میں اپنا مال نہ اتار دے تو اس کے مال کا آگے سے جا کر سودا نہ کرے۔

۴۲: ربیع بن نافع عبید اللہ ایوب ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر مال خریدنے سے منع فرمایا اور جس شخص نے آگے جا کر مال خرید لیا (یعنی کم قیمت میں مال خرید لیا) تو غلہ کے مالک کو سامان کے بازار میں آنے کے بعد اختیار ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان نے بیان کیا کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا

الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُتَبَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالْشَّمْرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَبَاعُ۔

۳۹: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِقِصَّةِ النَّخْلِ۔

۴۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَبَاعُ۔

باب فی

التَّلْقَى

۴۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَلَّمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ۔

۴۲: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْْنِي ابْنَ عَمْرٍو الرَّقْمِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقُ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ

يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ فَرُوخْتَ نَه كَرَىٰ لِعْنِي يَه نَه كَبَىٰ كَه مِرَىٰ پَاس اس سَه بَهتر چيز دس اُن يَقُولُ اِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بَعَثَرَةٌ۔
روپے ميں ہے۔

بستی سے باہر جا کر مال خریدنا:

آگے جا کر مال خریدنے کا مفہوم یہ ہے کہ بازار میں آنے سے قبل ہی بستی وغیرہ سے باہر جا کر مال خریدے۔ اس سے شریعت نے منع کیا کیونکہ اس میں دوسرے لوگوں کا نقصان ہے اور کاروباری معاملات میں یہ چیزیں باعث نزاع بنتی ہیں۔ ہدایہ وغیرہ کتاب البيوع میں یہ مسائل موجود ہیں۔

باب: نجش کی ممانعت

باب فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

۴۳: احمد بن عمرو و سفیان زہری سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ نجش نہ کیا کرو۔

۴۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَنَاجَشُوا۔

نجش کیا ہے؟

نجش کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی چیز خود خریدنا مقصد نہ ہو صرف دوسرے خریدار کو دھوکہ دینے کے لئے نرخ بڑھایا جائے۔ شریعت نے اس سے منع کیا۔

باب: شہروالے شخص کا دیہاتی شخص کو سامان (گراں

بَاب فِي النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ

کرنے کے لئے) فروخت کرنے کی ممانعت

حَاضِرٌ لِبَادٍ

۴۴: محمد بن عبید ابوثور مہمہ ابن طاؤس ان کے والد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شہروالے شخص کو دیہات کے شخص کی شے فروخت کرنے سے منع فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ شہروالاد دیہاتی کا مال فروخت نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی دلالی نہ کرے۔

۴۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقُلْتُ مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا۔

۴۵: زہیر بن حرب محمد بن زہر قان ہمام زہیر یونس حسن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شہر کا رہنے والا شخص دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے اگرچہ وہ اس کا بھائی یا والد ہی کیوں نہ ہو۔ (بلکہ اس دیہاتی کو اپنی چیز خود فروخت کرنے دے) امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حفص بن عمر کے واسطے سے

۴۵: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَانَ أَبَا هَمَّامٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ

حضرت بلالؓ بن محمدؓ انس بن مالک سے مروی ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک جامع کلام ہے یعنی دیہاتی کے لئے نہ کوئی چیز فروخت نہ کرے اور نہ ہی خریدے۔

۳۶: موسیٰ بن اسماعیل حماد بن محمد بن اسحاق سالم کی سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے ان سے بیان کیا کہ میں نبیؐ کے دور میں دودھ دینے والی اونٹنی یا اس نے کہا کہ سامان تجارت لایا تو میں طلحہ بن عبید اللہ کے پاس ٹھہرا۔ انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے شہری شخص کو دیہاتی کے لئے سامان فروخت کرنے سے منع فرمایا تم خود بازار میں جاؤ اور دیکھو کہ کون شخص تمہارے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے۔ پھر تم مجھ سے مشورہ لے لینا پھر میں تمہیں کہہ دوں گا کہ بیچ دو یا منع کر دوں گا (مگر یہ نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ہمراہ چلوں اور تمہارا دلال بنوں)۔

يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو هَلَالٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَتَّاعُ لَهُ شَيْئًا۔

۳۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمِ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنْ أَذْهَبَ إِلَى السُّوقِ فَيَنْظُرُ مَنْ يَبِيعُكَ فَشَاوِرُنِي حَتَّى أَمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ۔

حلوبہ کا مفہوم:

حلوبہ عربی زبان میں دودھ دینے والی اونٹنی کو کہا جاتا ہے اور جلوہ اس مال کو کہتے ہیں جو کہ فروخت کرنے کیلئے لایا جاتا ہے۔

۳۷: عبد اللہ بن محمد زہیر ابو الزبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا شہر والا دیہاتی شخص کی چیز فروخت نہ کرے اور لوگوں کو چھوڑ دو تا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ رزق پہنچائے۔

۳۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ۔

باب: کوئی شخص ایسی بکری خرید لے کہ جس کے تھن میں کئی روز کا جمع کیا ہوا دودھ ہو پھر اسے ناپسند ہو تو کیا کرے؟

بَابُ مَنْ اشْتَرَى

مُصْرَاةً

فَكَرَّهَهَا

۳۸: عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابو الزناد اعرج حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا آگے بڑھ کر قافلہ سے نہ ملو (ست سال خرید کے مہنگا فروخت کرنے کے لئے) کوئی شخص دوسرے کی بیچ پر بیچ نہ کرے اور اونٹنیوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرو جو شخص اس قسم کی بکری یا اونٹنی خریدے گا تو اس شخص کو دودھ نکالنے کے بعد اس کے رکھے اور واپس کرنے میں اختیار ہے اگر پسند ہو تو رکھ لے اور پسند

۳۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تُصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا

وَأِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ - نہ ہوتو کھجور کا ایک صاع دے کر واپس کر دے۔

دوسرے کے خریدار کو بلانا اور تصریح کی وضاحت:

مذکورہ حدیث میں دوسرے کی خرید و فروخت کو اپنی چیز فروخت نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے خریدار کو دوسرا شخص نہ بلائے اور تصریح نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روز یا دو روز کا دودھ ان کے تھنوں میں اکٹھا کر کے فروخت نہ کرو کیونکہ یہ دھوکہ کی ایک صورت ہے۔

۴۹: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ایوب، ہشام، حبیب، محمد بن سیرین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تصریح کی ہوئی بکری خریدی تو وہ شخص تین روز تک اس بکری کو واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے اگر چاہے تو وہ شخص تین روز تک اس بکری کو واپس کرے اور اس کے ساتھ ایک صاع غلہ دے نہ کہ گیہوں۔ یعنی کھانے پینے کی کسی بھی چیز کا ایک صاع دے دے ضروری نہیں کہ گیہوں ہی ہو۔

۵۰: عبد اللہ بن محمد، مکی بن ابراہیم، ابن جریج، زیاد، ثابت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تصریح کی ہوئی بکری کی خریداری کر کے اس کا دودھ نکالا تو اگر اس کو پسند ہو تو بکری رکھ لے اور پسند نہ ہو تو اس کے دودھ کے عوض کھجور کا ایک صاع ادا کر دے اور بکری (جس سے خریدی ہو) اسے واپس کر دے۔

۵۱: ابوالکامل، عبد الواحد، صدقہ بن سعید، جمیع بن عمیر، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص تھن میں دودھ سے بھری ہوئی بکری خریدے تو تین روز تک اس شخص کو اختیار ہے اگر اس بکری کو لوٹا دے تو اس کے ساتھ جس قدر دودھ نکالا ہے اسی قدر یا اس سے دو گنے گیہوں ادا کر دے۔

باب: ذخیرہ اندوزی کی ممانعت

۵۲: وہب بن بقیہ، خالد، معمر، محمد بن عمرو بن عطاء، سعید بن مسیب، معمر بن ابی معمر سے جو کہ عدی بن کعب کی اولاد میں سے ہیں مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا گنہگار شخص کے علاوہ کوئی شخص ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ (یہ بات سن کر) محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب

۴۹: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهَشَامٍ وَحَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ.

۵۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصْرَاةً احْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخَطَهَا فَفِي حَلَّتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.

۵۱: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ التَّمِيمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ مُحَقَلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلٌ أَوْ مِثْلَيْ لَيْبِهَا قَمْحًا.

باب فِي النَّهْيِ عَنِ الْحُكْرَةِ

۵۲: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

سے عرض کیا کہ آپ تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معمر بھی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے دریافت کیا کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے انہوں نے کہا جس چیز پر لوگوں کی زندگی کا مدار ہو۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ امام اوزاری نے بیان کیا محتکر وہ شخص ہے جو غلہ بازار میں آنے سے روکے۔

۵۳: محمد بن یحییٰ ان کے والد (دوسری سند) ابن شمیٰ یحییٰ ہمام حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کھجور میں احتکار نہیں ہے۔ ابن شمیٰ اسے حسن سے مروی بتاتے ہیں۔ محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ یوں مت کہو کہ یہ حسن بھری سے مروی ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے نزدیک باطل ہے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب گھلیوں اور تیل نکالنے والے بیجوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن یونس سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے سفیان سے جانوروں کے چارہ کی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سلف تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے یہی بات ابوبکر بن العیاش سے پوچھی تو انہوں نے جواب دیا روک سکتے ہو (یعنی اسکی ذخیرہ اندوزی میں کوئی حرج نہیں)

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِءٌ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ۔

۵۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْقِيَاضِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ عَنِ الْحَسَنِ فَقُلْنَا لَهُ لَا تَقُلْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ يَحْتَكِرُ النَّوَى وَالْخَيْطَ وَالْبُرَّزَ وَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ كَيْسِ الْقَتِّ فَقَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحُكْرَةَ وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عِيَّاشٍ فَقَالَ كَيْسُهُ۔

باب: سکہ توڑنے کے بیان میں

۵۴: احمد بن حنبل مستمر محمد بن قضاء ان کے والد حضرت علقمہ بن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں میں رائج سکہ کو توڑنے سے منع فرمایا الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو۔

بَابُ فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ
۵۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ قِضَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ تَكْسِرَ سَكَّةَ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةَ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ۔

فَأَنَّكَ لَا: چونکہ سکہ خرید و فروخت کے سلسلہ میں بنیادی اور اہم چیز ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اس کو توڑنے سے منع فرمایا ہے۔

خَوَاتِمُ: اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ممالک اپنی کرنسی علیحدہ علیحدہ نہ اپنائیں بلکہ اپنی کرنسی ایک کر لیں اور تمام مسلمان ممالک میں وہ رائج ہو اور نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کے ثمرات بے بہا سے اغیار جو فوائد اٹھا رہے ہیں وہ آج یورپ کی مشترکہ کرنسی (Euro) کی مقبولیت دیکھ کر تمام دنیا کے سامنے عیاں ہیں۔ (حافظ)

باب: نرغ مقرر کرنے کا بیان

۵۵: محمد بن عثمان سلیمان بن بلال علاء بن عبدالرحمن انکے والد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں آکر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! نرغ مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا (نہیں) البتہ میں دعا کرونگا پھر ایک شخص آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! (چیزوں کے) نرغ مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نرغ گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے ذمہ کسی شخص پر کی گئی کوئی زیادتی نہ ہو (اگر میں نرغ مقرر کر دوں اور کسی فروخت کنندہ یا خرید کنندہ کو اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے تو یہ ایک قسم کی زیادتی ہوگی اور میں کسی پر زیادتی کر کے اللہ سے کیسے ملوں؟)

۵۶: عثمان ابن ابی شیبہ عقان حماد ثابت انس، قتادہ اور حمید انس سے مروی ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (اشیاء کا) بھاؤ مہنگا ہوا ہے۔ آپ ہمارے لئے بھاؤ مقرر فرما دیجئے تو آپ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ اللہ وہ ہے جو کہ بھاؤ مقرر فرماتا ہے، تنگی کرتا ہے وسعت پیدا فرماتا ہے رزق دیتا ہے مجھے اُمید ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ خون یا مال کے سلسلہ میں کوئی بھی شخص اپنے اوپر کی گئی کسی زیادتی کا مطالبہ لے کر نہ آئے (لہذا میں چیزوں کے نرغ مقرر نہیں کرونگا)۔

خلاصۃ الباب: اللہ ہی نرغ مقرر کرنے والا ہے کا مطلب یہ ہے کہ گرانی اور ارزانی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نرغ جس کا ظاہری سبب بنتا ہے چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کبھی تو نرغوں میں کمی اور ارزانی کے ذریعہ لوگوں کے رزق میں وسعت و فراخی پیدا کرتا ہے ای کو بعض لوگ "نرغ آسمانی" سے تعبیر کرتے ہیں لہذا جب گراں بازاری کا دور ہو اور نرغوں میں اضافے ہو جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے مدد مانگی جائے اپنے عقائد اور اعمال میں درستی اور اصلاح کر کے خدا کی رضا و خوشنودی کا سامان کیا جائے تاکہ وہ اپنے بندوں سے خوش ہو اور ان پر ارزانی وسعت رزق کی رحمت نازل فرمائے۔

حدیث کے آخری جز میں اس بات کا امیدوار اور خواہشمند ہوں سے دراصل اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ سرکار و حکومت کی طرف سے نرغ مقرر کیا جانا ممنوع ہے کیونکہ اس طرح لوگوں کے معاملات میں بے جا دخل اندازی ہوتی ہے اور ان کے مال میں ان کی اجازت و مرضی کے بغیر تصرف کرنا لازم آتا ہے جو ظلم کی ایک صورت ہے پھر نرغ مقرر کرنے کا ایک برا نتیجہ یہ بھی برآمد ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بسا اوقات لوگ کاروبار بند کر دیتے ہیں اور تجارتی زندگی میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے قحط وقت تک کی نوبت آ جاتی ہے انجام کار جو چیز مخلوق خدا کی بھلائی کیلئے اختیار کی جاتی ہے وہی ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا

باب فی التسعیر

۵۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِرٌ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو نَمَّ جَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِرٌ فَقَالَ بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ۔

۵۶: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُظَالِمُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ۔

ذریعہ بن جاتی ہے۔

لہذا آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نزع مقرر کر کے لوگوں کو تکلیف و پریشانی میں مبتلا نہ کیا جائے اور تاجروں پر کوئی نزع لازم نہ کیا جائے بلکہ اس کی بجائے تاجروں کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی و انصاف اور خیر خواہی کا معاملہ کریں اور ان کے ضمیر و احساس کو اس طرح بیدار کیا جائے کہ دراز جو زخوں میں کمی کر کے لوگوں کی پریشانی و مصیبت دور کریں۔

باب: ملاوٹ کی ممانعت

۵۷: احمد بن حنبل، سفیان، علاء ان کے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اناج فروخت کر رہا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا تم کس طرح فروخت کر رہے ہو؟ اس نے بتا دیا پھر آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا ہاتھ غلہ میں ڈال کر دیکھیں۔ آپ نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ غلہ اندر سے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا جو شخص ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

۵۸: حسن بن صباح، علی، یحییٰ سے مروی ہے کہ سفیان نے لیس مینا کی تشریح لیس مینا (یعنی وہ ہماری طرح نہیں ہے) سے کی ہے۔

بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ
 ۵۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعَ فَأَجَبَهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَادْخُلْ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

۵۸: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى قَالَ كَانَ سُفْيَانٌ يُكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِثْلَنَا.

ملاوٹ کرنا:

مراد یہ ہے کہ ملاوٹ کرنا اسلام کے طریقہ کے خلاف ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں لیس مینا فرمایا ہے کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی لیس مینا کی تشریح لیس مینا سے کرے تو گویا اس نے مسئلہ کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے جس کو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ پسند نہیں فرماتے تھے۔

باب: فروخت کنندہ اور خریدار کے اختیارات

۵۹: عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ باہمی طور پر خریدنے اور بیچنے والے فریق جب تک علیحدہ نہ ہوں ایک دوسرے پر اختیار رکھتے ہیں علاوہ اختیار کی بیع کے۔

بَابُ فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعِينَ
 ۵۹: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَقْتَرِ قَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

بیع بالخیار:

مذکورہ بالا حدیث سے وہ بیع مراد ہے جس میں علیحدہ ہونے کے بعد بیع کے رد کرنے کا پسندنا پسند کی شرط پر اختیار باقی رہتا ہے۔

۶۰: موسیٰ بن اسماعیل، حماد ابویوسف، نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آنحضرت ﷺ سے اسی طرح روایت کیا ہے (یعنی کہ وہ دونوں فریق) جس وقت تک علیحدہ نہ ہوں یا ایک فریق دوسرے سے کہہ دے کہ تو اس کو اختیار کر۔

۶۱: قتیبہ بن سعید ریث، ابن عجلان، عمرو بن شعیب، نکلے والد عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ نبیؐ نے ارشاد فرمایا فروخت کرنے والا اور خریداری کرنے والا جب تک علیحدہ نہ ہو جائیں انکو اختیار حاصل رہتا ہے (خریدی ہوئی چیز کو واپس کرنے کا) مگر یہ کہ بیع کا اختیار ہو (بیع خیار میں علیحدہ ہونے کے بعد بھی اختیار حاصل رہتا ہے) اور فروخت کرنے والے خریدنے والے دونوں میں سے کسی کیلئے حلال نہیں کہ خریدی ہوئی شے لوٹانے کے اندیشہ سے اپنے ساتھی سے علیحدہ ہو جائے (مجلس بدل دے)۔

۶۲: مسدد حماد جمیل بن مرہ، حضرت ابوالوضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک جہاد کیا تو ہم ایک منزل میں ٹھہرے۔ ہمارے ساتھی نے غلام کے بدلے میں ایک گھوڑا فروخت کیا پھر فروخت کرنے والا اور خریدنے والا تمام دن رات وہیں پر ٹھہرے رہے۔ جب اگلی صبح ہوئی تو روانگی کا وقت ہوا تو جس شخص نے گھوڑا فروخت کیا تھا وہ شخص اپنے گھوڑے پر زین کسے لگا پھر اس کو ندامت محسوس ہوئی (یعنی اس کو گھوڑا فروخت کرنا اچھا نہیں لگا) وہ خریدار کے پاس گھوڑا واپس لینے کے لئے گیا۔ اس نے گھوڑا واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر اس نے کہا چلو صحابی رسول ابو بزرہ جو فیصلہ کریں پھر وہ دونوں لشکر کے ایک کنارے میں ابو بزرہ کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا انہوں نے کہا کہ تم دونوں اس پر راضی ہو کہ میں تمہارے درمیان نبیؐ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں (پھر وہ کہنے لگے) کہ نبیؐ نے فرمایا فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک علیحدہ نہ ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں علیحدہ نہیں ہوئے۔

۶۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِي يُؤَبَّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرُ۔

۶۱: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَاعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشِيئَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ۔

۶۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مَرَّةٍ عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ قَالَ غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَفَزَلْنَا مَنْزِلًا فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغَلَامٍ ثُمَّ أَقَامَا بِقِيَّةٍ يَوْمَهُمَا وَلَيْتَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَتَدِيمَ فَاتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَابَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرَزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيَا أَبَا بَرَزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةُ فَقَالَ أَرْضِيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثْتُ جَمِيلٌ أَنَّهُ قَالَ مَا أَرَاكُمْمَا افْتَرَقْتُمَا۔

ایجاب وقبول سے بیع لازمی ہو جاتی ہے:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایجاب وقبول کے بعد ہی بیع لازم ہو جاتی ہے اور بیع کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا لیکن اگر بیع بشرط الخیار کی گئی ہو تو صرف اس صورت میں اختیار رد رہتا ہے۔ گویا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع

لازم ہونے کے لئے مجلس تبدیل ہونا شرط نہیں ہے صرف ایجاب و قبول سے بیع لازمی ہو جاتی ہے ہدایہ اخیرین کتاب البیوع میں اس مسئلہ کی مفصل بحث مع اختلاف ائمہ مذکور ہے۔

۶۳: محمد بن حاتم مروان حضرت یحییٰ بن ایوب سے مروی ہے کہ جب ابو زرعہ خرید و فروخت کرتے تو دوسرے شخص کو اختیار دے دیتے پھر فرماتے کہ مجھے اختیار دو اور وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ دونوں یعنی فروخت کرنے والا اور خریدنے والا باہمی رضامندی سے ہی الگ ہوں۔

۶۴: ابو الولید شعبہ قتادہ ابو الخلیل عبد اللہ بن حارث حکیم بن حزام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کو اختیار رہتا ہے جب تک علیحدہ نہ ہوں پھر اگر دونوں باہمی طور پر صحیح کہیں اور فروخت کی چیز کا عیب بیان کر دیں تو بیع و ثراء میں دونوں کو برکت حاصل ہوگی اور اگر جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں تو انکی بیع و ثراء میں خیر و برکت کم ہو جائے گی یا مٹ جائے گی۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حماد اور سعید نے اسی طرح روایت کیلئے لیکن ہمام کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کو اختیار حاصل ہے جب تک وہ دونوں علیحدہ نہ ہوں یا وہ تین مرتبہ اختیار کی شرط کریں۔

۶۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرَانِيُّ قَالَ مَرَّانَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَاعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيْرَنِي وَيَقُولُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْتَرِفَنَّ ائْتَانُ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ۔

۶۴: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَقْتَرِفَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ الْبُرُكَةُ مِنْ بَيْنِهِمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَادٌ وَأَمَّا هَمَامٌ فَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا ثَلَاثَ۔

باب: بیع ختم کرنے کی فضیلت کا بیان

۶۵: یحییٰ بن معین حفص، عمش، ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے اقالہ کرے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا قصور معاف فرمادے گا۔

باب فی فضل اِیْقَالَةِ

۶۵: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَفْوَتهُ۔

ستا خرید کرواپس کرنا:

مطلب یہ ہے کہ ستا خرید کرواپس کر دے یا مہنگا فروخت کر کے واپس لے بیع میں اگر خریدنے والا اور فروخت کرنے والا ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور ایک دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لئے بیع ختم کر دیں تو یہ عمل باعث اجر ہے۔

باب: ایک معاملہ میں دو بیع کرنے کی ممانعت

۶۶: ابو بکر بن ابی شیبہ یحییٰ، محمد بن عمرو ابوسلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

باب فیمن باع ببعین فی بیعة

۶۶: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ

عنه سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک بیع میں دو بیع کی تو بیع میں جو کم ہو تو اس کو اختیار کیا جائے ورنہ یہ معاملہ سود کا ہو جائے گا۔

زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَاعَ بِيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا۔

باب: بیع عینہ کی ممانعت

باب فِي النَّهْيِ عَنِ الْعَيْنَةِ

۶۷: سلیمان بن داؤد ابن وہب حیوۃ (دوسری سند) جعفر بن مسافر عبد اللہ حیوۃ بن شریح، اسحاق ابو عبد الرحمن الخراسانی، عطاء خراسانی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم لوگ بیع عینہ کرو گے اور گائے، بیل کی ذم پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی سے خوش رہو گے (یعنی ہر وقت دنیا داری میں مشغول رہو گے) اور جہاد ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر ذلت و رسوائی ڈال دیں گے۔ پھر تم لوگوں سے ذلت ڈونہیں کرے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی جانب لوٹ جاؤ۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ الفاظ جعفر کے ہیں۔

۶۷: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ النَّبِيسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرْكَسِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ إِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَيَّ دِينَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْإِخْبَارِيُّ لَجَعْفَرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ۔

بیع عینہ:

بیع عینہ کی صورت یہ ہے کہ مثلاً خالد بکر کے ہاتھ دس روپیہ کا ایک تھان اُدھار ایک یا دو ماہ بعد قیمت ادا کرنے کے معاملہ پر فروخت کرے پھر آٹھ روپیہ نقد ادا کر کے مذکورہ تھان بکر سے خریدے اور حدیث کے آخری جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم دین پر جتنے رہو گے اور جہاد کرو گے تو تم کو دنیا میں بھی عزت ملے گی۔

باب: بیع سلف یعنی بیع سلم

باب فِي السَّلْفِ

۶۸: عبد اللہ بن محمد نفیلی، سفیان ابن ابی نجیح، عبد اللہ بن کثیر، ابو المنہال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور وہاں کے لوگ بھلوں میں ایک سال دو دو اور تین تین سلف کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے پھل خریدنے کے لئے پیشگی قیمت دی تو اس کو چاہئے کہ اس کی مدت اور وزن یا ناپ مقرر کر دے۔

۶۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ

مَعْلُومٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ۔

بیع سلف اور بیع مسلم:

بیع مسلم اور سلف ایک ہی بیع کا نام ہے اس بیع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ خریدار فروخت کرنے والے کو نقد قیمت ادا کر دے اور بیع کی ایک میعاد متعین ہو جائے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی سے ایک سو روپے لے لے اور اس کے عوض ایک من چاول وغیرہ ادا کرنا مقرر کرے اور چاول دینے کی میعاد ایک مہینہ مقرر کرے۔ بیع مسلم کی دیگر شرائط بھی ہیں جن کی تفصیل بیع مسلم کی متعدد شرائط ہیں جن کی تفصیل کتب فقہ میں مفصل طور پر مذکور ہے۔ لیکن ہم یہاں پر مختصر بیع کی کچھ اقسام ذکر کئے دیتے ہیں:

خلاصۃ الباب: ”بیع“ کے معنی ہیں ”بیچنا یعنی فروخت کرنا“، لیکن بسا اوقات ”خریدنا“ کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ اس لئے بیع کو اصطلاح میں ”خرید و فروخت“ کے معنی میں لیا جاتا ہے۔

”بیوع“ بیع کی جمع ہے۔ یہاں یہ سوال ہوگا کہ لفظ بیع مصدر ہے اور مصدر کا شنیہ اور جمع نہیں آتا۔ پس یہاں بیوع بصیغہ جمع ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ”بیع“ بیع اسم مفعول کے معنی میں ہے اور مبیعات کی بہت سی انواع اور اقسام ہیں۔ اس لیے اس کو جمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ بیع مصدر ہے لیکن انواع بیع کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کو جمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔

لفظ بیع اضماد میں سے ہے یعنی لغت میں بیع کا لفظ اخراج الٹھی عن الملک بمال اور ادخال الٹھی فی الملک بمال پر بولا جاتا ہے۔ یعنی مال کے عوض کسی چیز کو ملک سے نکالنے پر بھی بولا جاتا ہے اور مال کے عوض کسی چیز کو ملک کے اندر داخل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ لفظ بیع کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے معنی بھی آتے ہیں۔ حدیث: ((اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم)) میں معنی اول (بیچنا) ہی مراد ہیں اور حدیث: ((لابیع احدکم علی بیع اخیه)) میں معنی ثانی (خریدنا) مراد ہیں۔ یعنی تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کے خریدنے کی صورت میں نہ خریدے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کوئی چیز خریدنے کے ارادہ سے بھاؤ کرتا ہے تو تم اس کو خریدنے کے ارادہ سے درمیان میں مت گھسو۔

فخر الاسلام کا بیان ہے کہ اصطلاح شریعت میں ”آپس کی رضامندی سے مال کے ساتھ مال بدلنا“ بیع کہلاتا ہے۔

بیع کی شریعت: بیع یعنی خرید و فروخت کا شرعی ہونا، قرآن کریم کی اس آیت: ﴿وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ۲۷۵] (اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے) اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث (جو آگے آئیں گی) سے ثابت ہے۔

شریعت کی اصطلاح میں ”بیع“ مبادلتہ المال بالمال بالتراضی بطریق التجارة کو کہتے ہیں یعنی باہمی رضامندی سے تجارت کے طریقہ پر مال کو مال کے بدلے میں لینا۔ مبادلتہ المال بالمال کی قید سے اجارہ اور نکاح خارج ہو گئے کیونکہ اجارہ میں مبادلتہ المال بالمنافع ہوتا ہے اور نکاح میں مبادلتہ المال بالنفع ہوتا ہے اور بالتراضی کی قید سے مکرہ کی بیع خارج ہو گئی ہے کیونکہ مقصود بیع نافذ کو بیان کرنا ہے اور مبادلہ بلا تراضی بیع شرعی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ۲۹] بطریق التجارة کی قید سے بہہ بشرط العوض خارج ہو گیا ہے کیونکہ بہہ بشرط العوض میں بھی مبادلتہ المال بالمال ہوتا ہے۔ مگر بطریق التجارة نہیں ہوتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ تعریف میں

ثابت ہے قرآن مثلاً جیسا کہ ابھی بیان کیا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ۲۹] اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ باہمی رضامندی سے بیع شراہ جائز اور مشروع ہے۔ دوسری آیت ﴿وَاحْتَلَّ اللَّهُ بِبَيْعِهِ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ۲۷۵] حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو اور حرام کیا ہے سود کو یہ آیت بھی جواز بیع پر دلالت کرتی ہے۔

بیع کی قسمیں: بیع یعنی خرید و فروخت میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اول تو عقد بیع یعنی نفس معاملہ کہ ایک شخص کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور دوسرا اسے خریدتا ہے، دوم بیع یعنی وہ چیز جس کو فروخت کیا جاتا ہے اور سوم ثمن یعنی قیمت۔ ان تینوں کے اعتبار سے فقہی طور پر بیع کی کچھ قسمیں ہیں: چنانچہ نفس معاملہ اور اس کے حکم کہ بیع صحیح ہوئی یا نہیں، کے اعتبار سے بیع کی چار قسمیں ہیں (۱) نافذ (۲) موقوف (۳) فاسد (۴) باطل۔ بیع نافذ اس بیع کو کہتے ہیں کہ طرفین میں مال ہو (یعنی بیچنے والے کے پاس بیع ہو اور خریدار کے پاس ثمن ہو) اور عاقدین یعنی بیچنے والا اور خریدار دونوں عاقل ہوں، نیز وہ دونوں بیع یا تو اصلتہ کریں یا وکالتہ اور دلالتہ جس بیع میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی وہ بیع بالکل صحیح اور نافذ ہوگی۔ بیع موقوف اس بیع کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز کو اس کی اجازت یا ولایت کے بغیر فروخت کرے۔ اس بیع کا حکم یہ ہے کہ جب تک کہ اصل مالک کی اجازت و رضامندی حاصل نہ ہو جائے یہ بیع صحیح نہیں ہوتی۔ اجازت کے بعد صحیح ہو جاتی ہے۔ بیع فاسد وہ بیع ہے جو باصلہ یعنی معاملہ کے اعتبار سے تو درست ہو مگر بوصفہ یعنی کسی خاص وجہ کی بناء پر درست نہ ہو۔ بیع باطل اس بیع کو کہتے ہیں جو نہ تو باصلہ درست ہو اور نہ بوصفہ۔ بیع فاسد اور بیع باطل کی تفصیل ان شاء اللہ ”باب المنہی عنہا من البيوع“ میں ذکر کی جائیں گی۔

بیع یعنی خرید و فروخت کی جانے والی چیز کے اعتبار سے بھی بیع کی چار قسمیں ہیں (۱) مقاضہ (۲) صرف (۳) سلم (۴) بیع مطلق۔ بیع مقاضہ یہ ہے کہ بیع بھی مال اور ثمن بھی مال ہو مثلاً ایک شخص کپڑا دے اور دوسرا شخص اس کے بدلے میں اس کو غلہ دے۔ گویا بیع کی یہ وہ صورت ہے جسے عرف عام میں ”تبادلہ مال“ کہا جاتا ہے۔ بیع صرف یہ ہے کہ نقد کا تبادلہ نقد سے کیا جائے مثلاً ایک شخص ایک روپیہ کا نوٹ دے اور دوسرا شخص اس کے بدلے میں ایک روپیہ کے پیسے دے یا ایک شخص اشرفی دے اور دوسرا شخص اس کے بدلے میں اسے روپے دے گویا روپیہ بھنانا یا روپیہ کی ریزگاری لینا دینا بیع صرف کی ایک قسم ہے۔ بیع سلم یہ ہے کہ بیچنے والا خریدار سے کسی چیز کی قیمت پیشگی لے لے اور یہ طے ہو جائے کہ خریدار یہ چیز اتنی مدت مثلاً ایک دو مہینے کے بعد لے لے گا۔ بیع مطلق یہ ہے کہ کسی چیز کی بیع نقد کے عوض کی جائے مثلاً بیچنے والا ایک من گہنوں دے اور خریدار اس کی قیمت کے طور پر تیس روپے ادا کرے۔

ثمن یعنی قیمت کے اعتبار سے بیع کی چار قسمیں یہ ہیں: (۱) مراہت (۲) تولیت (۳) ودیعت (۴) مساومت۔ مراہت کی یہ صورت ہے کہ بیچنے والا بیع کو اپنے خریدار سے نفع لے کر فروخت کرے۔ تولیت کی یہ صورت ہے کہ بیچنے والا بیع کو بلا نفع کے اس قیمت پر فروخت کرے جس قیمت میں اس نے خود خریدی ہو۔ ودیعت کی صورت یہ ہے کہ بیچنے والا بیع کو اس قیمت سے بھی کم میں فروخت کرے جتنی قیمت میں اس نے خود خریدی ہو اور مساومت کی صورت یہ ہے کہ بیچنے والا اور خریدار آپس کی رضامندی سے کسی چیز کی خرید و فروخت چاہے جس قیمت پر کریں اور اس میں بیچنے والے کی قیمت خرید کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ یہاں ہم ان کی کچھ مزید تفصیل بیان کئے دیتے ہیں۔

جواز بیع کی شرائط:

جواز بیع کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں: (۱) عاقد کا عاقل ہونا، (۲) بیع کا مال متقوم اور مقدر تسلیم ہونا۔ بیع کارکن ایجاب اور قبول ہے۔ ایجاب وہ کلام ہے جو پہلے بولا جائے خواہ بائع کی طرف سے ہو یا مشتری کی طرف سے ہو اور اس کے متعلق دوسرے کلام کو قبول کہتے ہیں۔

بیع کی ذات کے اعتبار سے اقسام:

بیع کی اس کی ذات کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں: (۱) بیع نافذ (۲) بیع موقوف (۳) بیع فاسد (۴) بیع باطل۔ ان چاروں کے احکام ان کے موقع پر ذکر کیے جائیں گے۔

بیع کی بیع کے اعتبار سے اقسام:

اور بیع کے اعتبار سے بھی بیع کی چار قسمیں ہیں: (۱) بیع مطلق یعنی بیع العین بالثمن (۲) بیع مقایضہ یعنی بیع العین بالعین (۳) بیع صرف یعنی بیع الثمن بالثمن (۴) بیع سلم یعنی بیع الدین بالعین۔

بیع کی ثمن کے اعتبار سے اقسام:

اور ثمن کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں: (۱) بیع مرا بھ یعنی ثمن اول سے زائد کے عوض بیچنا (۲) بیع تولیہ یعنی ثمن اول کے عوض بیچنا (۳) بیع وضعیہ یعنی ثمن اول سے کم کے عوض بیچنا (۴) بیع مساومہ یعنی اس ثمن کے عوض بیچنا جس پر ناقدین اتفاق کر لیں۔

۶۹: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ كَيْسِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلْفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أُوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالنَّمْرِ وَالزَّبِيبِ زَادَ ابْنُ كَيْسِرٍ إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ ثُمَّ اتَّفَقَا وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مُؤَيْبٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

۶۹: حفص بن عمر شعبہ (دوسری سند) ابن کثیر شعبہ محمد عبد اللہ بن مجالد نے روایت کیا ہے کہ ان سے اسی طرح روایت ہے کہ عبد اللہ بن شداد اور ابو بردہ نے باہمی طور پر سلف کے سلسلے میں اختلاف کیا۔ یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لئے ابن ابی اوفی کے پاس مجھے بھیجا میں نے ان سے مسئلہ معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بے شک عہد نبوی اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں گئے ہوں جو کھجور اور انگور خریدنے میں سلف کرتے تھے ابن کثیر نے یہ اضافہ کیا کہ ان لوگوں سے بیع سلف کرتے تھے کہ جن کے پاس یہ پھل موجود نہ ہوتے پھر دونوں کی روایت ایک جیسی ہے ابن ابی مؤیب نے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا جس طرح ابن ابی اوفی نے بیان کیا۔

۷۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ بِهَذَا

۷۰: محمد بن بشار یحییٰ ابن مہدی ابن مجالد یا حضرت ابن مجالد سے اسی طرح روایت ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ بیع سلم کرتے کہ جن کے پاس یہ مال موجود نہ ہوتا امام ابوداؤد نے

فرمایا ابن ابی مجالد درست ہیں اور اس میں شعبہ سے غلطی صادر ہوئی۔

۷۱: محمد بن مصفیٰ ابوالمغیرہ عبد الملک ابو اسحق، حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ شام کے جہاد کا سفر کیا۔ وہاں ہمارے پاس ملک شام کے کاشت کرنے والے لوگ آتے تھے اور ہم لوگ ان سے تیل اور گہوں میں سلف کیا کرتے تھے یعنی پہلے ہی قیمت ادا کرتے تھے۔ ان اشیاء کا نرخ (قیمت) ادا کرتے تھے ان کا بھاؤ اور مدت متعین کر کے۔ ان لوگوں سے کسی نے دریافت کیا کہ تم لوگ ان لوگوں سے بیع سلم کرتے رہو گے جن کے پاس مال موجود ہوتا ہوگا انہوں نے جواب دیا ہم ان سے یہ بات نہیں پوچھا کرتے تھے (کہ تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں یا نہیں)

باب: مخصوص درخت کے پھل میں بیع سلم کرنا صحیح

نہیں ہے

۷۲: محمد بن کثیر سفیان ابو اسحق، نجرانی شخص ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک خاص درخت کے پھل پر سلم کا معاملہ کیا اس سال درخت میں پھل نہ آیا تو دونوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اپنا جھگڑا پیش کیا۔ آپ نے فروخت کرنے والے سے فرمایا تم کس شے کے عوض اس شخص کا مال لیتے ہو؟ تم اس کا مال واپس کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا کھجور کے درخت کے پھل میں سلم کا معاملہ نہ کیا کرو جب تک کہ پھل پک نہ جائے۔

باب: بیع سلم میں جس چیز کی بیع متعین ہوئی اس کو

بدلنے کی ممانعت

۷۳: محمد بن عیسیٰ ابو بدر زیاد بن خثیمہ سعد عطیہ بن سعد حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص پیشگی قیمت ادا کر کے کوئی شے خریدے تو وہ شے کسی اور شے سے تبدیل نہ کرے (یعنی مثال کے طور پر اگر گندم کے سلسلہ میں بیع سلم طے ہو گئی ہے تو وہ گندم ہی رہے گی کسی اور چیز میں تبدیل نہیں کی جاسکتی)

الْحَدِيثِ قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الصَّوَابُ ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ۔

۷۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَةَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَسَلَفُوهُمْ فِي الْبَرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا فَقِيلَ لَهُ مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ۔

باب فِي السَّلْمِ فِي ثَمَرَةٍ

بَعِيْنَهَا

۷۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ نَجْرَانِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرَجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاتَّخَصَّصَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْذُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لَا تَسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ۔

بَابُ السَّلْفِ

لَا يَحْوَلُ

۷۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْفَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الطَّائِبِيِّ عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ۔

بَابُ فِي وَضْعِ

باب: اگر کھیت وغیرہ پر کسی قسم کی آفت آجائے تو

خریدار کو نقصان وضع کرنا چاہئے۔

الْبَاجِنَةِ

۷۴: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ خَدْرِيِّ مَرُوِيٍّ هُوَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ أَصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ۔

۷۵: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهَرِّيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ الْمَعْنَى أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمُكِّيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ بَعْتَ مِنْ أَحِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَانِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذَ مَالِ أَحِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ۔

۷۴: قتیبہ بن سعید لیث، بکیر عیاض بن عبد اللہ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ عہد نبوی میں ایک شخص نے پھل خریدے پھر اس پھل پر کوئی آفت نازل ہوگئی اور اس شخص پر کافی قرض ہو گیا تو آپ نے لوگوں کو اس شخص کو صدقہ دینے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے اسے صدقہ دیا۔ وہ صدقہ کا مال بھی اس شخص کے قرض ادا کرنے کے لئے ناکافی رہا تو نبی نے اسکے قرض خواہوں سے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اس شخص کے پاس سے جو کچھ ملے وہی وصول کر لو اور اسکے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا۔

۷۵: سلیمان بن داؤد احمد بن سعید ابن وہب ابن جریج (دوسری سند) محمد بن معمر ابو عاصم ابن جریج ابو زبیر مکی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو پھل فروخت کرو پھر اس پھل پر کوئی آفت آجائے تو تمہارے لئے خریدنے والے شخص سے کچھ وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے بھائی کا مال ناجائز طور پر کس طرح لوگے؟

باب: آفت کی تشریح

بَابُ فِي تَفْسِيرِ الْبَاجِنَةِ

۷۶: سليمان بن داؤد ابن وهب، عثمان بن حكيم، ابن جریج، عطاء سے مروی ہے کہ آفت سے مراد وہ ہے جو کھلی ہوئی تباہی ہے جیسے بارش سردی، نڈیوں کا آنا، آندھی کا چلنا یا کھیتی میں آگ لگ جانا۔

۷۶: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهَرِّيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْبَاجِنَةُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيْقٍ۔

۷۷: سليمان بن داؤد ابن وهب، عثمان بن حكيم، يحيى بن سعید سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر تہائی حصہ سے کم مال پر آفت آجائے تو اسکو آفت نہیں کہا جائے گا۔ یحییٰ نے کہا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ (یعنی مسلمانوں کا رواج ہے اگر تہائی سے کم درجہ کا نقصان ہو تو خریدار کیلئے

۷۷: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَاجِنَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ يَحْيَى وَذَلِكَ فِي سَنَةِ

نقصان وضع نہیں کرتے۔

المُسْلِمِينَ۔

باب: پانی کے روکنے کی ممانعت کا بیان

بَاب فِي مَنَعِ الْمَاءِ

۷۸: عثمان بن ابی شیبہ جریز، عمش، ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صرف گھاس کی حفاظت کے لئے فاضل پانی نہ روکا جائے۔

۷۸: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلْبُ۔

قدیم عرب کا ایک دستور:

اس حدیث میں اہل عرب کے ایک دستور کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے۔ وہ دستور یہ تھا کہ وہ لوگ کنوؤں سے پانی بھر کر کھو حوض یا گڑھے میں جمع کرتے اور اپنی سواری وغیرہ کے جانوروں کو وہ پانی پلاتے دوسرے لوگوں کے جانور کو بھی پانی پلانے کا موقع دیتے مگر بعض لوگوں نے اس بچے ہوئے پانی سے منع کرنا شروع کر دیا تا کہ ان کی گھاس خراب نہ ہو۔ اس حدیث میں لوگوں کو اس کنجوسی سے منع فرمایا گیا ہے۔

۷۹: ابوبکر بن ابی شیبہ، کعب، عمش، ابوصالح، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تین اشخاص سے گفتگو نہیں فرمائیگا ایک تو وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے فاضل پانی موجود ہو اور وہ شخص کسی مسافر کو اس پانی سے روک دے دوسرے وہ شخص جو عصر کے بعد اپنا سامان فروخت کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھائے۔ تیسرا وہ شخص جس نے امام سے بیعت کی پھر اگر امام نے اسکو دنیاوی مال سے نوازیہ تو اس نے امام سے اپنا معاہدہ پورا کر لیا اور اگر امام نے ان کو کچھ نہیں دیا تو اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا (یعنی اس نے دنیا داری کیلئے بیعت کی)۔

۷۹: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سَلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِي كَاذِبًا وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ۔

۸۰: عثمان بن ابی شیبہ جریز، عمش سے اسی طرح روایت ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (ان تینوں شخصوں سے گفتگو نہ فرمائیں گے) اور نہ ان لوگوں کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے اور ان لوگوں کو تکلیف دہ عذاب ہوگا اور سامان پر قسم کھانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم فلاں شخص اس چیز کو اتنے روپے میں خرید رہا تھا یہ بات سن کر خریدنے والا شخص فروخت کرنے والے کی بات صحیح سمجھے اور وہ سامان خرید لے۔

۸۰: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ فِي السَّلْعَةِ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فَأَخَذَهَا۔

۸۱: عبید اللہ بن معاذ، انکے والد، کھمس، سیار بن منظور قبیلہ بنی فزارہ کا ایک شخص، انکے والد ایک عورت جس کا نام بھیسہ تھا اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ میرے والد نے نبی سے اجازت طلب کی پھر آپ

۸۱: حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فِزَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةَ عَنْ

کا مبارک کرتا اٹھا کر اندر منہ ڈال دیا اور چومنے اور لپٹنے لگا پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ! وہ کونسی شے ہے جس سے منع کرنا جائز نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: پانی۔ پھر اس شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی! وہ کونسی چیز ہے جس کو روک لینا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا: نمک پھر اُس نے دریافت کیا اے اللہ کے نبی! وہ کون سی چیز ہے جس کو روک لینا جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا تم جس قدر نیک کام کرو اسی قدر بہتر ہے۔

۸۲: علی بن جعد اللؤلؤی، جریر بن عثمان، حبان بن زید قبیلہ قرن کا ایک شخص (دوسری سند) مسدد عیسیٰ بن یونس، جریر بن عثمان، ابو خدش، مہاجرین میں سے ایک صاحب سے مروی ہے کہ میں نے تین مرتبہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہ کر جہاد کیا میں نے سنا آپ فرماتے تھے مسلمان تین اشیاء یعنی گھاس پانی اور آگ میں شریک ہیں۔

أَيُّهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يَقْبَلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرَ لَكَ۔

۸۲: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّوْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبَانَ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرْنِ حٍ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيرُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءَ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ۔

باب: بچے ہوئے پانی کا فروخت کرنا

۸۳: عبد اللہ بن محمد داؤد بن عبد الرحمن العطار، عمرو بن دینار، ابو المنہال، حضرت ایاس بن عبد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے فروخت کرنے سے منع فرمایا جو ضرورت سے فاضل ہو۔

باب فی بیع فضل الماء

۸۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِيِّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ۔

پانی کی بیع:

مذکورہ حدیث میں جو پانی فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اس کا تعلق پینے کے پانی سے ہے البتہ کاشت کاری کرنے کے لئے پانی فروخت کرنا جائز ہے۔

باب: بلی کو فروخت کرنا

۸۴: ابراہیم بن موسیٰ، ربیع بن نافع، علی بن بحر، عیسیٰ، عمش، ابوسفیان، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کتے اور بلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔

باب فی ثمن السنور

۸۴: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عَنْ

الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّتْوَرِ-

۸۵: احمد بن حنبل، عبدالرزاق، عمرو بن زید صنعانی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو زبیر سے روایت کی انہوں نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نبی کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔

۸۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدِ الصَّنَعَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهَرَمِ-

باب: کتوں کی قیمت لینے کا بیان

باب فی اَثْمَانِ الْكِلَابِ

۸۶: قتیبہ بن سعید سفیان، زہری، ابوبکر، حضرت ابومسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کتے کی قیمت لینے اور زانیہ کی اجرت لینے سے اور کاہن یعنی فال نکالنے والے شخص کی آمدنی سے منع فرمایا۔

۸۶: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَيْعِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ-

تین حرام امور:

کتے کی قیمت کا لینا دینا حرام ہے اور اس سلسلہ میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو کتا شکار یا حفاظت وغیرہ کے لئے پرورش کیا جائے یا اس میں دیگر منفعت ہو تو اس کی قیمت لینے کی گنجائش ہے اور اس کے ضائع کرنے والے پر قیمت واجب ہوگی البتہ دیگر ائمہ کے نزدیک ہر قسم کے کتے کی قیمت لینا دینا حرام ہے۔ والجمہور علیٰ انہ لا یصح بیعہ وان لا قیمۃ علی متلفہ سواء کان معلماً اولاً واجاز ابوحنیفۃ بیع الکلب الذی فیہ منفعة وواجب القیمۃ علی متلفہ الخ (بذل المحمود ص ۲۸۲، ج ۴) اور زانیہ کی اجرت بہر حال حرام ہے اور کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ غیب کی خبریں بتلائے اور پیشینگوئی کرے کہ اس شخص کا ایسا حال ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ بہر حال یہ سب حرام امور ہیں ان سب سے بچنے کا حکم ہے۔

۸۷: ربیع بن نافع، عبید اللہ بن عمر، عبدالکریم، قیس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا جو شخص کتے کی قیمت لینے آئے تو اس کی مٹھی میں خاک بھر دو۔ (یعنی کتے کی قیمت نہ دو)

۸۷: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكُرَيْمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَاثْمَلًا كَفَّهُ تَرَابًا-

۸۸: ابوالولید، شعبہ، حضرت عون بن ابی حنیفہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔

۸۸: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَحْبَرَنِي عَوْنُ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ-

۸۹: احمد بن صالح، ابن وہب، معروف بن سوبید، علی بن رباح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

۸۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُؤَيْدِ الْجُدَامِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ

نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قیمت، قال نکالنے والے شخص کی آمدنی اور زانیہ کی اجرت جائز نہیں۔

رَبَّاحِ اللَّخْمِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا
حُلُوانِ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَيْعِيِّ.

باب: شراب اور مردار کی قیمت لینے کا بیان

۹۰: احمد بن صالح، عبد اللہ بن وہب، معاویہ، عبد الوہاب، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت، مردار اور اس کی قیمت اور خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام قرار دیا ہے۔

باب فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

۹۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُوَيْحٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.

۹۱: تميم بن سعيد، يزيد بن ابی حبيب، عطاء بن ابی رباح، جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی سے فتح مکہ کے سال سنا جبکہ آپ مکہ میں تھے آپ فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت حرام قرار دی تو کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو علم ہے کہ مردار کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس سے کشتی کو پینٹ کیا جاتا ہے اور اس سے کھال کو تیل لگایا جاتا ہے اور اس سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ تو بہر حال حرام ہے پھر اسی وقت آپ نے ارشاد فرمایا اللہ یہودیوں پر لعنت فرمائے کہ اُس نے ان لوگوں پر جانور کی چربی حرام کی تو انہوں نے اس چربی کو پکھلا کر فروخت کیا اور اسکی قیمت کھائی (استعمال کی)۔

۹۱: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

۹۲: محمد بن بشار، ابو عاصم، عبد الحمید، يزيد بن ابی حبيب، عطاء اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طریقہ پر روایت ہے لیکن اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے فرمایا: نہیں وہ تو حرام ہے (بقیہ روایت وہی ہے جو کہ اوپر مذکور ہے)

۹۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ هُوَ حَرَامٌ.

۹۳: مسدد، بشر، خالد، خالد، حذاء، برکہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن (حجر اسود یا رکن شامی وغیرہ) کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر آپ نے آسمان کی جانب دیکھا اور تین مرتبہ ہنستے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں

۹۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ بَشَرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

پر لعنت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جانور کی چربی حرام قرار دی تو انہوں نے اس چربی کو فروخت کر کے اس کی قیمت وصول کر کے استعمال کی اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام قرار دیتے ہیں تو اس کی قیمت بھی ان لوگوں پر حرام کرتے ہیں۔ خالد بن عبد اللہ کی حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ میں نے کعبہ شریف کے رکن کے قریب آپ کو دیکھا اور اس روایت میں اس طرح ہے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بر باد کر دے۔

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ لَمَنَّهُ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانِ رَأَيْتُ وَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ۔

۹۴: عثمان بن ابی شیبہ ابن ادریس وکیع، طعمہ، عمر بن بیان، عمرو بن مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ نبیؐ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے شراب فروخت کی تو اسے چاہئے کہ وہ خنزیر (کے گوشت) کے ٹکڑے کرنا بھی شروع کر دے۔ (یعنی جب اسکی خرید و فروخت شروع کر دی ہے تو پھر اسکو ذبح کرنا اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنا ہی باقی بچ گیا ہے وہ بھی شروع کر دے۔ کیونکہ حرام ہونے میں دونوں کا حکم ایک ہی ہے)۔

۹۴: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَوَكَيْعٌ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ بِيَانِ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيَشْقِصْ الْخَنَازِيرَ۔

۹۵: مسلم بن ابراہیم، شعبہ، سلیمان، ابو الضحیٰ، مسروق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے جب سورہ بقرہ کی آخری آیات کریمہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات کریمہ ہمیں پڑھ کر سنائیں اور ارشاد فرمایا شراب کی تجارت حرام ہوگئی ہے۔

۹۵: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا وَقَالَ حَرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ۔

حرمت شراب کی آیت کریمہ:

سورہ بقرہ میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ﴾ البقرة: ۲۱۹ | یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجئے شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیجئے ان میں شدید گناہ اور لوگوں کے لئے نفع ہے اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔

۹۶: عثمان بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، حضرت اعمش سے اسی طرح روایت ہے البتہ اس روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ سود کی حرمت میں آخری آیات نازل ہوئیں۔

۹۶: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا۔

باب: غلہ پر قبضہ سے قبل اس کو فروخت کرنے کا بیان
۹۷: عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت

بَابُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفَى
۹۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ

نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه۔
ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص کھانے کی چیز خریدے تو اس کو فروخت نہ کرے جب تک کہ اس کو وزن کر کے اپنی تحویل میں نہ لے لے۔

نقد خریدنے والے کو غلہ کا قبضہ دینا ضروری ہے:

۹۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنْتَاعُ الطَّعَامِ فَيَبْعُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلِ أَنْ يَبْعَهُ يَعْنِي جُزْأً۔
۹۸: عبد اللہ بن مسلمہ مالک نافع حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے دور میں ہم لوگ غلہ خریدتے تھے تو آپ ہمارے پاس ایک شخص کو بھیجتے جو ہمیں حکم دیتا تھا کہ اس جگہ سے غلہ اٹھا کر لے جاؤ جہاں اس کی خریداری کی ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس غلہ کو فروخت کریں تو لے کر یا وزن کر کے۔

۹۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتْبَعُونَ الطَّعَامَ جُزْأً بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ۔
۹۹: احمد بن حنبل یحیی عبید اللہ اخبرنی نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبعون الطعام جزأً بأعلى السوق فنهى رسول الله ﷺ أن يبعوه حتى ينقلوه۔
۱۰۰: احمد بن صالح ابن وهب عمرو منذر عبید قاسم بن محمد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص غلہ فروخت نہ کرے جس کو اس نے ناپ یا تول پر خریدا ہے جب تک اس غلہ کو اپنی تحویل میں نہ لے لے۔

۱۰۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدِ الْمَدِينِيِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبْعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ۔
۱۰۰: احمد بن صالح ابن وهب عمرو عن المنذر بن عبید المدینئی ان القاسم بن محمد حدثه ان عبد الله بن عمر حدثه ان رسول الله ﷺ نهى أن يبع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه۔

۱۰۱: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ زَادَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتْبَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامَ مُرْجِي۔
۱۰۱: ابو بکر و عثمان ابن ابی شیبہ و کعب سفیان ابن طاؤس ابی شیبہ قالا حدثنا وکعب عن سفیان عن ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لِمَ قال ألا ترى أنهم يتبعون بالذهب والطعام مرجي۔

۱۰۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
۱۰۲: مسدد سلیمان بن حارب قالا حدثنا حماد و حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة۔
۱۰۱: ابو بکر و عثمان ابن ابی شیبہ و کعب سفیان ابن طاؤس ابی شیبہ قالا حدثنا وکعب عن سفیان عن ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لِمَ قال ألا تَرَى أَنَّهُمْ يَتْبَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامَ مُرْجِي۔
۱۰۲: مسدد سلیمان بن حارب قالا حدثنا حماد و حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة۔
۱۰۱: ابو بکر و عثمان ابن ابی شیبہ و کعب سفیان ابن طاؤس ابی شیبہ قالا حدثنا وکعب عن سفیان عن ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لِمَ قال ألا تَرَى أَنَّهُمْ يَتْبَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامَ مُرْجِي۔
۱۰۲: مسدد سلیمان بن حارب قالا حدثنا حماد و حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة۔

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص غلہ خریدے تو جب تک اس کو اپنے قبضہ میں نہ لائے کسی کے ہاتھ فروخت نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میرے نزدیک ہر ایک چیز کا یہی حکم ہے (یعنی جو چیز کوئی شخص خریدے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کرے اسے دوسرے کے ہاتھ فروخت نہ کرے)

۱۰۳: حسن بن علی، عبدالرزاق، معمر زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے دور نبوی میں لوگوں کو مارا کھاتے دیکھا ہے کہ جو غلہ کے انبار خریدتے پھر اس کو اپنے گھر پر لے جانے سے قبل فروخت کر ڈالتے (مراد یہ ہے کہ وہ لوگ غلہ کو اپنے قبضہ میں لینے سے قبل ہی فروخت کر ڈالتے اس سے منع فرمایا گیا)

۱۰۴: محمد بن عوف، احمد، محمد بن اسحاق، ابوالرناد، عبید، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے بازار میں تیل خریدی اور جب اس معاملہ کو میں نے مکمل کر لیا تو مجھے ایک شخص ملا جو اس میں بہت زیادہ نفع دینے لگا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کے ساتھ معاملہ طے کر لوں یعنی خریدار کو تیل دے دوں۔ اسی وقت ایک شخص نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما تھے۔ انہوں نے کہا جب تک تم اس غلہ کو خریدنے کی جگہ سے اپنے ٹھکانہ پر نہ لے جاؤ اس غلہ کو فروخت نہ کرو کیونکہ آنحضرت ﷺ نے نہایت فرمائی ہے کہ جہاں کوئی چیز خریدی جائے وہاں پر فروخت نہ ہو جب تک کہ تاجر اسے اپنے ٹھکانے پر نہ لے جائے۔

باب: کوئی شے فروخت کرتے وقت کوئی یہ کہہ دے

اس چیز میں دھوکا نہیں ہے تو اسکا کیا حکم ہے؟

۱۰۵: عبداللہ بن مسلمہ، مالک، عبداللہ بن دینار، ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے خدمت نبوی میں تذکرہ کیا لوگ اس کو خرید و فروخت میں دھوکا دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا جب کوئی چیز خریدار کو تو یہ بات کہہ دیا کرو کہ اس چیز میں دھوکا نہیں چلے گا۔ تو وہ شخص جب بھی کوئی چیز خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تو کہتا دھوکا نہیں چلے گا۔

وَهَذَا لَفْظٌ مُسَدَّدٌ عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ۔

۱۰۳: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا الطَّعَامَ جُزْأً أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ إِلَى رَحْلِهِ۔

۱۰۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوُهَيْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَمَعْتُ فَإِذَا زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحْوِزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعُ حَيْثُ تَبِيعَ حَتَّى يَحْوِزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ۔

باب فی الرجلِ یقولُ فی البیعِ

لَا خِلَابَةَ

۱۰۵: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ۔

ایک حکم:

مراد یہ ہے کہ اگر فروخت ہو جانے کے بعد اس شے میں کوئی جعل سازی اور دھوکہ محسوس ہوتا وہ اس معاملہ کو فسخ کر دیتا۔

۱۰۶: محمد بن عبد اللہ ابراہیم عبد الوہاب سعید قتادہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ دو ربوہی میں ایک شخص خرید و فروخت کرتا تھا اس شخص کے دماغ میں خلل تھا تو اس کے رشتہ دار نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس شخص پر پابندی لگا دیجئے تاکہ اس شخص کا کوئی لین دین درست نہ ہو (مراد یہ ہے کہ لوگوں کو مطلع فرما دیجئے اس شخص سے کوئی شخص لین دین نہ کرے) کیونکہ وہ شخص کاروبار کرتا ہے اور اس کے دماغ میں خلل ہے۔ آپ نے یہ بات سن کر اس شخص کو بلوایا اور اسے خرید و فروخت کی ممانعت فرمائی۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں خرید و فروخت کے بغیر نہیں رہ سکتا اس پر نبی نے فرمایا اگر تم خرید و فروخت نہ چھوڑ سکو تو بیع کرتے وقت یہ کہہ دیا کرو کہ باخبر رہو اس معاملہ میں کمزور فریب نہیں چلے گا۔

باب: بیع عربان

۱۰۷: عبد اللہ بن مسلمہ مالک بن انس حضرت عمرو بن شعیب انکے والد انکے دادا سے مروی ہے کہ نبی نے بیع عربان سے منع فرمایا۔ امام مالک نے فرمایا ہمارے نزدیک بیع عربان کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک غلام یا باندی خرید لے یا کرائے پر جانور لے لے پھر فروخت کرنے والے شخص یا جانور والے شخص سے کہہ دے کہ میں تم کو اس شرط پر ایک دینار دے رہا ہوں کہ اگر میں اس غلام یا باندی کو خرید لوں گا تو وہ دینار اس کی قیمت میں سے سمجھ لینا یا میں جانور پر سواری کروں گا تو کرائے میں وضع کر لینا ورنہ اگر میں غلام یا باندی تمہیں واپس کر دوں یا میں جانور پر سوار نہ ہوں تو وہ دینار مفت میں تمہارا ہو جائیگا میں واپس نہیں لوں گا (دیا ہوا دینار یا قیمت خرید یا کرائے میں وضع تو ہو سکتی ہے مگر سودانہ ہونے پر وہ مفت میں ہی فروخت کنندہ کا مال نہیں ہو سکتے)۔

باب: اپنے پاس جو شے موجود نہ ہو اس کو فروخت کرنا

درست نہیں

۱۰۸: مسدد ابو عوانہ ابو بشر یوسف بن مابک حضرت حکیم بن حزام سے

۱۰۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَزِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو نُورٍ الْكَلْبِيُّ الْمَعْنِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مُحَمَّدُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَّاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَاتَى أَهْلَهُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيَّ فَلَانَ فَإِنَّهُ يَتَّاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاكَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَهَاكَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لَا أَضْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعِ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ قَالَ أَبُو نُورٍ عَنْ سَعِيدٍ۔

باب فی العربان

۱۰۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَّغَهُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرَبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَّكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيكَ لَكَ۔

باب فی الرجلِ یبیعُ ما لیسَ

عندهُ

۱۰۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ

مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور وہ مجھ سے ایسی چیز خریدتا ہے جو میرے پاس موجود نہیں تو اگر اس شخص کو بازار سے وہ چیز خرید کر لا دوں (تو کیسا ہے) آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس جو شے موجود نہیں اس کو فروخت نہ کرو۔

۱۰۹: زہیر بن حرب، اسماعیل، ایوب، حضرت عمرو بن شعیب، ان کے والد، ان کے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ادھار اور بیع جائز نہیں اور نہ ایک بیع میں دو شرطیں لگانا اور نہ اس شے کا نفع جس میں کہ اپنی ذمہ داری نہ لی جائے اور نہ اس شے کو فروخت کرو جو تمہارے پاس موجود نہ ہو۔

عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَاتَبِعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

۱۰۹: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

بیع میں شرط لگانا:

مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی شے فروخت کرنا اور اس سے یہ شرط مقرر کرنا کہ تم مجھ کو اس قدر رقم وغیرہ قرضہ دینا۔ اس قسم کی شرط لگانا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ((نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط)) یعنی آپ نے بیع اور شرط لگانے سے منع فرمایا۔ مندرجہ بالا حدیث نمبر ۱۰۹ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو قرضہ دے اور اس کو اپنی کوئی شے مہنگی فروخت کرے اور بیع میں ایک شرط لگائی جائے یا ایک سے زائد مہر حال بیع میں شرط لگانا درست نہیں ہے بیع میں دو شرط کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص (یعنی بائع) خریدار سے کہے کہ میں نے یہ کپڑا تم کو اس شرط پر فروخت کیا کہ میں یہ کپڑا ادھلوا کر بھی دوں گا اور سلائی کر کر بھی۔

باب: بیع میں شرط لگانا

۱۱۰: مسدّد یحییٰ، زکریا، عامر، جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کو اپنا اونٹ فروخت کیا اور میں نے اس اونٹ پر سوار ہونے اور اپنے مکان تک وزن لا دینے کی شرط لگائی پھر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اخیر میں مجھ سے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارا اونٹ خریدنے میں اس بنا پر تامل کر رہا ہوں کہ میں تمہارا اونٹ لے جاؤں گا۔ جاؤ تم اپنا اونٹ اور اس کی قیمت بھی لے لو۔ یہ دونوں تمہارے لئے ہیں۔

باب فی شرط فی بیع

۱۱۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعْتُهُ يَعْني بَعِيرَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَىٰ أَهْلِي قَالَ فِي آخِرِهِ تُرَائِي إِنَّمَا مَا كَسَبْتَ لِأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَكَمْنَهُ فَهَمَّا لَكَ.

باب: غلام اور باندی خریدنے کا بیان

۱۱۱: مسلم بن ابراہیم، ابان، قتادہ، حسن، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا غلام اور باندی کے

باب فی عہدۃ الرقیق

۱۱۱: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷻ قَالَ عَهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ - (فروخت کرنے والے پر) عہد کی مدت تین دن تک ہے۔

باندی غلام کی واپسی کی صورت:

مراد یہ ہے کہ خریدار اگر چاہے تو عیب نہ ہونے کی صورت میں بھی باندی اور غلام فروخت کرنے والے کو واپس کر سکتا ہے اور تین دن کے بعد واپس کرنا چاہے تو عیب ثابت کر کے واپس کر سکتا ہے۔ یہ حدیث ایک ضعیف حدیث ہے اور یہ حدیث معمول بہا نہیں ہے۔

۱۱۲: ہارون بن عبد اللہ عبد الصمد ہمام قتادہ سے اسی طریقہ سے روایت بیان کی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ اگر غلام اور باندی میں تین دن کے اندر (اندر) عیب ظاہر ہو جائے تو خریدار بغیر شہادت کے لوٹا سکتا ہے اور اگر تین روز کے بعد عیب ظاہر ہو تو خریدار سے گواہ طلب کئے جائیں گے اس بات پر کہ جس وقت اس نے خریدی تھا تو عیب موجود تھا۔ امام ابوداؤد نے فرمایا یہ تشریح قتادہ کا کلام ہے۔

۳۳: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لِيَأْتِيَ رَدَّ بَعِيرٍ بَيِّنَةٍ وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلَاثِ كَلَّفَ الْبَيْتَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ.

باب: ایک شخص نے غلام خرید اور اس کو استعمال کیا،

بَابِ فِيمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ

کام لیا پھر اس میں عیب ظاہر ہوا

ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا

۱۱۳: احمد بن یونس ابن ابی ذئب مغلد عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا خراج کا وہی حقدار ہے جو کہ ضامن ہو۔

۱۱۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَّابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ.

غلام کی محنت کا حقدار:

مراد یہ ہے کہ خریدار اس غلام کا ضامن اور ذمہ دار تھا کیونکہ اگر غلام فوت ہو جاتا یا باندی مرجاتی تو خریدار کا نقصان ہوتا اس لئے غلام کے محنت مزدوری کرنے سے جو معاوضہ حاصل ہوا وہ بھی خریدار ہی لے گا فروخت کرنے والے کو نہ دے گا خواہ غلام یا باندی کو عیب کی بنا پر واپس کیا ہو۔

۱۱۴: محمود بن خالد فریبانی سفیان محمد بن عبد الرحمن مغلد غفاری سے مروی ہے کہ میرے اور بعض افراد کے درمیان ایک غلام مشترک تھا میں نے اس غلام سے (دیگر شریکوں کی منظوری کے بغیر) کام لینا شروع کر دیا اس غلام نے کچھ آمدنی کی۔ جو شریک غائب تھا اس نے مجھ سے اس بارے میں جھگڑا کرنا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ میرا بھی اس میں حصہ ادا کرو اور قاضی کے یہاں اس نے میرے خلاف دعویٰ کر دیا۔ قاضی نے

۱۱۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَّابٍ الْغَفَّارِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنَاسٍ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ فَأَقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَأَعْلَلَ عَلَيَّ غَلَّةً فَخَاصَمَنِي فِي تَصْيِيهِ إِلَى بَعْضِ الْفُقَضَاءِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّةَ فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ

شریک کو حصہ ادا کئے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسکے بعد عروہ بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو عروہ نے ان سے وہ حدیث بیان کی جو حدیث عائشہ سے سنی تھی کہ نبی نے ارشاد فرمایا (غلام ہاندى وغیرہ کے) منافع اس شخص کے ہونگے جو کہ ذمہ دار ہوگا۔

۱۱۵: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الرَّثَجِيِّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهٗ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْلَلَ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَلِكَ

۱۱۵: ابراہیم بن مروان ان کے والد مسلم بن خالد ہشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خرید اپھر اللہ تعالیٰ کو جس قدر منظور تھا وہ غلام اس شخص کے پاس موجود رہا اس کے بعد اس غلام میں عیب ظاہر ہو گیا تو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کر دیا۔ آپ نے وہ غلام فروخت کرنے والے کو واپس کر دیا۔ فروخت کرنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے میرے غلام سے مزدوری کے ذریعہ آمدنی کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فوائد اسی شخص کے ہوں گے جو کہ ذمہ دار ہو۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں اس حدیث کی سند غیر معتبر ہے۔

باب: جس وقت فروخت کرنے والے اور خریدار کے

باب إذا اختلف البيعان

درمیان اختلاف ہو جائے اور بیع موجود ہو

والمبيع قائم

۱۱۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عَمِيْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْحُمْسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ أَلْفٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَخْتَرْتُ رَجُلًا يَكُونُ بَنِي وَبَيْنَكَ قَالَ الْأَشْعَثُ أَنْتَ بَنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا ائْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ

۱۱۶: محمد بن یحییٰ عمر بن حفص ان کے والد ابوعمیس عبد الرحمن بن قیس انکے والد انکے دادا محمد بن اشعث سے مروی ہے کہ انکے والد اشعث نے عبد اللہ بن مسعود سے کچھ غلام تیس ہزار میں خریدے جو کہ ابن مسعود کو پانچویں حصہ میں ملے تھے۔ عبد اللہ بن مسعود نے ان غلاموں کی قیمت کا اشعث سے مطالبہ کر لیا۔ اشعث نے کہا میں نے وہ غلام دس ہزار میں خریدے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کسی شخص کا انتخاب کرو جو کہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ اشعث نے کہا تم ہی میرے اور اپنے درمیان (منصف) ہو جاؤ۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آنحضرت نے سنا آپ فرماتے تھے جب خریدار اور فروخت کرنے والا آپس میں جھگڑنے لگیں اور دونوں کا کوئی گواہ موجود نہ ہو تو جو بات مال والا کہے خریدار وہی مان لے یا دونوں (ملے کر کے) بیع کو فسخ کر لیں۔

۱۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ . ۱۷: عبد اللہ بن محمد ہشیم، ابن ابی لیلیٰ قاسم، حضرت عبد الرحمن اپنے والد سے یہی واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اشعث کو ایک غلام فروخت کیا اور روایت میں کچھ الفاظ میں کمی بیشی ہے۔

باب فِي الشُّفْعَةِ

باب: شفعة کے احکام

۱۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَرِكٍ رُبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَ . ۱۸: احمد بن حنبل، اسماعیل بن ابراہیم، ابن جریر، ابو زبیر، جابر نے ارشاد فرمایا شفعة ہر ایک مشترکہ شے میں ہے۔ مکان ہو یا باغ ہو جب تک اپنے شریک کی اجازت نہ ہو اس کا فروخت کرنا اچھا نہیں اور بلا اجازت جو اس کو فروخت کر دیا گیا تو اس کے وصول کرنے کا وہی شریک زیادہ حقدار ہے جب تک کہ وہ منظوری نہ دے۔

حق شفعة کا مفہوم:

حق شفعة کا مطلب یہ ہے کہ زمین، جائیداد کے فروخت ہونے کے وقت شریک کو جو استحقاق خریداری ہوتا ہے اس حق کو حق شفعة کہا جاتا ہے مثلاً کوئی زکان مکان وغیرہ پانچ شخصوں کے درمیان مشترکہ تھا اب ان میں سے ایک آدمی نے اپنے حصہ کے بقدر کسی غیر شخص کو فروخت کر دیا تو باقی شرکا کو حق شفعة حاصل ہوگا وہ خریدار کو خریدی گئی قیمت ادا کر کے زبردستی وہ حصہ لے سکتے ہیں۔

۱۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسِّمَ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرَفَتْ الطَّرِيقَ فَلَا شُفْعَةَ . ۱۹: احمد بن حنبل، عبد الرزاق، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفعة ہر ایک شے میں ہے جو کہ تقسیم نہیں ہوئی جس وقت کہ حدود مقرر ہو جائیں اور راستے علیحدہ ہو جائیں تو شفعة (باقی) نہیں رہا۔ کیونکہ شرکت باقی نہیں رہی۔

۲۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَسِمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا . ۲۰: محمد بن یحییٰ بن فارس، حسن بن ربیع، ابن ادریس، ابن جریر، ابن شہاب، زہری، ابوسلمہ، سعید بن المسیب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت زمین کی تقسیم ہو کر حد مقرر ہو گئی تو پھر اس (زمین میں) شفعة نہیں رہا۔

۲۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ عُمَرَو بْنَ الشَّرِيدِ سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ
 الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقِيهِ۔
 اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے پڑوسی بہت زیادہ مستحق ہے اپنے نزدیک گھر کا۔

شفعہ پڑوسی کا حق ہے:

مراد یہ ہے کہ پڑوسی کے ہوتے ہوئے وہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے مکان کی خریداری کا زیادہ حقدار ہے اور پڑوسی کے موجود ہونے کی صورت میں غیر شخص نہیں خرید سکتا۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پڑوسی کو حق شفیعہ حاصل ہوتا ہے تفصیل کے لئے فتاویٰ شامی کتاب الشفعہ ملاحظہ فرمائیں۔

۱۲۲: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوْ الْأَرْضِ۔
 ۱۲۲: ابو الولید، شعبہ، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی اپنے پڑوسی کے مکان یا زمین کے (خریدنے اور) لینے کا زیادہ حق دار ہے۔

۱۲۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا۔
 ۱۲۳: احمد بن حنبل، ہشیم، عبد الملک، عطاء، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی کے شفیعہ کا پڑوسی زیادہ مستحق ہے۔ اگر شفیعہ میں پڑوسی موجود نہ ہوگا تو شفیعہ میں پڑوسی کا انتظار کیا جائے گا جب ان دونوں کے مکان کا ایک ہی راستہ ہو۔

خلاصۃ الباب: "شفعہ" مشتق ہے "شفع" سے، جس کے لغوی معنی ہیں "ملانا اور جفت کرنا" شفیعہ اصطلاح فقہ میں اس ہمسائیگی یا شرکت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کسی ہمسایہ یا کسی شریک کو اس کے دوسرے ہمسایہ یا دوسرے شریک کے فروخت ہونے والی زمین یا فروخت ہونے والے مکان کو خریدنے کا ایک مخصوص حق حاصل ہوتا ہے اور یہ حق صرف زمین یا مکان کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جس شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے اسے "شفیع" کہتے ہیں۔ اس حق کا نام "شفیعہ" اس لئے ہے کہ یہ خاص حق فروخت ہونے والی زمین یا مکان کو شفیع کی زمین یا مکان سے ملاتا ہے۔

حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد کے نزدیک حق شفیعہ صرف شریک کو حاصل ہوتا ہے ہمسایہ کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔ جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ حق شفیعہ جس طرح شریک کے لئے ثابت ہے اسی طرح ہمسایہ کے لئے بھی ثابت ہے۔

ایک صحیح روایت کے مطابق حضرت امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں ہمسایہ کے حق شفیعہ کے ثبوت میں احادیث منقول ہیں جو بالکل صحیح درجے کی ہیں ان کی موجودگی میں ہمسایہ کو حق شفیعہ دینے سے انکار ایک بے دلیل بات ہے۔

حنفی مسلک کے مطابق شفیع کے تین درجے ہیں اول: "خلیط فی النفس المبیع" یعنی فروخت ہونے والے مکان کی ملکیت میں کئی آدمی شریک ہوں خواہ وہ مکان ان سب شرکاء کو وراثت میں پہنچا ہو یا ان سب نے مشترک طور پر اسے خریدا ہو اور یا کسی نے ان سب کو مشترک طور پر بیہ کیا ہو۔

دوم: "خلیط فی حق المبیع" یعنی اس فروخت ہونے والے مکان یا زمین کی ملکیت میں شریک نہ ہو بلکہ اس زمین یا مکان کے حقوق میں شریک ہو جیسے حق مرور (یعنی آمد و رفت کا حق) حق مسیل (یعنی پانی کے نکاس کا حق) اور حق شرب (یعنی کھیت وغیرہ کو سیراب کرنے کے لئے پانی لے جانے والی نالی وغیرہ کا حق)۔

سوم "جار" یعنی ہمسایہ جس کا مکان فروخت ہونے والے مکان سے متصل ہو اور ان دونوں مکانوں کی دیواریں ملی ہوئی ہوں نیز دونوں کے دروازوں کا راستہ ایک ہی ہو۔

ان تینوں کے علاوہ اور کوئی شفیع نہیں ہو سکتا لہذا سب سے پہلے تو حق شفیع اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اس فروخت ہونے والے مکان یا زمین کی ملکیت میں شریک ہو۔ اس کی موجودگی میں حق شفیع نہ تو حقوق میں شریک کو حاصل ہوگا اور نہ ہمسایہ کو اگر یہ شریک حق شفیع سے دست کشی اختیار کرے تو پھر حق شفیع اس شخص کو پہنچے گا جو حقوق میں شریک ہو اور یہ بھی دست کشی اختیار کر لے تب حق شفیع ہمسایہ کو حاصل ہوگا اور اگر یہ ہمسایہ بھی اپنے اس حق سے دست کش ہو جائے تو اس کے بعد کسی کو بھی حق شفیع حاصل نہیں ہوگا۔

باب: کوئی شخص کسی شخص سے کوئی شے لے کر مفلس ہو

جائے پھر قرض دینے والا اپنا سامان دیکھ لے تو کیا

حکم ہے؟

۱۲۴: عبد اللہ بن مسلمہ مالک (دوسری سند) نفیلی زہیر یحییٰ ابو بکر، عمر بن عبد العزیز، ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مفلس کے پاس اپنا مال بجنبہ پایا تو دیگر قرض خواہوں کی بہ نسبت وہ شخص اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے۔

باب فی الرَّجُلِ یُفْلِسُ

فَیَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ

بِعَیْنِهِ عِنْدَهُ

۱۲۴: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَ حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ الْمُنَعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلًا أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَیْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ۔

مفلس مقروض:

مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنا مال و اسباب کسی شخص کو فروخت کیا اور خریدنے والا شخص نادار اور مقروض ہو گیا قیمت ادا نہیں کر سکتا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فروخت کرنے والا اگر بعینہ اپنا مال پائے تو اصل مال لے کر بیع کو باطل کر سکتا ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مال کا فروخت کرنے والا شخص دیگر قرض کا مطالبہ کرنے والوں کی طرح اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے اور خریدار کے قیمت ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے بیع کو باطل نہ کرے۔

۱۲۵: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن

حارث بن ہشام سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنا مال فروخت کیا پھر خریدار مفلس (فلاش) ہو گیا اور فروخت کرنے والے کو اپنے مال کی کچھ قیمت نہیں ملی اور اس نے اپنے مال کو بھلے خریدنے والے شخص کے پاس پایا تو اس مال کے لینے کا وہی فروخت کرنے والا شخص زیادہ حقدار ہے اور اگر خریدنے والا شخص فوت ہو گیا تو مال کا مالک دوسرے قرض خواہوں جیسا ہے۔

ابن شہاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ قال أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء۔

اگر خریدار فوت ہو جائے:

مراد یہ ہے کہ دوسرے قرض خواہوں کی طرح وہ اپنے مال کا مطالبہ کرنے کا حقدار ہوگا۔ تفصیل کے لئے شروحات حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

۱۳۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ يَعْنِي الْخَبَائِرِيَّ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمْنِهَا شَيْئاً فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرْمَاءِ وَإِيْمَا مَرِيءٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعٌ مَرِيءٍ بَعِيْنِهِ افْتَضَى مِنْهُ شَيْئاً أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرْمَاءِ۔

۱۳۷: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَرَّمَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمْنِهَا شَيْئاً فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرْمَاءِ فِيهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ۔

۱۳۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّبَالِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ لَا قِصِينَ فِكُمْ بِقَضَاءِ

۱۳۶: محمد بن عوف، عبد اللہ بن عبد الجبار اسماعیل بن عیاش، زبیدی، زہری، ابوبکر بن عبد الرحمن ابو ہریرہ سے اس طریقہ سے روایت ہے اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ اگر خریدنے والا شخص فروخت کرنے والے کو قیمت کا کچھ حصہ ادا کر چکا ہے تو وہ دوسرے قرض خواہوں جیسا ہوگا اور جس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس شخص کے پاس کوئی شے بعینہ کسی شخص کی نکل آئی (یعنی اس شخص سے خریدی ہوئی تو) فروخت کرنے والے شخص نے چاہے مرنے والے شخص سے کچھ قیمت لی ہو یا نہ لی ہو بہر حال وہ تمام قرض خواہوں (جیسا اور قرض خواہوں) کے برابر ہوگا۔

۱۳۷: سلیمان بن عبد اللہ بن وہب، یونس ابن شہاب، ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے اسی طریقہ سے روایت ہے۔ البتہ اس روایت میں صرف یہ اضافہ ہے کہ اگر خریدار اس مال کی کسی قدر قیمت ادا کر چکا ہے تو مال والا شخص تمام قرض خواہوں کے مساوی ہوگا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مالک کی حدیث زیادہ درست ہے۔

۱۳۸: محمد بن بشار ابوداؤد ابن ابی ذنب، ابو معتمر، حضرت عمر بن خالدہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ابو ہریرہ کی خدمت میں ایک شخص کے معاملہ کے سلسلہ میں حاضر ہوئے جو مفلس ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا میں تمہارے معاملہ میں نبی کے فیصلہ جیسا فیصلہ کرتا ہوں (وہ فیصلہ یہ ہے) جو شخص

مفلس ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا پھر مال کے مالک نے اپنی چیز کو بعینہ پالیا تو وہ دیگر قرض خواہوں کی بہ نسبت زیادہ حقدار ہے۔

باب: جو شخص ناکارہ قرار دیئے ہوئے جانور کو غذا یا دوا

کے ذریعے ٹھیک کر لے؟

۱۲۹: موسیٰ بن اسماعیل حماد (دوسری سند) موسیٰ ابان عبید اللہ حضرت عامر شععی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے جانور کو پائے جس کو لوگوں نے چارہ ڈالنے سے عاجز ہو کر چھوڑ دیا ہو پھر وہ شخص اس جانور کو لے کر دوبارہ (کھلا پلا کر یا علاج کر کے) زندہ (یعنی ٹھیک اور کارآمد) کر لے تو وہ جانور اس شخص کا ہو جائے گا۔ ابان نے کہا میں نے عامر شععی سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کس شخص سے سنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک نہیں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنی ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حماد کی روایت ہے اور یہ زیادہ واضح اور مکمل روایت ہے۔

۱۳۰: محمد بن عبید حماد ابن زید خالد حذاء عبید اللہ حضرت عامر شععی سے اسی روایت میں مذکور ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی جانور کو حالت تباہی میں چھوڑ دے پھر کوئی شخص اس جانور کو لے کر دوبارہ زندہ (یعنی علاج وغیرہ سے اس کو تندرست) کر دے تو وہ جانور اسی شخص کا ہو جائیگا کہ جس نے اس جانور کو دوبارہ زندہ (ٹھیک) کیا ہے۔

باب: گروی رکھنے کا بیان

۱۳۱: ہناد ابن مبارک زکریا شععی ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا دودھ والے جانور کا دودھ اسی کے خرچہ پر دو با جائیگا جب جانور مرن ہو اسی طریقہ سے اس پر سواری بھی اسی کے خرچہ پر کی جائے گی اور جو شخص جانور کا دودھ نکالے تو اسی کے ذمہ جانور کا کھانے کا خرچہ ہے اور جو سواری کرے اسکے ذمہ اس کا خرچہ ہے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں یہ حدیث اگرچہ قیاس کے خلاف ہے لیکن سند کے اعتبار سے ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔

رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَلْسِ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلًا مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ۔

بَابُ فِي مَنْ أَحْمَى

حَسِيرًا

۱۲۹: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَيْرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَالَ عَنْ أَبَانَ أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلَمُوهَا فَسَيَبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ عَمَّنْ قَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثُ حَمَادٍ وَهُوَ آئِينَ وَالْمُ۔

۱۳۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَادٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلِكٍ فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا۔

بَابُ فِي الرَّهْنِ

۱۳۱: حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَبِنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلَبُ النَّفْقَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ۔

شے نہ ہونے سے نفع اٹھانا:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گروی رکھی گئی چیز سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر کسی نے گروی رکھی گئی چیز سے نفع حاصل کیا جیسے کہ جانور مرہنہ سے نفع حاصل کیا تو وہ نفع اپنے اصل قرض میں محسوب کر لے اور اس جانور وغیرہ کا خرچ اس کے مالک کے ذمہ ہے۔ کتب فقہ میں اس کی تفصیل ہے۔

باب فی الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَكِدِهِ

باب: جو شخص اپنی اولاد کی آمدنی استعمال کرے تو جائز ہے

۱۳۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ   فِي حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَأَكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ۔

۱۳۲: محمد بن کثیر سفیان منصور ابراہیم حضرت عمارہ بن عمیر کی پھوپھی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا میں ایک یتیم کی پرورش کرتی ہوں تو کیا میں اس یتیم بچہ کا مال کھا سکتی ہوں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی بہت پاک و صاف خوراک وہ ہے جو کہ اس کی محنت سے حاصل ہوئی ہو اور بیٹے کی آمدنی والد کی آمدنی ہے۔

والدین کے نفع کا حکم:

مراد یہ ہے کہ لڑکے کے ذمہ والدین کے اخراجات کی کفالت ضروری ہے یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ والدین کا اپنا کوئی ذریعہ نہ ہو اور اس صورت میں اگر لڑکا والدین کی کفالت نہ کرے تو لڑکے کے مال میں سے والدین کو نفع حاصل کرنا جائز ہے۔

۱۳۳: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ   أَنَّهُ قَالَ وَوَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَادُ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ زَادَ فِيهِ إِذَا احْتَجَّتُمْ وَهُوَ مُنْكَرٌ۔

۱۳۳: عبید اللہ اور عثمان بن ابی شیبہ محمد بن جعفر شعبہ حکم حضرت عمارہ بن عمیر ان کی اپنی والدہ ماجدہ سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی اولاد بھی اس کی آمدنی سے بلکہ (وہ) عمدہ آمدنی ہے تو تم لوگ اولاد کے مال میں سے کھاؤ (استعمال کرو) امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حماد بن ابی سلیمان نے اس روایت میں لفظاً إِذَا احْتَجَّتُمْ کا بھی اضافہ کیا ہے لیکن یہ اضافہ منکر ہے۔

خلاصۃ الباب: اولاد کو کمائی اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کے آپس کے نکاح کے نتیجے ہی میں پیدا ہوتی ہے گویا اس ارشاد کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ماں باپ اگر خود کمانے کے قابل نہ ہوں تو ان کے لئے اپنی اولاد کی کمائی کھانا جائز ہے ہاں اگر ماں باپ اپنے دست و بازو کی محنت سے اپنے رزق کی راہیں خود بنا سکتے ہوں تو پھر ان کے لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اولاد پر بار نہیں البتہ اولاد کی خوشنودی و مرضی اگر یہی ہو کہ ماں باپ اس کی کمائی کھائیں تو پھر بہر صورت اولاد

کی کمائی کھانا جائز ہوگا چنانچہ حنفی علماء کا یہی قول ہے اور احناف کے قول کی مزید تصدیق ترمذی، نسائی، ابن ماجہ و دارمی میں موجود اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ -

علامہ طیبی لکھتے ہیں کہ اگر والدین محتاج ہوں تو ان کی ضروریات زندگی کی کفالت لڑکے پر واجب ہے لیکن حضرت امام شافعی کے مسلک میں اس وجوب کی شرط یہ ہے کہ وہ کمانے سے معذور بھی ہوں جب کہ دوسرے علماء کے ہاں یہ شرط نہیں ہے۔

۱۳۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ -

۱۳۴: محمد بن منہال، یزید حبیب معلّم، حضرت عمرو بن شعیب، ان کے والد ان کے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا میرے پاس مال بھی موجود ہے اور میرے اولاد بھی ہے اور میرے والد میرے مال کے محتاج ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے والد ہی کے لئے ہیں کیونکہ اولاد تمہاری عمدہ آمدنی ہے تم اپنی اولاد کی آمدنی سے کھاؤ (استعمال کرو)

خدمت والدین کا حکم:

”تم اور تمہارا مال والد ہی کے لئے ہے“ اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ لازم ہے لقولہ علیہ السلام أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ -

باب: کوئی شخص اپنی شے بعینہ دوسرے شخص کے پاس دیکھے تو اپنی شے لے سکتا ہے

۱۳۵: عمرو بن عون، ہشیم، موسیٰ، قتادہ، حسن، حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بعینہ اپنا مال کسی دوسرے شخص کے پاس دیکھا تو اس مال کا وہی شخص زیادہ مستحق ہے اور جس شخص نے وہ مال خریدا ہے تو وہ شخص فروخت کرنے والے سے مطالبہ کرے۔

باب: اگر کوئی شخص مال امانت سے اپنے حق کے بقدر

وصول کرے؟

۱۳۶: احمد بن یونس، زہیر، ہشام بن عروہ، عائشہ سے مروی ہے کہ معاویہ

بَاب فِي الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ

رَجُلٍ

۱۳۵: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيْعُ مَنْ بَاعَهُ -

بَاب فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ

مَنْ تَحْتِ يَدَيْهِ

۱۳۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا

کی والدہ ”ہند“ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کیا ابوسفیان کنجوس شخص ہیں وہ مجھ کو اتنا مال نہیں دیتے جو کہ مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو کیا اگر میں ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں تو مجھ پر کسی قسم کا گناہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دستور کے مطابق اتنی مقدار میں مال لے لو جو تم کو اور تمہارے بیٹوں کیلئے کافی ہو۔ (اس سے زائد نہ لو) ۱۳۷: شیش بن اصرم، عبدالرزاق، معمر زہری، عمرو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ہند (نامی عورت) خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ابوسفیان تو کنجوس آدمی ہیں تو کیا مجھ پر اس بات میں کسی قسم کا حرج ہے کہ اگر میں ان کے مال میں سے بلا اجازت لے لوں اور (وہ مال) ان کے اولاد کے کھانے پینے میں خرچ کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم دستور (قاعدہ) کے مطابق ان بچوں پر خرچ کرو تو تمہارے لیے اس میں کسی قسم کا مضائقہ نہیں ہے۔

۱۳۸: ابو کمال، یزید بن زریع، حمید طویل، حضرت یوسف بن ماہک کی سے مروی ہے کہ میں ایک شخص کا حساب تحریر کیا کرتا تھا جو کہ وہ ان چند بتائی پر خرچ کرتا تھا جو اس کی زیر پرورش تھے (جس وقت وہ یتیم بچے بالغ ہو گئے) ان بچوں نے اس شخص کو مغالطہ دیا اور اس شخص نے ایک ہزار درہم انہیں بھی دیدیے۔ پھر مجھ کو ان یتیم بچوں کا مال دو گنی مقدار میں ہاتھ آ گیا۔ میں نے اس شخص سے کہا تم اپنے ایک ہزار وصول کر لو (جو کہ تم کو مغالطہ دے کر تم سے غلط طور پر وصول کر لئے تھے) اس شخص نے کہا نہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی فرماتے تھے جو شخص تمہارے پاس امانت رکھوائے تو تم اس کی امانت ادا کرو اور جو شخص تمہارے مال میں خیانت کا مرتکب ہو تو تم اس شخص کے مال میں (کسی قسم) کی خیانت نہ کرو۔

هشامُ بنُ عروةَ عنُ عروةَ عنُ عائِشَةَ أنَّ هنداَ أمَ معاويةَ جانتَ رسولَ اللهِ ﷺ فقالتُ إنَّ أبا سفيانَ رجُلٌ شحيحٌ وإنَّه لا يعطيني ما يكفيني وبنيتُ فهلُ عليَّ جناحُ أنْ آخذَ منُ مالِه شيئاَ قالَ خذِي ما يكفيكُ وبنيكُ بالمعروفِ۔

۱۳۷: حَدَّثَنَا حُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هنداَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أبا سفيانَ رجُلٌ مُمِسِكٌ فهلُ عليَّ منُ حرجٍ أنْ أنفقَ عليَّ عيالهَ منُ مالِه بغيرِ إذنيهَ فقالَ النَّبِيُّ ﷺ لا حرجَ عليكِ أنْ تنفقِي بالمعروفِ۔

۱۳۸: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الطَّوِيلِ عَنْ يَوْسَفَ بْنِ مَاهِكِ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلانٍ نَفَقَةَ أَيَّامٍ كَانُوا وَلِيَهُمْ فَغَلَطُوا بِالْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَهَا قَالَ قُلْتُ أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لَا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ۔

امانت سے حق وصول کرنا:

مذکورہ فرمان رسول ﷺ ازراہ حسن اخلاق بیان فرمایا گیا ہے ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنا جائز حق وصول کرنے کے لئے امانت کے مال میں سے اپنے مال کے بقدر وصول کر سکتا ہے۔

۱۳۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ ابْنُ ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ

نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس شخص کی امانت ادا کرو اور جس شخص نے تم سے خیانت کی ہے اس سے تم خیانت نہ کرو۔

الْعَلَاءِ وَرَقِيسٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ۔

باب: تحفے قبول کرنا

۱۳۰: علی بن بحر، عبدالرحیم، عیسیٰ بن یونس، ہشام بن عروہ، ان کے والد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ (تحفہ) قبول فرماتے اور اس کا بدلہ عنایت فرماتے تھے۔

باب فِي قَبُولِ الْهَدَايَا

۱۳۰: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّبٍ الرَّوَّاسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْعِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُيَبِّغُ عَلَيْهَا۔

۱۳۱: محمد بن عمرو، سلمہ بن فضل، محمد بن اسحاق، سعید، ان کے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں آج سے کسی شخص کا ہدیہ (تحفہ) نہیں قبول کروں گا لیکن مہاجر قریشی شخص یا انصاری یا قبیلہ دوس کے شخص یا ثقفی کا۔

۱۳۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمِ اللَّهُ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا أَوْ انصَارِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ ثَقَفِيًّا۔

آپ کن افراد کے ہدایا قبول فرماتے:

مذکورہ حضرات کے تحفہ ہدیہ قبول کرنے کی یہ وجہ بیان فرمائی گئی ہے یہ لوگ شائستہ اور تہذیب یافتہ ہوتے ہیں اور غیر مہذب شخص کے ہدیہ قبول کرنے میں بعض مرتبہ خود کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اس لئے آپ نے مذکورہ حضرات کے ہدایہ قبول کرنے کی صراحت فرمادی۔

یہاں پر میں اس حدیث کا کچھ پس منظر بھی بیان کئے دیتا ہوں اور تحائف کی بابت آپ ﷺ کی عادت مبارکہ بھی۔
خلاصۃ البیان: اگر آپ کسی کو کوئی چیز بطور ہدیہ و تحفہ دیں تو اس کے عوض و بدلہ کی توقع رکھنا آپ کے خلوص کے منافی ہوگا لیکن اگر آپ کو کوئی شخص اپنی کوئی چیز بطور تحفہ و ہدیہ دے تو کسی بھی صورت میں آپ ﷺ کی طرف سے اس کے بدلے کی ادائیگی آپ کی عالی ہمتی بلند حوصلگی اور آپ کے احساس مروت و محبت کے عین مطابق ہوگا۔ چنانچہ آپ ﷺ کو جب کوئی صحابی اپنی کوئی چیز بطور ہدیہ دیتے تھے تو اس کا بدلہ ملنے کی ہلکی سی خواہش بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کا ہدیہ یہ سراپا خلوص اور ہمہ تن نیاز مندی کا ایک اظہار محبت ہوتا تھا جو اپنے دامن میں کسی مادی خواہش کا ادنیٰ سا شائبہ بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آنحضرت ﷺ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص آپ ﷺ کی خدمت میں کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کرتا تو آپ ﷺ کسی نہ کسی صورت میں اس کو اس کا بدلہ اس سے کہیں زیادہ کر کے عطا فرماتے تھے اور آپ ﷺ کا یہ معمول صرف آپ ﷺ کے جذبہ سخاوت

وفیاضی اور آپ ﷺ کی عالی ہمتی نیز باہمی ربط و تعلق کے ایک عظیم جذبہ کا مظہر ہوتا تھا۔

چنانچہ جب ایک دیہاتی آپ ﷺ کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک اونٹنی لے کر آیا تو آپ ﷺ نے حسب معمول اس کے ہدیہ سے کئی گنا زیادہ بدلہ یعنی چھ جوان اونٹنیاں اسے دیں، مگر اس پر بھی وہ خوش نہیں ہوا یہ بات یقیناً بڑی عجیب تھی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ بظاہر وہ اپنے ہدیہ میں گویا مخلص نہیں تھا اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ آپ ﷺ کی خدمت میں اونٹنی اس لئے لے کر آیا تھا کہ آپ ﷺ سے بدلہ دیں اور بدلہ بھی ایسا جو اس کی خواہش کے مطابق ہو چنانچہ جب آپ ﷺ نے اسے چھ اونٹنیاں دیں تو وہ اس پر خوش نہیں ہوا اور اس طرح اس نے دنیاوی مال میں اپنے جذبہ حرص کا اظہار کیا، چنانچہ اس کی یہ بات آنحضرت ﷺ کو اتنی ناگوار ہوئی کہ آپ ﷺ کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ میں نے قریشی انصاری، ثقفی اور دوسی کے علاوہ اور کسی کا ہدیہ قبول نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔

قریشی ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے اور 'انصاری' سے مراد انصار مدینہ ہیں۔ ثقفی اور دوسی دو قبیلوں کے نام ہیں۔ آپ ﷺ نے ان قبیلوں کو بطور خاص اس لئے ذکر کیا اور ان کا استثناء کیا کہ یہ قبیلے عالی ہمتی بلند حوصلگی اور سخاوت و فیاضی میں امتیازی حیثیت کے مالک تھے۔

باب: ہبہ میں رجوع کرنے کا بیان

باب الرجوع فی الہبۃ

۱۳۲: مسلم بن ابراہیم ابان ہمام شعبہ قتادہ سعید بن مسیب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہبہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی تے کو خود کھانے والا ہو (یہ سن کر) راوی ہمام نے کہا کہ ہم لوگ تو تے کو حرام سمجھتے ہیں تو ہبہ کر کے واپس لینا بھی حرام ہو گا (حالانکہ ہبہ کر کے واپس لینا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے)

۱۳۲: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ قَالَ هَمَّامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ وَلَا نَعْلَمُ الْقِيءَ إِلَّا حَرَامًا۔

۱۳۳: مسدؤذید، حسین معلم، عمرو بن شعیب، طاؤس، حضرت ابن عمرو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لئے کوئی شے ہبہ کر کے یا کوئی شے کسی کو دیکھ کر واپس لینا حلال نہیں کہ پھر اس شے کے ہبہ سے رجوع کرے لیکن اس شے میں جو کہ والد لڑکے کو دیتا ہے اور جو شخص ہبہ کر کے واپس لے اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ جس نے پیٹ بھر کر کھایا اور تے کی پھر آ کر اس نے تے کو کھالیا۔

۱۳۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هَبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَكَدَهُ وَمَثَلُ الْيَدِيِّ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ فَأَعَادَ فِي قَيْبِهِ۔

۱۳۴: سلیمان بن داؤد ابن وہب، اسامہ بن زید، عمرو بن شعیب، ابن کے والد، حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ

۱۳۴: حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ عَمْرٍو بْنَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو ہبہ کرنے کے بعد واپس لے لے ایسے ہے جیسے کتابے کر کرنے کے بعد اپنی تے کو کھالے پس جو شخص ہبہ کرے اور وہ ہبہ کو واپس لینا چاہے تو جسے وہ چیز ہبہ کی گئی ہے وہ واپس کرنے کی وجہ معلوم کرے۔

شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَبْعِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْتَهُ فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَفْ فَلْيَعْرِفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ۔

باب: کسی قسم کی ضرورت پوری کرنے پر ہدیہ قبول کرنا
۱۳۵: احمد بن عمرو ابن وہب، عمرو بن مالک، عبید اللہ خالد، قاسم، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی سفارش کرے پھر وہ شخص اس کے عوض ہدیہ اور تحفہ بھیجے اور یہ شخص ہدیہ قبول کر لے تو وہ سود کے بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔

باب فِي الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ
۱۳۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ۔

خلاصہ: حلالہ میں نے مناسب جانا کہ یہاں پر سود کی بابت کچھ بیان کروں کیونکہ اغیار کا تو خیر کیا کہنا مسلمان اس لعنت میں اس طرح مبتلا ہوئے جا رہے ہیں کہ برے بھلے کی تیز ہی ختم ہوئی جاتی ہے یاد رکھئے! ”سود“ ایک معاشرتی لعنت و عفریت ہے جس کی اقتصادی تباہ کاریوں نے ہمیشہ ہی غربت کے لہو سے سرمایہ داری کی آبیاری کی ہے اور غریب کے سسکتے وجود سے سرمایہ دار کی ہوس کو غذا بخشی ہے چنانچہ اس لعنت میں مبتلا ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں تنبیہ کی ہے:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (البقرہ: ۲۷۹)

”پھر اگر تم اس (سود خوری میں چھوڑنے کے حکم) پر عمل نہ کرو تو پس اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو“۔

اسلام نے تجارت اور قرض دونوں میں سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ارتکاب گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ جو مسلمان سود کے حرام ہونے کا قائل نہ ہو اسلامی قانون کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔

یہ لعنت بہت پرانی ہے اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا طریقہ رائج تھا۔ چنانچہ قریش مکہ اور یہود مدینہ میں اس کا عام رواج تھا اور ان میں صرف شخصی ضرورتوں مثلاً قرض وغیرہ ہی کے لئے نہیں بلکہ تجارتی مقاصد کے لئے بھی سود کا لین دین جاری تھا۔ اسی طرح سود کی تباہ کاریاں بھی ہمیشہ ہی تسلیم شدہ رہی ہیں اور اس کو اختیار کرنے والے بھی کبھی اس کے مضر اثرات کے منکر نہیں رہے ہیں البتہ ایک نئی بات یہ ضروری ہوئی ہے کہ جب سے یورپ کے دلال دنیا کی مسند اقتدار و تجارت پر چھائے ہیں انہوں نے مہاجنوں اور یہودیوں کے اس خاص کاروبار کو نئی شکلیں اور نئے نام دے کر اس کا دائرہ اتنا عام اور وسیع کر دیا ہے کہ وہی سود جو پہلے انسان کی معاشرتی زندگی کا ایک گھن سمجھا جاتا تھا آج معاشیات، اقتصادیات اور تجارت کے لئے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے لگا ہے اور سطحی ذہن و فکر رکھنے والوں کو یقین ہو گیا ہے کہ آج کوئی تجارت یا صنعت یا اور کوئی معاشی نظام سود کے بغیر

چل ہی نہیں سکتا، اگرچہ آج بھی اہل یورپ ہی میں سے وہ لوگ جو تقلید محض اور عصبیت سے بلند ہو کر وسیع نظر سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں اور جو معاشیات (Economics) کا وسیع علم ہی نہیں رکھتے بلکہ اس کے عملی پہلوؤں پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں خود ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ سود، معاشیات اور اقتصادی زندگی کے لئے ریزہ کی ہڈی نہیں بلکہ ایک ایسا کیڑا ہے جو ریزہ کی ہڈی میں لگ گیا ہے اور جب تک اس کیڑے کو نہ نکالا جائے گا دنیا کی معیشت میں جو اضطراب و بیجان ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔

اس میں شبہ نہیں کہ آج دنیا میں سود کا لین دین جتنا وسیع ہو گیا ہے اور دنیا کے اس کونہ سے لے کر اس کونہ تک تمام ہی تجارتوں میں اس کا جال جس طرح بچھا دیا گیا ہے، افراد و اشخاص کی کیا حیثیت، اگر کوئی پورا طبقہ و جماعت بلکہ کوئی پورا ملک بھی اس سے نکلنا چاہے تو اس کو اس کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا کہ یا تو اپنی تجارت ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے یا نقصان برداشت کرتا رہے یہی وجہ ہے کہ اب تو عام مسلمان تاجر لگ رہے وہ دیندار و پرہیزگار مسلمان تاجر جن کی اعتقادی و عملی زندگی بڑی پاکیزہ اور مثالی ہے اب انہوں نے بھی یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ سود جو حرام ترین چیز اور بدترین سرمایہ ہے اس سے کس طرح نجات حاصل کریں جس کا نتیجہ یہ ہے ان دیندار اور پابند شریعت مسلمانوں اور ایک خالص دیندار مہاجن میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔

لہذا سود کی ہمہ گیری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اس عام مجبوری کا سہارا لے کر اتنی بڑی لعنت سے بالکل بے پروا ہو کر بیٹھ جائیں اور ان کے دل میں زرہ برابر کھٹک بھی پیدا نہ ہو کہ وہ کتنی بڑی حرام چیز میں مبتلا ہیں آج سود کے بارے میں جو تاویلیں کی جاتی ہیں یا اس کو جو نئی نئی شکلیں دی جاتی ہیں یاد رکھئے وہ سب اسی درجے میں حرام ہیں جس درجے میں خود سود کی حرمت ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی معاملات کو اس انداز میں استوار کریں جس سے حتی الامکان اس لعنت سے نجات مل سکے، اگر موجودہ معاشی نظام میں اس حد تک تبدیلی ان کے بس میں نہیں ہے کہ جس میں سود کا دخل نہ ہو تو کم سے کم اپنی زندگی اور نجی معاملات ہی کو درست کریں تاکہ سود کی لعنت سے اگر بالکل نجات نہ ملے تو کم از کم اس میں کمی ہی ہو جائے اور مسلمان ہونے کا یہ ادنیٰ تقاضا تو پورا ہو کہ وہ حتی الامکان حرام سے بچنے کی فکر میں رہے۔

بہر کیف اس باب میں اسی موضوع سے متعلق احادیث ذکر ہوں گی جن کے ضمن میں حسب موقع سود کے احکام و مسائل بیان کئے جائیں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے اس موضوع سے متعلق چند بنیادی باتیں بتادی جائیں۔

ربا کی تعریف: لغت کے اعتبار سے ربا کے معنی ”زیادتی، بڑھوتری، بلندی“ کے آتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ایسی زیادتی کو ربا کہتے ہیں جو کسی مالی معاوضہ کے بغیر حاصل ہو۔

ربا اور سود میں فرق: قرآن کریم میں جس لفظ کو ”ربا“ کے ساتھ حرام قرار دیا گیا ہے اس کا ترجمہ اردو میں عام طور پر ”سود“ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عموماً لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ربا اور مروجہ سود دونوں عربی اور اردو میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یعنی جس چیز کو عربی میں ربا کہتے ہیں اسی کو اردو میں سود کہا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ”ربا“ ایک عام اور وسیع مفہوم کا حامل ہے جبکہ مروجہ سود ربا کی ایک قسم یا اس کی ایک شاخ ہے۔ کیونکہ مروجہ سود کے معنی ہیں ”روپیہ کی ایک متعین مقدار ایک متعین میعاد کے لئے قرض دے کر متعین شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی لینا“۔ بلاشبہ یہ بھی ربا کی تعریف میں داخل ہے مگر صرف اسی ایک صورت یعنی قرض و ادھار پر نفع و زیادتی لینے کا نام ربا نہیں ہے بلکہ ربا کا مفہوم اس سے بھی وسیع ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے وحی الہی کی روشنی میں ربا کے مفہوم کو وسعت دے کر لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات میں بعض ایسی صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں جن میں چیزوں کے باہم لین دین یا ان کی باہمی خرید و فروخت میں کمی بیشی کرنا بھی ربا ہے اور ان میں ادھار لین دین کرنا بھی ربا ہے

اگرچہ اس ادھار میں اصل مقدار پر کوئی زیادتی نہ ہو بلکہ برابر برابر لیا دیا جائے۔

ربا کی قسمیں اور ان کے احکام: ربا کے مذکورہ بالا وسیع مفہوم کے مطابق فقہاء نے ربا کی جو قسمیں مرتب کی ہیں ان میں سے عام طور پر یہ پانچ قسمیں بیان کی جاتی ہیں: (۱) ربا قرض (۲) ربا رہن (۳) ربا شراکت (۴) ربا نسیہ (۵) ربا فضل۔

ربا قرض: کا مطلب ہے کہ قرض خواہ کا قرض دار سے بحسب شرط متعینہ میعاد کے بعد اپنے اصل مال پر کچھ زیادہ مقدار لینا۔ اس کی مثال مروجہ سود کی صورت ہے یعنی ایک شخص کسی کو اپنے روپیہ کی ایک متعین مقدار ایک متعین میعاد کے لئے اس شرط پر قرض دیتا ہے کہ اتنا روپیہ اس کا ماہوار سود کے حساب سے دینا ہوگا اور اصل روپیہ بدستور باقی رہے گا۔ ربا کی یہ صورت کلیتاً حرام ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

ربا رہن: کا مطلب ہے ”بلا کسی مالی معاوضہ کے وہ نفع جو مرتہن کو راہن سے یا شے مرہونہ سے حاصل ہو“۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص (یعنی راہن) اپنی کوئی ملکیت مثلاً زیور یا مکان کسی دوسرے شخص (یعنی مرتہن) کے پاس بطور ضمانت رکھ کر اس سے کچھ روپیہ قرض لے اور وہ مرتہن اس رہن کی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھائے مثلاً اس مکان میں رہے یا اسے کرایہ پر چلائے اور یا یہ کہ اس رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ راہن سے نفع حاصل کرے یا اس طور کہ قرض دی ہوئی رقم پر سود حاصل کرے۔ رہن کی یہ دونوں ہی صورتیں حرام ہیں۔

ربا شراکت: کا مطلب ہے ”کسی مشترک کاروبار میں ایک شریک اپنے دوسرے شریک کا نفع متعین کر دے“۔ اور جملہ نقصانوں اور فائدوں کا خود مستحق بن جائے۔ یہ بھی حرام ہے۔

ربا نسیہ: کا مطلب ہے ”دو چیزوں کے باہم لین دین یا دو چیزوں کے باہم خرید و فروخت“ میں ادھار کرنا خواہ اس ادھار میں اصل مال پر زیادتی لی جائے۔ مثلاً ایک شخص کسی دوسرے کو ایک من گیہوں دے اور دوسرا شخص اس کے بدلہ میں اسے ایک ہی من گیہوں دے مگر ایک دو دن یا ایک دو ماہ بعد دے۔ یہ اس صورت کی مثال ہے کہ دو چیزوں میں باہم تبادلہ ہوا مگر یہ تبادلہ دست بدست نہیں ہوا بلکہ ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار معاملہ ہوا نیز اس ادھار میں اصل مال پر کوئی کمی و بیشی نہیں ہوئی۔ کمی و بیشی کے ساتھ ادھار لین دین کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص کسی دوسرے کو ایک من گیہوں دے گا۔ ربا نسیہ کی یہی وہ صورت ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھی اور اب بھی مروجہ سود کی شکل میں موجود ہے اور ایک اعتبار سے یہ ”ربا قرض“ کی قسم میں بھی داخل ہے۔

ربا فضل: کا مطلب ہے دو چیزوں میں باہم کمی و بیشی کے ساتھ دست بدست لین دین ہو۔ مثلاً ایک شخص کسی کو ایک من گیہوں دے اور اس سے اسی وقت اپنے ایک من گیہوں کے بدلہ میں سوا من گیہوں لے۔ ربا کی یہ دونوں قسمیں یعنی نسیہ اور فضل چونکہ باہم لین دین کی دو بنیادیں صورتیں ہیں نیز لاعلمی کی بناء پر عام طور پر لوگ ان میں سود کے پیدا ہونے والے حکم سے نابلد ہیں اس لئے مناسب ہے کہ ان کے احکام بیان کرنے سے پہلے چند باتیں بطور تمہید و قاعدہ بیان کر دی جائیں تاکہ ان احکام کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔

① لین دین اور تجارت کا معاملہ جن چیزوں سے متعلق ہوتا ہے وہ تین قسم کی ہیں: (۱) یا تو ان کا لین دین وزن سے ہوتا ہے (۲) یا کسی برتن سے ناپی جاتی ہیں (۳) یا نہ تو وزن کی جاتی ہیں اور نہ کسی برتن سے ناپی جاتی ہیں۔ پہلی اور دوسری قسم کی مثال غلہ ہے کہ کہیں تو غلہ کو تول کر بیچنے کا دستور ہے اور کہیں برتن میں بھر کر ناپنے کا۔ لین دین اور خرید و فروخت میں جو چیزیں تولی جاتی ہیں ان

کو ”موزون“ کہتے ہیں اور جو چیزیں ناپی جاتی ہیں ان کو ”مکیل“ کہتے ہیں۔ کسی چیز کے موزون یا مکیل ہونے کی صفت کو اصطلاح فقہ میں ”قدر“ کہتے ہیں اس مختصر سے لفظ ”قدر“ کو ذہن میں رکھئے۔

② ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے مثلاً گیہوں کا گیہوں ہونا، چاندی کا چاندی ہونا اور کپڑے کا کپڑا ہونا، اسی حقیقت کو ”جنس“ کہتے ہیں اور اس لفظ ”جنس“ کو بھی یاد رکھنا چاہئے۔

③ جن چیزوں کا باہم لین دین ہوتا ہے وہ کبھی تو ”قدر“ میں متحد اور مشترک ہوتی ہیں اور ”جنس“ میں مختلف ہوتی ہیں مثلاً گیہوں اور چنایہ دونوں چیزیں قدر میں مشترک یعنی یکساں ہیں کیونکہ دونوں موزون ہیں یا مکیل ہیں۔ مگر جنس میں مختلف یعنی یکساں نہیں ہیں کیونکہ ایک کی حقیقت گیہوں ہے اور دوسرے کی حقیقت چنایہ ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن دو چیزوں میں باہم لین دین ہوتا ہے ان کی جنس تو متحد و یکساں ہوتی ہے مگر قدر میں یکسانیت نہیں ہوتی مثلاً ملل کا ملل سے تبادلہ کہ دونوں کی جنس تو ایک ہے مگر چونکہ دونوں موزون اور مکیل نہیں (کیونکہ ملل کی خرید و فروخت نہ تو تول کر ہوتی ہے اور نہ کسی برتن سے ناپ کر) اس لئے جب یہ دونوں قدر ہی نہیں تو قدر میں ایک کیسے ہوں گی یا بکری کا بکری سے تبادلہ کہ دونوں کی جنس تو ایک ہے مگر چونکہ موزون اور مکیل نہیں اس لئے نہ قدر ہے اور نہ اتحاد قدر اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن دو چیزوں میں باہم لین دین ہوتا ہے ان کی جنس بھی ایک ہوتی ہے اور قدر میں بھی یکسانیت ہوتی ہے جیسے گیہوں کا گیہوں سے تبادلہ کہ ان دونوں کی جنس بھی ایک ہے اور قدر بھی ایک اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن دو چیزوں میں باہم لین دین ہوتا ہے ان میں نہ تو جنس کی یکسانیت ہوتی ہے اور نہ قدر کی جیسے روپیہ اور کپڑا یا روپیہ اور غلہ (گویا آج کل لین دین اور تجارت کی جو عام شکل ہے) کہ نہ تو ان کی جنس ایک ہے اور نہ قدر ایک ہے۔ لہذا باہم لین دین اور تجارت کی جانے والی چیزیں چار قسم کی ہوں گی۔

(۱) متحد القدر و الجنس (یعنی دونوں کی جنس بھی ایک اور قدر بھی ایک) (۲) متحد القدر غیر متحد الجنس (یعنی دونوں کی قدر تو ایک مگر جنس الگ الگ) (۳) متحد الجنس غیر متحد القدر (یعنی دونوں کی جنس تو ایک مگر قدر الگ الگ) (۴) غیر متحد الجنس والقدر (یعنی دونوں کی نہ تو جنس ایک اور نہ قدر ایک)۔

اس تمہید کو جان لینے کے بعد چیزوں کے باہم لین دین اور تجارت کے سلسلے میں وہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیجئے جو اگر ذہن میں رہے تو نہ صرف اس باب کے احکام و مسائل سمجھنے میں آسانی ہوگی بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی رہا اور سو دیکھے گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو دو چیزیں متحد القدر و الجنس ہوں ان کے باہم تبادلہ و تجارت میں شرعی طور پر دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ وہ دونوں چیزیں وزن پر پیمانے میں برابر ہوں دوسرے یہ کہ دونوں دست بدست ہوں مثلاً اگر ہم دو شخص آپس میں گیہوں کو گیہوں سے بدلنا چاہیں تو اس میں کمی بیشی درست نہیں ہے یعنی یہ درست نہیں کہ ہم میں سے ایک تو سیر بھر گیہوں دے اور دوسرا سوا سیر دے بلکہ دونوں ہی کو سیر بھر یا سوا سیر ہی دینا ضروری ہے اور نہ یہ درست ہے کہ ایک تو سیر دست لے لے اور دوسرا کل یا برسوں یا تھوڑی دیر کے بعد بلکہ ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی وقت میں دونوں کو اپنا اپنا حق لینا واجب ہے اور جو چیزیں متحد القدر غیر متحد القدر و الجنس ہوں یا متحد الجنس غیر متحد القدر ہوں ان دونوں کا حکم ایک ہے وہ یہ کہ ان کے باہم لین دین میں کمی بیشی تو جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں مثلاً گیہوں کو چنے سے بدلنا چاہیں کہ ان دونوں کی جنس تو الگ الگ ہے مگر قدر ایک ہے اس لئے ان دونوں کے تبادلہ میں کمی بیشی تو جائز ہوگی کہ ایک شخص ایک سیر گیہوں دے اور دوسرا اس کے بدلے میں سوا سیر چنایہ دے مگر ان کے تبادلہ

نہیں کیونکہ قدر تو موزون یا مکمل ہونے کو کہتے ہیں اور بکری نہ مکمل ہے اور نہ موزون لہذا ان میں بھی کمی بیشی جائز ہے کہ ایک شخص تو ایک بکری دے اور دوسرا اس کے بدلے میں دو بکریاں دے مگر ان کے تبادلے میں بھی ادھار جائز نہیں ہوگا اور جو چیزیں نہ متحد الجنس ہوں اور نہ متحد القدر ہوں ان میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور نقد و ادھار کا فرق بھی جائز ہے مثلاً روپیہ اور غلہ کی باہم تجارت (جیسا کہ آج کل رائج ہے کہ اشیاء کا لین دین روپیہ کے ذریعہ ہوتا ہے) کہ ان دونوں کی نہ تو جنس ایک ہے اور نہ ان کی قدر ایک ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص روپیہ دے کر غلہ خریدنا چاہے تو اس صورت میں کمی بیشی بھی جائز ہے کہ چاہے تو ایک روپیہ کے بدلے میں ایک سیر غلہ لیا جائے اور چاہے ایک روپیہ کے بدلے میں دو سیر غلہ لیا دیا جائے اس طرح اس صورت میں ادھار لین دین بھی جائز ہے کہ چاہے تو دست بدست لین دین ہو چاہے ادھار کی صورت میں اب اس قاعدہ کلیہ کا حاصل چار قاعدے ہوئے۔

- ① اشیاء متحد القدر و متحد الجنس کے لین دین میں برابری اور دست بدست ہونا واجب ہے۔
- ② اشیاء متحد القدر و غیر متحد الجنس کے لین دین میں نہ برابری واجب ہے اور نہ دست بدست ہونا واجب ہے۔
- ③ اشیاء متحد الجنس غیر متحد القدر کے لین دین میں دست بدست ہونا ضروری ہے مگر برابری ضروری نہیں۔
- ④ اشیاء متحد القدر غیر متحد الجنس کے لین دین میں دست بدست ہونا ضروری ہے مگر برابری ضروری نہیں۔

ان تمام بنیادی اور تمہیدی باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب رہا کی ان دونوں اقسام یعنی نیسہ اور فضل کے احکام کی جانب آئیے جن کا تذکرہ شروع میں کیا تھا چنانچہ اگر لین دین ایسی دو چیزوں کے درمیان ہو جن میں اتحاد جنس بھی پایا جائے اور اتحاد قدر بھی یعنی وہ دونوں متحد الجنس بھی ہوں اور متحد القدر بھی (جیسے گیہوں) تو حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس لین دین میں ربانیہ بھی حرام ہے اور ربیاض بھی اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ ”جنس“ سے مراد اس چیز کی حقیقت اور قدر سے مراد ہے اس چیز کا مکمل یا موزون ہونا کیونکہ لین دین اور تجارت کے معاملات میں شرعی معیار یہی مکمل ہے یا وزن۔ اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ شارع نے جس چیز کو مکمل (یعنی پیمانہ سے ناپی جانے والی) کہا ہے وہ موزون (یعنی تولی جانے والی) نہیں ہوگی اگرچہ عرف عام اور رواج کے اعتبار سے وہ موزون ہی ہوں اسی طرح جس چیز کو موزون کہا ہے وہ مکمل نہیں ہوگی اگرچہ عرف عام اور رواج کے اعتبار سے وہ مکمل ہو مثلاً گیہوں کو شارع نے ان چیزوں میں شمار کیا ہے جن کا لین دین پیمانہ سے ناپ کر ہوتا ہے اگرچہ آج کل عام طور پر گیہوں کا لین دین وزن کے ذریعے ہوتا ہے (گو بعض علاقوں میں اب بھی اس کا لین دین ناپ کر ہی ہوتا ہے) اس لئے گیہوں کا لین دین کے ساتھ لین دین کرنا وزن کے ذریعے جائز نہیں ہوگا اسی طرح چاندی اور سونے کو شارع نے چونکہ موزون کہا ہے اس لئے چاندی کا چاندی کے ساتھ یا سونے کا سونے کے ساتھ لین دین کیل کے ذریعے جائز نہیں ہوگا اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ کسی معاملے میں شارع کا واضح حکم عرف عام اور رواج سے کہیں قوی اور برتر ہوتا ہے۔ ہاں جن چیزوں کو شارع نے نہ مکمل کہا ہے اور نہ موزون ان کے لین دین میں عرف عام اور رواج ہی کا اعتبار ہوگا۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسفؒ نے مطلق طور پر عرف عام اور رواج ہی کا اعتبار کیا ہے ان کے نزدیک ان چیزوں کا لین دین وزن کے ذریعے جائز ہے جن کو شریعت نے مکمل کہا ہے۔ بشرطیکہ عرف عام اور رواج وزن کے ذریعے ہی اس کے لین دین کا ہو۔ چنانچہ کمال نے حضرت امام ابو یوسفؒ ہی کے قول کو ترجیح دی ہے اور اسی بناء پر انہوں نے نقد و مسکو کہ (یعنی سونے اور چاندی کے سکے مثلاً اشرفی وغیرہ کا گنتی کے ذریعے بطور قرض لین دین یا آٹے کی وزن کے ذریعے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے نیز مستند ترین

کتاب کافی میں بھی یہی ہے کہ حنفیہ کے ہاں اس بارے میں حضرت امام ابو یوسفؒ ہی کے قول پر فتویٰ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شارع نے گیہوں (یا دوسرے غلوں) کو مکمل کہا ہے لیکن ان کا لین دین وزن کے ذریعے بلاشبہ جائز ہے کیونکہ آج کل عام طور پر ان کا لین دین وزن ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔

بہر کیف اتحاد جنس اور اتحاد قدر والی چیزوں کے لین دین کے بارے میں تو معلوم ہو گیا کہ ان میں ربانیہ بھی حرام ہے اور ربانیہ بھی۔ اسی طرح اگر لین دین ایسی دو چیزوں کے درمیان ہو جن میں جنس و قدر میں سے کسی ایک کا اتحاد پایا جائے مثلاً وہ متحد الجنس تو ہوں مگر متحد القدر نہ ہوں۔ تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ایسی چیزوں کے لین دین میں ربانیہ تو حرام ہے مگر ربانیہ حرام نہیں ہے۔ لہذا اگر گیہوں کا گیہوں کے ساتھ یا چنے کا چنے کے ساتھ یا سونے کا سونے کے ساتھ یا لوہے کا لوہے کے ساتھ لین دین کیا جائے تو اس صورت میں فضل (یعنی کمی بیشی کے ساتھ دست بدست لینا دینا) بھی حرام ہوگا اور نیسہ (یعنی ادھار لینا دینا) بھی حرام ہے اور نیسہ (یعنی ادھار لینا دینا) بھی حرام ہوگا کیونکہ یہاں اتحاد قدر بھی پایا جاتا ہے اور اتحاد جنس بھی اور اگر گیہوں کا چنے کے ساتھ یا سونے کا چاندی کے ساتھ اور لوہے کا تانبے کے ساتھ لین دین کیا جائے تو اس صورت میں فضل (یعنی کمی بیشی کے ساتھ دست بدست لینا دینا) تو حلال ہوگا لیکن نیسہ (یعنی ادھار لینا دینا) حرام ہوگا کیونکہ یہاں صرف اتحاد قدر موجود ہے بایں طور کہ گیہوں اور چنے کا لین دین بھی کیل یا وزن کے ساتھ ہوتا ہے لوہے اور تانبے کا لین دین بھی وزن کے ساتھ ہوتا ہے اور چاندی کا لین دین بھی وزن کے ساتھ ہوتا لیکن یہاں اتحاد جنس موجود نہیں ہے اور اگر کسی کپڑے کے ایک ٹکڑے کا اس کپڑے کے دوسرے ٹکڑے کے ساتھ یا گھوڑے کا گھوڑے کے ساتھ لین دین کیا جائے تو اس صورت میں بھی فضل حلال ہوگا اور نیسہ حرام ہوگا۔ کیونکہ یہاں اتحاد جنس موجود ہے مگر اتحاد قدر نہیں ہے بایں طور کہ نہ تو کپڑا ہی مکمل یا موزون ہے اور نہ گھوڑا ہی مکمل یا موزون ہے۔ جبکہ معیار شرعی مکمل یا موزون ہوتا ہے اور گز وغیرہ معیار شرعی نہیں ہے۔

اور اگر لین دین ایسی دو چیزوں کے درمیان ہو جن میں نہ تو اتحاد قدر ہو اور نہ اتحاد جنس تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ایسی چیزوں کے لین دین میں فضل بھی حلال ہوگا اور نیسہ بھی مثلاً اگر گیہوں کا چاندی یا لوہے کے ساتھ لین دین کیا جائے تو اس صورت میں فضل اور نیسہ دونوں جائز ہیں اس لئے کہ یہاں نہ اتحاد جنس ہے اور نہ اتحاد قدر بایں طور کہ گیہوں تو مکمل ہے اور چاندی یا لوہا موزون ہے اسی طرح لوہے کا سونے کے ساتھ یا سونے کا لوہے کے ساتھ لین دین کرنے کی صورت میں بھی فضل و نیسہ دونوں جائز ہیں کیونکہ یہاں بھی نہ اتحاد جنس ہے اور نہ اتحاد قدر بایں طور کہ سونا تولنے کے باطن ترازو کی قسم الگ ہوتی ہے اور لوہا جن باطن ترازو سے تولا جاتا ہے ان کی علیحدہ قسم ہوتی ہے۔ گیہوں کا چنے کے ساتھ لین دین کرنے کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ ان میں بھی یہی صورت ہے کہ گیہوں کے لین دین کا پیمانہ الگ قسم کا ہوتا ہے اور چنے کے لین دین کا پیمانہ الگ قسم کا ہوتا ہے (لیکن یہ ان علاقوں کی صورت ہے جہاں گیہوں اور چنے کا لین دین وزن کے ساتھ نہیں بلکہ پیمانے کے ذریعے ہوتا ہے)۔

بات اگرچہ کافی طویل ہو گئی لیکن کروں اس موضوع پہ لکھنا شروع کیا تو مسائل کا جم غفیر ہے کہ سامنے آتا ہی جا رہا ہے ان شاء اللہ اس موضوع پہ ایک علیحدہ تصنیف کروں گا قارئین کے لئے اُمید ہے کہ کافی پہلو پشت از باہم ہو گئے ہوں گے۔

باب فی الرَّجُلِ یَفْضِلُ بَعْضَ وَكِدِهِ فِي باب: اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو سب سے زیادہ

النحل

دینے کا بیان

۱۳۶: احمد بن حنبل، ہشیم، سیار، مغیرہ، داؤد، شعبی، مجالد، اسماعیل، شعبی، نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ میرے والد نے مجھ کو کچھ عنایت فرمایا اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی اسماعیل بن سالم نے بیان کیا کہ انہوں نے نعمان کو ایک غلام عنایت کیا تھا تو میری والدہ ماجدہ عمرہ بنت رواحہ نے میرے والد سے کہا تم جاؤ اور نبی کو گواہ بناؤ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک چیز بہہ کی ہے مجھ سے عمرہ نے کہا کہ میں آپ کو اس معاملہ کا گواہ بنا دوں۔ آپ نے فرمایا نعمان کے علاوہ تمہارا اور بھی کوئی لڑکا ہے؟ اس نے کہا ہاں! کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے تمام لڑکوں کو ایسا ہی کچھ دیا ہے کہ جیسا نعمان کو دیا۔ انہوں نے جواب دیا: نہیں بعض روایات میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا یہ ظلم ہے جبکہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تو مجبوری اور احتیاج کی وجہ سے ہے (یعنی تم یہ کام بخوشی نہیں انجام دے رہے ہو) تم میرے علاوہ کسی دوسرے شخص کو گواہ بنا لو۔ مغیرہ نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری اولاد تمہاری فرمانبرداری کرنے میں ایک جیسے ہوں اس شخص نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کسی اور شخص کو اس معاملہ کا گواہ بنا لو۔ مجالد کی روایت میں ہے نبی نے ارشاد فرمایا تم پر ان سب کا یہ حق ہے کہ تم اسکے درمیان انصاف کرو جیسا تمہارا حق ان تمام لوگوں پر یہ ہے کہ تمہاری فرمانبرداری کریں۔ ابوداؤد فرماتے ہیں زہری کی حدیث میں یہ الفاظ بیان کئے گئے ہیں اَکَلَتْ بَيْنَكَ اور بعض راویوں نے لفظ وَلَدِكَ بیان کیا ہے۔ ابن ابی خالد نے بواسطہ شعبی یہ الفاظ اَلَّتْ بَنُوْنَ سِوَاهُ (یعنی کیا تمہارے اس کے علاوہ بیٹے موجود ہیں) کے الفاظ نقل کئے ہیں اور ابوالضحیٰ نے بواسطہ نعمان بن بشیر ”اَلَّتْ وَلَدٌ غَيْرُهُ“ بیان کیا ہے۔

۱۳۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَخْبَرَنَا مَجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنْحَلْنِي أَبِي نُحْلًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نِحْلَةً غَلَامًا لَهُ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ إِذْ بَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدُهُ قَاتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدُهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنِي نُحْلُ وَإِنِّي عَمْرَةَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَلَّتْ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَلَّمَهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ هَذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا تَلَجْنَةٌ فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ مُغِيرَةٌ فِي حَدِيثِهِ أَلَيْسَ يَسْرُوكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبَرِّ وَاللُّطْفِ سِوَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَذَكَرَ مَجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبْرُوكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَكَلَتْ بَيْنَكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَدِكَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيهِ أَلَّتْ بَنُوْنَ سِوَاهُ وَقَالَ أَبُو الضَّحَى عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَلَّتْ وَلَدٌ غَيْرُهُ۔

پوری اولاد سے برابری کا حکم:

فرمان نبوی ﷺ کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تو تم کو بھی چاہئے کہ پوری اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو تا کہ کسی ایک کی دل شکنی نہ ہو واضح رہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہے تو پوری

اولاد کے ساتھ برابری اس میں بھی کرنا ضروری ہے البتہ اگر اولاد میں سے کوئی زیادہ خدمت گزار اور دین دار ہو تو اس کو دوسروں سے زیادہ دینا درست ہے حدیث میں فرمایا گیا ہے: ((اتقوا الله واعدلوا اولادکم)) یعنی لوگو! اللہ سے ڈرو اور اولاد میں برابری کرو (مسلم شریف ص ۳۷ ج ۲) نیز البحر الرائق میں ہے: یکره تفضیل بعض الاولاد علی البعض فمہ الہبۃ حالت الصحۃ الا لزیادۃ فضل لہ فی الدین الخ (البحر الرائق پاکستان ص ۲۸۸ ج ۷)

۱۳۷: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذَا الْغُلَامُ قَالَ غُلَامِي أَعْطَانِي أَبِي قَالَ فَكُلْ إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ قَالَ لَا قَالَ فَأَرَدُدُّهُ۔

۱۳۷: عثمان بن ابی شیبہ جریر ہشام بن عروہ ان کے والد نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کو ایک غلام عطا فرمایا۔ رسول کریم ﷺ نے ان سے پوچھا کہ یہ غلام کیسا ہے تو انہوں نے عرض کیا یہ میرا غلام ہے جو کہ مجھ کو میرے والد نے عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے تمام بھائیوں کو اسی قسم کا غلام دیا ہے جیسا کہ تم کو عنایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں آپ نے فرمایا: تم یہ غلام واپس کر دو۔

۱۳۸: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفْضِلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ اِعْدِلُوا بَيْنَ اَبْنَانِكُمْ۔

۱۳۸: سلیمان بن حرب حماد حضرت حاجب بن مفضل بن مہلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنی اولاد کے درمیان مساوات قائم کیا کرو اور اپنے لڑکوں میں مساوات رکھا کرو۔

۱۳۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ زُهَيْرٌ أَبُو زُبَيْرٍ جَابِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ اِعْدِلُوا بَيْنَ اَبْنَانِكُمْ۔

۱۳۹: محمد بن رافع یحییٰ بن آدم زہیر ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ بشیر کی اہلیہ نے بشیر سے کہا تم اپنا غلام میرے لڑکے (یعنی جولا کا اسکے پیٹ میں تھا اس) کو ہبہ کر دو اور اس بات پر نبی ﷺ کو گواہ بنا دو تو بشیر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا فلاں شخص کی بیٹی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کر دوں اور یہ کہا ہے کہ اس بات پر آپ کو گواہ بنا دو۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا اس کے اور بھی کوئی بھائی ہیں؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے ان سب بھائیوں کو (غلام) دیا ہے جیسا کہ تم نے اس کو غلام دیا ہے۔ تو اس نے عرض کیا: نہیں تو آپ نے فرمایا: یہ بات نامناسب ہے اور میں سچی بات کے علاوہ کی شہادت نہیں دیتا۔

خلاصۃ الباب: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے درمیان فرق و امتیاز کرنا انتہائی نامناسب بات ہے چنانچہ ارشاد گرامی کی روشنی میں یہ مستحب ہے کہ کوئی چیز اپنے کسی ایک بیٹے بیٹی کو نہ دی جائے بلکہ وہ چیز برابری کے طور پر سب بیٹے بیٹیوں کو دی جائے۔

حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ کا یہ حکم کہ ”اس غلام کو واپس لے لو“ اولویت پر محمول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس غلام کو واپس لے لینا ہی اولیٰ اور زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد میں بعضوں کو کچھ دے تو اس کا بہت صحیح ہوگا مگر کراہت کے ساتھ۔

اس کے برعکس حضرت امام احمد ثوری اور اسحاق وغیرہ کے نزدیک یہ حرام ہے آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی (میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا) ان حضرات کی دلیل ہے جب کہ اول الذکر یعنی حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ﷺ کے ان الفاظ مبارک سے استدلال کرتے ہیں جو ایک روایت میں منقول ہیں کہ فاشہد علیٰ هذا غیری یعنی آپ ﷺ نے بشیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس بارے میں میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو۔

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر یہ بہہ (یعنی حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کا اپنے ایک بیٹے کو غلام دینا) حرام یا باطل ہوتا تو آپ ﷺ یہ نہ فرماتے کہ کسی اور کو گواہ بنا لو۔ کیونکہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بشیر رضی اللہ عنہ کا یہ بہہ بہر حال صحیح اور جائز تھا لیکن چونکہ غیر پسندیدہ اور مکروہ تھا اس لئے آپ ﷺ نے خود گواہ بنا مناسبت نہیں سمجھا اور یہ فرمایا کہ کسی اور کو گواہ بنا لو۔

باب فی عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ

باب: اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے

مال میں سے کچھ دے دے؟

إِذْنِ زَوْجِهَا

۱۵۰: موسى بن اسماعيل، حماد داؤد حبيب معلم، حضرت عمرو بن شعيب ان کے والد ان کے دادا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کو اپنے خاندان کے مال میں تصرف جائز نہیں جب تک کہ شوہر اس عورت کی عصمت کا مالک ہے (یعنی وہ عورت جب تک اس شخص کی منکوحہ ہے)

۱۵۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصْمَتَهَا۔

۱۵۱: ابوالکامل خالد، حسين، عمرو بن شعيب ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں ہے۔

۱۵۱: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ لِمَرْأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا۔

باب: تمام عمر کے لئے کوئی چیز دینا درست ہے

بَاب فِي الْعُمَرَى

۱۵۲: ابو الوليد، هام، قتادة، نصر بن انس، بشير بن مہیک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری زندگی کے لئے کوئی شے کسی کو دے دینا درست ہے۔

۱۵۲: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَهْزَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ۔

تمام زندگی کے لئے ہبہ کرنا:

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مکان وغیرہ کسی کو یہ کہہ کر دے کہ میں نے تم کو یہ مکان، دوکان وغیرہ تمہاری زندگی کے لئے دی تو اس طرح دینا جائز ہے اور اس شخص کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء اس مکان وغیرہ کے مرنے والے کے دیگر ترکہ کی طرح مالک ہو جائیں گے۔

۱۵۳: ابوالولید ہمام، قتادہ، حسن، سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقہ پر روایت بیان کی ہے۔
۱۵۴: موسیٰ بن اسماعیل، ابان، یحییٰ، ابوسلمہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ فرماتے تھے کہ تمام زندگی کے لئے دی ہوئی چیز اسی کی ہے جسے دی گئی ہے۔

۱۵۵: مؤمل بن فضل، محمد بن شعیب، اوزاعی، زہری، عروہ، جابر سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی شخص کو کوئی شے زندگی بھر کے لئے دی (ہبہ کی) تو وہ شے اس شخص کی (ملکیت) ہوگی کہ جس کو وہ شے دی گئی ہے جب تک وہ حیات ہے (وہ شخص مالک رہے گا) اور اس شخص کے انتقال کے بعد وہ شے اس کے ورثاء کو ملے گی۔

۱۵۶: احمد بن ابی حواری، ولید، اوزاعی، زہری، ابوسلمہ، عروہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیث بن سعد نے زہری، ابوسلمہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقہ سے روایت کیا ہے۔

باب: جو شخص کوئی چیز تمام زندگی کے لئے دے اور

دیتے وقت ورثاء کا بھی تذکرہ کر دے؟

۱۵۷: محمد بن یحییٰ، محمد بن ثنی، بشر بن عمر، مالک بن انس، ابن شہاب، ابوسلمہ، جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کو تمام زندگی کیلئے کوئی چیز دے دی (ہبہ کر دی) اور یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز اس شخص اور اسکے ورثاء کو تمام زندگی کیلئے دیدی تو وہ چیز اس شخص اور اسکی اولاد کیلئے ہے اور وہ چیز (دینے والے شخص کی) ایسی

۱۵۳: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ۔

۱۵۴: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ۔

۱۵۵: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ۔

۱۵۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي حَوَارِيٍّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ۔

بَابُ مَنْ قَالَ فِيهِ

وَلِعَقِبِهِ

۱۵۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مَالِكُ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلذِّي

يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعْ إِلَى الَّذِي أُعْطَاهَا لِأَنَّهُ أُعْطِيَ
عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ۔
ملکیت ہے کہ وہ ہبہ کرنے والے شخص کو نہیں ملے گی کیونکہ اس نے ایک
ایسا عطیہ کیا ہے کہ جس میں وراثت کا عمل دخل ہو گیا ہے۔

ہبہ کے لئے قبضہ شرط ہے:

واضح رہے کہ ہبہ کے لئے قبضہ شرط ہے پس جب لینے والے نے مذکورہ صورت میں ہبہ والی شے پر قبضہ کر لیا تو وہ شے وصول
کرنے والے کی ملکیت ہو گئی اور اس کے مرنے کے بعد حسب ضابطہ شرع اس چیز میں وراثت جاری ہو گئی۔ کتب فقہ میں اس کو
صراحت ہے۔

۱۵۸: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ يَأْسِنَادِهِ
وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَقِيلُ بْنُ أَبِي
شِهَابٍ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
وَإِخْتِلافَ عَلِيِّ الْأَوْزَاعِيِّ فِي لَفِظِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
رَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ۔
۱۵۸: حجاج بن ابی یعقوب، یعقوب، ابوصالح، حضرت ابن شہاب سے
اس طریقہ سے روایت ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں ابن شہاب سے
اسی طریقہ سے عقیل بن یزید بن ابی حبیب نے روایت کیا ہے اور اوزاعی
کے الفاظ میں بواسطہ ابن شہاب (والی روایت میں) الفاظ میں
اختلاف ہے اس کے علاوہ فلیح بن سلیمان نے اسی طریقہ سے اس
روایت کو بیان کیا ہے۔

۱۵۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا الْعُمَرِيُّ الَّتِي أَجَازَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِيبِكَ فَأَمَّا
إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عَشْتُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى
صَاحِبِهَا۔
۱۵۹: احمد بن حنبل، عبدالرزاق، معمر زہری، حضرت جابر بن عبداللہ رضی
اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جس عمری (یعنی زندگی کے
لئے) دینے کی اجازت عطا فرمائی وہ یہ ہے دینے والا (ہبہ کرنے والا)
جس شخص کو کوئی چیز دیتا ہے اس شخص سے اس طرح کہے کہ (یہ چیز)
تمہارے اور تمہاری اولاد کے لئے ہے۔ اگر اس طرح نہیں کہا بلکہ اس
طرح کہا یہ چیز تمہارے لئے ہے جب تک کہ تم زندہ ہو تو وہ چیز (لینے
والے کے انتقال کے بعد) دینے والے کی طرف واپس ہو جائے گی۔

۱۶۰: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ لَا تَرْتَفِعُوا وَلَا تَعْمُرُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ
أَعْمَرَ فَهُوَ لَوْرَثِهِ۔
۱۶۰: اسحاق بن اسماعیل، سفیان بن جریر، عطاء، جابر رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ رقی اور عمری نہ کیا
کرو۔ اگر کوئی شخص رقی یا عمری کرے تو وہ چیز جس شخص کو دی ہے اسکی
اور اسکے ورثاء کی ہو جائے گی۔

رقی اور عمری:

رقی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح کہے یہ مکان، دکان وغیرہ میں نے تم کو اس شرط پر ہبہ کی اگر تم مجھ سے قبل انتقال کر
گئے تو یہ چیز میں واپس لے لوں گا اور اگر تم سے قبل میرا انتقال ہو گیا تو یہ مکان وغیرہ تمہارا ہے اور عمری کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کسی
کو زندگی بھر کے لئے دینا اور اس کے مرنے کے بعد ورثاء کو دینا۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے ایک انصاری خاتون کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ جس کے لڑکے نے اس کو ایک باغ دیا تھا جب وہ عورت فوت ہوگئی تو لڑکے نے کہا میں نے (یہ باغ) اس کی زندگی تک کے لئے اسے دیا تھا اور اس وقت اس کے اور بھائی بھی موجود تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ باغ موت و زندگی دونوں میں اس عورت کا ہے۔ لڑکے نے کہا میں نے باغ صدقہ کیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا پھر تو اس باغ کو واپس لے لینا تم سے بہت حیرت کی بات ہے۔

باب: رقیی کا بیان

۱۶۲: احمد بن حنبل، مشیم، داؤد ابو زبیر، جابر سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا عمری (یعنی زندگی بھر کیلئے دینا) اسکے اہل کا ہوتا ہے اور رقیی اسکے اہل کا ہوتا ہے۔ (رقیی کی تشریح گزر چکی اور مفہوم حدیث یہ ہے کہ مذکورہ دونوں صورت میں دینے والے کو وہ شے واپس نہیں مل سکے گی)۔

۱۶۳: عبد اللہ بن محمد، معقل، عمرو بن دینار، طاؤس، حجر، حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کچھ عمری کیا (یعنی کوئی چیز کسی کو زندگی بھر کے لئے دی) تو وہ شے اس شخص کے لئے ہے کہ جس شخص کے لئے عمری کیا گیا (یعنی جس کو دی گئی) زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی اور تم لوگ رقیی نہ کیا کرو کیونکہ جس شخص کو کوئی چیز رقیی میں دی گئی تو وہ شے اسی شخص کی ہو جائے گی۔

۱۶۴: عبد اللہ بن جراح، عبد اللہ بن موسیٰ، عثمان بن اسود، مجاہد سے مروی ہے کہ عمری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے کہے یہ چیز تمہاری ہے جب تک کہ تم زندہ رہو۔ وہ اس طرح کہہ دے تو وہ شے اس شخص کی ہوگئی اور اس شخص کے انتقال کے بعد وہ چیز اسکے ورثاء کو مل جائے گی اور رقیی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کہے یہ چیز ہم دونوں میں سے اسی کی ہوگی جو بعد میں مرے گا یعنی اگر میرے مرنے کے بعد تمہارا انتقال ہوا تو یہ چیز تمہاری ہے ورنہ یہ چیز میں لے لوں گا۔

هَسَامٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ طَارِقِ الْمَخَجِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا إِنَّمَا أُعْطِيَتْهَا حَيَاتِهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ لَهَا حَيَاتِهَا وَمَوْتِهَا قَالَ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا قَالَ ذَلِكَ أَبَعْدَ لَكَ۔

باب فی الرقیی

۱۶۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرَّقِيى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا۔

۱۶۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ وَلَا تَرْتَقُوا لِمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ۔

۱۶۴: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْعُمَرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَالرَّقِيى هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ هُوَ لِلْآخِرِ مِثْلِي وَمِثْلَكَ۔

باب فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ!

۱۶۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرُودٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُوَدِّيَ لَمْ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

۱۶۶: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةَ بْنُ شَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ اغْضَبْ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لَا بَلْ عَمَقَ مَضْمُونَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ رِوَايَةٌ يَزِيدُ بِنِعْدَادٍ وَفِي رِوَايَتِهِ بَوَاسِطٍ تَغْيِيرٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا.

۱۶۷: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ قَالَ عَوْرٌ أَمْ غَضْبًا قَالَ لَا بَلْ عَوْرٌ فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الْفَلَائِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَعَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَلَمَّا هَزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفْوَانَ إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَعْرَمُ لَكَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمِيذٍ -

۱۶۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرُودٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا

باب: جو شخص کوئی چیز مانگ کر لے پھر ضائع ہو جائے؟

۱۶۵: مسدّد یحییٰ ابن ابی عروہ قنادہ حسن حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاتھ کے ذمہ وہ چیز واپس کرنا ہے جو کہ اس نے لی یہاں تک کہ وہ چیز ادا کرے پھر حسن بھول گئے اور انہوں نے بیان کیا تم جس چیز کو مانگ کر لو تو وہ امانت دار ہے اور اس شخص پر ضمان نہیں ہے۔

۱۶۶: حسن بن محمد سلمہ بن شیبہ یزید شریک عبدالعزیز حضرت امیہ بن صفوان حضرت صفوان سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ حنین کے دن ان سے عاریتاً زرہیں لیں تو انہوں نے کہا: اے محمد کیا جبراً (زرہیں لینا چاہتے ہیں؟) آپ نے فرمایا جبراً نہیں بلکہ یہ تو عاریتاً لے رہا ہوں جو واپس کر دی جائیں گی۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں یہ روایت یزید کی بغداد میں تھی اور (مقام) واسط میں ان کی جو روایت بیان کی گئی ہے اس میں (بغداد والی روایت سے) کچھ تبدیلی ہے۔

۱۶۷: ابوبکر بن ابی شیبہ جریر عبدالعزیز آل صفوان کے بعض حضرات سے مروی ہے کہ صفوان سے نبی نے ارشاد فرمایا اے صفوان! کیا تمہارے پاس کچھ ہتھیار ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کیا (وہ ہتھیار) آپ مانگے ہوئے لینا چاہتے ہیں یا جبراً لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا زبردستی یا جبراً نہیں بلکہ عاریتاً لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے آپ کو تیس سے چالیس زرہ عاریتاً دیں اور نبی نے (اس سلمہ سے) غزوہ حنین میں جنگ کی پھر جب کفار کو شکست ہو گئی تو صفوان کی زرہیں اکٹھی کی گئیں ان میں سے چند زرہیں گم ہو گئیں نبی نے فرمایا اے صفوان! ہم سے تمہاری کچھ زرہیں گم ہو گئی ہیں اگر تم چاہو تو ہم ان زرہوں کا تاوان ادا کر دیں؟ صفوان نے کہا نہیں یا رسول اللہ! میرے دل میں آج وہ بات ہے جو کہ اس سے قبل نہیں تھی۔ (مراد یہ ہے کہ پہلے میں مشرک تھا اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں اب میں آپ سے کس طرح تاوان وصول کر سکتا ہوں؟)

۱۶۸: مسدّد ابوالاحوص عبدالعزیز عطاء آل صفوان کے بعض حضرات

سے اسی طریقہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زر ہیں مستعار لی تھیں۔

۱۶۹: عبد الوہاب ابن عیاش حضرت شریح بن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو امامہؓ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے نبیؐ سے سنا ہے آپؐ فرماتے تھے بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حق دار کو اس کا حق ادا فرمایا دیا تو اب وارث کیلئے وصیت جائز نہیں ہے۔ کوئی خاتون اپنے گھر میں سے کوئی شے خرچ نہ کرے مگر اپنے شوہر کی اجازت سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! بلا اجازت کھانا بھی نہ دے۔ آپ نے فرمایا غلہ تو تمام مالوں میں عمدہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مستعار کی ہوئی چیز کو واپس کرنا چاہئے اور منہ واپس کی جائے گی اور ادائیگی قرض لازم ہے اور کسی کی ذمہ داری لینے والا ضامن ہے یعنی جس شے کی ذمہ داری لی اسکی ادائیگی لازمی ہے۔

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ رُوَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ۔
۱۶۹: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شَرِيحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ وَلَا تَنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فِقِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَوْرُ مَوْدَاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ۔

وارث کے لئے وصیت:

وصیت غیر وارث کے لئے درست ہوتی ہے وارث کو اس کا مقرر کردہ شرعی حصہ ملے گا وارث کے لئے وصیت درست نہیں ہے اور منہ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص کسی کو اپنا دودھ دینے والا جانور عاریتاً دے تو جب اس جانور کے دودھ ختم ہو جائے تو وہ جانور اس کے مالک کو واپس دے دینا چاہئے۔

۱۷۰: ابراہیم حبان بن ہلال ہشام قنادر عطاء صفوان بن یعلیٰ اپنے والد یعلیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس میرے قاصد آئیں تو تم ان کو تیس زرہ اور تیس اونٹ دے دینا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس عاریت کے طریقہ پر دوں جس کا ضمان لازم ہوتا ہے یا اس عاریت کے طور پر جو کہ مالک کو واپس دلا دی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس عاریت کے بطور جو کہ مالک کو واپس کی جاتی ہے۔

۱۷۰: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعَصْفَرِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَيْتَكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَوْرٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَوْرٌ مَوْدَاةٌ۔

باب: جو شخص کسی کی کوئی شے ضائع کر دے تو اس

باب فِيمَنْ أَفْسَدَ شَيْئًا

جیسی شے ضمان میں ادا کرے

يَغْرَمُ مِثْلَهُ

۱۷۱: مسدد یحییٰ (دوسری سند) محمد بن ثنیٰ خالد حمید حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے پاس

۱۷۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ

تھے آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی ایک نے اپنے خادم کے ہاتھ آپ کی خدمت میں ایک پیالہ میں کھانا بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہاتھ مار کر وہ پیالہ توڑ دیا۔ ابن المثنیٰ نے یہاں کیا آنحضرت ﷺ نے ان دونوں ٹکڑوں کو لے کر جمایا اور اس پیالہ میں دوبارہ کھانا جمع کیا پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم لوگوں کی ماں کو غیرت آگئی (یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو) ابن مثنیٰ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ کھانا کھاؤ سب نے کھانا نوش کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ان زوجہ مطہرہ کے گھر سے پیالہ آیا کہ جن کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ اور آپ نے خادم کو روکے رکھا اور آپ نے پیالہ کو بھی رہنے دیا جب لوگ فارغ ہو گئے تو آپ نے صحیح سالم پیالہ اس خادم کے حوالہ فرمایا اور ٹوٹا ہوا پیالہ آپ نے اپنے گھر میں رکھ لیا۔

۱۷۲: مسدود یحییٰ، سفیان قلیت، حضرت جسرہ بنت دجلہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے کسی کو اس قسم کا (عمدہ) کھانا پکاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس قسم کا (عمدہ) کھانا حضرت صفیہؓ پکاتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے آپ کے لئے کھانا پکا کر بھیجا مجھ کو غصہ آ گیا۔ میں نے برتن توڑ دیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے اس فعل کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برتن کا عوض اسی قسم کا (یعنی اس جیسا) برتن ہے اور کھانے کا عوض ایسا ہی دوسرا کھانا ہے۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمِهَا قِصْعَةً فِيهَا طَعَامٌ قَالَ فَضَرَبْتُ يَدَهَا فَكَسَرْتُ الْقِصْعَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ فَصَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمَّكُمْ زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى كُلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى جَاءَتْ قِصْعَتَهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى لَفْظِ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ قَالَ كُلُوا وَحَسِّنِ الرَّسُولَ وَالْقِصْعَةَ حَتَّى فَرَّغُوا فَدَفَعَ الْقِصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ وَحَسِّنِ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِهِ۔

۱۷۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَلَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا فَبَعَثَتْ بِهِ فَأَخَذَنِي الْكُلُّ فَكَسَرْتُ الْإِنَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ قَالَ إِنَاءٌ مِثْلَ إِنَاءِ وَطَعَامٌ مِثْلَ طَعَامٍ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ناگواری کی وجہ:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس لئے ناگواری ہوئی کہ آج کی رات آنحضرت ﷺ کی میرے یہاں آرام کرنے کی رات مقرر تھی میرے گھر پر دوسری زوجہ مطہرہ کے یہاں سے کھانا کیوں پک کر آئے؟

باب: اگر کسی کے چوپائے دوسرے شخص کی کھیتی برباد کر دیں؟

بَابُ الْمَوَاشِي تَفْسِدُ

زَرَءَ قَوْمٍ

۱۷۳: احمد بن محمد، عبدالرزاق، معمر زہری، حرام حمیصہ سے اور انکے والد سے مروی ہے کہ براء بن عازبؓ کی اونٹنی ایک شخص کے باغ میں داخل

۱۷۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمَرْوَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ

ہوگئی اور اس نے اسکے باغ کو اجاڑ ڈالا۔ تو نبی نے اس معاملہ کا اس طریقہ سے فیصلہ فرمایا کہ دن کے وقت تو باغ کی دیکھ بھال باغ کے مالک کے ذمہ داری ہے اور رات کے وقت جانوروں کی دیکھ بھال اسکے مالک کی ذمہ داری ہے (یعنی اگر رات کے وقت چوپائے وغیرہ نے کسی کا باغ، کھیتی تباہ کر دیے تو اسکا ضمان جانوروں لے شخص سے وصول کیا جائیگا)۔

۱۷۴: محمود بن خالد فریابی اور اعی زہری، حرام، براء بن عازب سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک اونٹنی ضاری تھی وہ اونٹنی ایک باغ میں گھس گئی اور اس نے باغ تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ خدمت نبوی میں عرض کیا گیا تو آپ نے اسکا اس طریقہ سے فیصلہ فرمایا باغات کی حفاظت کا کام دن میں باغ والے کی ذمہ داری ہے اور جانوروں کی حفاظت کی ذمہ داری رات کے وقت جانوروں والے لوگوں کی ہے (اگر انہوں نے رات کے وقت اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا اور وہ جانور کسی کا باغ یا کھیت کھا گئے تو) جو نقصان رات کو ہو گا وہ جانوروں والوں سے وصول کیا جائے گا۔

الرُّهْرِي عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَافَةَ
لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَانِطٌ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ
عَلَيْهِمْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ
الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي
حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ۔

۱۷۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنِ
الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ
الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ لَهُ
نَافَةٌ ضَارِيَةً فَدَخَلَتْ حَانِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فُكَيْمًا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ
بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ
عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ
مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ۔

ضاریہ کا مفہوم:

ضاریہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کی یہ عادت ہو کہ وہ لوگوں کے کھیت یا باغات تباہ کرتی پھرے۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْقَضَاءِ

تشریح: قاضی اسلامی عدالت کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے شہریوں کے حقوق (امن آزادی مساوات) کا محافظ ہوتا ہے اور وہ معاملات کا فیصلہ کرنے میں شریعت کی طرف سے حکم کی حیثیت رکھتا ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے نزاعی مقدمات کا شریعت کے مطابق فیصلہ کرے اور اس کا اس سے بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ عدل و انصاف دیانت داری اور ایمانداری کے تقاضوں کو ہر حالت میں مد نظر رکھے۔

اسلام دنیا کا یگانہ مذہب بھی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اسلام جس طرح انسانیت عامہ کی دینی مذہبی اور اخلاقی، اخروی فلاح کا سب سے آخری اور مکمل قانون ہدایت ہے اس طرح وہ ایک ایسی لافانی سیاسی طاقت بھی ہے جو انسانوں کے عام فائدے عام بہتری اور عام تنظیم کے لئے حکومت و سیاست سے اپنے تعلق کا برملا اظہار کرتی ہے۔

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ مذہب کی حیثیت سے کچھ اور بھی ہے اس کو حکومت، حاکمیت، سیاست اور سلطنت سے وہی تعلق ہے جو اس کائنات کی کسی بھی بڑی حقیقت سے ہو سکتا ہے اس کو محض ایک ایسا نظام نہیں کہا جا سکتا جو صرف باطن کی اصلاح کا فرض انجام دیتا ہے بلکہ اس کو ایسا دینی نظام بھی سمجھنا چاہئے جو خدا ترس و خدا شناس روح کی قوت سے دنیا کے مادی نظام پر عالمگیر غلبہ کا دعویٰ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو اسلامی تصورات و نظریات کا سرچشمہ ہے

اور احادیث نبوی جو قرآنی ہدایات کی شارح و ترجمان ہیں، ان کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام اور حکومت و سیاست کے تعلق کو ثابت کرتا ہے کہیں تاریخی انداز میں، کہیں تعلیمات کے پیرایہ میں اور کہیں نعمت الہی کو ظاہر کرتے ہوئے ہم پر یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اسلام اور حکومت کے درمیان تعلق ہی نہیں ہے بلکہ اسلام کے بنیادی عقیدے و تصور کے مطابق چونکہ یہ زمین خدا کی ملکیت ہے اور اس زمین پر حکومت خدا کا حق ہے اسلئے اسلام کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ اس زمین پر خدا کی حکومت قائم کی جائے اور اس کا اتارا ہوا قانون نافذ کیا جائے۔

ہم میں سے جو کج فکر لوگ ”مذہب اور سیاست“ کے درمیان تفریق کی دیوار حائل کر کے اسلام کو سیاست و حکومت سے بالکل بے تعلق و بے واسطہ رکھنا چاہتے ہیں وہ دراصل مسلم مخالف عناصر کے اس شاطر دماغ کی سازش کا شکار ہیں جو خود تو حقیقی معنی میں آج تک حکومت کو ”مذہب“ سے آزاد نہ کر سکا لیکن مسلمانوں کی سیاسی پرواز اور ہمہ گیر پیش قدمی کو مستحکم کرنے کے لئے ”مذہب“ اور سیاست و حکومت کی مستقل بحثیں پیدا کر کے مسلمانوں کے چشمہ فکر و عمل اور دنیا کی پلیدی کا زہر گھول رہا ہے۔

باب فی طلب القضاء

۱۷۵: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

۱۷۵: نصر بن علی، فضیل بن سلیمان، عمرو بن ابی عمرو، سعید مقبری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قاضی بنا دیا گیا تو گویا کہ وہ بغیر چاقو کے ذبح کر دیا گیا۔

۱۷۶: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

۱۷۶: نصر بن علی، بشر بن عمرو، عبد اللہ بن جعفر، عثمان بن محمد، مقبری، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے جس شخص کو قاضی بنایا گیا اسے بغیر چاقو کے ذبح کیا گیا۔

قاضی کی ذمہ داری کی مثال:

مذکورہ دونوں احادیث کا حاصل یہ ہے کہ قاضی بننا بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے اور یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابلہ میں چھری چاقو سے ذبح ہونا آسان ہے۔

باب فی القاضی یخطیء

۱۷۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْنِيُّ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ

۱۷۷: محمد بن حسان السمنی، خلف بن حسان، خلیفہ بن ابی ہاشم، ابو بریدہ، انکے والد بریدہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک قاضی تو جنت میں اور دو قاضی دوزخ میں (داخل ہونگے) تو جو قاضی

جنت میں ہے جس نے حق شناسی سے کام لیا اور اسکے مطابق فیصلہ کیا اور ایک وہ ہے کہ اس نے حق پہچانا پھر اس نے اپنے فیصلہ میں ظلم سے کام لیا تو وہ قاضی (دوزخ کی) آگ میں ہے اور ایک وہ کہ جس نے جہالت سے لوگوں کا فیصلہ کیا تو وہ قاضی بھی (دوزخ کی) آگ میں ہے۔

۱۷۸: عبید اللہ بن عمر عبد العزیز بن یزید بن عبد اللہ محمد بن ابراہیم بسر بن سعید ابوقیس حضرت عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی حاکم نے غور و فکر کے بعد کسی معاملہ کا فیصلہ کیا اور اس نے صحیح سمجھا تو ایسے حاکم کے لئے دو گنا ثواب ہے اور جب حاکم نے غور و غوض کے بعد فیصلہ کیا اور اس نے سمجھنے میں غلطی کی تو اس کے لئے اکہر ثواب ہے۔

۱۷۹: عباس عنبر بن عمر بن یونس ملازم بن عمرو موسیٰ بن نجدہ یزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اہل اسلام کا قاضی بنا چاہے یہاں تک کہ وہ شخص قاضی بن جائے پھر اس قاضی کے ظلم پر اس کا انصاف غالب آجائے تو ایسے قاضی کے لئے جنت ہے اور جو شخص کے انصاف پر اس کا ظلم غالب آجائے تو اس کے لئے (جہنم کی) آگ ہے۔

۱۸۰: ابراہیم بن حمزہ زید بن ابی الزرقاء ابن ابی الزنادان کے والد عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مندرجہ ذیل تین آیات کریمہ: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ شخص کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے یہ (مذکورہ) تینوں آیات کریمہ قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نضیر کے بارے میں نازل ہوئیں۔

وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَالثَّانِي فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ۔

۱۷۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ فَاحْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ۔

۱۷۹: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَلَازِمُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ نَجْدَةَ عَنْ جَدِّهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ۔

۱۸۰: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَزَةَ بْنُ أَبِي يَحْيَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنِّي قَوْلِي الْفَاسِقُونَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ خَاصَّةً فِي قَرِيظَةَ وَالنَّضِيرِ۔

اگر قاضی خلاف شرع فیصلہ کرے؟

مراد یہ ہے کہ اگر مسلمان قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ دے گا تو اگرچہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوگا لیکن ظالم و فاسق تو ہو جائے گا۔

باب: فیصلہ میں عجلت کرنے اور منصب قضاء کی

خواہش کرنے کا بیان

۱۸۱: محمد بن علاء محمد بن ثنیٰ ابو معاویہ اعمش رجاء انصاری عبد الرحمن بن بشر ارزق سے مروی ہے کہ (قبیلہ) کندہ کے دو اشخاص (جھگڑا کرتے ہوئے) آئے اس وقت ابو مسعود انصاری ایک حلقے میں تشریف فرما تھے ان دونوں نے کہا کہ کیا کوئی شخص موجود ہے جو کہ ہم دونوں کا فیصلہ کر دے؟ اہل حلقہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں فیصلہ کر دوں گا۔ ابن مسعود نے ایک مٹھی میں کنگریاں لے کر اس شخص کے ماریں اور کہا ذرا ٹھہرو! تو ابن مسعود فیصلہ کرنے میں جلدی کرنے کو مذموم خیال فرماتے تھے (کیونکہ جلد بازی میں غلطی کا زیادہ امکان ہے)۔

۱۸۲: محمد بن کثیر اسرائیل عبد الاعلیٰ بلال حضرت انس بن مالک سے مروی ہے نبی سے میں نے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص منصب قضاء کی درخواست کریگا اور اس منصب کیلئے لوگوں سے امداد چاہیگا تو وہ اسکے حوالے کر دیا جائیگا یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کی امداد نہیں فرمایگا اور جو شخص اس منصب کیلئے درخواست نہ کریگا اور نہ سفارش کریگا تو اللہ ایک فرشتہ کو نازل فرمایگا جو کہ اس شخص کے معاملات کو درست کریگا۔

۱۸۳: احمد بن حنبل، یحییٰ بن سعید قرہ بن خالد حمید بن ہلال ابو بردہ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی ایسے شخص کو کام پر (عہدہ قضاء پر) مقرر نہیں کریں گے جو کہ اس کام کی درخواست دے (یعنی منصب قضاء کی خواہش کرے)

خلاصۃ الباب: آنحضرت ﷺ کا یہ معمول تھا کہ جو شخص کسی خدمت و ذمہ داری کا طالب ہوتا اور آپ ﷺ سے اس کی درخواست کرتا تو آپ ﷺ اس کو اس کام پر مقرر نہ فرماتے کیونکہ کسی منصب کا طالب ہونا جب جاہ پر دلالت کرتا ہے جو آخر کار طالب کے حق میں خرابی کا باعث ہوتا ہے۔

باب: مذمت رشوت

۱۸۴: احمد بن یونس ابن ابی ذئب حارث بن عبد الرحمن ابو سلمہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

باب فی طلب القضاء

والتسرع الیہ

۱۸۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجَاءِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشَرَ الْأَنْصَارِيِّ الْأَزْرَقِيِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ فَقَالَا أَلَا رَجُلٌ يَتَّقِدُ بَيْنَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ أَنَا فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كَفًّا مِنْ حَصَى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهْ إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّسْرُعَ إِلَى الْحُكْمِ۔

۱۸۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وَكَلَّ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يَسُدُّهُ۔

۱۸۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ هَلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ۔

باب فی گراہیۃ الرشوة

۱۸۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيْلَةَ رِشْوَتٍ لِيُنْفِقَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالرَّائِسِي وَالْمُرْتَشِي - لعنت فرمائی ہے۔

خلاصۃ الباب: اس روایت کے علاوہ ترمذی نے اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ نیز بیہقی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ: ”مخضرت ﷺ نے راکش یعنی وہ شخص جو رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کے درمیان واسطہ و ذریعہ بنے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔“

رشوت (یاراء کے پیش کے ساتھ یعنی رشوت) اس مال کو کہتے ہیں جو کسی (حاکم و عامل وغیرہ) کو اس مقصد کے لئے دیا جائے کہ وہ باطل (ناحق) کو حق کر دے اور حق کو باطل کر دے۔ ہاں اگر اپنا حق ثابت کرنے یا اپنے اوپر ہونے والے ناسحق کے دفعیہ کے لئے کچھ دیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

باب: قاضیوں کو تحائف ملنے کے احکام

۱۸۵: مسند یحییٰ، اسماعیل، قیس، حضرت عدی بن عمیرہ کندی سے مروی ہے کہ نبیؐ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! ہماری طرف تم میں سے جو شخص عامل (حاکم قاضی) مقرر ہو پھر اس نے (جو اشیاء اس کو وصول ہوئیں یعنی) محاصل میں سے ایک سوئی کے برابر یا اس سے بھی کم کو چھپا لیا تو وہ خیانت میں داخل ہے اور وہ حاکم قیامت کے دن اسی شے کے ساتھ پیش ہوگا۔ اسی وقت انصار میں سے سیاہ رنگ کا ایک شخص کھڑا ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ گویا میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھ سے اپنا کام (یعنی اپنی ذمہ داری واپس) لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا میں نے آپ سے سنا ہے آپ ایسا فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تو اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم میں سے جس شخص کو کسی کام پر بھیجا تو خواہ کم یا زیادہ اسکو جو کچھ ملے وہ لے کر آئے اور اسکو اسکے کام کا جو معاوضہ ملے وہ وصول کرے اور جس چیز سے اس کو روکا جائے اس سے رک جائے۔

باب فی ہدایا العمال

۱۸۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِقَامَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذًّا وَكَذًّا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُرْتِي مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِى عَنْهُ انْتَهَى -

حاکم کو ملے ہوئے ہدیہ کا حکم:

معلوم ہوا کہ حاکم کو جو ہدیہ تحفہ ملا اس کو سرکاری خزانہ میں جمع کرنا چاہئے اس کو خود رکھ لینا رشوت کے حکم میں داخل ہے۔ خلاصۃ الباب: یہاں پر اگر کسی کو کوئی سرکاری عہدہ عطا کیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا اور یقین جاننے کہ وہ اپنی سرکاری ذمہ داری سے دوپہر دو بجے کے قریب فارغ ہو جاتا ہے اور باقی سارا دن لغو کاموں میں صرف کرتا ہے

اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کا تھا کہ:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بازار میں کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور اس کے ذریعہ اپنے اہل و عیال کے مصارف پورے کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے ان کو منصب خلافت پر فائز کیا تو انہوں نے صحابہ کرام کو اطلاع دے دی کہ اب میں امور خلافت کی انجام دہی اور مسلمانوں کی خدمت میں مشغول ہو گیا ہوں اس لئے اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا لہذا اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ”اخراجات کے بقدر“ بیت المال سے تنخواہ لیا کروں گا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غلہ کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں کھجوروں اور کپڑے کا کاروبار ہوتا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ عطاری کرتے تھے۔

باب: فیصلہ کرنے کا طریقہ

باب كَيْفَ الْقَضَاءُ

۱۸۶: عمرو بن عون، شریک، سماک، حش، علیؑ سے مروی ہے نبیؐ نے مجھ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھ کو ملک یمن کا قاضی مقرر فرما کر بھیج رہے ہیں اور میں تو نو عمر اور نوجوان شخص ہوں اور مجھ کو قضاء کا علم بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا ”تمہارے دل کو اللہ راستہ دکھائے اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ جب تمہارے پاس دو شخص کسی قسم کا مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک تم دوسرے شخص کی بات بھی نہ سن لو جس طرح تم نے پہلے کی سنی فیصلہ نہ سنانا کیونکہ اس میں تمہارے لئے بہت بہتر طریقہ سے مقدمہ کی (اصل) حقیقت ظاہر ہو جائیگی۔ علیؑ فرماتے ہیں پھر میں ہمیشہ فیصلہ کرتا رہا یا فرمایا کہ اسکے بعد کسی مقدمہ کے فیصلہ کرنے میں مجھے شک نہیں ہوا۔

۱۸۶: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلْنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُنَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَنْبَيَنَّ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَّكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ۔

یک طرفہ فیصلہ:

ایک ہی فریق کا بیان سن کر فیصلہ دے دینا ناجائز ہے قاضی کے لئے دونوں فریق کی بات سننا اور فریقین کو صفائی اور ثبوت پیش کرنے کا موقع دینا ضروری ہے تفصیل کے لئے مولانا مجاہد الاسلام قاسمی کی تالیف نظام قضاء ملاحظہ فرمائیں۔

باب: اگر قاضی فیصلہ کرنے میں غلطی کر دے؟

باب فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

۱۸۷: محمد بن کثیر، سفیان، ہشام بن عروہ، عروہ، زینب، ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ نبیؐ نے ارشاد فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں اور تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آئے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں فریقین میں

۱۸۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

سے ایک فریق بہترین اور شیریں زبان والا ہو اور دوسرے فریق سے زیادہ تیز زبان ہو اور میں اسی فریق کی خواہش کے مطابق اسکا حال سن کر فیصلہ کروں تو میں نے جس شخص کے حق میں اسکے بھائی کے حق کا فیصلہ سنا دیا اسکے بھائی کی چیز کے بارے میں تو اس کو چاہئے کہ وہ اس چیز کو نہ لے کیونکہ میں اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بَشْيَءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ۔

اگر قاضی حقیقت کے خلاف فیصلہ کر دے؟

مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی مدعی یا مدعا علیہ جرب زبانی سے قاضی سے فیصلہ کرا لے تو وہ فیصلہ حقیقت کے خلاف ہو تو دیا جاتا ایسے فیصلہ پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ وہ چیز عند اللہ ناجائز و حرام ہے۔

۱۸۸: ربیع بن نافع، ابن مبارک، أسامہ بن زید، عبد اللہ بن رافع، أم سلمہ سے مروی ہے کہ نبی کی خدمت اقدس میں دو اشخاص وراثت کے مقدمہ میں جھگڑا کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور ان دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ موجود نہ تھا لیکن وہ صرف دعویٰ کرتے تھے۔ تو آپ نے سابقہ کلام ارشاد فرمایا (کہ میں ایک انسان ہوں مجھ سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے کیونکہ میں ظاہر پر فیصلہ کرتا ہوں) یہ بات سن کر دونوں شخص نے روٹنا شروع کر دیا اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ میں نے اپنا حق تم کو دے دیا۔ (یعنی میں اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو گیا) اس کے بعد آپ نے ان دونوں سے فرمایا جب تم ایسی بات کر رہے ہو تو تم آپس میں مال تقسیم کر لو اور حق تلاش کر کے اس پر عمل کرو اور قرعہ اندازی کر کے حصہ وصول کرو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو۔

۱۸۸: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ابْنُ مَبْرَكٍ، أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعَوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ تَمَّ اسْتِهَمَا تَمَّ تَحَالًا۔

۱۸۹: ابراہیم بن موسیٰ، عیسیٰ، أسامہ، عبد اللہ بن رافع، حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہی حدیث مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ خدمت نبوی میں دو شخص وراثت میں جھگڑا کرتے ہوئے اور پرانی چیزوں کے بارے میں جھگڑتے ہوئے آئے تھے تو آپ نے فرمایا جس معاملہ میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی میں تم دونوں کا فیصلہ اپنی رائے سے کروں گا۔

۱۸۹: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى حَدَّثَنَا أَسَامَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ۔

۱۹۰: سلیمان بن داؤد، ابن وہب، یونس ابن شہاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے منبر پر ارشاد فرمایا اے لوگو! نبی کی رائے گرامی

۱۹۰: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ

درست تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح راہ دکھائی تھی ارشادِ الہی: ﴿لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ اور ہماری رائے ایک گمان اور محنت ہے (مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش اور غور و خوض کے بعد ایک رائے قائم کرتے ہیں پھر اسی رائے پر اعتاد نہ کرنا چاہئے)

۱۹۱: احمد بن عبدہ، حضرت معاذ بن معاذ فرماتے ہیں کہ ابو عثمان شامی نے مجھے بتایا کہ میری رائے میں شام کا رہنے والا کوئی شخص حریر بن عثمان سے افضل نہیں ہے۔

باب: قاضی کے روبرو مدعی مدعا علیہ کس طرح

بیٹھیں؟

۱۹۲: احمد بن مہب، ابن مبارک، مصعب بن ثابت، حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ مدعی مدعا علیہ (مقدمہ کے وقت) دونوں حاکم کے سامنے بیٹھیں۔

باب: قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے؟

۱۹۳: محمد بن کثیر، سفیان، عبد الملک، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے اپنے صاحبزادہ کو تحریر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قاضی غصہ کی حالت میں دو شخصوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔

عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ عَلِيٌّ الْمَنْبَرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُصِيبًا لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكْلُفُ۔

۱۹۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَانَ الشَّامِيُّ وَلَا إِخَالِي رَأَيْتُ شَامِيًا أَفْضَلَ مِنْهُ يَعْنِي حُرَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ۔

بَاب كَيْفَ يَجْلِسُ الْخُصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْ

الْقَاضِي

۱۹۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ نَابِثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْخُصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَكَمِ۔

بَاب الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانٌ

۱۹۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْضِي الْحَكْمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ۔

غصہ کے وقت فیصلہ نہ کرے:

مفہوم یہ ہے کہ حالت اعتدال میں حاکم یا قاضی کو مقدمہ کا فیصلہ کرنا چاہئے کیونکہ غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنے میں غلطی یا کسی کے بلاوجہ خلاف فیصلہ دینے کا احتمال ہے فتاویٰ شامی کتاب القضاء میں ”ادب القاضی“ کی مفصل بحث مذکور ہے۔

خلاصۃ الباب: غصہ کی حالت میں چونکہ غور و فکر کی قوت مغلوب ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں مبنی بر انصاف کے فیصلے کا صادر ہونا محال نظر ہو جاتا ہے اس لئے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی حاکم و قاضی غیض و غضب کی حالت میں کسی قضیہ کا فیصلہ نہ کرے تاکہ اس کا غیض و غضب اس کے غور و فکر اور اجتہاد میں رکاوٹ نہ بنے اور وہ منصفانہ فیصلہ دے سکے اسی طرح سخت گرمی و سخت سردی، بھوک پیاس اور بیماری کی حالت میں بھی کوئی حکم و فیصلہ نہ دے کیونکہ ان اوقات میں بھی حواس پوری طرح قابو میں نہیں ہوتے اور دماغ حاضر نہیں رہتا۔ لہذا اگر کوئی حاکم و قاضی ان احوال میں حکم و فیصلہ دے گا تو وہ کراہت کے ساتھ جاری و نافذ ہوگا۔

باب: قاضی کفار کے درمیان کس طرح فیصلہ کرے؟

۱۹۴: احمد بن محمد، علی بن حسین، انکے والد یزید بن عوی، عکرمہ ابن عباس سے مروی ہے کہ سابق میں یہ حکم تھا: ﴿فَإِنْ جَانُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ﴾ یعنی اے نبی جس وقت آپ کے پاس کفار (اپنے معاملات کا) فیصلہ کرانے آئیں تو آپ چاہے انکا فیصلہ کریں یا نہ کریں (دونوں کا اختیار ہے) یہ حکم: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ سے منسوخ ہو گیا۔

۱۹۵: عبد اللہ بن محمد نفیلی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاق، داؤد بن حسین، عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ ﴿فَإِنْ جَاءَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ﴾ اور ﴿أَعْرَضَ عَنْهُمْ﴾ نازل ہوئی یعنی جس وقت آپ کے پاس کفار آئیں تو آپ ان لوگوں کا فیصلہ کریں یا نہ کریں اگر فیصلہ کرو تو عدل سے کرو تو سابق میں یہ معمول تھا کہ جب قبیلہ بنو نضیر قبیلہ بنی قریظہ کے لوگوں میں سے کسی کو قتل کر دیتے تھے تو وہ اس کی نصف دیت ادا کرتے تھے اور جب قبیلہ بنو قریظہ قبیلہ بنو نضیر کے کسی شخص کو قتل کر دیتے تھے تو پوری دیت ادا کرتے تھے اس آیت کریمہ کے نازل ہوتے ہی آنحضرت نے دیت برابر کر دی۔

خلاصۃ الباب: صحیح مسلم کی ایک حدیث میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مسلمان اور ایک یہودی اپنا جھگڑا لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب (قضیہ کی تحقیق کے بعد) یہ دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو انہوں نے اس (یہودی) کے حق میں فیصلہ دیا اس یہودی نے (اپنے حق میں فیصلہ نہ کر) کہا ”خدا کی قسم! آپ نے حق کے مطابق فیصلہ دیا ہے یا یہ کہ آپ نے حق تعالیٰ کی توفیق و تائید سے منصفانہ فیصلہ دیا ہے“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (یہ سن کر) اس کے ایک درہ مارا اور فرمایا تجھے کیسے علم ہوا کہ میں نے حق کی مطابق فیصلہ دیا ہے.....؟

اس میں ایک خلیجان تو یہ واقع ہو سکتا ہے کہ عمر نے اس یہودی کو اپنے ڈرے سے کیوں مارا اور آ نکھالیکہ اس نے انکے فیصلہ کے منصفانہ اور برحق ہونے کا اقرار و اعتراف کیا تھا؟ اور ایک اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ عمر کے سوال ”تجھ کو یہ کیسے معلوم ہوا الخ“ اور یہودی کے جواب ”ہم نے تو راتوں میں پایا ہے الخ“ میں مطابقت کیا ہوئی۔ پہلے خلیجان کا جواب تو یہ ہے کہ عمر نے یہودی کو کسی سزا یا غصہ کے طور پر نہیں مارا تھا بلکہ نرمی اور خوش طبعی کے طور پر مارا تھا اور دوسرے اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس بات کو یہودی سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا کہ اس تنازعہ میں حق پر کون ہے لہذا جب اس یہودی نے دیکھا کہ اگر عمر حق سے انحراف کرتے تو فریق مخالف یعنی مسلمان کے حق میں فیصلہ کرتے، اس صورت میں ان کا فیصلہ جی بر انصاف ہوتا اور نہ انکا حق پر قائم رہنا ظاہر ہوتا۔ لہذا جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو معلوم ہوا کہ عمر حق پر قائم ہیں اور انہوں نے انصاف سے انحراف نہیں کیا ہے۔ اور یہی طریقہ کار ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پارہ

۲۳

باب: فیصلہ میں اپنی رائے کو دخل دینا

۱۹۶: حفص بن عمر شعبہ، ابی عون، حارث بن عمرو، حمص کے کچھ حضرات، معاذ بن جبل کے ساتھیوں سے مروی ہے کہ جب آنحضرت نے معاذ کو یمن کی طرف روانہ فرمانے کا ارادہ فرمایا (یعنی قاضی مقرر فرما کر معاذ کو یمن بھیجا) تو آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے گا تو تم کس طرح سے فیصلہ کرو گے؟ معاذ نے فرمایا قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کروں گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم (وہ بات) قرآن میں نہ پاؤ تو انہوں نے عرض کیا آنحضرت کی سنت کے مطابق پھر آپ نے دریافت فرمایا اگر تم رسول اللہ کی سنت میں بھی وہ بات نہ پاؤ اور قرآن کریم میں بھی وہ بات نہ پاؤ؟ معاذ نے عرض کیا پھر میں اپنی سمجھ سے غور و فکر سے دریافت کروں گا اور (معاملہ کا فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی) کوتاہی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت معاذ کے سینہ پر ہاتھ مارا (شاباش دی) اور آپ نے فرمایا تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے اس کا رسول خوش ہے۔

باب اجتهاد الرأی فی القضاء

۱۹۶: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى رَسُولَ اللَّهِ.

قیاس واجتهاد کا ثبوت:

حاصل حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ کی دلیل قرآن کریم میں تلاش کی جائے اس میں نہ ملے تو حدیث شریف میں تلاش کرے اور اس میں بھی نہ ملے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کو دیکھا جائے اور اگر کسی مسئلہ میں اجماع بھی نہ مل سکے تو پھر قیاس کیا جائے بشرطیکہ وہ قیاس قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔

مذکورہ بالا حدیث شریف سے قیاس واجتهاد کے دلیل ہونے کی وضاحت ہے اور اجتهاد و تقلید و قیاس کے حجت شرعیہ ہونے پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "الاقتصاد فی التقليد والاجتهاد" اور حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی کی تالیف فقہ میں اجماع کا مقام تقلید کیا ہے؟ اور حضرت مفتی شفیع علیہ کی تالیف تقلید شخصی، مطبوعہ (جواہر الفقہ جلد اول میں) ملاحظہ فرمائی جائے۔

خلاصۃ الباب ”میں اپنی سمجھ اور غور و فکر سے دریافت کروں گا“ کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قضیہ کا حکم ان مسائل پر قیاس کے ذریعہ حاصل کروں گا جو نصوص یعنی کتاب و سنت میں مذکور ہیں باس طور کہ کتاب و سنت میں اس قضیہ کے مشابہ جو مسائل مذکور ہیں ان کے مطابق اس قضیہ کا حکم و فیصلہ کروں گا۔

مظہر نے بھی اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پہلے میں غور و فکر کروں گا کہ میرے سامنے جو قضیہ پیش ہوا ہے کہ جس کا کوئی حکم کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہے وہ کون سے ایسے مسئلہ سے مشابہ ہے جو کتاب و سنت میں مذکور ہے جب میں ان دونوں کے درمیان مشابہت پاؤں گا تو اس کا وہی حکم و فیصلہ کروں گا جو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں مذکور مسئلہ کا ہے چنانچہ ائمہ مجتہدین کے یہاں اس قیاس پر بہت سے مسائل کا استنباط کیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ان ائمہ مجتہدین نے قیاس کی علت و بنیاد میں اختلاف کیا ہے مثلاً گیہوں کے ربوا (سود) کے حرام ہونے کے بارے میں (یعنی صریح حکم) ہے جب کہ تربوز کے بارے میں ایسی نص نہیں ہے۔ لہذا حضرت امام شافعیؒ نے تربوز کو گیہوں پر قیاس کرتے ہوئے اس کے ربوا کو بھی حرام قرار دیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک گیہوں کے ربوا کے حرام ہونے کی علت اس کا ”کھائی جانے والی چیز“ ہونا ہے اور چونکہ تربوز بھی ”کھائی جانے والی چیز“ ہے اس لئے گیہوں کے حکم پر قیاس کرتے ہوئے اس کا ربوا بھی حرام ہوگا۔ جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک گیہوں کے ربوا کے حرام ہونے کی علت چونکہ اس کا کیل (یا موزون) ہونا ہے اس لئے انہوں نے گیہوں پر چونے کو قیاس کیا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا کہ چونے کا ربوا بھی حرام ہے۔

بہر حال یہ حدیث قیاس و اجتہاد کے مشروع ہونے کی بہت مضبوط دلیل ہے اور اصحاب ظواہر (غیر مقلدین) کے مسلک کے خلاف ہے جو قیاس و اجتہاد کے منکر ہیں۔

۱۹۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

۱۹۷: مسدد یحییٰ شعبہ ابوعمون بن حارث بن عمرو اصحاب معاذ حضرت معاذ بن جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے۔

۱۹۸: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ابْنُ وَهْبٍ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ (سند: ۲) احمد بن عبد الواحد مروان بن محمد سليمان بن بلال عبد العزيز بن محمد كثير بن زيد وليد بن رباح ابو هريرة سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح درست ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ مگر وہ صلح (درست نہیں) جو کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے۔ سليمان بن داود کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان اپنی شرائط پر عمل کریں۔

۱۹۸: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

وَرَاذَ سَلِيمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

۱۹۹: احمد بن صالح، ابن وہب، یونس ابن شہاب، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے انہیں بتایا کہ ان کا قرض ابن ابی حدرد کے ذمہ آتا تھا جس کا انہوں نے عہد نبوی میں مسجد کے اندر تقاضا کیا تو ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ نے سن لیا اس وقت آپ اپنے گھر میں تھے۔ تو آپ مکان سے باہر تشریف لائے اور کمرے کا پردہ اٹھا کر کعب بن مالک کو آوازیں دیں۔ کعب بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ تم نصف قرضہ معاف کر دو۔ حضرت کعب نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ (میں نے آدھا قرضہ) معاف کر دیا۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ابن ابی حدرد سے ارشاد فرمایا اٹھو اور تم قرضہ ادا کر دو۔

۱۹۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقاضَى ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَيْسَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشُّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُمْ فَأَقْبِصِهِ.

قاضی کے صلح کرانے سے متعلق:

مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوا کہ قاضی کو افہام و تفہیم سے فریقین میں مصالحت کر دینا جائز ہے لیکن اس کے لئے زور زبردستی درست نہیں۔ اگر دعویٰ کرنے والا شخص اپنا حق معاف نہ کرے تو قاضی مدعا علیہ سے مدعی کا مطالبہ پورا کرائے گا۔

باب: شہادات کا بیان

۲۰۰: ابن السرح، احمد بن سعید، ابن وہب، مالک بن انس، عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن عمرو، عبدالرحمن بن ابی عمر، حضرت زید بن خالد جہنی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو سب سے بہتر گواہوں کی خبر نہ دوں۔ جو شخص شہادت دیتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں (اس معاملہ کا) گواہ ہوں اس سے پہلے کہ اس سے اسے کہا جائے، عبداللہ بن ابی بکر کو شک ہے کہ ان دونوں میں سے کونسی شہادت مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابوداؤد نے فرمایا امام مالک نے بیان کیا اس سے وہ گواہ مراد ہے جو کہ اپنی شہادت کا اظہار کرے اور اس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ اس کی یہ شہادت کسی شخص کے لئے فائدہ مند ہے۔ ہمدانی نے بیان کیا کہ اس

بَابُ فِي الشَّهَادَاتِ

۲۰۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ عُمَانَ بْنَ عَقَّانٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَادَةِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيُّهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكُ الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي

ہم لے قال الہمدانی ویرفعہا الی السلطان قال ابن السرح او یلی بہا الإمام والایخبار فی حدیث الہمدانی قال ابن السرح ابن ابی عمرو لم یقل عبد الرحمن۔

کو بادشاہ کے پاس لے جائے ابن سرح نے بیان کیا کہ گواہی کو امام کے پاس لے جائے۔ ہمدانی کی روایت میں لفظ اخبار مذکور ہے اور ابن سرح نے (اپنی روایت میں) عبد الرحمن نہیں بیان کیا بلکہ ابن ابی عمر کو لے لیا۔

حق کی گواہی دینے کی تاکید:

مطلب یہ ہے کہ جب دعویٰ کرنے والا اپنے دعویٰ میں سچا ہو اور اس کو گواہ نہ مل رہا ہو اور دوسرے شخص کو اس کے حق کے بارے میں علم ہو تو اس شخص کو چاہئے کہ حاکم یا قاضی کے طلب کئے بغیر خود بخود گواہی دے تاکہ دوسرے کی حق تلفی نہ ہو لیکن آج کے دور میں معاملات اس سچ پر پہنچ گئے ہیں کہ گواہی دینا بذات خود ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ گواہی دینے والے کو ایسے چکروں میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی جان پہ بن آتی ہے لہذا اگر کوئی شخص ان مصائب سے بچنے کے لئے گواہی نہ دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور جس حدیث میں بغیر طلب کے گواہی دینے کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو کہ بغیر طلب کے گواہی دے گی اس سے مراد جمہونی شہادت یا جمہونی قسم کھانا یا قسم لینے سے پہلے قسم کھانا مراد ہے۔ اور سب سے بہتر گواہی کا مطلب یہ ہے کہ گواہ کا مقصد گواہی ظاہر کرنے سے حق کا اظہار مقصود ہو نہ نیاوی بھلائی یا لوگوں میں نیک کام ہونا مقصد نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ شہادت دینا فرض ہے جیسے رمضان المبارک یا عید الاضحیٰ کے چاند وغیرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ اے لوگو! شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔

باب: کوئی شخص فریقین میں کسی ایک کا تعاون کرے

باب فی الرجل ینص علی خصومہ من

اور اس کا علم نہ ہو کہ کونسا فریق حق پر ہے؟

غیر ان ینعلم امرہا

۲۰۱: احمد بن یونس زہیر عمارہ بن غزیہ حضرت یحییٰ بن راشد سے مروی ہے کہ ہم لوگ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ نکلے اور انہوں نے بیٹھ کر کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کوئی حدود روکنے کی سفارش کی تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی اور جس شخص نے ناحق قصداً جھگڑا کیا تو وہ شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا یہاں تک کہ وہ اس جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اور جس شخص نے کسی صاحب ایمان کے سلسلہ میں ایسی بات کہی جو کہ اس میں نہیں تھی تو وہ شخص میل چکیل اور گارے کچھڑ میں رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کرے۔

۲۰۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَمَخْرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخِطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَذَعَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ۔

۲۰۲: علی بن حسین عمر بن یونس عاصم بن محمد شنیٰ بن یزید مطر ناخ

۲۰۲: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

ابن عمرؓ سے روایت بھی اسی طریقہ سے مروی ہے البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جو شخص فساد میں ناحق اور ظلم پر ادا کرے گا تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا (اور وہ دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت میں ضرور رسوا ہوگا)۔

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنِ زَيْدِ الْعَمَرِيِّ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ يَزِيدَ عَنْ
مَطَرِ الرَّزَاقِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بَطَلَمِ
فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ-

باب: جھوٹی شہادت دینا

۲۰۳: یحییٰ بن موسیٰ، محمد بن عبید، سفیان، ان کے والد حبیب بن نعمان، حضرت خرم بن یمن فاتکؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نماز فجر ادا فرمائی اور نماز سے فراغت کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے تین مرتبہ فرمایا: جھوٹی شہادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے کے برابر ہے پھر آپ نے یہ آیت کریمہ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ﴾ تلاوت فرمائی یعنی اے لوگو! تم بتوں کی نجاست سے بچتے رہو اور جھوٹی بات سے بچتے رہو ایک اللہ ہی کی طرف (متوجہ) ہو کر نہ کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کر کے۔

باب فی شہادۃ الزور

۲۰۳: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ يَعْنِي الْعَصْفَرِيَّ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ التُّعْمَانَ الْأَسَدِيِّ عَنْ
خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ
الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدَلْتُ
شَهَادَةَ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مِرَاقٍ لَمْ قَرَأْ
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ-

باب: کس شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی

۲۰۴: حفص بن عمر، محمد بن راشد، سلیمان بن موسیٰ، عمرو بن شعیب، ان کے والد ان کے دادا سے مروی ہے کہ نبیؐ نے خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت اور اپنے (مسلمان) بھائی سے کینہ رکھنے والے شخص کی شہادت کو رد کیا اور اپنے اہل خانہ پر گھر کے ملازم اور نوکر کی گواہی کو بھی رد کر دیا البتہ دوسروں کے حق میں اس ملازم کی گواہی کو جائز قرار دیا۔ امام ابوداؤد نے فرمایا لفظ حنفاء، شخفاء ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اور قانع جو کہ پرانے ملازم کے معنی میں آتا ہے اس کا حکم بھی خاص مزدور کی طرح ہے۔

باب من ترد شہادته

۲۰۴: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ
الْمَخَانِينِ وَالْحَائِنَةِ وَذِي الْعِمْرِ عَلَى أُخِيهِ
وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا
لِغَيْرِهِمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعِمْرُ الْحِنَّةُ
وَالشُّخَاءُ-

۲۰۵: محمد بن خلف، زید بن یحییٰ، سعید بن عبدالعزیز، حضرت سلیمان بن موسیٰ سے اسی طریقہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت کی شہادت جائز نہیں اور جو شخص اپنے (مسلمان) بھائی سے

۲۰۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلْفِ بْنِ طَارِقِ الرَّازِيِّ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبِيدِ الْخَزَاعِيِّ حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
يَأْسَنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجُوزُ

شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي عَمْرٍ عَلَى أَحِيدٍ

بعض رکھے تو اس کی شہادت بھی جائز نہیں (یعنی دنیاوی غرض سے دشمنی رکھے)۔

باب: جنگل کے رہنے والے شخص کی شہر والوں

پر گواہی

۲۰۶: احمد بن سعید، ابن وہب، یحییٰ بن ایوب، نافع بن یزید، ابن الہادی، محمد بن عمرو، عطار بن یسار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شہر والے شخص پر دیہات کے رہنے والے شخص کی شہادت نہیں۔ (کیونکہ اکثر و بیشتر دیہاتی، نا سمجھ ہوتے ہیں)۔

باب: دودھ پلانے کی شہادت

۲۰۷: سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ایوب، حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ مجھ سے عقبہ بن حارث نے حدیث بیان کی اور مجھے اپنے دوست کی روایت اچھی طرح یاد ہے، عقبہ نے کہا میں نے امّ یحییٰ بنت اہاب سے نکاح کیا۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک سیاہ رنگ کی عورت آئی اور اس نے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے (یعنی شوہر بیوی کو) یہ بات سن کر میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا آپ نے توجہ نہ دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عورت جھوٹی ہے آپ نے فرمایا تم کو کیا علم ہے وہ اب ایسا کہہ رہی ہے تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔

۲۰۸: احمد بن ابی شعیب، حارث بن عیسر (دوسری سند) عثمان بن ابی شیبہ، اسمعیل بن علیہ، ایوب، حضرت ابن ابی ملیکہ عبید بن ابی مریم، عقبہ بن حارث اور میں نے (یعنی راوی ابن ابی ملیکہ نے) سنا بھی ہے لیکن مجھ کو عبید کی روایت اچھی طرح یاد ہے پھر روایت اسی طرح نقل کی جس طرح پہلی روایت مذکور ہے۔

باب شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى

أَهْلِ الْأَمْصَارِ

۲۰۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَحْجُزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ۔

باب الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ

۲۰۷: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْنَا امْرَأَةً سَوْدَاءُ فَرَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَآتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعَهَا عَنْكَ۔

۲۰۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَصْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرِيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ فَذَكَرُ

مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ نَظَرَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ أَيُّوبَ.

باب: دورانِ سفر و وصیت سے متعلق کافر، زمی کن گواہی

۲۰۹: زیاد بن ایوب، ہشیم، زکریا شعی سے روایت ہے کہ ایک مسلمان کی تو قوا (نامی بستی) میں موت کا وقت آ گیا اور اس کو کوئی مسلمان نہیں ملا کہ وہ جس کو اپنی وصیت پر گواہ بنائے۔ تو اس نے اہل کتاب کے دو آدمیوں کو گواہ بنایا پھر وہ دونوں کوفہ میں آئے اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے بیان کیا اور اس کا ترجمہ بھی لے کر آئے اور انہوں نے وصیت بھی بیان کی۔ ابو موسیٰ نے فرمایا یہ تو ایسی بات ہے جو کہ نبی کے دور میں ایک مرتبہ پیش آئی تھی پھر اسکے بعد پیش نہیں آئی اس کے بعد ابو موسیٰ نے ان دونوں آدمیوں کو عصر کے بعد حلف دلایا (قسم کھلوانی) کہ اللہ کی قسم! ہم لوگوں نے خیانت نہیں کی نہ جھوٹ بولا نہ بات تبدیل کی نہ کوئی بات پوشیدہ رکھی نہ ہی کوئی تبدیلی کی اور بلاشبہ اس شخص کی یہی وصیت تھی یہی ترک تھا پھر حضرت ابو موسیٰ نے ان لوگوں کی شہادت پر حکم دیا۔

۲۱۰: حسن بن علی، یحییٰ بن آدم، ابن ابی زائدہ، محمد بن القاسم، عبد الملک بن سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مسلمان شخص قبیلہ بنی سہم میں سے تمیم داری اور عدی بن براء کے ساتھ نکلا پھر اس شخص کا ایسے ملک میں انتقال ہو گیا کہ جہاں پر کوئی مسلمان موجود نہ تھا جب وہ دونوں شخص اس کا ترکہ لے کر آئے تو اس میں چاندی کا ایک گلاس کہ جس پر سونے کے پترے لگے ہوئے تھے نہ ملا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حلف دیا۔ پھر وہ گلاس منگے مکرمہ میں ملا جن کے پاس ملا انہوں نے کہا ہم نے اس کو تمیم اور عدی سے خریدا اسکے بعد وہ شخص اس سہمی کے ولی میں سے کھڑے ہوئے انہوں نے قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان دونوں کی شہادت سے زیادہ معتبر ہے اور گلاس ہمارے شخص (سہمی کا ہے) اس پر یہ آیت کریمہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ نازل ہوئی۔

بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ
 ۲۰۹: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدُقُوقَاءَ هَذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهَدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَاتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بَنِي كَيْبَةَ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَ وَلَا كَذَبًا وَلَا بَدَلًا وَلَا كَتَمًا وَلَا غَيْرًا وَإِنَّهَا لَوْصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرَكْتُهُمَا فَاْمُضَى شَهَادَتَهُمَا.

۲۱۰: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بَنِي كَيْبَةَ فَقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مَخُوصًا بِاللَّهَبِ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَجَدَ الْجَامَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيِّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ فَتَرَكْتُ فِيهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةَ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْآيَةَ.

باب إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ

الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ

۲۱۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ
 الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ
 وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 ابْتَاعَ قَرْسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ
 لِيَقْضِيَهُ ثُمَّ نَفَسَهُ فَمَسَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيَّ فَطَفِقَ رِجَالٌ
 يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ فَيَسْأَلُونَهُ بِالْقَرْسِ وَلَا
 يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَهُ فَنَادَى
 الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقَالَ إِنْ كُنْتُ
 مُبْتَاعًا هَذَا الْقَرْسِ وَإِلَّا بَعْتُهُ لَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ
 حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ لَقَالَ أَوْ لَيْسَ قَدْ
 ابْتَعْتُهُ مِنْكَ لَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا وَاللَّهِ مَا بَعْتُهُ
 لَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلَى قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ
 الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلَمْ شَهِدًا لَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ
 ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ
 عَلَى خُزَيْمَةَ لَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ لَقَالَ بِتَصَدِيقِكَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ
 خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

حضرت خزیمہؓ کے لئے مخصوص حکم:

مذکورہ حکم کے بارے میں جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ مذکورہ حکم حضرت خزیمہ کے ساتھ خاص تھا دوسرے کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔
 حضرت رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد جس وقت حضرت زید بن ثابتؓ قرآن کریم جمع فرماتے تھے تو لوگ ان کے پاس آیت
 کریمہ لکھ کر لاتے تھے وہ ہر ایک آیت کریمہ کے لئے دو گواہ مانگتے تھے لیکن سورہ برائت کا اخیر حصہ حضرت خزیمہؓ کے پاس ملا تو
 آپ نے ان کی اس خصوصیت کی بنا پر دو گواہوں کا مطالبہ نہ کیا بلکہ ان کی ایک گواہی کو دو گواہیوں کے برابر قرار دیا۔

باب: جس وقت ایک شخص کی شہادت پر قاضی کو یقین

ہو جائے کہ یہ سچا ہے تو اس پر فیصلہ دے سکتا ہے

۲۱۱: محمد بن یحییٰ، حکم بن نافع، شعیب، زہری، عمارہ بن خزیمہ سے مروی
 ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے سنا وہ نبی کے صحابہ میں سے تھے کہ
 آنحضرتؐ نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا پھر آپ نے اس
 اعرابی کو اپنے پیچھے آنے کو فرمایا تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت ادا فرمادیں
 تو آپ جلدی جلدی چلنے لگے اور اس دیہاتی نے اس میں تاخیر کی اور
 کچھ لوگوں نے دیہاتی کے سامنے آنا شروع کر دیا اور اس گھوڑے کا
 بھاؤ تاؤ کرنے لگے اور ان لوگوں کو اس کا علم نہ تھا کہ اس گھوڑے کو آپ
 خرید چکے ہیں۔ اس پر دیہاتی نے نبی کو آواز دی اور کہنے لگا اگر اس
 گھوڑے کو آپ خریدتے ہیں تو خرید لیں ورنہ اس گھوڑے کو میں
 فروخت کر دیتا ہوں یہ بات سن کر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے
 فرمایا کیا میں نے تم سے اس گھوڑے کو نہیں خریدا کیا؟ دیہاتی شخص نے
 کہا نہیں اللہ کی قسم! میں نے آپ کو گھوڑا فروخت نہیں کیا۔ آپ نے
 فرمایا تم گھوڑا میرے ہاتھ فروخت کر چکے ہو۔ دیہاتی شخص نے کہنا
 شروع کر دیا کہ آپ گواہ پیش فرمائیں اس وقت خزیمہ بن ثابتؓ نے کہا
 میں شہادت دیتا ہوں (اسکی کہ آپ گھوڑا قیمتاً خرید چکے ہیں اور وہ شخص
 گھوڑا فروخت کر چکا ہے) تو نبیؐ خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ
 نے (خزیمہ بن ثابت سے) فرمایا تم کس بنیاد پر شہادت دے رہے
 ہو؟ انہوں نے عرض کیا اس وجہ سے کہ میں آپ کو سچا سمجھتا ہوں۔ اس پر
 نبیؐ نے حضرت خزیمہ کی شہادت کو دو شہادت کے قائم مقام قرار دیا۔

باب: ایک حلف اور ایک گواہ کی گواہی پر فیصلہ کرنے

بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ

کابیان

وَالشَّاهِدِ

۲۱۲: عثمان بن ابی شیبہ، حسن، زید بن حباب، سیف بن قیس بن سعد، عمرو بن دینار، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ فرمادیا۔

۲۱۲: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ زَيْدَ بْنِ الْحَبَابِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَيْفُ الْمَكِّيُّ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ۔

ایک ہی گواہ پر فیصلہ:

مراد یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والے شخص کے پاس ایک ہی گواہ موجود تھا آپ نے دعویٰ کرنے والے سے قسم لے کر فیصلہ فرمایا۔ یہ قسم ایک گواہ کے قائم مقام تھی۔ یہ بھی خصوصی قسم کا مقدمہ ہے جس میں ایک گواہ اور ایک قسم پر آپ نے فیصلہ فرمایا۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما اسی حدیث کے تحت ایک گواہ اور ایک قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تاہم احناف کے ہاں دو مرد گواہوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہونا ضروری ہے۔ ان کا استدلال قرآن کریم کی آیت: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ۲۸۲] اور دیگر متعدد احادیث ہیں۔

۲۱۳: محمد بن یحییٰ، سلمہ بن شیبہ، عبدالرزاق، محمد بن مسلم، عمرو بن دینار بھی اسی طرح روایت بیان کرتے ہیں سلمہ نے اپنی روایت میں اسی طرح بیان کیا ہے کہ عمرو نے یہ بیان کیا کہ یہ فیصلہ حقوق کے سلسلہ میں تھا (حدود سے متعلق نہیں تھا)۔

۲۱۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَسَلْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سَلْمَةُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَمْرُو فِي الْحُقُوقِ۔

۲۱۴: احمد بن ابی بکر، دراوردی، ربیعہ، سہیل، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ فرمادیا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ربیعہ نے اس حدیث کی سند میں یہ اضافہ بیان کیا کہ شافعی، عبدالعزیز تو میں نے سہیل سے اس کو بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے ربیعہ نے بیان کیا اور میرے نزدیک وہ مستند ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنا لی تھی لیکن مجھ کو یہ حدیث یاد نہیں ہے۔ عبدالعزیز نے فرمایا سہیل کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس سے ان کی عقل میں کچھ خلل آ گیا تھا اور وہ کچھ حدیثوں کو بھول گئے تھے سہیل اس کے بعد ربیعہ ان کے والد

۲۱۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا الدَّرَّاورْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَدَكْرَتْ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةَ وَهُوَ عِنْدِي لَقَدْ أَنَى حَدِيثَهُ يَا هُ وَلَا أَحْفَظُهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلًا

عَلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ
فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ -

حنفیه کے نزدیک نصاب گواہی:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی معاملہ کے فیصلہ کے لئے دو مسلمان عاقل بالغ مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ جائز نہیں ہے۔ شروحات حدیث بذل المجہود فتح الملہم شرح مسلم میں اس مسئلہ اور مذکورہ حدیث کے جواب میں تفصیلی بحث مذکور ہے۔ اور حنفیہ کی دلیل دوسری روایات ہیں۔

۲۱۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ
بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ يَأْسَدِ بْنِ مِصْعَبٍ وَمَعْنَاهُ
قَالَ سُلَيْمَانٌ فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا
الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَبِيعَةَ
أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ قَالَ فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ
عَنِّي فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي -

۲۱۵: محمد بن داؤد زیاذ سلیمان بن بلال نے ربیعہ سے ابی مصعب کی سند کے ساتھ اسی طریقہ سے روایت کیا ہے۔ سلیمان نے بیان کیا کہ میں نے سہیل سے ملاقات کر کے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے علم نہیں۔ میں نے کہا کہ ربیعہ نے تو آپ کے ذریعہ سے مجھ کو یہ حدیث بتلائی ہے انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو تم پھر اس حدیث کو ربیعہ اور میرے ذریعہ سے بیان کرتے رہو۔

۲۱۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ
شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَنْبَرِيُّ
حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي الزُّبَيْرَ يَقُولُ
بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ
فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَأْفَوْهُمْ
إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَّا
أَسْلَمْنَا وَخَضَرْنَا آذَانَ النَّعَمِ فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرِ
قَالَ لِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَكُمْ بَيْنَهُ عَلَى أَنْكُمْ
أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ قُلْتُ
نَعَمْ قَالَ مَنْ يَسْتَكُ قُلْتُ سَمْرَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي
الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ فَشَهِدَ الرَّجُلُ
وَأَبَى سَمْرَةَ أَنْ يَشْهَدَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَدْ

۲۱۶: احمد بن عبدہ حضرت عمار بن شعیب اپنے والد ان کے دادا زبیب مخزومی سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قبیلہ بنی العنبر کی جانب ایک لشکر روانہ فرمایا اہل لشکر نے ان کو کہہ (طائف کے قریب گاؤں) میں گرفتار کر لیا اور ان کو گرفتار کر کے خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہوئے (تو میں سوار شخص تھا اس بناء پر) میں آگے آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا میں نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! آپ کا لشکر ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم کو پکڑ لیا حالانکہ ہم اسلام لائے تھے اور ہم لوگوں نے جانوروں کے کان کاٹ ڈالے تھے جس وقت قبیلہ بنی العنبر کے افراد آئے تو مجھ سے حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے کہ تم گرفتار ہونے سے قبل اسلام لائے تھے میں نے عرض کیا جی ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کون شخص ہے؟ میں نے عرض کیا سمرہ! جو کہ قبیلہ بنی العنبر میں سے ایک شخص تھے اور ایک صاحب جن کا زبیب نے نام لیا۔ پھر اس شخص نے تو شہادت پیش کی اور سمرہ نے شہادت سے انکار کر دیا۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے

ارشاد فرمایا کہ سرہ نے تو شہادت دینے سے انکار کر دیا اب کیا تم اپنے گواہ کے ساتھ قسم کھا لو گے؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے مجھے اللہ کی قسم دلائی تو میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ بلاشبہ ہم فلاں فلاں دن اسلام لے آئے تھے اور ہم نے اپنے جانوروں کے کان چیر دیئے تھے آپ نے اہل لشکر سے فرمایا تم لوگ جاؤ اور ان کا آدھا مال تقسیم کر لو اور ان کی اولاد کو ہاتھ نہ لگاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجاہدین کی کوشش ضائع ہونا مذموم نہ خیال فرماتے تو ہم لوگ تمہارے مال دولت میں سے ایک رسی بھی نہ لیتے۔ زبیب نے بیان کیا مجھ کو میری والدہ نے بلایا اور فرمایا اس شخص نے میری توشک چھین لی ہے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا اس کو پکڑ لو اور میں نے اس شخص کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو پکڑا اور میں اپنی جگہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ہم دونوں کو کھڑا ہوا دیکھ کر فرمایا تم اپنے قیدی سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آنحضرت ﷺ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس شخص سے فرمایا تم اس کی والدہ کی توشک دے دو جو تم نے لی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ توشک میرے پاس سے ضائع ہو گئی ہے آپ نے اس شخص کی تلوار مجھ کو عنایت فرمادی اور اس شخص سے فرمایا تم جاؤ اور اناج کے کئی صاع اس شخص کو مزید دے دو اور زبیب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے چند صاع جو کے دیئے۔

أَبِي أَنْ يَشْهَدَ لَكَ فَخَلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الْآخَرَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِي فَخَلَفْتُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَخَضَرْنَا آذَانَ النَّعَمِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَذْهَبُوا فَفَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ وَلَا تَمَسُّوا ذَرَائِبَهُمْ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ضَلَالَةَ نَمَلٍ مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالًا قَالَ الزُّبَيْبُ فَدَعَيْتَنِي أُمِّي فَقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زُرْبِي فَأَنْصَرَفْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي أَحْسِبُهُ فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيهِ وَقَمْتُ مَعَهُ مَكَانًا ثُمَّ نَظَرُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَمِينُ فَقَالَ مَا تُرِيدُ بِأَسْبِرِكَ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ رُدَّ عَلَيَّ هَذَا زُرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي قَالَ فَاخْتَلَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيهِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ أَذْهَبَ فَرِذُهُ أَصْعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ فَرَأَيْتَنِي أَصْعًا مِنْ شَعِيرٍ۔

درمیانہ درجہ کا حکم:

مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر ان کا کفر ثابت ہو جاتا تو ان کا تمام اثاثہ مسلمانوں کی ملکیت ہو جاتا اور اگر ان کا مسلمان ہونا ثبوت شرعی سے ثابت ہو جاتا تو وہ بالکل آزاد رہتے اور ان کا مال مسلمانوں پر حلال ہوتا کیونکہ ثبوت متوسط درجہ کا ہے اس لئے اس کی مناسبت سے حکم بھی درمیانہ درجہ کا حکم دیا گیا کہ تم دونوں آدھا آدھا مال لے کر مصالحت کر لو اور اختلاف نہ کرو۔

باب الرَّجُلَيْنِ يَدْعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لِهَمَّا بَيِّنَةٌ

باب: دو آدمیوں کے ایک شے کے مدعی ہونے اور کسی کے پاس گواہ نہ ہونے کا بیان

۲۱۷: محمد بن منہال یزید بن زریج ابن ابی عروبة قتادة سعيد بن ابی بردة ان کے والد ان کے دادا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ دو

۲۱۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ الصَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

آدمیوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک اونٹ یا کسی اور جانور کا دعویٰ دائر کیا اور ان دونوں آدمیوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھا۔ پھر آپ نے اس جانور یا اونٹ کو ان دونوں کے درمیان مشترک قرار دے دیا۔

۲۱۸: حسن بن علی، یحییٰ بن آدم، عبدالرحیم بن سلیمان، حضرت سعید سے اسی طریقہ سے روایت ہے۔

۲۱۹: محمد بن بشر، حجاج، ہمام، قتادہ سے اسی سند سے مروی ہے عہد نبوی میں دو آدمیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں دعویٰ کیا اور ہر ایک شخص نے اپنے دعویٰ کے دو گواہ خدمت نبوی میں پیش کئے تو آنحضرت ﷺ نے اس اونٹ کو دونوں آدمیوں کے درمیان آدھا، آدھا (مشترک) تقسیم فرمادیا۔

۲۲۰: محمد بن منہال، یزید بن زریع، ابن ابی عروبہ، قتادہ، خلاص، ابورافع، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ دو شخص خدمت نبوی میں ایک شے کے بارے میں جھگڑا لے کر حاضر ہوئے اور ان دونوں شخصوں میں سے کسی کے پاس بھی گواہ موجود نہیں تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے قسم پر قرعہ اندازی کرنے کے لئے حکم فرمایا خواہ اس قسم کے کھانے کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعِيَا بَعِيرًا أَوْ ذَابْتًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا۔

۲۱۸: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ۔

۲۱۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعِيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا بِنُصْفَيْنِ۔

۲۲۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاصٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَهَمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبًّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهًا۔

قرعہ اندازی کے بعد قسم:

مفہوم حدیث یہ ہے کہ پہلے تم دونوں قرعہ الوجل جس شخص کا نام قرعہ میں نکل آئے تو وہ شخص قسم کھا کر وہ چیز لے سکتا ہے۔

۲۲۱: احمد بن حنبل، سلمہ بن شیب، عبدالرزاق، معمر، ہمام، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب دو شخص قسم کھانے یا حلف لینے کو برا سمجھیں یا اچھا سمجھیں تو اس پر قرعہ اندازی کریں (جس شخص کے نام پر قرعہ نکل آئے تو وہ شخص حلف کر کے اس شے کو لے لے) سلمہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث معمر نے سنائی اور کجورۃ الاثنان علی الیمین کے بجائے کجورۃ الاثنان الیمین کہا۔

۲۲۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا كُورَةُ الْاِثْنَانِ الْيَمِينِ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلَيْسَتْهُمَا عَلَيْهَا قَالَ سَلْمَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا أُكْرِهَ الْاِثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ۔

۲۲۲: ابوبکر بن ابی شیبہ، خالد بن حارث، حضرت سعید بن ابی عروبہ سے

۲۲۲: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ

اسی طریقہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ایک جانور کے معاملہ میں جھگڑا کیا اور ان دونوں آدمیوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھا تو آنحضرت ﷺ نے ان کے حلف کرنے پر قہر اندازی کا حکم فرمایا۔

بْنُ الْخَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ يَأْسِنَادُ ابْنِ مِيْهَالٍ مِثْلَهُ قَالَ فِي دَابَّةٍ وَكَيْسٍ لَّهُمَا بَيْنَهُمَا فَاَمْرُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهْمَا عَلَى الْيَمِينِ۔

باب: اگر مدعی کے پاس گواہ موجود نہ ہوں تو مدعا علیہ

بَابِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى

کو حلف لینا چاہئے

عَلَيْهِ

۲۲۳: عبد اللہ بن مسلمہ، نافع بن عمر، حضرت ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تحریر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ کو حلف لینے کا فیصلہ فرمایا ہے۔

۲۲۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ۔

مدعا علیہ پر قسم:

مدعا علیہ پر قسم کھانا اس صورت میں ضروری ہے جبکہ مدعا علیہ مدعی کے دعویٰ کے درست ہونے کا انکار کر دے اور دعویٰ کرنے والے شخص کے پاس گواہ موجود نہ ہوں اگر مدعی کے پاس ثبوت یا گواہ ہوں تو فیصلہ اس کے مطابق ہوگا جو حدیث میں ہے: ((البنیة علی المدعی والیمن علی من انکر))۔

باب: حلف لینے کا طریقہ

بَابِ كَيْفَ الْيَمِينِ

۲۲۴: مسدؤ ابو الاحوص، عطاء بن سائب، ابو یحییٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو قسم کھلائی تو آپ نے اس شخص سے اس طرح فرمایا تم اس اللہ کی قسم کھاؤ جس کے ☆☆ علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ تمہارے ذمہ دعویٰ کرنے والے شخص کی کوئی شے نہیں ہے۔

۲۲۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَعْنِي لِرَجُلٍ حَلَفَهُ اِحْلَفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَكَ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعْنِي لِلْمُدَّعَى۔

باب: جس وقت مدعا علیہ کا فرزند می ہو تو اس سے حلف

بَابِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

لیا جائے یا نہیں؟

ذَمِيًّا أَيْ حَلِفٌ

۲۲۵: محمد بن عیسیٰ، ابو معاویہ، اعمش، شقیق، حضرت اشعث سے مروی ہے کہ میرے اور ایک یہودی شخص کے درمیان کچھ زمین مشترک تھی یہودی نے میرے حصہ کا انکار کر دیا۔ میں اس کو آنحضرت ﷺ کے پاس لے گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود

۲۲۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَعَلَنِي لِقَدَمَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي

ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے یہودی سے فرمایا: تم قسم کھاؤ۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! تم قسم کھا کر میرا مال لے اڑے گا تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَهْلِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ نازل فرمائی۔

باب: کسی آدمی کو کسی واقعہ کے علم کی بنا پر قسم دینا جبکہ وہ واقعہ اس کی موجودگی میں نہیں ہوا

۲۲۶: محمود بن خالد حارث بن سلیمان، کر دوس حضرت اشعث بن قیس سے مروی ہے کہ قبیلہ کنہ کا ایک شخص اور حضرموت کا ایک شخص زمین کے معاملہ میں خدمت نبوی میں جھگڑالے کر آیا حضرمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری زمین کو اس شخص کے والد نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے اور وہ زمین اب اس کے قبضہ میں ہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ موجود ہے؟ عرض کیا نہیں۔ مگر میں کندی شخص کو اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ یہ شخص اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ میری زمین ہے اور اس کے والد نے اس پر زبردستی قبضہ کیا تھا تو کندی شخص قسم کھانے پر راضی ہو گیا اور پھر مذکورہ حدیث بیان فرمائی۔

۲۲۷: ہناد بن سری، ابوالاحوص، سہاک، علقمہ بن وائل، حضرت وائل بن حجر حضرمی سے مروی ہے کہ ایک حضرمی اور ایک کندی شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضرمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے میرے والد کی زمین غصب کر لی ہے۔ کندی شخص نے عرض کیا کہ وہ میری زمین ہے میں اس زمین میں کاشت کرتا ہوں اس شخص کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے حضرمی سے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے سامنے یہ قسم کھائے گا (یعنی جب تمہارے پاس گواہ موجود نہیں تو کندی قسم کھائے گا) حضرمی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فاسق آدمی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس طرح کی قسم کھا رہا ہے وہ متقی آدمی نہیں ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ قسم کے علاوہ تمہارے لئے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

النَّبِيِّ ﷺ أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْيَهُودِيِّ أَحْلِفْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَىٰ عَلَيْهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ

۲۲۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْقُرْبَائِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي كُرْدُوسُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَتْهَا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَحْلِفْهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَتْهَا أَبُوهُ فَتَهَا بِالْكِنْدِيِّ يَعْنِي لِلْيَمَنِ وَسَأَى الْحَدِيثَ۔

۲۲۷: حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا عَلَيَّ عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَرْزَعُهَا لَيْسَ لَهَا فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَكَانَ يَمِينُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ بِبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ بِتَوَرُّعٍ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ۔

بَابُ كَيْفَ يَحْلِفُ الذِّمِّيُّ

۲۲۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مَرْبِئَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْني لِلْيَهُودِ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى -

۲۲۹: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَيَأْسَدُهُ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مَرْبِئَةَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيْبِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ -

۲۳۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَعْني لِابْنِ صُورِيَا أذْكَرُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَأَقْطَعَكُمْ الْبَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الْمَنَ وَالسَّلْوَى وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَتَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ قَالَ ذَكَرْتَنِي بِعَظِيمٍ وَلَا يَسْعَيْنِي أَنْ أَكْذِبَكَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ -

ایک گواہی اور ایک معجزہ:

آخری جملہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ابن صوریہ کے کہنے کے بعد زانی کو سنگسار کرنے کا حکم تورات میں نکلا اور زانیہ کے کہنے کے بعد زانیہ کو سنگسار کیا گیا اور سمندر میں راستہ بنانے سے مراد بحر قلزم میں بطور معجزہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے راستہ بنانے کے مشہور واقعہ کی جانب اشارہ ہے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّهِ

باب: اپنے حق کی خاطر کسی کا قسم کھانا

باب: کافر ذمی کو کس طریقہ سے قسم دلائی جائے؟
۲۲۸: محمد بن یحییٰ، عبدالرزاق، معمر زہری، مزینہ کا ایک شخص، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے یہودیوں سے فرمایا تم لوگوں کو میں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تم لوگ زنا کرنے والے شخص کے بارے میں تورات میں کیا حکم پاتے ہو؟ (آپ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب کہ یہود نے اس بات کا انکار کر دیا کہ زانی کو سنگسار کرنے کی سزا تورات میں مذکور نہیں ہے)
۲۲۹: عبدالعزیز بن یحییٰ، ابوالاصغ، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاق، حضرت زہری سے بالکل اسی طریقہ سے روایت ہے کہ مجھ سے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے جو کہ علم کا اتباع کرنے والا اور علم کا حفاظت کرنے والا شخص (یعنی عالم باعمل) تھا اس نے آخر حدیث تک بیان کیا۔

۲۳۰: محمد بن ثنی، عبدالاعلیٰ، سعید، قتادہ، عکرمہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے (یہود کے ایک عالم) ابن صوریہ سے یہ بات ارشاد فرمائی میں تم لوگوں کو اس اللہ کی یاد دلاتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور تمہارے لئے سمندر میں راستہ بنا دیا اور تم لوگوں پر بادل کا سایہ کیا اور پھر من و سلویٰ نازل فرمایا اور تورات کو موسیٰ پر نازل فرمایا۔ کیا تم لوگوں کی کتاب تورات میں (زنا کرنے والے شخص کو) سنگسار کرنے کا حکم مذکور ہے؟ ابن صوریہ نے کہا آپ نے بہت بڑی ذات کا حوالہ دیا ہے اب (اسکے بعد) میرے لئے جھوٹ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر حدیث کو آخر تک بیان کیا گیا۔

۲۳۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ وَمُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقْمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عُرْفٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْحَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

۲۳۱: عبد الوہاب، موسیٰ، بقیہ بن ولید، بحیر بن سعید، خالد بن معدان، سیف، حضرت عرف بن مالک سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دو آدمیوں کا فیصلہ فرمایا تو جو شخص مقدمہ ہار گیا تھا اس نے فیصلہ (سننے کے بعد) کہا میرے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس شخص سے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حماقت پر ملامت فرماتا ہے مگر تمہارے لئے سمجھ داری عقل مندی ضروری ہے پھر اگر تم کو کسی وجہ سے (مقدمہ میں) شکست ہو جائے تو تم یہ کہو اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔

باب: قرض کی بناء پر کسی کو قید کرنے کا بیان

۲۳۲: عبد اللہ بن محمد، عبد اللہ بن مبارک، و بر بن ابی دلیہ، حضرت شریذ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دولت مند شخص کا قرض ادا نہ کرنا اس کی عزت خراب کرنے اور اس کی سزا کو درست قرار دے دیتا ہے۔ ابن مبارک نے بیان کیا کہ عزت خراب کرنے سے مراد اس سے تیز کلامی اور تمبیہ ہے اور سزا سے مراد اس کو قید کرنا ہے۔

۲۳۳: معاذ بن اسد، نضر بن شمیل، حضرت ہرماں بن حبیب جو جنگ کے رہنے والے ایک شخص تھے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی میں ایک مقروض شخص کو لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا تم اس شخص کے ساتھ رہو پھر آپ نے فرمایا اے بنو تمیم کے بھائی تم اپنے قیدی سے کیا چاہتے ہو؟

۲۳۴: ابراہیم بن موسیٰ، عبدالرزاق، معمر، حضرت بہز بن حکیم نے اپنے والد سے روایت کی اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو بوجہ الزام کے گرفتار کیا تھا۔

باب فی الحیس فی الدین وغیرہ

۲۳۲: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّقْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دَلِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْتِي الْوَالِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُغْلَظُ لَهُ وَعَقُوبَتَهُ يُحْسِنُ لَهُ۔

۲۳۳: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ أَخْبَرَنَا هِرْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ لِي الزُّمَةُ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ۔

۲۳۴: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ۔

تہمت کی وجہ سے گرفتار کرنا:

مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کے خلاف مکمل الزام ثابت نہیں تھا صرف اس پر ایک جرم کی تہمت لگی تھی آپ نے تحقیقات مکمل ہونے تک اس کو گرفتار کر لیا تھا۔

۲۳۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَةَ مَوْلَى بَنِي هِشَامِ اسْمَاعِيلَ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ نِ ابْنِ وَالِدِ

سے انہوں نے انکے دادا سے روایت کی ہے ابن قدامہ نے اپنی روایت میں بھائی یا چچا کا تذکرہ کیا ہے جبکہ مؤمل نے کہا کہ وہ نبی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے وہ کہنے لگا کہ میرے پڑوسیوں نے میرا حق مار لیا ہے۔ لیکن نبی نے اس پر دو مرتبہ توجہ نہ دی پھر اس نے کسی شے کا تذکرہ کیا تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا اس شخص کی اسکے پڑوسیوں سے جان چھڑاؤ اس روایت میں مؤمل نے وَهُوَ يَخْطُبُ یعنی آپ خطبہ دے رہے تھے کے لفظ کو بیان نہیں کیا۔

باب: وکالت کا بیان

۲۳۶: عبید اللہ بن سعد انکے چچا ان کے والد ابن اسحاق ابو نعیم حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خیبر کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا تو میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا میرا خیبر جانے کا ارادہ ہے تو آپ نے مجھ سے فرمایا جب تم ہمارے وکیل سے ملاقات کرو تو تم ان سے مجبور کے پندرہ سق لے لینا اگر وہ تم سے نشانی کا مطالبہ کریں تو تم اپنا ہاتھ ان کے گلے پر رکھ دینا (یہی نشانی مقرر فرمائی گئی تھی)۔

باب: قضاء کے مزید احکام

۲۳۷: مسلم بن ابراہیم، ثنی بن سعید، قتادہ، بشیر بن کعب، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ راستہ میں جھگڑا کرو تو تم سات ہاتھ (کے بقدر) راستہ چھوڑو۔

باب من القضاء

۲۳۷: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُغَنَّى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَبَدَّارْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ۔

سڑک کے راستہ کی مقدار:

مفہوم حدیث یہ ہے کہ راستہ میں نہ جھگڑو۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو راہ گیروں اور جانوروں کے چلنے کے لئے سات ہاتھ کا راستہ چھوڑ دو۔

۲۳۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالََا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

۲۳۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالََا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

۲۳۸: مسدّد ابن ابی خلف، سفیان، زہری، اعرج، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کا کوئی بھائی تم سے

تمہاری دیوار کے اندر لکڑی (وغیرہ) گاڑنے کی اجازت مانگے تو تم اسکو منع نہ کرو۔ یہ بات سن کر لوگوں نے اپنا سر نیچے کر لیا، پھر ابو ہریرہؓ نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم لوگ اس حدیث کو توجہ سے نہیں سنتے ہو میں یہ حدیث تمہارے کندھوں کے درمیان ڈالتا رہوں گا یعنی تمہیں بار بار سنا تا رہوں گا۔

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ فَنَكَسُوا فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ اعْرَضْتُمْ لِأَلْقِينَهَا بَيْنَ أَكْتافِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي خَلْفٍ وَهُوَ أَمُّ.

پڑوسی کا حق:

مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار میں کوئی میخ گاڑنا چاہے یا دیوار لینٹرو وغیرہ میں لکڑی رکھنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو اچھا یہ ہے کہ اجازت دے دو۔ حاصل حدیث یہی ہے لیکن واضح رہے کہ پڑوسی کی بلا اجازت دیوار میں میخ گاڑنا یا دیوار پر اپنی کڑی رکھنا جائز نہیں ہے اجازت لینا ضروری ہے۔

۲۳۹: تميم بن سعيد، يحيى بن محمد بن يحيى، ابو داؤد فرماتے ہیں کہ تميم کے علاوہ دوسرے راویوں نے صاحب النبی ﷺ کا ذکر کیا ہے سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی دوسرے کو (بلا وجہ شرعی) نقصان یا تکلیف پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو نقصان پہنچائے گا اور جو شخص کسی شخص سے عداوت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے عداوت رکھے گا۔

۲۳۹: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ لَوْلُؤَةَ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ قَالَ غَيْرَ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ.

۲۴۰: سليمان بن حماد واصل، سمرة بن جندب سے مروی ہے کہ ایک انصاری شخص کے باغ میں ان کے بھی کھجور کے چند درخت تھے اور ان انصاری کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی تھے تو سمرةؓ جب اپنے درختوں کے پاس جاتے تو انصاری شخص کو (انکے آنے سے) ڈشوا رہتی تھی اور انکے آنے سے انکو اذیت پہنچتی اسلئے وہ درخت انصاری نے سمرةؓ سے خریدنا چاہے لیکن سمرة نے (فروخت کرنے سے) انکا ذکر دیا) پھر وہ درخت تبادلہ پر مانگے تو جب بھی سمرةؓ نے انکا کر دیا پھر انہوں نے نبی سے تذکرہ کیا آپ نے سمرة سے فرمایا تم اپنے درخت فروخت کر دو۔ انہوں نے آپ کی بات نہ مانی پھر آپ نے فرمایا تم (اپنے درخت) ان سے تبدیل کر لو۔ یہ بات بھی انہوں نے نہیں مانی پھر فرمایا (وہ درخت ان انصاری کو) بہہ کر دو اور اس کے معاوضہ میں یہ لے لو۔ آپ نے کافی ترغیب دی مگر سمرةؓ نے (کوئی بات) نہیں مانی۔

۲۴۰: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عِيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ قَالَ لَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَدَّى بِهِ وَيَشْقُ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَتَّقِلَهُ فَأَبَى فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَتَّقِلَهُ فَأَبَى قَالَ فَبِهِهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَبَهُ فِيهِ فَأَبَى فَقَالَ أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ

اس پر آپ نے فرمایا تم (دوسروں کو) تکلیف پہنچانے والے ہو پھر آپ نے انصاری سے فرمایا تم جا کر ان کے درختوں کو کھا دو۔

۲۴۱: ابو الولید لیث زہری عروہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت زبیر سے نالیوں کے معاملہ میں جھگڑنا شروع کیا جو نالیاں پتھر لے مقام سے آرہی تھیں اور ان نالیوں سے کھیتوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ انصاری نے کہا تم پانی کو بننے دو تو حضرت زبیر نے اس سے انکار کر دیا۔ آپ نے حضرت زبیر سے فرمایا اے زبیر! تم اپنے کھیت کی سیچائی کر لو پھر تم پانی اپنے بڑوسی کی طرف چھوڑ دو رولوی کہتے ہیں کہ اس بات پر انصاری کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ زبیر تو آپ کی چھو بھی کے صاحبزادہ ہیں۔ تو یہ بات سن کر آپ کا چہرہ انور غصہ سے تبدیل ہو گیا اور آپ نے حضرت زبیر سے فرمایا تم اپنے کھیت کی سیچائی کر کے پانی کو روک دو یہاں تک کہ پانی کھیت کے کناروں تک بھر جائے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرا گمان ہے یہ آیت کریمہ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ﴾ اس سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ إِذْ هَبَ فَأَقْلَعُ نَحْلَهُ.

۲۴۱: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّلِبِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَوْرَةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَّخَ الْمَاءَ يَمْرُقًا فَبَيَّ عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ قَالَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ أَحْبَسَ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَوْلَ اللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ الْآيَةَ.

رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کی اہمیت:

فَلَا وَرَبِّكَ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے پروردگار کی قسم وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں حاکم بنا دیں پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں اس سے اعراض نہ کریں اور وہ فیصلہ تسلیم کر لیں۔

۲۴۲: محمد بن علاء ابواسامہ ولید ابوما لک حضرت ثعلبہ بن ابی مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ایک قریشی شخص تھا جو قبیلہ بنی قریظہ کے ساتھ پانی میں شریک تھا پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹالے کے پانی کے بارے میں فریاد کی کہ جس ٹالہ کا پانی تمام لوگ باہمی طور پر تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جب تک پانی ٹخنوں تک نہ ہو جائے اوپر والا شخص نیچے کھیت والے شخص کا پانی نہ روکے۔

۲۴۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ كِبْرَانَهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَهْزُورٍ يَعْنِي السَّيْلَ الَّذِي يَقْتَسِمُونَ مَائَهُ فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبِيِّنَ لَا يَحْبَسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ.

۲۴۳: احمد بن عبدہ مغیرہ ان کے والد حضرت عمرو بن شعیب ان

۲۴۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُغِيرَةَ بِنِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي السَّبِيلِ
الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ
يُرْسَلَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ۔

کے والد ان کے دادا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے مہزور (نامی میدان) کے نالہ کے سلسلہ میں اس طرح فیصلہ
فرمایا کہ اس نالہ کا پانی بند کر دیا جائے جب تک کہ وہ پانی ٹخنوں تک
پہنچے پھر اوپر والا شخص نیچے والے شخص کے کھیت کے لئے پانی چھوڑ
دے۔

پڑوسی کی رعایت کا حکم:

منہوم یہ ہے کہ جس شخص کا کھیت اونچائی پر واقع ہو جب اس کھیت کا پانی ٹخنوں تک پہنچ جائے تو وہ شخص اپنے کھیت سے نیچے
والے دوسرے شخص کے کھیت کے لئے پانی چھوڑ دے اس نیچے کے کھیت والے شخص کو بھی چاہئے کہ جس وقت پانی ٹخنوں تک ہو
جائے تو دوسرے شخص کے کھیت میں پانی چھوڑ دے۔

۲۳۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
عُمَانَ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِي طَوْلَةَ وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ فِي تَحْرِيمِ نَخْلَةٍ فِي حَدِيثِ
أَحَدِهِمَا فَأَمَرَ بِهَا فَنَدَرَتْ فَوَجِدَتْ سَبْعَةَ
أَذْرَعٍ وَفِي حَدِيثِ الْآخَرِ فَوَجِدَتْ خَمْسَةَ
أَذْرَعٍ فَقَضَى بِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ
بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَنَدَرَتْ۔

۲۳۳: محمود بن خالد محمد بن عثمان، عبدالعزیز بن محمد ابوطوالہ عمرو بن یحییٰ،
ان کے والد حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ دو آدمیوں نے
نخلستان کے حریم (باغ کے ساتھ والی زمین) کے بارے میں
آنحضرت ﷺ کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا۔ ایک راوی نے کہا کہ
آپ نے اس کی پیمائش کا حکم فرمایا تو وہ زمین سات ہاتھ نکلے دوسری
روایت میں ہے کہ وہ زمین پانچ ہاتھ نکلے تو آپ ﷺ نے اس کا فیصلہ
فرمادیا۔ عبدالعزیز نے بیان فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے اسی درخت کی
شاخ سے پیمائش کرنے کے لئے حکم فرمایا تو (اسی درخت کی شاخ
سے) اس کی پیمائش کی گئی۔

درخت کے نیچے کی حد سے متعلق حکم:

آنحضرت ﷺ نے درخت کے نیچے کی زمین کی حد سات ہاتھ قرار دی یہ معاملہ کھجور کے درخت کے سلسلہ میں پیش آیا تھا
بہر حال دیگر درختوں میں اس کے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے اندازہ قائم کر لینا ضروری ہے۔ دوسری روایت میں درخت
کی حد پانچ ہاتھ نکلنے کی وضاحت ہے۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْعِلْمِ

باب: فضیلت علم

باب فی فضل العلم

۲۳۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرُهٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
مَسَدَّدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ عَامِ بْنِ رَجَاءَ دَاوُدَ بْنِ جَبِيلٍ كَثِيرِ بْنِ قَيْسِ

سے مروی ہے میں ابودرداءؓ کے پاس مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس وقت ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور نے ان سے کہا کہ میں آپ کے پاس آنحضرت ﷺ کے شہر سے آیا ہوں ایک حدیث رسول کے لئے مجھ کو اطلاع ملی ہے کہ آپ اس حدیث کو آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں اور میں آپ کے پاس کسی دوسرے مقصد سے نہیں آیا۔ حضرت ابودرداءؓ نے کہا بے شک میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے راستہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلاتا ہے اور طالب علم کی خوشی کے لئے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور بلاشبہ جو زمین و آسمان میں رہنے والے ہیں وہ سب عالم کے لئے مغفرت چاہتے ہیں یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں (بھی عالم کے لئے مغفرت چاہتی ہیں) اور عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسی ہے کہ جس طرح چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور بے شک علماء ہی حضرت انبیاء کرام ﷺ کے وارث ہیں اور حضرات انبیاء ﷺ نے کسی کو درہم و دینار میں اپنا وارث مقرر نہیں فرمایا انہوں نے صرف علم کی وراثت کو چھوڑا ہے تو جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے مکمل حصہ حاصل کیا۔

اللَّهُ بِنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَرَجَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَفِيرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيَتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكُوكَبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ لَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَالْهِرِ -

انبیاء ﷺ کی دولت:

مفہوم حدیث یہ ہے کہ حضرات انبیاء ﷺ نے جو دولت حاصل فرمائی وہ دنیاوی دولت نہیں تھی بلکہ علم کی دولت تھی اور ان نفوس قدسیہ نے وراثت میں علم ہی چھوڑا کہ جس کے امین علماء کرام ہیں۔

علم کی قدر و قیمت کو قرآن و حدیث میں بے شمار موقعوں پر طشت از باہم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”بلاشبہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا (یعنی حقیقی عالم اس دنیا سے اٹھ جائیں گے یا یہ کہ علماء کی قدر و منزلت اٹھ جائے گی) جہالت کی زیادتی ہو جائے گی (یعنی ہر طرف جاہل و نادان ہی نظر آنے لگیں گے جو اگرچہ علم و دانش کا دعویٰ کریں گے مگر حقیقت میں علم و دانش سے کوسوں دور ہوں گے)۔ اور ایک روایت میں ((اَنْ يُوْرَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ)) یعنی علم اٹھالیا جائے گا اور جہل کی زیادتی ہوگی کے بجائے) یوں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔

۲۳۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ ۲۳۶: مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ وَوَلِيدُ شَيْبٍ عُمَانُ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ قَالَ لَقِيتُ شَيْبَةَ

کیا ہے۔

۲۳۷: احمد بن یونس، زائدہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص علم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کسی راستہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمادیتا ہے اور جس شخص کے عمل نے اسے پیچھے دکھیل دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کرے گا۔

لَمَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يُعْنَى عَنِ النَّعْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ
۲۳۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

باب رَوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

باب: اہل کتاب سے روایت بیان کرنے کا بیان
۲۳۸: احمد بن محمد، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابن ابی نملہ ان کے والد حضرت ابونملہ سے مروی ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ کے پاس ایک یہودی شخص بھی موجود تھا۔ ایک جنازہ گزرا تو یہودی نے کہا اے محمدؐ کیا یہ جنازہ گفتگو کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ اس پر یہودی شخص نے کہا یہ جنازہ گفتگو کرتا ہے (لیکن دنیا کے لوگ اس کی گفتگو نہیں سنتے ہیں) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اہل کتاب جو باتیں بتلائیں تو تم ان کی باتوں کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو بلکہ یوں کہو کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس صورت میں اگر وہ بات جھوٹی ہوگی تو تم نے اس بات کو سچ نہیں کہا اور اگر سچی ہوگی تو تم نے اس کو جھوٹ نہیں کہا ہے۔

۲۳۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ مَرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ أَعْلَمُ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تَكْذِبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تَكْذِبُوهُ

احتیاط کا تقاضا:

یعنی احتیاط کا تقاضا ہے کہ تم اہل کتاب کی گفتگو کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب تاکہ گناہ سے محفوظ رہ سکو۔

۲۳۹: احمد بن یونس، ابن ابی الزناد، اعمش، زید بن زید بن ثابت سے مروی ہے کہ مجھے نبیؐ نے یہودی کی تحریر سیکھنے کا حکم فرمایا چنانچہ میں نے آپ کی خاطر یہودی تحریر سیکھی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہود پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ میری طرف سے صحیح تحریر کرتے ہوں زید کہتے ہیں کہ آدھا ماہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے ان لوگوں کی تحریر کو اچھی طرح سے سیکھ لیا پھر جب آپ کچھ تحریر کرنے کا حکم فرماتے تو میں اس کو تحریر کر دیتا

۲۳۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ يُعْنَى ابْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودٍ وَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلَّا نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى حَدَّثْتُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا

اور جب خدمت نبوی میں کوئی تحریر پیش ہوتی تو میں اس تحریر کو پڑھ لیتا۔

كُتِبَ وَأَقْرَأَ لَهٗ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ۔

باب: علم کی باتوں کو لکھنے کا بیان

۲۵۰: مسدد ابو بکر بن ابی شیبہ یحییٰ عیید اللہ بن اخص ولید یوسف بن ماہک حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ جو حدیث میں آنحضرت ﷺ سے سنتا میں اس کو یاد کرنے کے لئے تحریر کر لیتا۔ پھر مجھے قریش نے تحریر کرنے سے منع کیا اور کہا تم آپ سے سنی ہوئی ہر ایک بات تحریر کرتے ہو حالانکہ آنحضرت ﷺ (بھی ایک) انسان ہیں اور آپ غصہ اور خوشی دونوں قسم کی حالت میں گفتگو فرماتے ہیں میں نے یہ بات سن کر تحریر کرنا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے انگلیوں سے اپنے چہرہ کی جانب اشارہ فرمایا اور حکم فرمایا تم تحریر کیا کرو۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس منہ سے سوائے سچ کے کوئی بات نہیں نکلتی۔

بَاب فِي كِتَابِ الْعِلْمِ
۲۵۰ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَعِيْثٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَتَهْتَتِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَأَوْمَأَ بِأَصْبَعِهِ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ أَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ۔

۲۵۱: نصر بن علی ابو احمد کثیر بن زید حضرت مطلب بن عبد اللہ بن حطب سے مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابت حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس گئے اور اس سے حدیث دریافت کی پھر حضرت معاویہ نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں لکھ کر دے۔ حضرت زید نے ان سے کہا کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ہم کو حدیث کے تحریر کرنے سے منع فرمایا چنانچہ انہوں نے لکھی ہوئی حدیث کو مٹا دیا۔

۲۵۱ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَيَّ مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ فَأَمَرَ إِنْسَانًا يَكْتُبُهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ لَمَحَاهُ۔

تدوین حدیث:

نزول قرآن کے وقت قرآن کریم لکھا جاتا تھا اس وقت آپ نے حدیث لکھنے سے وقتی طور پر منع فرمادیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ قرآن و حدیث لکھنے کی ضرورت میں خلط ملط نہ ہو۔ لیکن بعد میں آپ ﷺ نے احادیث کے لکھنے کی اجازت عنایت فرمائی ”تدوین حدیث“ میں علامہ مناظر احسن گیلانی نے اس مسئلہ کی تفصیلی بحث فرمائی ہے اور ہمارے ادارہ نے اسے بہترین انداز میں مع اضافہ جات کے طبع کیا ہے۔

باب فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكُذْبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

باب: آنحضرت ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی شدید وعید کا بیان

۲۵۲: عمرو بن عون خالد (دوسری سند) مسدد خالد بیان بن بشر ویرہ

۲۵۲ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ح و

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْمَعْنَى عَنْ بِيَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ أَبُو بَشِيرٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحْدِثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجْهٌ وَمَنْزِلَةٌ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

عمر حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضرت زبیرؓ سے دریافت کیا آپ کس بنا پر آنحضرت ﷺ سے کس وجہ سے حدیث روایت نہیں کرتے جس طرح کہ دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا خبردار! اللہ کی قسم مجھ کو آنحضرت ﷺ سے ایک طرح کا تقرب حاصل تھا لیکن میں نے آپ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص قصد امیری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کو چاہئے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔

نقل حدیث میں احتیاط:

مطلب یہ ہے کہ احادیث بیان کرنے میں میں اس وجہ سے غیر معمولی احتیاط سے کام لیتا ہوں کیونکہ حدیث کے نقل میں غلطی کی سخت وعید ہے جو لوگ بلا سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا ہے حالانکہ وہ آپ کا ارشاد نہیں ہوتا وہ سوچیں کہ انہوں نے کسی قسم کا مشغلہ اپنا رکھا ہے۔

خلاصة الباب: ”اس ارشاد گرامی کا پس منظر یہ ہے کہ (ایک مرتبہ) آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو (کچھ لوگوں کی طرف یا کسی شخص کے پاس بھیجا تھا اس نے آپ ﷺ کی طرف سے کوئی جھوٹی بات بنا کر کہی (جب) رسول کریم ﷺ پر یہ منکشف ہوا یا کسی ذریعہ سے آپ ﷺ کو اس بات کی خبر ہوئی تو (آپ ﷺ) نے اس شخص کے حق میں بددعا فرمائی۔ چنانچہ وہ شخص (ایک دن) اس حال میں مردہ پایا گیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور (جب اس کو دفن کیا گیا تو) زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔“

جان بوجھ کر کوئی بات نبی کریم ﷺ کی طرف نسبت کرنا، یعنی جھوٹی حدیث گھڑنا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لئے دوزخی ہو جائے گا۔ اس میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کچھ لوگوں کی طرف ایک شخص کو بھیجا اس نے آپ ﷺ کی طرف سے کوئی جھوٹی بات بتا کر کہی۔ اس اعتبار سے یہ روایت اس قول کی مؤید ہے۔

باب الکلام فی کتاب اللہ بغير علم

۲۵۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُقْرِئُ النَّحْضَرُمِيُّ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ مِهْرَانَ أَخِي حَزْمِ الْقَطِيعِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍانَ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ۔

باب: قرآن کریم کے بغیر سمجھے ہوئے معنی بیان کرنا

۲۵۳: عبد اللہ بن محمد یعقوب، سہیل، ابو عمران، حضرت جندبؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم میں اپنی عقل سے کچھ کہا تو اگر اس نے صحیح بھی کہا تو اس نے غلطی کی۔

تفسیر بالرأی کی ممانعت:

یعنی اپنی رائے سے کچھ نہ کہے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال کی روشنی میں تفسیر قرآن بیان

باب تکریر الحدیث

۲۵۴: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ هَاشِمِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

باب: ایک ایک بات کو چند مرتبہ کہنے کا بیان

۲۵۴: عمرو بن مرزوق، شعبہ ابو عقیل، سابق بن ناجیہ، ابوسلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث ارشاد فرماتے تو آپ اسے تین تین مرتبہ دہراتے (تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے)

باب فی سرِّ الحدیث

۲۵۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةَ عَائِشَةَ وَهِيَ تَصَلِّي فَجَعَلَ يَقُولُ اسْمِعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا قَضَتْ صَلَاتَهَا قَالَتْ أَلَا تَعْجَبُ إِلَيَّ هَذَا وَحَدِيثِهِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لِيُحَدِّثَ الْحَدِيثَ لَوْ شَاءَ الْعَادُّ أَنْ يُحْصِيَهُ أَحْصَاهُ۔

باب: جلدی جلدی باتیں کرنے کا بیان

۲۵۵: محمد بن منصور، سفیان بن عیینہ، زہری، عروہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہؓ، عائشہ صدیقہؓ کے حجرہ مبارک کے ساتھ تشریف فرمائے اور عائشہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ ابو ہریرہؓ کہہ رہے تھے کہ اے حجرہ والی سنو! یہ الفاظ انہوں نے دو مرتبہ کہے۔ جب انہوں نے نماز ختم کر لی تو فرمایا: (اے عروہ!) کیا تمہیں اس شخص (حضرت ابو ہریرہؓ) اور ان کی بات پر تعجب نہیں آتا تھا آنحضرت ﷺ جب گفتگو فرماتے تو اس طرح گفتگو فرماتے کہ اگر سننے والا شخص شمار کرنا چاہتا تو وہ آنحضرت ﷺ کی گفتگو کو شمار کر سکتا (یعنی آپ صاف صاف الفاظ میں گفتگو فرماتے)۔

۲۵۶: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيَّ جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أَسْبِحُ فَمَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَسْتُهِ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ مِثْلَ سَرْدِكُمْ۔

۲۵۶: سلیمان بن داؤد ابن وہب، یونس ابن شہاب، حضرت عروہ بن زبیرؓ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے فرمایا کیا تم کو حیرت نہیں ہوتی کہ حضرت ابو ہریرہؓ آئے اور میرے حجرہ کے پہلو میں بیٹھ گئے اور وہ حدیث بیان کرنے لگے مجھ کو سنانے کے لئے جب کہ میں اس وقت نماز میں مشغول تھی میری نماز سے فراغت سے پہلے اٹھ کر چلے گئے۔ اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں انہیں بتاتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے۔

آپ ﷺ کی گفتگو کا طریقہ:

یعنی آپ نہایت ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ گفتگو فرماتے تاکہ سامعین اچھی طرح آپ کی گفتگو سن لیں۔ تفصیل کے لئے شامل ترمذی ملاحظہ فرمائیں۔

باب: فتویٰ دینے میں احتیاط کا حکم

باب التوقی فی الفتویٰ

۲۵۷: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَضَرْتُ مَعَاوِيَةَ مَعَ مَرْوَى هِيَ كَأَنَّهَا صَالِيَةٌ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَخْلُوقَاتِهِ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ عَنِ الْمُطَوَّلَاتِ - فرمایا۔

دوسرے کوڑسوا کرنے کے لئے فتویٰ:

مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے مسائل دریافت کرنے سے منع فرمایا کہ جس کا مقصد مفتی کا امتحان لینا یا دوسروں کوڑسوا کرنا

ہو۔

۲۵۸: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَلْتَاهُ - حسن بن علی ابو عبد الرحمن سعید بن ابی ایوب بکر بن عمرو مسلم بن یسار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کے بغیر فتویٰ دے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔

۲۵۹: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي نَعِيمَةَ عَنْ أَبِي عُمَانَ الطُّنْبُذِيِّ رَضِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَلْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَلْتَاهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَمَنْ أَسَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِيهِ غَيْرُهُ فَقَدْ خَانَهُ وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ - سلیمان بن داؤد ابن وہب یحییٰ بکر بن عمرو ابو عثمان حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کے بغیر فتویٰ دے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا کہ جس نے فتویٰ دیا۔ سلیمان مہری نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا اور جس نے اپنے بھائی کو قصد اس کے نقصان کا مشورہ دیا تو بے شک اس نے خیانت کی یہ الفاظ سلیمان کے ہیں۔

باب: علم چھپانے کا گناہ

۲۶۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ سِئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَنَّمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - موسیٰ بن اسماعیل حماد علی بن الحکم عطاء حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے علم دین کا مسئلہ دریافت کیا گیا اور اس نے اسے چھپالیا تو قیامت کے دن اس شخص کو آگ کی لگام لگائی جائے گی۔

باب فضل نشر العلم

۲۶۱: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّ عَمْرًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ سِئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَنَّمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - زہیر بن حرب عثمان بن ابی شیبہ جریر اعمش عبد اللہ بن عبد اللہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ مجھ سے علم کو سنتے ہو اور تم سے لوگ سنیں گے پھر جن لوگوں نے تم سے سنا ہے ان سے دوسرے لوگ سنیں گے۔

اللَّهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ۔

۲۶۲: مسدّد یحییٰ شعبہ عمر بن سلیمان، عبدالرحمن بن ابان، حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سن کر یاد کر لی یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ دین کی سمجھ کی بات اپنے سے زیادہ سمجھ دار شخص کو سناتے ہیں اور بہت سے فقہ کے علمبردار اس قسم کے ہیں جو کہ فقیہ نہیں ہیں۔

۲۶۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَصَرَ اللَّهُ أُمَّراً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتَّى يَلْتَمِسَهُ قُرْبًا حَامِلٍ لِقَهِّهِ إِلَيَّ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرَبُّ حَامِلٍ لِقَهِّهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ۔

دوسروں تک حدیث پہنچانا۔

مفہوم حدیث یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا جس طرح ارشاد گرامی ہے لوگوں تک اسی طرح پہنچا دے اور اہل علم، کلام نبوی سے استنباط کر کے مسئلہ نکال لیں گے۔ بہر حال کلام نبوی کو تجسّم نقل کرنا چاہئے اور دوسروں تک پہنچانا چاہئے۔

۲۶۳: سعید بن منصور، عبدالعزیز، ان کے والد، حضرت سہل بن سعدؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخدا اگر تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت عطا فرمادے تو یہ عمل تمہارے لئے لال رنگ کے اونٹوں سے بہتر ہے۔

۲۶۳: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ النَّبِيِّ قَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِهَذَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

قیمتی اونٹ:

عرب میں سرخ رنگ کے اونٹ قیمتی مانے جاتے ہیں اہل عرب کے مزاج کے اعتبار سے مثال بیان فرمائی گئی ہے تاکہ یہ حضرات بات اچھی طرح سمجھ لیں۔

باب: بنی اسرائیل سے روایت کرنے کا بیان

۲۶۴: ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، محمد بن عمرو، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرو کیونکہ ان سے روایت کرنے میں کسی قسم کا حرج نہیں۔ (یعنی اگر صحیح سند کے ساتھ اہل کتاب سے صحیح بات سن لیں تو اس میں حرج نہیں)۔

بَابُ الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
۲۶۴: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ۔

۲۶۵: محمد بن ثنیٰ، معاذ، ان کے والد، قتادہ، ابوحسان، حضرت عبداللہ بن

۲۶۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ

عمر و رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ ہم لوگوں سے بنی اسرائیل کے متعلق اس قدر گفتگو فرماتے کہ فجر کا وقت ہو جاتا پھر آپ نہیں اٹھتے مگر نماز کے خیال سے (یعنی آپ نماز فجر پڑھنے کے لئے اٹھتے)۔

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عَظِيمِ صَلَاةٍ۔

باب: غیر اللہ کے لئے علم حاصل کرنے کا بیان

۲۶۶: ابو بکر بن ابی شیبہ سرنج، فلیح، ابوطوالہ، عبد اللہ بن عبد الرحمن، سعید بن یسار حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رضاء الہی کے علم (یعنی علم دین) کو دنیوی مقصد کے لئے سیکھا تو ایسے شخص کو قیامت کے روز جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔

بَاب فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
۲۶۶: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَبِي طَوَّالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَتَنَفَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا۔

باب: قصہ کہانیاں بیان کرنا

۲۶۷: محمود بن خالد ابو مسہر، عباد بن عباد، یحییٰ بن ابی عمرو، عمرو بن عبد اللہ حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے (وعظ نصیحت میں) حکایات و قصص وہ شخص بیان کرے گا جو کہ حاکم ہو یا محکوم ہو یعنی اس کو حاکم اس طرح وعظ و نصیحت کرنے کا حکم کرے) یا وہ قصہ گو مغرور اور متکبر ہوگا۔

بَاب فِي الْقِصَصِ
۲۶۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُسَهَّرٍ حَدَّثَنِي عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَوَّاصُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيَابِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّيَابِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَا يَقْصُ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مَخْتَالٌ۔

دُنیا کے لئے علم سیکھنا:

مطلب یہ ہے کہ دُنیا حاصل کرنے کے لئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لئے من گھڑت واقعات و وعظ و نصیحت میں بیان کرے جیسا کہ دُنیا طلب و اعظ بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کے افعال کی شریعت میں سخت ممانعت ہے۔

۲۶۸: مسدد، جعفر، معلیٰ بن زیاد، علاء ابو صدیق، حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ میں غریب فقیر مہاجرین میں (شامل ہو کر) بیٹھ گیا اور (ان کی غربت کا یہ عالم تھا) ننگے ہونے کے ڈر سے ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے تھے اور ہم لوگوں میں ایک قاری قرآن کریم تلاوت کر

۲۶۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَشِيرٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِنْ ضَعْفَاءٍ

رہا تھا اسی دوران آنحضرت ﷺ تشریف لے آئے اور آپ ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے قاری خاموش ہو گیا پھر آپ نے ہم لوگوں سے سلام کیا اور دریافت فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا قاری قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے اور ہم لوگ قرآن کریم سن رہے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے کہ ان کے ساتھ مجھ کو بیٹھے کا حکم ہوا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ ہماری جماعت کے بالکل درمیان تشریف فرما ہوئے تاکہ آپ کی ذات ہم سب کے لئے یکساں ہو۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حلقہ بنا کر بیٹھ جانے کے لئے اشارہ فرمایا تو تمام لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور تمام لوگوں کے چہرے آپ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے ان لوگوں سے میرے علاوہ کسی شخص کو نہیں پہچانا تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے فقراء اور مہاجرین کی جماعت! تمہیں قیامت کے دن پورے نور کی بشارت ہو تم لوگ خوش ہو جاؤ تم لوگ مالدار لوگوں سے آدھے دن قبل جنت میں داخل ہو گے اور وہ آدھا دن بھی پانچ سو سال کا ہوگا۔

الْمُهَاجِرِينَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرَىٰ وَقَارِي يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَارِيُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ قَارِيًۭا لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أَمُرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطْنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَتَحَلَّفُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَشِّرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ النَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ يَنْصُفُ يَوْمٌ وَذَٰكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی ناداری:

مفہوم حدیث یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اکثریت کو ناداری کی وجہ سے کپڑا تک میسر نہیں تھا مگر مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ ﷺ کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص تلاوت قرآن میں مشغول ہو اس کو سلام نہیں کرنا چاہئے مذکورہ حدیث میں آنحضرت ﷺ کی جماعت میں تشریف فرما ہونے کی بھی کیفیت مذکور ہے کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اس طرح تشریف فرما ہوئے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے فاصلہ مساوی تھا اور حدیث کے آخر حصہ میں جو قیامت کے دن سے متعلق مذکور ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص پر قیامت میں جس قدر شدت ہوگی اس کو قیامت کا دن اسی قدر طویل معلوم ہوگا اور جس پر جس قدر کم شدت ہوگی اس کو وہ دن اسی قدر مختصر محسوس ہوگا۔

۲۶۹: محمد بن ثنی، عبدالسلام، موسیٰ بن حلف، قنادة، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنے شک اگر میں اس قوم کے ساتھ بیٹھ جاؤں جو کہ نماز فجر سے سورج طلوع

۲۶۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ مَطَهَّرٍ أَبُو ظَفَرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حَلْفٍ الْعَمِّيُّ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ

ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے تو مجھ کو (اس قدر ذکر الہی کرنا) اولاد اسمعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے بے شک اگر میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھوں جو کہ نماز عصر سے غروب آفتاب تک ذکر الہی کرتی ہے تو مجھ کو (یہ عمل) بے حد پسندیدہ ہے چار غلام آزاد کرنے سے۔

۲۷۰: عثمان بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم عبیدہ، عبداللہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورۃ النساء پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے کی زبان سے سنوں۔ پھر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہاں تک کہ جب میں آیت کریمہ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِرَسُولٍ مِمَّنْ لَمْ نُخَالِفْ فِي شَيْءٍ﴾ تک پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ (اس خیال سے کہ مجھ کو بھی اپنی امت کا گواہ بنا پڑے گا اور نہ معلوم میری امت کس قسم کے اعمال کی مرتکب ہو)۔

رَسُولُ اللَّهِ لَأَنْ أَقْعَدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعَدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَيَّ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةَ۔

۲۷۰: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَأُ عَلَى سُورَةِ النِّسَاءِ قَالَ قُلْتُ أَفْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ فَفَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِرَسُولٍ مِمَّنْ لَمْ نُخَالِفْ فِي شَيْءٍ فَارْتَمَتْ رَأْسِي فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمَلَانِ۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْأَشْرَبَةِ

باب: حرمت شراب

۲۷۱: احمد بن حنبل، اسماعیل بن ابراہیم ابوحیان شعبی، ابن عمر حضرت عمر سے مروی ہے کہ جب شراب حرام ہونے سے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت شراب پانچ اشیاء سے تیار ہوتی تھی انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور عو سے اور جو چیز عقل کو زائل کرے تو وہ شراب ہے اور میں چاہتا تھا آنحضرت ﷺ ہم لوگوں سے اس وقت تک جدانہ ہوں جب تک کہ آپ ہمیں ان تین چیزوں کے بارے میں بتلانہ دیں ایک تو دادا کا (وراثت) کا حصہ دوسرے کلالہ کے بارے میں اور تیسرے چند مقدمات سود کے۔

باب فی تحریم الخمر

۲۷۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالْتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَوَدِدْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِيفَارِقَنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِيَ إِلَيْهِ الْجَدَّ وَالْكَلَالَةَ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا۔

نشہ کی ہر چیز حرام ہے:

ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور وہ شراب کے حکم میں داخل ہے اور شراب مذکورہ پانچ چیزوں کے علاوہ اشیاء سے بھی تیار ہوتی ہے۔

۲۷۲: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْخَثَلِيُّ أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ
لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيْنَ
لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي
فِي الْبَقْرَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ
فِيهِمَا إِيْمٌ كَبِيرٌ الْآيَةُ قَالَ فَدَعَى عُمَرُ
فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا
شِفَاءً فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي أَلَا لَا
يَقْرَبْنَ الصَّلَاةَ سُكَارَى فَدَعَى عُمَرُ فَقُرِئَتْ
عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شِفَاءً
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قَالَ عُمَرُ
انْتَهَيْنَا.

۲۷۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ
حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبَدَ الرَّحْمَنُ بْنُ
عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحْرَمَ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ
عَلِيُّ فِي الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
فَخَلَطَ فِيهَا فَنَزَلَتْ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

۲۷۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ النَّحْوِيِّ عَنْ

۲۷۲: عباد بن موسیٰ اسحاق، اسماعیل، اسرائیل، ابو اسحق، عمرو، عمر فاروق سے
مروی ہے کہ جب شراب حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے کہا
اے اللہ ہمارے لئے شراب کے متعلق واضح طور سے حکم بیان فرما دیجئے
جب وہ آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ بقرہ میں ہے یعنی: ﴿يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ ”لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے
میں دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیں دونوں میں بڑے گناہ ہیں اور
اس میں لوگوں کیلئے فوائد و منافع بھی ہیں لیکن انکا گناہ انکے منافع سے
زیادہ ہے“ تو عمر فاروق کو بلایا گیا اور ان کو یہ آیت سنائی گئی انہوں نے
کہا اے اللہ! ہم لوگوں کو صاف صاف (واضح طور پر) حکم بیان فرما
دے اس پر سورہ نساء کی آیت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ﴾ نازل ہوئی۔ یعنی ”اے اہل ایمان! تم لوگ نشہ کی حالت
میں نماز نہ پڑھو“۔ جب نماز کی تکبیر ہوتی تو آپ پکار کر فرماتے کہ کوئی
شخص حالت نشہ میں نماز میں نہ آئے۔ پھر عمر فاروق کو بلایا گیا اور انکو
یہ آیت سنائی گئی۔ انہوں نے کہا اے اللہ! شراب کے سلسلہ میں واضح
طور پر حکم نازل فرما دیجئے اس پر آیت: ﴿عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾
نازل ہوئی اس کے آخر میں ہے تم لوگ اب بھی باز آتے ہو یا نہیں؟
اس پر عمر فاروق نے کہا ہم لوگ (شراب اور جوئے سے) باز آ گئے۔

۲۷۳: مسدد، یحییٰ، سفیان، عطاء بن سائب، ابو عبد الرحمن، حضرت علی
بن ابی طالب سے مروی ہے ایک انصاری نے ان کو اور حضرت
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت پر بلایا اور ان دونوں کو
اس نے شراب پلائی جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی پھر حضرت علی
نے ان لوگوں کی نماز مغرب میں امامت کی اور: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ﴾ تلاوت کی اور اس میں پڑھنے میں گڑبڑ کردی اس پر یہ
آیت کریمہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
سُكَارَى﴾ نازل ہوئی۔

۲۷۴: احمد بن محمد، علی بن حسین، ان کے والد، زید نحوی، عکرمہ، حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ دو آیات کریمہ: ﴿يَا أَيُّهَا

عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ أَوْ بِسُؤْلُوكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴿سورة مائدہ کی آیت کریمہ﴾: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ سے منسوخ ہوئی ہیں۔

وَمَنَاعُ لِلنَّاسِ نَسَخْتَهُمَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ الْآيَةَ۔

شراب سے متعلق آیت کا ترجمہ:

سورة مائدہ کی آیت کریمہ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ [المائدة: ۹۰] کا ترجمہ یہ ہے یعنی شراب اور جواد غیرہ نجس ہیں اور تم شیطان کے کاموں سے بچو تا کہ تم دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل کرو۔

۲۷۵: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْنَا هَذَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ۔

۲۷۵: سليمان بن حرب، حماد ثابت، حضرت انس سے مروی ہے کہ جب شراب کی حرمت ہوئی تو میں اُس وقت ساقی تھا اور ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلایا کرتا تھا اور اُس دن ہماری شراب کھجور سے بنی تھی۔ ہمارے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا شراب حرام ہو گئی ہے اور حضرت رسول کریم ﷺ کی جانب سے پکارنے والے نے منادی کی ہم لوگوں نے (منادی سن کر) کہا یہ تو آنحضرت ﷺ کا منادی ہے۔

باب: شراب بنانے کے لئے انگور نچوڑنے کا بیان

۲۷۶: عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَكَيْجُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَبْدِ الْعَزِيزِ، ابُو عَلْقَمَةَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَمْرٍو سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے شراب اور اس کے پینے والے شخص پر اور شراب کے پلانے والے پر اور اسکے فروخت کرنے والے اور خریدنے والے پر اور اسکے نچروانے والے پر اور نچوڑنے والے پر اور اسکے اٹھانے والے پر اور جس شخص کے لئے شراب اٹھائی جائے (غرض سب پر اللہ کی لعنت)۔

باب: شراب کا سرکہ بنانے کا بیان

۲۷۷: زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَكَيْجُ بْنُ سَفْيَانَ، سُدِّيُّ ابُو مَيْمُونَةَ، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سے مروی ہے کہ ابو طلحہ نے آنحضرت ﷺ سے بتائی کہ بارے میں

بَابُ الْعِنَبِ يُعَصَّرُ لِلْخَمْرِ

۲۷۶: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْجُ بْنُ جَرَّاحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمُ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عَمْرٍو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَمَنْ اللَّهُ الْخَمْرُ وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا وَبَاتِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ تَخَلَّلَ

۲۷۷: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْجُ بْنُ سَفْيَانَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي هَيْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ

دریافت کیا جنہوں نے وراعت میں شراب پائی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کو بہادو۔ انہوں نے کہا: اس شراب کا سرکہ نہ بنالوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا سرکہ بھی نہ بناؤ۔

مَالِكُ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ أَيَّتَامٍ وَرَبُّوْا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَقْلًا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا۔

باب: کون کونسی اشیاء سے شراب تیار کی جاتی ہے؟

بَابُ الْخَمْرِ مِمَّا هُوَ

۲۷۸: حسن بن علی، یحییٰ بن آدم، اسرائیل، ابراہیم، شعبی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب، انگور سے تیار ہوتی ہے اور کھجور اور شہد اور گیہوں اور جو سے۔

۲۷۸: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ مِنَ الْعَنْبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعْبِيرِ خَمْرًا۔

ہر قسم کی شراب حرام ہے:

عموماً شراب مذکورہ اشیاء سے تیار کی جاتی تھی اس لئے اس کو بیان کیا گیا ورنہ اس کے علاوہ اشیاء سے بھی شراب تیار کی

جاتی ہے۔

خلاصۃً البیان: ایک اور موقع پر نبی کریم صلی کا فرمان ہے کہ لوگوں مختلف حیلے بہانے کر کے شراب پینے کی راہ نکال ہی لیں گے، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں کجی اور فساد ہوگا وہ شراب پینے کے سلسلے میں مختلف حیلے بہانے کریں گے خاص طور پر نام کو بڑا پردہ بنائیں گے مثلاً نیبذیا مباح شربت جیسے ماء العسل وغیرہ کونشہ آور بنا کر پیئیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ یہ حرام نہیں ہے کیونکہ نہ اس کو انگور کے ذریعہ بنایا گیا ہے اور نہ کھجور کے ذریعہ، حالانکہ ان کا اس طرح گمان کرنا ان کے حق میں ان مشروبات کے مباح و حلال ہونے کے لئے کارگر نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں وہ شراب پینے والے بے شمار ہوں گے اور اس کی ان کو سزا ملے گی کیونکہ اصل حکم یہ ہے کہ ہر نشہ آور شراب حرام ہے خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنا ہو۔

ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ وہ شراب ہی پیئیں گے لیکن اپنی طرف سے اس کا کوئی دوسرا نام رکھ لیں گے اس کو شراب نہیں کہیں گے تاکہ لوگ شراب پینے کا الزام عائد نہ کریں، لیکن حقیقت میں نام کی یہ تبدیلی ان کے حق میں قطعاً کارگر نہیں ہوگی اصل میں اعتبار تو سب سے ہے نہ کہ اسم کا۔

۲۷۹: مالک بن عبد الواحد، معتمر، فضیل، ابو حریز، عامر، حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شراب، انگور کے شیرے سے تیار ہوتی ہے اور خشک انگور سے اور کھجور سے اور گیہوں، جو اور جواری سے اور میں تم لوگوں کو ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔

۲۷۹: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو عَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفَضِيلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيْرٍ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ أَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّرْبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ

وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ -
 ۲۸۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ
 حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ
 الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ -

۲۸۰: موسیٰ بن اسماعیل، ابان، یحییٰ، ابو کثیر، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا شراب ان دو درختوں سے تیار ہوتی ہے یعنی کھجور اور انگور سے۔

باب: نشہ کا بیان

باب النَّهْيِ عَنِ الْمُسْكِرِ

۲۸۱: سليمان بن داؤد محمد بن عيسى حماد أيوب نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ لانے والی شے شراب ہے اور تمام نشہ والی اشیاء حرام ہیں اور جو شخص ہمیشہ شراب پیتا رہا اور وہ اسی حالت میں انتقال کر گیا تو وہ قیامت میں جنت کی شراب نہیں پئے گا۔

۲۸۱: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى فِي
 آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
 عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ
 مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ
 يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَدْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ -

چرس اور ہیروئن وغیرہ کا حکم:

مذکورہ حدیث سے شراب کی حرمت اور اس کی وعید شدید واضح طور پر معلوم ہوتی ہے آج کے دور میں گانجا، چرس، بھنگ اور ہیروئن کا بھی رواج چل پڑا ہے یہ بھی اسی مذکورہ وعید میں داخل ہیں۔

۲۸۲: محمد بن رافع، ابراہیم بن عمر، نعمان بن بشیر، طاؤس، حضرت ابن عباس سے مروی ہے نبی نے ارشاد فرمایا ہر ایک عقل زائل کرنے والی شے شراب ہے اور ہر ایک نشہ لانے والی چیز حرام ہے اور جس شخص نے نشہ لانے والی شے پی تو اس شخص کی چالیس روز کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی پھر اگر اس شخص نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اگر اس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ اس شرابی کو طینۃ الخبال پلائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! طینۃ الخبال کا کیا مفہوم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا طینۃ الخبال دوزخی لوگوں کی پیپ ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کم عمر بچہ کو جس کو کہ حلال و حرام کی تمیز نہ ہو شراب پلائے تو اللہ تعالیٰ کیلئے لازمی ہوگا کہ اس شخص کو دوزخیوں کی پیپ پلا دے۔

۲۸۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنَعَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ
 النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُخْمِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ
 مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بَخَسَتْ
 صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ
 مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَلِيلٌ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ
 سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ
 حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ -

۲۸۳: قثمیہ، اسماعیل، داؤد محمد بن المکد، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

۲۸۳: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ
 جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ عَنْ

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ پیدا کرتی ہے اس کی کم مقدار بھی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ۔ حرام ہے۔

خلاصۃ الباب: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شراب ہو جس کی کم مقدار پینے سے نشہ نہ آتا ہو بلکہ زیادہ مقدار پینے سے نشہ آئے تو اس کا کم مقدار میں پینا بھی حرام ہے۔ کیونکہ حرمت کی اصل وجہ نشہ آوری ہے خواہ زیادہ مقدار سے ہو یا کم سے۔ غرضیکہ:

شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے:

طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ: الخمر الفواحش واکبر الکبائر من شربها وقع علی امہ وخالته وعمته (حضور ﷺ نے فرمایا) شراب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے جس شخص نے شراب نوشی کی اس نے (گویا) اپنی ماں اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی کے ساتھ ہم بستری کی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو بت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لئے کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا پھر اس سے ایک آدمی کو قتل کرنے کے لئے کہا گیا تو اس نے اس کام سے بھی انکار کیا پھر اس کو ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے کیلئے کہا گیا تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا اور پھر جب اس سے شراب پینے کے لئے کہا گیا تو اس نے شراب پی لی پس اس شخص نے گویا شراب ہی نہیں پی بلکہ اس نے ساری برائیوں کا ارتکاب کیا جن کی طرف اس کو بلایا گیا تھا اور اس نے انکار کر دیا۔

۲۸۴: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجِسِيِّ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ وَالْبَيْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا كَانَ آئِنْتَهُ مَا كَانَ فِيهِمْ مِثْلُهُ يَعْنِي فِي أَهْلِ حِمصٍ يَعْنِي الْجُرْجِسِيِّ۔

۲۸۴: عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب ابوسلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیع نامی شراب کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث یزید بن عبد ربہ الجرجسی کو پڑھ کر سنائی ان سے اس حدیث کو محمد بن حرب نے زبیدی عن الزہری سے اسی طریقہ سے نقل کیا ہے۔ البتہ اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ بیع شہد کی شراب کو کہا جاتا ہے۔ راوی نے بیان کیا یمن کے لوگ اس شراب کو پیتے تھے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وہ کس قدر معتبر اور ثقہ آدمی تھا قبیلہ حمص میں اور اسی یعنی یزید جرجسی کی نظیر نہیں ملتی۔

بیع کی وضاحت:

بیع شہد کی شراب کو کہا جاتا ہے اس کا استعمال بھی حرام ہے کیونکہ یہ بھی نشہ آور ہے بہر حال شراب کسی بھی قسم کی ہو خواہ کم ہو یا زیادہ بہر حال وہ حرام ہے شراب کی اقسام و انواع اور اس سلسلہ میں جمہور اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے گرامی بذل المجہود شرح ابوداؤد ج ۴ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۲۸۵: حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ ذَيْلِمِ الْجَمِيرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضِي بَارِدَةٌ نَعَالُجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَّقَوِي بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنَّ لَكُمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ۔

۲۸۵: ہذا عبدہ، محمد بن اسحق، یزید بن ابی حبیب، مرثد بن عبد اللہ، حضرت ذیلیم جمیری سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ ٹھنڈے ٹلک میں رہتے ہیں اور اس ٹلک میں ہم لوگ محنت و مشقت کے کام انجام دیتے ہیں اور ہم لوگ اپنی توانائی اور سردی دور کرنے کے لئے جو ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے گیسوں کی شراب تیار کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا وہ شراب نشہ پیدا کرتی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ شراب نشہ پیدا کرتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس سے احتراز کرو۔ میں نے عرض کیا لوگ تو اس شراب کو چھوڑنے والے نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر لوگ شراب نہ چھوڑیں تو تم لوگ ان سے جنگ کرو۔

شرابی کے خلاف جہاد:

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ حرام فعل پر ضد کر رہے ہیں اس لئے ایسے افراد کے خلاف جہاد کرو۔

۲۸۶: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ ذَاكَ الْبِتْعُ قُلْتُ وَيَتَّبَعُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ فَقَالَ ذَلِكَ الْيَمْرُ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنْ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ۔

۲۸۶: وہب بن بقیہ، خالد عاصم بن کلب، ابو بردہ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے شہد کی شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا شہد کی شراب (کا نام) بیتع اور میں نے عرض کیا جو اور جو اس سے بھی شراب تیار ہوتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاں جس کو مزر کہتے ہیں۔ پھر فرمایا تم لوگ اپنی قوم کو باخبر کر دو کہ ہر نشہ آور شے حرام ہے۔

خلاصۃ الباب: کسی مجلس یا خطبہ میں حضور ﷺ شراب کا ذکر اور اس کا حکم بیان فرما رہے تھے کہ اسلام میں جس چیز کو سب سے پہلے الٹ دیا جائے گا وہ شراب ہے۔ بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب آخری زمانہ میں مسلمانوں کی دینی زندگی میں بہت الٹ پھیر ہو جائے گا اور مذہب کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہو جائے گا تو اس وقت حرام و ناجائز چیزوں میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم کھلا ارتکاب ہوگا اور اسلام کے احکام میں سے سب سے پہلے جس حکم کو ساقط کر دیا جائے گا وہ شراب ہے کہ لوگ نہ صرف شراب نوشی اختیار کریں گے بلکہ مختلف حیوانوں اور تاویلوں کے ذریعہ اس کو حلال و ناجائز قرار دینے کی سعی بھی کریں گے، مثلاً اس کا نام بدل کر کسی ایسے مشروب کے نام پر رکھ دیں گے جس کا پینا جائز ہے، جب کہ حقیقت میں وہ شراب ہوگی یا اس کو کسی دوسرے اجزاء جیسے شہد اور چاول وغیرہ کے ساتھ بنائیں گے اور کہیں گے کہ اسلام میں جس چیز کو "خمر" یعنی شراب کہا گیا ہے اور جس کا پینا حرام ہے وہ انکوڑا پانی ہے کہ اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے اور یہ مشروب چونکہ انکوڑے سے نہیں بنایا گیا ہے اس لئے اس کو پینا حرام نہیں ہے حالانکہ وہ نہیں جانیں گے کہ جو بھی چیز نشہ پیدا کرنے والی ہے وہ حرام ہے اور "خمر" کے حکم میں ہے۔

۲۸۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُؤُوبَةِ وَالْغُبَيْرِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

۲۸۷: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، محمد بن زید، ولید بن عبدہ، حضرت عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوئے، کوبہ اور غمیراء سے ممانعت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہر ایک نشہ پیدا کرنے والی شے حرام ہے۔

کوبہ کی تشریح:

کوبہ باجے کو کہا جاتا ہے جو کہ ڈھول جیسا ہوتا ہے اور غمیرا جو اس سے تیار شدہ شراب کو کہا جاتا ہے۔

۲۸۸: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُقْتَرٍ.

۲۸۸: سعید بن منصور، ابو شہاب، حسن بن عمر، حکم، شہر بن حوشب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے آنحضرت ﷺ نے ہر نشہ پیدا کرنے والی شے سے ممانعت فرمائی ہے اور مقتر یعنی کاہلی پیدا کرنے والی شے سے (بھی)۔

۲۸۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَانَ قَالَ مُوسَى وَهُوَ عَمْرٍو بْنُ سَلَمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكُرَ مِنْهُ الْفَرْقُ قِلَّةٌ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

۲۸۹: مسدد، موسیٰ بن اسماعیل، مہدی، ابو عثمان، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس چیز سے فرق (ایک پیانہ) کی مقدار نشہ پیدا کرے اس کا ایک چلو بھی حرام ہے۔

باب: شراب کی قسم دازی کے حرام ہونے کا بیان

۲۹۰: احمد بن حنبل، زید، معاویہ، حاتم بن حریث، حضرت مالک بن ابی مریم سے مروی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس عبد الرحمن بن غنم آئے تو ہم لوگوں نے طلاء کا تذکرہ کیا۔ عبد الرحمن نے کہا مجھ سے حضرت ابو مالک اشعری نے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بے شک میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا دوسرا نام رکھیں گے۔ (یعنی اس کا نام بدل دیں گے)۔

باب فی الدَّائِي

۲۹۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ فَتَذَاكَرْنَا الطَّلَاءَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيُشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

خلاصۃ الباب: طلاء: انگوری شراب کی ایک خاص قسم ہے جسے آگ پر جوش دیا جاتا ہے۔ نیز یہ کہ کسی چیز کا نام تبدیل کر دینے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ حرام بہر حال حرام ہی ہے خواہ اس کا کوئی سنا نام رکھ دیں۔ آج کے اس دور میں رسول اللہ ﷺ کی پیشینگوئی حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو رہی ہے۔

باب فی الأوعیة

باب: شراب کے برتنوں کا بیان

۲۹۱: مسدّد عبد الواحد منصور سعید بن جبیر حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں حضرات سے مروی ہے کہ ہم لوگ شہادت دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے تونے اور سبز لاکھی برتن اور رال لگے ہوئے مرتبان اور لکڑی کے برتن کے استعمال سے منع فرمایا۔

۲۹۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَابِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْقَاتِ وَالنَّقِيرِ۔

۲۹۲: موسیٰ بن اسماعیل، مسلم بن ابراہیم، جریر، یعلیٰ، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے مکے کی نبیذ کو حرام کیا ہے تو میں گھبرا کر نکلا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ نے سنا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مکے کی نبیذ کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے مکے کی نبیذ کو حرام قرار دیا میں نے عرض کیا جبر کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا ”جر“ مٹی کے برتن کو کہتے ہیں۔

۲۹۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الْمُعَنَّبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَعْلَى يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ فَخَرَجْتُ فَرِغًا مِنْ قَوْلِهِ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا ذَلِكَ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ قَالَ صَدَقَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ قُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدْرٍ۔

۲۹۳: سلیمان، محمد بن عبید، حماد (دوسری سند) مسدّد عباد ابو جرحہ ابو جرحہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا وہ فرماتے ہیں مسدّد نے عن ابن عباس کہا ہے اور یہ حدیث سلیمان کی ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم قبیلہ ربیعہ کے فرد ہیں اور ہم لوگوں کے اور آپ کے درمیان مضر کے کفار ہیں تو ہم لوگ حرام مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ اسلئے ہم لوگوں کو اس چیز کا حکم فرمائیں کہ ہم لوگ خود اس پر عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی عمل کیلئے کہیں جو ہمارے پیچھے

۲۹۳: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَدِمَ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَفَّارٌ مُضَرٌ وَلَيْسَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي

(اپنے گھروں میں) رہ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو چار باتوں کا حکم کرتا ہوں اور چار اشیاء سے روکتا ہوں (جن اشیاء کا حکم ہے وہ یہ ہیں): (۱) اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ نے دست مبارک سے ایک کا اشارہ فرمایا مسدود کہتے ہیں کہ آپ نے ایمان باللہ فرمایا پھر اسکی یوں تفسیر بیان فرمائی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ (۲) نماز کو قائم کرنا، (۳) زکوٰۃ ادا کرنا، (۴) مال غنیمت میں سے خمس نکالنا اور میں تم لوگوں کو چار قسم کے برتن کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ (۱) تو بنے کے کدو (۲) لاکھی برتن۔ (۳) زرا لگے ہوئے برتن اور (۴) لکڑی کے برتن کے استعمال سے۔ ابن عبید نے لفظ مقیر کی جگہ مقیر اور مسدود نے روایت میں مقیر اور مقیر بیان کیا حضرت کا لفظ بیان نہیں کیا۔ ابوداؤد فرماتے ہیں ابو جمرہ کا نام نصر بن عمران ہے۔

شَهْرٍ حَرَامٍ لَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَأَيْنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدُ بَيْدِهِ وَاحِدَةً وَقَالَ مُسَدَّدٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِتْيَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تَوَدُّوا النُّخْمَسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَابِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَلَّتِ وَالْمُقَيْرِ وَقَالَ ابْنُ عَبِيدٍ النَّقِيرُ مَكَانُ الْمُقَيْرِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ وَالنَّقِيرُ وَالْمُقَيْرُ لَمْ يَذْكُرِ الْمُزَلَّتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضَّبْيِيُّ۔

شراب کے خالی برتن:

مذکورہ ممانعت اسلام کے شروع دور میں تھی اس وقت شراب کو حرام ہوئے کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ لوگوں کے دل شراب کی طرف مائل تھے شریعت نے بطور احتیاط اور سد باب کے طور پر شراب کے ہر قسم کے برتنوں کا استعمال حرام قرار دیا تاکہ ذہنوں میں شراب کا خیال بھی نہ آئے۔

۲۹۴: وہب بن بقیہ، نوح بن قیس، عبد اللہ بن عون، محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قبیلہ عبد القیس کے لوگوں کو لکڑی کے برتن کے استعمال سے منع فرمایا جو برتن درخت کی جڑ سے تیار ہوتا ہے اور آپ نے قیر لگے ہوئے (یعنی روغن) اور لاکھی اور کدو کے تو بنے اور ایسے مہک سے جس کا نیچے بند نہ ہو۔ لیکن تم اس مہک سے پانی پیا کرو اور اس کا منہ باندھ دیا کرو۔

۲۹۴: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْفِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالِدُّبَابِ وَالْمَزَادَةِ الْمُجُوبَةِ وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَاتِكَ وَأَوْكِدِ۔

۲۹۵: مسلم بن ابراہیم، ابان، قتادہ، عکرمہ، سعید بن مسیب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وفد عبد القیس کے واقعہ میں مروی ہے کہ ان لوگوں نے عرض کیا ہم لوگ کونسے برتن میں پانی پیئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑوں کی مشکوں میں پانی پیا کرو جن کا منہ باندھ دیا جاتا ہے۔

۲۹۵: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا فِيمَ نَشْرَبُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يَلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا۔

شراب کے برتن استعمال کرنے کی ممانعت:

مذکورہ حکم اسلام کے شروع دور میں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ شراب کے برتنوں کو دیکھ کر شراب کے دور کی یاد تازہ نہ کریں اس لئے آپ نے منگ سے پانی پینے کا حکم فرمایا تھا۔

۲۹۶: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْقَمُوصِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَقَفُوا إِلَى النَّبِيِّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسَبُ عَوْفٌ أَنَّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ التُّعْمَانِ لَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ وَلَا مَزْكَةٍ وَلَا دُبَّاءٍ وَلَا حَتَمٍ وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوَكِّيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ اشْتَدَّ فَانْكَسِرُوهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ أَغْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ۔

۲۹۶: وہب بن بقیہ خالد عوف حضرت ابو قموص زید بن علی سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جو وفد القیس میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا تھا۔ عوف سمجھتے تھے اس شخص کا نام قیس بن نعمان تھا وہ شخص کہتا تھا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ لکڑی کے برتن میں نہ پیا کرو اور نہ رال کے روغنی برتن میں نہ کدو کے تونے اور لاکھی کے برتن میں بلکہ چمڑے کی منگ سے پیا کرو۔ جس پر ڈاٹ لگی ہو اگر نیب میں شدت پیدا ہو جائے تو پانی ڈال کر اس کی شدت کو کم کر دو اگر اس کے بعد بھی نیب کی شدت کم نہ ہو تو اس کو بہا دو۔

۲۹۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَدِيْمَةَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَ نَشْرَبُ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمَزْكَةِ وَلَا فِي النَّقِيرِ وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ قَالَ فَصَبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقَالَ لَهُمْ فِي الْفَالِقَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَهْرِيقُوهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمَ الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ قَالَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَدِيْمَةَ عَنِ الْكُوبَةِ قَالَ الطَّبْلُ۔

۲۹۷: محمد بن بشار ابو احمد حدیثنا سفیان علی بن بدیمہ قیس بن حبتار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کس برتن میں پئیں؟ آپ نے فرمایا کدو کے تونے اور رال لگے ہوئے برتن میں نہ پیا کرو اور نہ لکڑی کے برتن میں بلکہ مشکوں میں نیب بنایا کرو۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مشکوں میں جوش مارنے لگے تو؟ آپ نے فرمایا اس میں پانی ڈال دو۔ پھر وہ کہنے لگے: یا رسول اللہ تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا تم اس کو بہا دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مجھ پر شراب جو اور ڈھول حرام قرار دیا اور آپ ﷺ نے فرمایا ہر ایک نشہ آور شے حرام ہے سفیان نے کہا پھر میں نے علی بن حزمیہ سے کوبہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا وہ ڈھول ہے۔

۲۹۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمِيْعٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَمِيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْجِجَعَةِ۔

۲۹۸: مسدد عبد الواحد اسماعیل بن سمیع حدیثنا مالک بن عمیر عن علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ہم لوگوں کو تونے کے برتن لاکھی کے برتن اور لکڑی کے برتن (کے استعمال) اور جو کی شراب سے منع فرمایا۔

۲۹۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا أَمْرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُرُّوْهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةٌ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصْحَابِ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ۔

۲۹۹: احمد بن یونس، معرف بن واصل، محارب بن دینار، ابن بریدہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو میں نے تین چیزوں سے منع کیا تھا اب میں تم لوگوں کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ (۱) میں نے زیارت قبور سے منع کیا تھا تم لوگ اب ان کی زیارت کر لیا کرو کیونکہ زیارت قبور سے دنیا کی جانب سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد آتی ہے اور (۲) میں نے تمہیں منع کیا تھا چمڑے کے علاوہ دوسرے برتنوں میں نیبذ استعمال کرنے سے تو اب تم لوگ ہر ایک قسم کے برتن میں سے پیا کرو لیکن نشہ کی کوئی چیز نہ پیا کرو۔ اور (۳) میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زائد کھانے سے منع کیا تھا اب تم قربانی کا گوشت کھا لیا کرو اور حالت سفر میں اس سے نفع حاصل کرو۔

زیارت قبور اور شراب کے برتنوں کی ممانعت و اجازت:

اسلام کے شروع زمانہ میں لوگ بتوں کی پوجا سے توبہ کر کے اسلام لائے تھے آپ نے لوگوں کو زیارت قبور سے اس وجہ سے منع فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ دوبارہ شرک و کفر کی طرف چلے جائیں بعد میں جب دیکھا کہ اب ایمان والوں میں پختہ ہو گیا ہے تو زیارت قبور کی اجازت عطا فرمائی اور جس وقت حرمت شراب کا حکم ہوا تو آپ نے شراب کے خالی برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پھر شراب کی یاد آئے بعد میں شراب کے برتنوں کو پاک کرنے کے بعد استعمال جائز فرمایا۔

۳۰۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْأَوْعِيَةِ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بَدَ لَنَا قَالَ فَلَا إِذْنَ۔

۳۰۰: مسدد، یحییٰ، سفیان، منصور، سالم، حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب ان برتنوں کے استعمال کو منع فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ انصار نے خدمت نبوی میں عرض کیا ہم لوگوں کو ان کی بہت ہی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا تمہیں اب منع نہیں کرتا۔

۳۰۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ قِيَاضٍ عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَوْعِيَةَ الدُّبَاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالْمُرْقَاتِ وَالنَّقِيرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّهُ لَا ظُرُوفَ لَنَا فَقَالَ اشْرَبُوا مَا حَلَّ۔

۳۰۱: محمد بن جعفر، شریک، زیاد بن قیاض، ابو عیاض، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے برتنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ایک تو کدو کے تونے کا دوسرے لاکھی کا برتن تیسرے روغنی برتن چوتھے لکڑی کا برتن درخت کی جڑ کا۔ ایک دیہاتی شخص نے عرض کیا پھر ہم لوگوں کیلئے کوئی برتن نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا جو چیز حلال ہے اس کو (کسی بھی) برتن میں پیو۔

۳۰۲: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا

۳۰۲: حسن بن علی، یحییٰ بن آدم، حضرت شریک سے اسی طریقہ سے

يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ بِإِسْنَادِهِ قَالَ اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ۔
روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نشہ آور شے سے بچو۔

۳۰۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زَهِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نَبَذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ۔
۳۰۳: عبد اللہ بن محمد زہیر ابو زبیر حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشک میں نبیذ بنایا جاتا تھا اور (اگر کسی وجہ سے) مشک نہیں ملتی تو پتھر کے برتن میں نبیذ بنایا جاتا تھا۔

خلاصۃ الباب: نبی کریم ﷺ جو چیزیں نوش فرمایا کرتے تھے ان میں ایک نفع ہے اور ایک نبیذ۔ یہ دونوں چیزیں مشروبات کی قسم سے ہوتی ہیں ان میں سے نفع کو بنانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انگور یا کھجوروں کو پانی میں محض بھگو دیا جاتا ہے اس کو جوش نہیں دیا جاتا اس طرح انگور یا کھجوروں کی مٹھاس اس پانی میں آ جاتی ہے اور ایک عمدہ قسم کا شراب بنتا ہے اور یہ شراب بہت مزیدار بھی ہوتا ہے اور بدن کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے چنانچہ خرما کا نفع معدہ کے نظام کو درست کرتا ہے اور کھانے کو جلد ہضم کرتا ہے جب کہ انگور کا نفع جسم کی زائد حرارت کو دفع کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔

نبیذ بھی اسی طرح بنتا ہے فرق محض یہ ہوتا ہے کہ نبیذ کی صورت میں انگور یا کھجوروں کو پانی میں بھگو کر کچھ عرصہ تک کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں کچھ ہلکی سے تیزی اور تغیر پیدا ہو جائے، لیکن اتنی تیزی یا اتنا زیادہ تغیر نہیں جو نشہ آور ہو جانے کی حد تک پہنچ جائے، کیونکہ جس نبیذ میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا پینا قطعاً حرام ہے اسی لئے رسول کریم ﷺ اس نبیذ کو ہرگز نہیں پیتے تھے جس پر تین دن سے زائد کا عرصہ گزر جاتا تھا جیسا کہ آگے آگے کا نفع کی طرح نبیذ بھی ایک فائدہ مند مشروب ہے یہ جسم کی طاقت و قوت میں اضافہ کرتا ہے اور عام صحت کی محافظت کرتا ہے۔

واضح رہے کہ نبیذ انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی بنتی ہے چنانچہ نہایت ہی میں لکھا ہے کہ نبیذ کھجور سے بھی بنتی ہے اور انگور سے بھی، شہد سے بھی بنتی ہے اور گہہوں اور جو وغیرہ سے بھی۔

باب: مخلوط اشیاء سے نبیذ بنانے کا بیان

۳۰۴: قتیبہ بن سعید لیت عطاء حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے انگور اور کھجور ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور کھجور اور تر کھجور ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

باب فی الخلیطین

۳۰۴: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّيْبُ وَالْتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْمُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا۔

۳۰۵: موسیٰ بن اسماعیل ابان یحییٰ حضرت عبد اللہ بن ابی قتادہ اپنے والد ابوقتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں کھمش اور کھجور ملا کر نبیذ بنانے اور کھجور اور خشک کھجور ملا کر نبیذ تیار کرنے اور خشک رنگین اور تازہ کھجور ملا کر نبیذ تیار کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا تم

۳۰۵: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَوْسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّيْبِ وَالْتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ

لوگ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ نبیذ تیار کیا رکرو۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے ابوقادہ کے واسطے سے حضرت رسول کریم ﷺ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

۳۰۶: سلیمان بن حرب، حفص بن عمر، شعبہ، حکم، حضرت ابن ابی لیلیٰ ایک آدمی سے، حفص (راوی) کہتے ہیں کہ یہ آدمی اصحاب رسول میں سے ہیں ان سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے کچی پختہ کھجور ملا کر بھگونے سے اور کشمش اور کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

۳۰۷: مسدؤ یحییٰ، ثابت، ربیعہ، کبشہ بنت ابی مریم سے مروی ہے کہ میں نے اُم سلمہ سے ان اشیاء کے بارے میں دریافت کیا کہ جن سے نبی ﷺ نے منع فرمایا۔ اُم سلمہ نے فرمایا آپ کھجور کو اس قدر پکانے سے منع فرماتے تھے کہ اس کی گھٹلی بھی پکھل جائے (یعنی اسکی گھٹلی کو جانور بھی نہ کھاسکیں) اور آپ نے کشمش اور کھجور ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

۳۰۸: مسدؤ عبد اللہ، مسعر، موسیٰ بن عبد اللہ، بنو اسد کی ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب کشمش کی نبیذ تیار کی جاتی تو اس میں کھجور ڈالی جاتی اور جب کھجور کی نبیذ تیار ہوتی تو اس میں کشمش ڈالی جاتی۔

الرُّهُوَ وَالرُّطْبُ وَقَالَ انْبَدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَيَّ حِدَةً قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔

۳۰۶: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمِرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ حَفْصُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ نَهَى عَنِ الْبَلْحِ وَالْتَمْرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ۔

۳۰۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَمَارَةَ حَدَّثَنِي زَيْطَةُ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجَمَ النَّوْمَى طَبْحًا أَوْ نَخْلَطَ الزَّيْبَ وَالتَّمْرَ۔

۳۰۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْبُدُ لَهُ زَيْبٌ فَيُلْقِي فِيهِ تَمْرًا وَتَمْرٌ فَيُلْقِي فِيهِ الزَّيْبَ۔

نبیذ کی اقسام:

نبیذ کی چند اقسام ہیں بعض جائز ہیں بعض ناجائز اور نبیذ کے بارے میں اختلاف ائمہ اور اس سلسلہ کی مختصر بحث جلد اول میں گزر چکی ہے۔

۳۰۹: زیاد بن یحییٰ، ابو بکر، حضرت عتاب بن عبد العزیز الجہانی کہتے ہیں کہ مجھے صفیہ بنت عطیہ نے بتایا کہ میں وفد عبد القیس کی خواتین کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ہم نے آپ سے کھجور اور کشمش کی نبیذ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں ایک مشت کھجور اور ایک مشت منق لے کر ایک برتن میں ڈال دیتی تھی پھر میں ان کو ہاتھوں سے مسلتی تھی پھر میں وہ آنحضرت ﷺ کو پلاتی تھی۔

۳۰۹: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَتَابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَهَانِيُّ حَدَّثَنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةٍ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ التَّمْرِ وَالزَّيْبِ فَقَالَتْ كُنْتُ آخِذٌ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَيْبٍ فَأَلْقِيَهُ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أَسْفِيهِ النَّبِيُّ ﷺ۔

باب: کچی پکی کھجور کی نبیذ بنانے کا بیان

۳۱۰: محمد بن بشر، معاذ بن ہشام ان کے والد حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ جابر بن زید اور عمرہ رضی اللہ عنہما دونوں کچی پکی کھجور کی نبیذ کو مکروہ سمجھتے تھے اور وہ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ مزاء نہ ہو کہ جس سے قبیلہ عبدالقیس کے لوگوں کو منع فرمایا گیا تھا میں نے قتادہ سے دریافت کیا کہ مزاء کیا شے ہے؟ انہوں نے فرمایا لاکھی (رنگ کے برتن) یا روغن دار برتن میں نبیذ بنانا۔

باب: نبیذ کب تک پی جا سکتی ہے؟

۳۱۱: عیسیٰ بن محمد، ضمیرہ شیبانی، عبد اللہ ان کے اپنے والد دلیلی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ واقف ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں؟ اور کس جگہ کے باشندے ہیں؟ اور کس کے پاس حاضر ہوئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے پاس آئے ہو۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگوں کے یہاں انگور کی پیداوار ہوتی ہے ہم لوگ اسکا کیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا (انگور کو) خشک کر لو۔ ہم نے عرض کیا خشک انگور کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا تم صبح کو ان کو (پانی میں) بھگو دو اور شام کو اس کو پیو اور جب شام کو بھگو تو صبح کو اسکو پیو اور تم لوگ اسکو چڑے کی مشکوں میں بھگو یا کرو اور گھڑوں اور مشکوں میں نہ بھگو یا کرو کیونکہ اگر اسکو چمڑے میں تاخیر ہو جائیگی تو وہ مر کہ بن جائیگا۔

باب فی نبیذ البسر

۳۱۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرَمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهُانِ الْبُسْرَ وَحَدَّهُ وَبِأَخْذَانِ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَحْسَنَى أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ الَّذِي نُهِيتَ عَنْهُ عَبْدُ الْقَيْسِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا الْمَرْءُ قَالَ النَّبِيذُ فِي الْحَتَمِ وَالْمَرْزَقِ.

باب فی صفة التبیذ

۳۱۱: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُمْ مَنْ نَحْنُ وَمَنْ آيُنْ نَحْنُ فَأَلَى مَنْ نَحْنُ قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبُّوَهَا قُلْنَا مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِّبِ قَالَ ابْنُدُّوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَأَبْنُدُّوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَأَبْنُدُّوهُ فِي الشِّتَانِ وَلَا تَبْنُدُّوهُ فِي الْقَلْلِ فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ حَلَاً.

کھجور کی نبیذ:

مٹی کے برتن میں انگور کھجور وغیرہ پانی میں ڈال کر بھگونے سے اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے جھاگ نکلنے لگتے ہیں اور اس کے پینے سے نشہ ہو جاتا ہے اس لئے اس سے منع فرمایا البتہ اگر چڑے کی مشک میں بھگو یا جائے اور اس کو پی لیا جائے تو اس میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور نبیذ کی تفصیلی بحث بذل المجموعہ میں دیکھیں۔

۳۱۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ مَرْوَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيذَ فِي الْمَكِّ فِي

عَبِيدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَاءٍ يَوْمًا أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءٌ يُنْبَذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَيُنْبَذُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً۔

نبیذ ڈالا جاتا تھا اور (مشک کے) اوپر کا منہ بند کیا جاتا تھا اور آپ کا ایک عزلاء تھا۔ جو نبیذ صبح کو تیار کی جاتی آپ اس کو عشاء کے وقت نوش فرماتے اور عشاء کے وقت جو نبیذ تیار کی جاتی تو آپ اس کو صبح کے وقت نوش فرماتے۔

عزلاء کا مفہوم:

عزلاء کے معنی ہیں دو منہ والا مشکیزہ۔ جب اس سے پینا ہوتا تھا تو اس کے اوپر کا منہ بند کر کے نچلے منہ سے پیتے تھے اور مذکورہ حدیث میں عشاء سے مراد نماز عشاء کا وقت نہیں ہے بلکہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا وقت مراد ہے۔ عرب میں عشاء اسی کو کہا جاتا ہے اور نماز فجر اور سورج بلند ہونے کے درمیان جو وقت ہے اس کو غدوہ کہا جاتا ہے۔

۳۱۳: مسند معتز، شیب، حضرت مقاتل بن حیان اپنی پھوپھی عمرہ سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ آنحضرت ﷺ کے لئے صبح کو نبیذ ڈالا کرتی تھیں پھر جب رات کا وقت ہو جاتا تو آپ اسے رات کے کھانے کے بعد نوش فرماتے اور اگر کچھ باقی رہ جاتا تو میں اس کو بہا دیتی یا فرمایا کہ انڈیل دیتی پھر رات کے وقت جو نبیذ تیار کرتی۔ صبح ہوتی تو آپ صبح کا کھانا تناول فرمانے کے بعد اس کو نوش فرماتے تھے اور ہم لوگ مشک کو صبح و شام دھوتے تھے۔ مقاتل نے بیان کیا میرے والد حیان نے ان سے کہا ایک دن رات میں دو مرتبہ دھوتے آپ نے فرمایا جی ہاں دو مرتبہ دھوتے۔

۳۱۴: مغلد بن خالد ابو معاویہ اعمش، ابو عمر، یحییٰ ہانی، ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ کے لئے کشمش کی نبیذ تیار کی جاتی آپ اس کو اسی دن اس سے اگلے دن تمام دن نوش فرماتے اور تیسرے دن شام تک اس کو نوش کرتے۔ پھر آپ حکم فرماتے (جو باقی رہ جاتی) تو وہ خدام کو پلا دی جاتی یا بہا دی جاتی (اگر اس میں شدت پیدا ہو جاتی) امام ابوداؤد نے فرمایا: "يُسْقَى الْخَدَمُ" کا مفہوم یہ ہے کہ خراب ہونے سے قبل۔

باب: شہد کے شربت پینے کا بیان

۳۱۵: احمد بن محمد حجاج، ابن جریج، عطاء عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبیؐ نے بنت جحش کے پاس قیام فرماتے اور شہد نوش فرماتے میں نے اور حفصہ نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں میں

۳۱۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَيْبَةَ بِنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُدْوَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعِشَاءِ فَتَعَسَى شَرِبَ عَلَيَّ عِشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَّتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَيَشْرَبُ عَلَيَّ غَدَائِهِ قَالَتْ يُغَسَّلُ السِّقَاءُ غُدْوَةً وَعِشِيَّةً فَقَالَ لَهَا أَبِي مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ قَالَتْ نَعَمْ۔

۳۱۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَّ وَتَعَدُّ الْغَدَّ إِلَى مَسَاءِ الْفَالِغَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمَ أَوْ يَهْرَاقُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمَ يُبَادِرُ بِهِ الْفَسَادَ۔

باب فی شَرَابِ الْعَسَلِ

۳۱۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبِيدَةَ بْنَ عَمْرِوٍ قَالَ سَمِعْتُ

سے جس کے پاس آپ تشریف لائیں ہم میں سے ہر ایک آپ سے یہ کہے گی کہ آپ کے منہ مبارک سے مغفیر کی بو آرہی ہے۔ پھر آپ ان دونوں میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے یہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے زینب بنت جحش کے پاس شہد پیا ہے۔ آج کے بعد سے میں ہرگز وہ نہیں پیوں گا۔ اس پر آیت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ یعنی اے نبی تم اس چیز کو اپنی بیویوں کی خاطر کیوں حرام کرتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ اور عائشہ صدیقہ اور حفصہؓ کو حکم ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور جب نبیؐ نے اپنی کسی زوجہ مطہرہ کو چھپا کر ایک بات کہی یعنی یہ کہ میں نے شہد پیا ہے۔

۳۱۶: حسن بن علی ابواسامہ ہشام ان کے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ میٹھی چیز اور شہد بہت پسند فرماتے تھے پھر اس حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا اور کہا آنحضرت ﷺ کو ناگوار تھا کہ آپ کے جسم سے کوئی بدبو قسم کی چیز محسوس ہو ایک حدیث میں ہے حضرت سودہ نے فرمایا کہ آپ نے مغفیر کھایا ہے آپ نے فرمایا نہیں میں نے شہد پیا ہے اور حفصہ نے شہد پلایا ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ شہد کی کھسی نے عرفتہ (نامی کانٹے بدبو دار کو چوس لیا ہو) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ شہد میں بدبو آنے کا (یہی سبب ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ سے اس کی بدبو محسوس ہو رہی ہے)

عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيُّنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغْفِيرٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِحْدَاهُنَّ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَتَزَلْتُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتَّعِي إِلَيَّ إِنْ تَوَبَّأَ إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ ﷺ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا۔

۳۱۶: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْخَبَرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوَجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ سَوْدَةُ بَلْ أَكَلْتُ مَغْفِيرَ قَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا سَقَيْتَنِي حَفْصَةُ فَلَقَلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعَرْفُطُ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَغْفِيرُ مَقْلَةٌ وَهِيَ صَمْعَةٌ وَجَرَسَتْ رَعَتْ وَالْعَرْفُطُ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ۔

مغفیر کیا ہے؟

مغفیر ایک قسم کا گوند ہوتا ہے اس میں بدبو ہوتی ہے آنحضرت ﷺ کو اس سے نفرت تھی۔ اس میں لہن جیسی بدبو ہوتی ہے۔

باب: جب نبیذ میں شدت پیدا ہو جائے تو اس کا

باب فی التَّبِيدِ

استعمال کرنا؟

إِذَا عَلِيَ

۳۱۷: ہشام بن عمار صدقہ بن خالد زید بن واقد خالد بن عبد اللہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ

۳۱۷: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ

علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزہ رکھتے تھے اس روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبیز لے کر حاضر ہوا جو کہ کدو کے تونے مین تھی میں جب اس کو لے گیا تو نبیز جوش مار رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کو دیوار پر پھینک دو یہ تو وہ شخص ہے گا جو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو۔

اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَاءٍ ثُمَّ آتَيْتُهُ بِهِ لَبَّادًا هُوَ يَنْشُ فَقَالَ اضْرِبْ بِهَذَا الْجَانِطِ فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔

نبیز کی حرام قسم:

جس وقت نبیز میں جوش اور شدت پیدا ہو جائے تو اس کا پینا جائز نہیں کتاب الصلوٰۃ بذل المجہود میں اس مسئلہ کی تفصیل اور اختلاف ائمہ مذکور ہے ہم نے بھی جلد اول میں اس کا خلاصہ عرض کر دیا ہے۔

باب: کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیان

۳۱۸: مسلم بن ابراہیم ہشام قتادہ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر پانی پئے۔

۳۱۹: مسدد یحییٰ مسعر عبد الملک بن میسرہ حضرت نزال بن سبرہ سے مروی ہے کہ حضرت علیؓ نے پانی منگوایا اور انہوں نے کھڑے کھڑے پانی پیا اور فرمایا بعض لوگ اس کو برا خیال کرتے ہیں بلاشبہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا جس طرح کہ تم نے مجھ کو دیکھا ہے۔

باب فِي الشَّرْبِ قَائِمًا

۳۱۸: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا۔

۳۱۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا يَكْرَهُ أَحَدَهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ نِي فَعَلْتُ۔

باب: مشکیزے کے منہ سے پینے کا بیان

۳۲۰: موسیٰ بن اسماعیل حماد قتادہ عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مشک کے منہ سے پانی پینے کی سماعت فرمائی اور ناپاکی کھانے والے جانور کی سواری اور مجسمہ کے کھانے سے منع فرمایا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں جلالہ اس کو کہتے ہیں جو کناپاکی کھاتا ہے۔

باب الشَّرَابِ مِنْ فِي السَّقَاءِ

۳۲۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَالَةِ وَالْمَجْجَمَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَلَالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعُدْرَةَ۔

مجسمہ کی وضاحت:

مجسمہ اس کو کہا جاتا ہے جو تیر وغیرہ کے نشانے لگا کر ہلاک کیا جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جائے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔

باب: مشک کا منہ موڑ کر اس میں سے پانی پینے کا بیان

۳۲۱: موسیٰ بن اسماعیل زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے دہانہ کو موڑ کر پانی پینے سے منع فرمایا۔

باب فی اِخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ

۳۲۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ.

تتریبی ممانعت:

مذکورہ ممانعت تتریباً ہے اور آپ نے اس وجہ سے یہ حکم فرمایا تاکہ کپڑے وغیرہ نہ بھگیں یا مشک کا دہانہ بدبودار نہ ہو جائے اور پوسے بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پانی گلاس وغیرہ میں لے کر دیکھ کر پیا جائے ایسا نہ ہو کہ پانی میں کوئی کیڑا وغیرہ گر گیا ہو۔

۳۲۲: نصر بن علی، عبدالاعلیٰ، عبید اللہ بن عمر، عیسیٰ بن عبد اللہ، حضرت عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ پانی منگوا یا پھر حکم فرمایا اس کا دہانہ موڑ دو پھر آپ نے (ضرورت کی بنا پر) اس کے دہانہ سے پانی نوش فرمایا۔

۳۲۲: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ عَنْ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ اخْتِنْتُ لَمْ إِذَاوَةٌ لَمْ شَرِبَ مِنْ فِيهَا.

باب: پیالہ میں سے ٹوٹی ہوئی جگہ یا سوراخ

میں سے پینا

۳۲۳: احمد بن صالح، عبد اللہ بن وہب، قرہ ابن شہاب، عبید اللہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے سوراخ میں سے پانی پینے اور پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا (کیونکہ پھونک مارنے سے منہ سے کچھ نکل کر پانی میں گر سکتا ہے)۔

باب فی الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةٍ

الْقَدَحِ

۳۲۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ.

باب: سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے

کا بیان

۳۲۴: حفص بن عمر، شعبہ، حکم ابن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ حضرت ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ شہر مدائن میں تھے کہ انہوں نے پانی مانگا تو ایک زمیندار شخص چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا۔

باب فی الشُّرْبِ فِي آيَةِ الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ

۳۲۴: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حَذِيفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى لَكَتَاهُ دِهْقَانَ يَبَانٍ مِنْ فِضَّةٍ

حذیفہؓ نے اس کو پھینک دیا اور کہا میں نے اس برتن کو اس وجہ سے پھینک دیا کہ میں اس زمیندار شخص کو اس سے منع کر چکا ہوں لیکن وہ باز نہیں آتا۔ بے شک نبیؐ نے ریشمی لباس، دیباچ کے کپڑے اور سونے چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا اور آپؐ نے فرمایا یہ اشیاء دنیا میں کفار کے لئے ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔

فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلَّا إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ۔

دیباچ کی تشریح:

دیباچ ریشمی کپڑے کی قسم ہے۔ بعض حضرات جس ریشمی کپڑے پر پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو دیبا کہتے ہیں اور سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں۔

باب: کسی برتن میں منہ ڈال کر پانی پینا

۳۲۵: عثمان بن ابی شیبہ، یونس، فلیح، سعید بن حارث، حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہمراہ ایک انصاری کے پاس تشریف لے گئے وہ انصاری اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہارے پاس اگر پرانی مشک میں رات کا بچا ہوا پانی ہو تو بہت بہتر ہے ورنہ ہم منہ لگا کر نہر سے ہی پانی پی لیں گے۔ اس شخص نے عرض کی جی ہاں میرے پاس مشک میں رات کا بچا ہوا پانی موجود ہے۔

باب فِي الْكُرْعِ

۳۲۵: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَحْوِلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنْءٍ وَالْآنَ كَرَعْنَا قَالَ بَلْ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنْءٍ۔

منہ لگا کر پانی پینا:

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ مشک وغیرہ میں یا نہر دریا سے منہ لگا کر پانی پینا درست ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ برتن ہاتھ میں لے کر پانی پیاجائے۔

باب: ساتی پانی کب پئے

۳۲۶: مسلم بن ابراہیم، شعبہ، ابوالخوار، حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ساتی کو سب سے اخیر میں پینا چاہئے۔

باب فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ

۳۲۶: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شَرَبًا۔

۳۲۷: قعنبی، مالک، ابن شہاب، حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے دودھ آیا جس میں پانی ملا ہوا تھا اور آپ کے دائیں جانب ایک دیہاتی تھا اور بائیں جانب حضرت صدیق اکبرؓ

۳۲۷: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِلَكْنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ

أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أُعْطِيَ
الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْإِيْمَنُ فَلَا يُؤْمِنُ -
تھے۔ آپ نے دودھ نوش فرما کر دیہاتی کو پیالہ عنایت فرمایا اور فرمایا
دائیں والے شخص پھر دائیں والا ہے۔

دائیں جانب سے شروع کرنا:

اس حدیث سے واضح ہے کہ ہر کام میں (سوائے استنجاء کے) دائیں جانب سے شروع کرنا اولیٰ ہے۔

۳۲۸: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَأُ
وَأَمْرًا وَأَبْرَأُ -
۳۲۸: مسلم بن ابراہیم ہشام ابو عصام حضرت انس بن مالک سے
مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ تین سانس میں پانی نوش فرماتے تھے۔ اور
آپ فرماتے کہ یہ سانس لینا پیاس کو اچھی طرح بھجاتا ہے اور کھانے کو
ہضم کرتا ہے اور تندرستی بہتر بناتا ہے۔

باب: پانی میں پھونک مارنے کا بیان

۳۲۹: عبد الله بن محمد ابن عيينة عبد الكريم عكرمة حضرت ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع
فرمایا ہے۔

۳۳۰: حفص بن عمر شعبه يزيد حضرت عبد الله بن بسر سے جو قبیلہ بنو سلیم
میں سے تھے مروی ہے کہ نبی میرے والد کے پاس تشریف لائے اور
ان کے مہمان ہوئے انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا راوی کہتے ہیں کہ
حیص پیش کیا۔ آپ نے حیص تناول فرمایا پھر وہ مشروب لے کر حاضر
ہوئے۔ آپ نے وہ نوش فرمایا اور نوش فرما کر اپنی دائیں جانب والے
شخص کو عنایت فرما دیا پھر آپ نے کھجوریں نوش فرمائیں اور ان کی
گٹھالیاں اپنے درمیانی اور شہادت کی انگلی پر رکھتے گئے۔ جب آپ
چلنے کیلئے کھڑے ہو گئے تو میرے والد بھی کھڑے ہو گئے اور آپ کی
سواری کے جانور کی لگام پکڑ کر عرض کیا میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعا
فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ان کو برکت عطا فرما اس چیز میں جو
آپ نے ان کو عطا فرمائی اور ان کی مغفرت فرمادے اور ان پر رحم فرما۔

باب: دودھ پی کر کیا دُعا مانگی جائے؟

۳۳۱: مسدّد حماد (دوسری سند) موسیٰ بن اسماعیل حماد علی بن زید عمر

باب ما یقول إذا شرب اللبن

۳۳۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ

بن حرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا اور آنحضرت ﷺ حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ وہاں پر تشریف لائے آپ کے سامنے دو کڑیوں پر دو بھنی ہوئی گوہ پیش کی گئیں آپ نے ان کو دیکھ کر تھوک دیا۔ حضرت خالد نے کہا لگتا ہے کہ آپ کو اس سے نفرت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر آپ کے لئے دودھ لایا گیا تو آپ نے اس کو نوش فرما کر ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس کو چاہئے کہ کہے اے اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہم کو اس کھانے سے بہتر کھانا عنایت فرما اور جب دودھ پئے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما اور اس سے بھی زیادہ عنایت فرما کیونکہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی نعمت نہیں جو کھانے اور پینے دونوں میں کام آئے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں یہ مسدود کے الفاظ ہیں۔

باب: برتنوں کو ڈھکنے کا بیان

۳۳۲: احمد بن حنبل، یحییٰ، ابن جریج، عطاء، حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا اور اللہ کا نام لے کر اپنے چراغ گل کرو اور اپنے برتن کو بھی ڈھانک دو اللہ کا نام لے کر اگرچہ ایک کڑی ہی اس کے اوپر رکھ دو اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشک کا منہ بند کر دو۔

۳۳۳: عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ پر ارشاد فرمایا اور ”یہ مکمل حدیث نہیں ہے“ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بند دروازہ بند مشک کو نہیں کھولتا ہے اور نہ کسی ڈھانکے ہوئے برتن کو کھولتا ہے۔

۳۳۴: مسدود، فضیل، حماد، کثیر، عطاء، حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بوقت عشاء بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ۔ مسدود نے کہا یا شام کے وقت۔ (یعنی ان اوقات

ح و حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَجَاءُوا بِصَيْنٍ مَشْوِيَةٍ عَلَى ثَمَامِيْنِ فَتَرَقَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ خَالِدُ إِخَالِكَ تَقَدَّرَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَجَلٌ لِمِ آتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَدِيْنَ فَشَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلْتُمْ أَحَدَكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذَا سَقَيْتُمْ لَنَا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا الْكَبْنُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ۔

باب فی ایكائ الانیة

۳۳۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مَغْلَقًا وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَخَيْرٌ إِنَّكَ وَلَوْ بَعُدَ تَعَرَّضَهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكُ سِقَاتِكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ۔

۳۳۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وَكَاءً وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ تُضْرَمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بِيوتَهُمْ۔

۳۳۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَفُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ السُّكْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شَيْظِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ

وَ اكْفَتُوا صِيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ
عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجَنِّ انْتِشَارًا وَ خَطْفَةً۔

۳۳۵: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلَا نَسْقِيكَ
نَبِيذًا قَالَ بَلَى قَالَ فَعَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ فَبَجَاءَ
بِقَدْحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَلَا خَمْرَتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرَضَ عَلَيْهِ عُوْدًا
قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ تَعْرَضَ عَلَيْهِ۔

۳۳۵: عثمان بن ابی شیبہ ابو معاویہ، اعمش، ابوصالح، حضرت جابر سے مروی ہے کہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے آپ نے پانی مانگا تو ہم لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کیا ہم آپ کو نبیذ نہ پلائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں راوی بیان کرتے ہیں وہ شخص جلدی سے گیا اور ایک پیالہ میں نبیذ لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس پیالہ کو کسی چیز سے کیوں نہیں ڈھانکا تھا تم اگر اس پیالے پر کم از کم ایک لکڑی ہی رکھ دیتے تو کافی تھا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں اصمعی نے بیان کیا اس لکڑی کو اس پیالہ پر رکھ دینا مراد ہے۔

۳۳۶: سعید بن منصور، عبد اللہ بن محمد، قتیبہ، عبد العزیز، ہشام، ان کے والد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے (سقیانا می ٹھٹھے چشمہ سے) پانی لایا جاتا۔ قتیبہ نے کہا سقیانا مدینہ منورہ سے دو روز کے فاصلہ پر ہے۔

۳۳۶: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسْتَعَذَّبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بِيوتِ السَّقِيَا قَالَ قُتَيْبَةُ هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْأَطْعَمَةِ

کھانے کا بیان

باب: دعوت قبول کرنے کا بیان

۳۳۷: تعنی مالک، نافع، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کسی کو دعوت ولیمہ کے لئے بلایا جائے تو اس کو اس دعوت میں حاضر ہونا چاہئے۔

باب مَا جَاءَ فِي إِبَابَةِ الدَّعْوَةِ
۳۳۷: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

دعوت ولیمہ:

دعوت ولیمہ سنت ہے اس کو قبول کرنا بھی سنت ہے۔ صحیح یہی ہے اگرچہ بعض حضرات نے اس کو واجب کہہ دیا ہے بہر حال ولیمہ کرنے والے کو چاہئے کہ غرباء کو بھی دعوت میں شریک کرے اور فضول خرچی نہ کرے۔

۳۳۸: محمد بن خالد ابو اسامہ عبید اللہ نافع، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسی طریقہ سے ارشاد فرمایا جس طرح سے اوپر مذکور ہے البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے اگر روزہ سے نہ ہو تو کھانا کھانے اور اگر روزہ سے ہو تو دعوت کرنے والے کے لئے صرف دُعائے (خیر) کرے۔

۳۳۹: حسن بن علی، عبد الرزاق، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تمہارا کوئی (مسلمان) بھائی تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہئے خواہ ولیمہ کی دعوت ہو یا ولیمہ جیسی کوئی تقریب ہو۔

۳۴۰: ابن مصفی، بقیۃ زبیدی، ایوب کی سند سے نافع نے یہی حدیث بیان کی ہے۔

۳۴۱: محمد بن کثیر، سفیان، ابو زبیر، حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص دعوت میں بلایا جائے تو اس کو چاہئے کہ دعوت قبول کرے پھر اگر چاہے تو کھانا کھالے اور دل نہ چاہے تو نہ کھائے۔ (بلا عذر شرعی انکار نہ کرے)

۳۴۲: مسدد، زُرست بن زیاد، ابان، طارق، نافع، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کی دعوت ہو اور وہ شخص اس دعوت کو قبول نہ کرے تو بے شک اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جو شخص بغیر بلائے چلا گیا تو گویا وہ شخص چور بن کر گھر میں داخل ہوا اور لوٹ مار کر کے باہر آیا۔

۳۴۳: یعنی مالک، ابن شہاب، اعرج، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اس ولیمہ کا کھانا تمام کھانوں سے بدتر ہے جس میں کہ (صرف) مالدار لوگوں کو بلایا جائے اور غریب فقیر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور جو شخص کسی کی دعوت میں شریک نہیں ہوا تو اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔

۳۳۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو اسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ۔

۳۳۹: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عَرَسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

۳۴۰: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ بِمَعْنَاهُ۔

۳۴۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ۔

۳۴۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ طَارِقٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَيَّ غَيْرَ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا۔

۳۴۳: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

ممنوع ولیمہ:

مطلب یہ ہے کہ ایسا ولیمہ باعث گناہ ہے جس میں کہ غرباء کو نظر انداز کر دیا جائے صرف مالدار لوگ مدعو کئے جائیں واضح رہے کہ اگر کسی کے یہاں خلاف شرع امور ہو رہے ہوں جیسے کہ آج کے دور میں ناچ، گانے، بے پردگی وغیرہ کا عام ماحول ہے تو

اس شخص کی دعوت میں جانے سے انکار کرنا ضروری ہے۔

باب فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلنِّكَاحِ
 ۳۳۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا
 حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذَكَرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ
 بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ مَا
 رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَمَ
 عَلٰى اَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَيْهَا اَوْلَمَ بِشَاوَةَ-
 ۳۳۵: حَدَّثَنَا حَامِدٌ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُوْفِيَانُ
 حَدَّثَنَا وَاِثْلُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ بَكْرِ بْنِ وَاِثْلٍ عَنِ
 الزَّهْرِيِّ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَمَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ-
باب: نکاح کے لئے ولیمہ کے مستحب ہونے کا بیان
 ۳۳۴: مسدّد قتیبہ بن سعید حماد ثابت سے مروی ہے کہ حضرت انس
 بن مالک کے سامنے زینب بنت جحش کے نکاح کا تذکرہ ہوا تو انہوں
 نے فرمایا۔ نبی نے ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہا میں سے کسی زوجہ محترمہ کے
 نکاح کا ایسا ولیمہ نہیں کیا جیسا ولیمہ زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کا کیا۔
 آپ نے (حضرت زینب کے نکاح میں) ایک بکری کا ولیمہ کیا۔
 ۳۳۵: حامد بن یحییٰ سفیان وائل بن داؤد ان کے صاحب زادے
 حضرت بکر بن وائل زہری حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ
 آنحضرت ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ولیمہ کیا تو
 آپ نے ستواور کھجور سے ولیمہ کیا۔

خلاصۃ الباب: اس ویسے کے کھانے کی برکت کی بابت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے
 مخصوص تین اشخاص کو بلانے کے لئے بھیجا تھا پس میں پوری طرح ان کے نام بھول چکا ہوں اس لئے انہوں نے ان تین کے
 ناموں کو فلاں فلاں اور فلاں سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رجلاً سَمَّاهُمْ کے الفاظ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے
 اپنے ہیں جو عوی طور پر فلاں کا بدل ہیں یا ساتھ تقدیری یا یعنی کے ہیں اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ حلوہ جب میں نے رکھا تھا تب زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا
 تب زیادہ تھا لیکن حقیقت بہر حال یہی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ہاتھ مبارک رکھنے سے ہی برکت کا مجزہ ہوا ہے اور یہ بھی حقیقت
 ہے کہ سب صحابہ کے کھانے کے ہا وجود وہ حلوہ بعد میں زیادہ تھا اور ہا برکت تھا۔

بعضوں کا خیال ہے کہ حدیث کے مفہوم سے تو یہ ہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت زینب کا ولیمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بھیجے
 ہوئے حلوے سے ہی ہوا تھا اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ولیمہ میں روٹی اور گوشت تھا۔ مثلاً خود حضرت
 انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے زینب کے ولیمہ میں گوشت اور روٹی سے ایک ہزار
 آدمیوں کو سیر کیا۔ لہذا ان دونوں حدیثوں میں جو تضاد آ گیا ہے وہ اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ اصل میں نبی کریم ﷺ اور زینب
 کے ولیمہ میں گوشت اور روٹی ہی تھی (بکری ذبح کی گئی تھی) اسی دوران ام سلیم رضی اللہ عنہا کا حلوہ بھی لایا گیا جو حضرت انس رضی
 اللہ عنہ لے کر آئے تھے اس طرح ان کے ولیمہ میں دونوں چیزیں کھلائی گئیں یعنی گوشت روٹی بھی اور حلوہ بھی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ ایک دن حلوہ کھلایا گیا ہو اور دوسرے دن گوشت روٹی کھلائی گئی ہو لیکن بلا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ
 کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جو حلوہ بھیجا تھا وہ ویسے کے طور پر کھلایا گیا ہو کیونکہ وہ انہوں نے ہدیہ کے طور پر
 بھیجا تھا جو نبی کریم ﷺ نے تین سو کے قریب لوگوں کو کھلایا تھا پھر اسی دن شام کو یا اگلے دن ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کیا گیا اور

اس ولیمہ میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ ایک ہزار لوگ شکم سیر ہوئے۔ پس کچھ منافات نہیں ہے ان دونوں روایتوں میں اور نہ ہی کوئی معارضہ ہے ان دونوں معجزوں میں۔

باب: سفر سے واپسی کے بعد کھانا کھلانے کا بیان

۳۳۶: عثمان بن ابی شیبہ و کعب، شعبہ، محارب بن دثار، حضرت جابر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ یا تیل ذبح فرمایا۔

باب: مہمان نوازی کرنے کا بیان

۳۳۷: یعنی مالک، سعید مقبری، حضرت ابو شریح سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی بہتر طریقہ سے تعظیم و تکریم کرے اور مہمان کا (جائزہ) ایک دن اور ایک رات کا ہے اور تین روز تک تو مہمانداری ہے اور اس کے بعد پھر صدقہ ہے اور میزبان کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لئے اس کے پاس قیام کرنا مہمان کے لئے حلال نہیں۔

بَابُ الْإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ
۳۳۶: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقْرَةً۔

بَابُ فِي الضِّيَافَةِ

۳۳۷: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَلْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمَهُ وَلَيْلَتُهُ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَيَّأَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ۔

مہمانداری کا حکم:

بہتر یہ ہے کہ تین روز مہمان نوازی کرے پہلے دن جو تکلف ہو سکے وہ کرے اور بہتر سلوک کرے اور دوسرے اور تیسرے روز جو میسر ہو وہ حاضر کرے اور اس کے بعد تیسرے دن ہو سکے تو مہمان کو کچھ دے دے جس سے کہ وہ سفر وغیرہ کر سکے اور مذکورہ حدیث میں جائزہ سے مراد مہمان کو کچھ ہدیہ دینا ہے لیکن مہمان کو ہدیہ دینے کا حکم اسلام کے شروع زمانہ میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا حدیث میں مہمان کے اکرام کا حکم ہے لیکن مہمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ میزبان کو تنگ کرے معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیمات کا بہاؤ کسی ایک طرف نہیں ہے بلکہ دوطرفہ ہدایات ہیں۔

۳۳۸: موسیٰ بن اسماعیل، محمد بن محبوب، حماد، عاصم، ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مہمان داری کی انتہا تین روز تک ہے پھر اس کے بعد صدقہ ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ جب میں حارث بن مسکین کی مجلس میں موجود تھا تو روایت اس طریقہ سے پڑھی گئی کہ اشہب نے بیان کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کے الفاظ جَائِزَتُهُ يَوْمَهُ وَلَيْلَتُهُ کے بارے

۳۳۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مَسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ وَسَبَّلَ مَالِكٌ

عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِزَةٌ يَوْمٌ وَآيَةٌ قَالَ يُكْرِمُهُ وَيُحْفَهُ وَيَحْفَظُهُ يَوْمًا وَآيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ضِيَافَةٌ۔
 میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک روز تک مہمان کی عزت کرے اور تحفہ دے اور اس کی بہتر طریقہ سے دیکھ بھال کرے اور تین روز تک اس کی مہمان داری کرے۔

خَلَاَصَةُ الْجَائِزَاتِ: نہایہ جزریہ میں اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ مہمان کی تین دن اس طرح مہمان داری کی جائے کہ پہلے دن اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں جو تکلف و اہتمام ہو سکے وہ کیا جائے اور پھر دوسرے و تیسرے دن بلا تکلف و اہتمام جو کچھ حاضر ہو اس کو مہمان کے سامنے پیش کر دے۔ اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی اتنی چیزیں دے دے جن کے سہارے وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر سکے۔

حدیث: ۳۲۷ میں ”جائزہ“ کا..... جو لفظ آیا ہے اس کا مفہوم یہی ہے ویسے لغت کے اعتبار سے ”جائزہ“ کے معنی بخشش تحفہ اور انعام کے ہیں لیکن یہاں وہ چیز مراد ہے جو ایک دن کی غذا کی ضرورت کے بقدر ہو اس کے سہارے منزل تک پہنچ جائے مہمان کو ”جائزہ“ کے بعد جو کچھ دیا جائے گا وہ ایک زائد چیز ہوگی اور صدقہ بھلائی اور احسان کے حکم میں ہوگا۔ اس وضاحت کے مطابق ”جائزہ“ یعنی مہمان کو ایک دن کے بقدر زاد اور وہ دینا ضیافت یعنی مہمان داری کے بعد ہوگا (جب کہ حدیث میں اس کا ذکر ضیافت سے پہلے کیا گیا ہے) نیز یہ جائزہ مہمان داری کرنے سے ایک زائد چیز ہوگا۔

یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ”جائزہ“ تین دن مہمان داری کرنے سے زائد کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں اس کا ذکر اس تکلف و اہتمام اور الطاف و عنایات کی وضاحت کے طور پر ہے جو میزبان مہمان داری کے تین دنوں میں سے پہلے دن اپنے مہمان کے لئے کرتا ہے چنانچہ ابوداؤد کی عبارت سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ ”جائزہ“ مہمان کی اس خاطر داری اور تواضع و مدارات کو کہا گیا ہے جو پہلے دن کی جاتی ہے اسی طرح حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی یہی فرماتے تھے کہ ہمارا علم بھی یہ ہے کہ ”جائزہ“ کے یہی معنی ہیں۔

”مہمان کے لئے یہ جائزہ نہیں ہے..... الخ“ سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کے ہاں مہمان جائے اس کے لئے یہ مطلقاً مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے میزبان کے ہاں تین دن سے زائد ٹھہرے ہاں اگر خود میزبان کی خواہش ہو اور وہ درخواست کرے تو اس کی استدعا پر تین دن سے زائد ٹھہرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسافر (مہمان) کسی کے یہاں ٹھہرے اور کسی عذر مثلاً بیماری وغیرہ کے سبب اس کو تین دن سے زائد قیام کرنا پڑ جائے تو وہ تین دن کے بعد اپنے پاس سے کھائے پئے صاحب خانہ کو کھجی و کلفت میں نہ ڈالے۔

باب فِي كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَكِيمَةُ

۳۳۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْفَقْفَقِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا أُنِي

باب: دعوت و لیمرہ کتنے روز تک کی جائے؟
 ۳۳۹: محمد بن ثنی، عفان بن مسلم، ہمام، قنادہ، حسن، حضرت عبد اللہ بن عثمان نے بیان کیا کہ میں نے ایک کانے شخص سے سنا جو کہ قبیلہ ثقیف میں سے تھا اس کے بھلائی کرنے کی وجہ سے اس کو لوگ معروف کہتے تھے خواہ اس کا نام (ہقیقتاً) معروف ہو یا نہ ہو) اگر اس کا نام زہیر بن

عثمان نہیں تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ اس کا کیا نام تھا۔ وہ شخص کہتا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ولیمہ کا پہلے دن کا کھانا حق ہے اور دوسرے روز کا کھانا نیکی ہے اور تیسرے دن ریاکاری اور نام و نمود ہے۔ قنادہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کی پہلے دن دعوت کی گئی تو انہوں نے دعوت قبول کر لی دوسرے دن بھی دعوت قبول کر لی البتہ تیسرے روز دعوت قبول نہیں کی اور فرمایا (یہ لوگ) نام و نمود والے ہیں۔

۳۵۰: مسلم بن ابراہیم ہشام قنادہ حضرت سعید بن مسیب سے یہی واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اس میں ہے کہ تیسرے روز جب انہیں دعوت دی گئی تو تشریف نہیں لے گئے بلکہ قاصد کے پتھر مار دیا۔

باب: مہمانداری کا مزید بیان

۳۵۱: مسدّد خلف بن ہشام ابو عوانہ منصور عامر حضرت ابو کریمؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر ایک مسلمان پر ایک رات مہمانی کا حق ہے جو شخص کسی مسلمان شخص کے گھر میں قیام کرے تو ایک روز کی مہمانداری گویا اس کے ذمہ قرض ہے چاہے تو پورا کر دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔

۳۵۲: مسدّد یحییٰ شعبہ ابو الجودی سعید بن ابی المہاجر حضرت مقدم ابو کریمؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کے پاس مہمان ہو کر جائے اور وہ شخص محروم رہا (یعنی کسی نے رات میں اس کی خاطر مدارات نہیں کی) تو تمام مسلمانوں پر اس مہمان کی امداد کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مہمان اپنی مہمانداری اس قوم کی کھتی اور مال میں سے وصول کر لے۔

۳۵۳: قتیبہ بن سعید لیث یزید ابو الحیر عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں (جہاد اور دوسرے امور کی انجام دہی کیلئے) روانہ فرماتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں میں جا کر ٹھہرتے ہیں کہ وہ ہماری مہمانداری نہیں کرتے تو اس سلسلہ میں آپ ہمارے لئے کیا مناسب خیال فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اگر کسی

يُنِي عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُمَانَ فَلَا أُدْرِي مَا اسْمُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْوَلِيمَةَ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمَ الثَّلَاثِ سُمْعَةُ وَرِبَاءٌ قَالَ قَنَادَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِي فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ أَهْلُ سُمْعَةَ وَرِبَاءٍ -

۳۵۰: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَبَ الرَّسُولَ -

بَابُ مِنَ الضِّيَافَةِ أَيْضًا

۳۵۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الضِّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ إِنْ شَاءَ أَقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ -

۳۵۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْجُودِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضِّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زُرْعِهِ وَمَالِهِ -

۳۵۳: حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَمَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ

بقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلصَّيْفِ فَأَقْبَلُوا
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصَّيْفِ الَّذِي
يَنْبَغِي لَهُمْ۔
قوم کے پاس جا کر ظہر و پھر وہ لوگ تمہارے لئے تمام سامان کا انتظام کر
دیں جیسا کہ مہمان کیلئے ہوتا ہے تو تم قبول کر لو اور اگر وہ لوگ ایسا نہ کریں
تو تم ان سے مہمانی کا حق جیسا کہ ان لوگوں کو چاہئے تھا وصول کر لو۔

کفار کی مہمانداری:

آنحضرت ﷺ نے کفار سے مصالحت کی تھی لیکن مصالحت نامہ میں یہ بات شامل تھی کہ اگر اہل اسلام کفار کے ملک جائیں تو
ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کی جائے گی مذکورہ حدیث میں وہی لوگ مراد ہیں یہ مطلب نہیں کہ مسافر جبراً مہمانداری کا مطالبہ
کرے۔ اسلام کے شروع زمانہ میں مہمان داری کا حکم واجب تھا اور اب مستحب ہے: ((مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ))۔ (بخاری)

باب نَسِخِ الصَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ
باب: دوسرے شخص کا مال کھانے کے حکم کے منسوخ

ہونے کا بیان

مالِ غَيْرِهِ

۳۵۴: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَى بْنِ حُسَيْنٍ أَسْكَهَ وَالِدُ يَزِيدِ نَحْوِي عِكْرَمَةَ ابْنَ عَبَّاسٍ
سے روایت ہے کہ جب یہ آیت: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ﴾ نازل ہوئی (اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال جھوٹ
مکرو فریب سے نہ کھاؤ البتہ تجارت میں دوسرے کی رضامندی سے
مال لے سکتے ہو) تو اس وقت سے ہر ایک شخص دوسرے شخص کے
یہاں کھانا کھانے کو بھی گناہ سمجھتا تھا پھر سورہ نور کی آیت: ﴿لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ سے منسوخ ہو گئی یعنی تم
لوگوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں کھانا کھاؤ یا
اپنے والد کے گھر میں یا اپنے بیٹوں یا بھائیوں، بہنوں کے گھروں میں یا
چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ کے گھر میں یا جن مکانات کی چابی اور تالے
کے تم مالک ہو یا دوست ملنے والے، تعلق والے کے گھر میں۔ پہلے
زمانہ کے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ دولت مند شخص اپنے لوگوں کو کھانا
کھلانے کیلئے دعوت دیتا تو وہ لوگ کہتے کہ ہم لوگوں کو اس میں سے کھانا

۳۵۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرَوِّزِيُّ
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَقِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
يَزِيدِ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِبْجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَكَانَ الرَّجُلُ يَخْرُجُ
أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ
هَذِهِ الْآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الْآيَةَ الَّتِي فِي النُّورِ قَالَ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بِيوتِكُمْ إِلَى
قَوْلِهِ أَشْتَاتًا كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ
أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِّي لَأَجْنَحُ أَنْ أَكُلَ مِنْهُ
وَالْتَجَنَّحُ الْخَرَجُ وَيَقُولُ الْمُسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ
مِنِّي فَأَجِلْ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَجِلْ طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ۔

گناہ معلوم ہوتا ہے بلکہ اس کھانے کا مسکین شخص مجھ سے زیادہ مستحق ہے اس کے بعد یہ صحیح ہو گیا یعنی دوسرے مسلمان بھائی کا کھانا کھانا
جب اس کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اہل کتاب کا کھانا بھی درست ہوا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پارہ ۲۳

باب: بطور فخر ایک دوسرے کی ضد کے لئے کھانا

کھلانے والوں کا بیان

۳۵۵: ہارون بن زید ان کے والد جریر بن حازم زبیر بن خریث عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فخر کرنے والوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابوداؤد درجہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر راویوں نے حریر سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس روایت میں بیان نہیں کیا البتہ ہارون نخوی نے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بیان کیا ہے نیز حماد بن زید بھی ان کو بیان نہیں کرتے تھے۔

باب فی طعام

الْمُتَبَارِعِينَ

۳۵۵: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزُّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْحَرِيثِ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِعِينَ أَنْ يُؤْكَلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْفَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيرٍ لَا يَذْكُرُ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُونَ النَّخَوِيُّ ذَكَرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ۔

ریا کار کے یہاں دعوت:

مذکورہ حدیث میں ریا کاری کرنے والوں اور ایک دوسرے کی ضد میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دعوت کرنے والوں پر وعید اور ان کے یہاں دعوت کھانے کی ممانعت ظاہر ہے۔

دعوت والے گھر میں خلاف شریعت کام ہو رہے ہوں

تو دعوت منظور کرنا جائز نہیں

باب الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرَى

مَكْرُوهًا!

۳۵۶: موسى بن اسماعيل، حماد سعيد بن جهمان، سفينة ابو عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے علی کرم اللہ وجہہ کی دعوت کی اور اس نے ان کیلئے کھانا تیار کیا اور (ان کے گھر پر کھانا بھیجا) تو فاطمہ الزہرا نے کہا کاش! ہم لوگ رسول کریم کو مدعو کرتے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ پھر انہوں نے نبی کو بلایا۔ آپ تشریف لائے اور آپ

۳۵۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَهْمَانَ عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَصَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَا مَعَنَا

نے اپنا دست مبارک دروازہ کی چوکت پر رکھا تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے کونے میں تصویروں والا پردہ لگا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ فاطمہؓ نے علیؓ سے فرمایا جاؤ یہ دیکھو کہ نبیؐ کس وجہ سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے گیا اور دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ کس وجہ سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے یا فرمایا کسی نبی کیلئے ایسے مکان میں جانا جائز نہیں کہ جہاں پر نقش و نگار بنے ہوئے ہوں۔

قَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتِي
الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ
النَّبِيِّ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيِّ الْحَقَّةُ
فَانظُرْ مَا رَجَعَهُ فَنَبَعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
رَدَّكَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيِّي أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا
مُرَوَّعًا۔

نقش و نگار والے گھر میں جانا:

مطلب یہ ہے کہ وہ مکان ایسا ہو کہ جس میں نقش و نگار بنے ہوں اور خوب زیب و زینت کی گئی ہو جیسا کہ ایسے مکان میں تشریف لے جانے سے احتراز فرماتے ہیں مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مکانات کو زینت دینا بہتر نہیں ہے اور جس جگہ شریعت کے خلاف کام ہوں وہاں شرکت کرنا درست نہیں۔

باب: جب بیک وقت دو اشخاص مدعو کریں تو کس شخص کے یہاں جانا چاہئے؟

بَابُ إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ
أَيُّهُمَا أَحَقُّ

۳۵۷: ہناد بن سمری، عبدالسلام، ابو خالد، ابو العلاء، حمید بن عبدالرحمن، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو آدمی بیک وقت مدعو کریں تو جس شخص کا گھر نزدیک ہو اس کی دعوت قبول کر لو کیونکہ جس شخص کا گھر نزدیک ہے تو وہ پڑوسی کے اعتبار سے قریب ہے۔ اگر ان دونوں میں کوئی پہلے آجائے تو اسی کی دعوت قبول کر لو جو پہلے آئے۔

۳۵۷: حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ
بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالِيِّ عَنْ أَبِي
الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْحِمَيْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَاجِبٌ
أَقْرَبُهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جَوَارًا
وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَاجِبٌ الْإِدَى سَبَقَ۔

باب: جب شام کا کھانا پیش ہو اور عشاء کی نماز کا

بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ

وقت بھی ہو جائے؟

وَالْعِشَاءُ

۳۵۸: احمد بن حنبل، مسدد، احمد، یحییٰ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کسی کا رات کا کھانا تیار ہو اور نماز کی تکبیر

۳۵۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى
قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَقْرُعَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَقْرُعَ وَإِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ۔

بھی ہو جائے تو جب تک کھانے سے فراغت نہ ہو تو نہ اٹھے۔ مسدد نے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے جب شام کا کھانا رکھا جاتا تو آپ جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے تو نہ اٹھتے اگرچہ وہ اقامت یا امام کی تلاوت قرآن کی آواز بھی سن لیتے۔

نماز سے قبل کھانا:

مطلب یہ ہے کہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ نماز بعد میں ادا کرو تا کہ خشوع و خضوع سے نماز ادا ہو جائے وقت کوئی بھی ہو۔

۳۵۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْلَى يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ۔

۳۵۹: محمد بن حاتم، معلی بن منصور، محمد بن میمون، جعفر بن محمد ان کے والد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو کھانے یا کسی اور وجہ سے مؤخر نہ کیا جائے۔

نماز کے بعد کھانا:

مذکورہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ کھانے کی زیادہ ضرورت نہ ہو تو اس وقت نماز پڑھی جائے اور کھانا بعد میں کھایا جائے یا نماز کا قضا کرنا مراد ہے۔

۳۶۰: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ عُمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبَدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْكُ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أَتْرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ۔

۳۶۰: علی بن مسلم، ابو بکر حنفی، صحاح بن عثمان، عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا تو حضرت عباد بن عبداللہ نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ (حضور ﷺ کے زمانہ میں) شام کے وقت کا کھانا نماز پر مقدم ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تم پر افسوس ہے کیا تم ان لوگوں کا کھانا اپنے والد کے کھانے جیسا سمجھتے ہو؟

پہلے نماز پڑھ کر کھانا:

مفہوم یہ ہے کہ تمہارے والد صاحب، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جو کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے حکمران ہیں ان کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں اور کھانے سے فارغ ہونے میں کافی وقت لگتا ہے تو نماز پہلے پڑھ کر کھانا چاہئے دویر نبوی میں تو صرف چند لقمے بقدر ضرورت کھائے جاتے تھے اس لئے وہ حضرات پہلے کھانا تناول فرماتے پھر نماز ادا فرماتے لیکن اگر آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر شدید بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز ادا کرے تا کہ نماز خشوع و خضوع سے ادا ہو۔

باب: کھانا کھانے کے وقت دونوں ہاتھوں کو

بَاب فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ

دھونا چاہئے

الطَّعَامِ

۳۶۱: مسدّد السّعیل، ایوب، عبد اللہ بن ابی ملیکہ، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ بیت الخلاء سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کیا آپ کے وضو کرنے کے لئے پانی نہ لائیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے صرف نماز کے لئے وضو کرنے کا حکم ہوا ہے۔

۳۶۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَدِمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوَضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ۔

کھانے سے قبل وضو:

مذکورہ حدیث میں وضو سے مراد وہ وضو ہے جو نماز وغیرہ کے لئے کیا جاتا ہے یعنی پورا وضو مراد ہے اور وہ وضو کھانا کھانے سے قبل سنت نہیں لیکن کھانے سے قبل ہاتھوں کا دھونا اولیٰ ہے ہو سکتا ہے آپ نے کھانے سے قبل ہاتھ دھولے ہوں گے اور لوگوں نے آپ کو دیکھا نہ ہو خلاصہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے قبل ہاتھ دھو دینے کا حکم ہے نہ کہ وضو کرنے کا۔

باب: کھانے سے قبل ہاتھ دھونا

بَاب فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ

۳۶۲: موسیٰ بن اسماعیل، قیس، ابی ہاشم، زاذان، حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت کھانے سے قبل وضو کرنے سے ہوتی ہے۔ تو میں نے آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کھانے کی برکت اس سے ہوتی ہے کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو کیا جائے اور سفیان کھانے سے قبل وضو کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے۔

۳۶۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ زَادَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ بَرَكَاتَةَ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ قَبْلَهُ فَذَكَّرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَرَكَاتَةُ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوَضُوءُ بَعْدَهُ وَكَانَ سَفِيَانٌ يَكْرَهُ الْوَضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ۔

باب: عجلت کے وقت ہاتھ دھوئے بغیر کھانا۔

بَاب فِي طَعَامِ الْفَجَائَةِ

۳۶۳: احمد بن ابی مریم، سعید بن حکم، لیث، خالد، ابوزبیر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ ضرورت سے فارغ ہو کر ایک پہاڑ کی گھاٹی سے باہر تشریف لائے ہمارے سامنے اس وقت ڈھال پر کھجوریں رکھی ہوئی تھیں یا پیالے میں۔ ہم لوگوں نے آپ کو دعو کیا آپ نے ہمارے ساتھ کھجوریں تناول فرمائیں اور پانی کو ہاتھ نہیں لگایا (یعنی ہاتھ نہیں دھوئے)

۳۶۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَمِي يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكِّمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شُعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تَرْسٍ أَوْ حَافِيَةٍ

فَدَعُونَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا وَمَا مَسَّ مَاءً۔

باب: کھانے کی مذمت کرنا بری بات ہے

۳۶۴: محمد بن کثیر، سفیان، اعمش، ابو حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی کھانے کی برائی نہیں فرمائی بلکہ اگر آپ کا کھانے کو دل چاہتا تو آپ کھانا تناول فرماتے اور اگر دل نہ چاہتا تو چھوڑ دیتے۔

باب فی۔ کَرَاهِيَةَ ذَمِّ الطَّعَامِ

۳۶۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِلَّا إِشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ۔

باب: تمام لوگوں کا یکجا کھانا کھانا باعث برکت ہے

۳۶۵: ابراہیم بن موسیٰ، ولید بن مسلم، حضرت وحشی بن حرب اپنے والد اور وہ ان کے والد سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم لوگ شاید علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تمام لوگ یکجا کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو اس سے برکت ہوگی۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں جب تم لوگوں کی کسی کے ہاں دعوت ہو اور کھانا سامنے رکھ دیتے تو جب تک میزبان اجازت نہ دے کھانا نہ کھانا چاہئے۔

باب فی الإِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

۳۶۵: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَحِشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا كُنْتَ فِي رَلِيمَةٍ فَوَضِعِ الْعِشَاءَ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى يُأَذِّنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ۔

باب: کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھنے

باب التَّسْمِيَةِ عَلَى

کابیان

الطَّعَامِ

۳۶۶: یحییٰ بن خلف، ابو عاصم، ابن جریج، ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ یہاں پر رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کے لئے کچھ ملے گا اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے اب تمہارے لئے رہنے کی جگہ ہوگئی پھر اگر کھانا کھاتے وقت بھی اس شخص نے بسم اللہ نہیں کہی تو شیطان کہتا ہے مجھے یہاں رہنے کو بھی جگہ مل گئی

۳۶۶: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ

اور کھانا بھی مل گیا۔

الْمَيْتِ وَالْعَشَاءِ۔

بِسْمِ اللّٰهِ كِي بَرَكْتِ:

مذکورہ حدیث سے بسم اللہ کی برکت واضح ہے اور یہ بات تجربہ سے بھی ثابت ہے کہ بسم اللہ پڑھنا باعثِ رحمت ہوتا ہے اور بسم اللہ کے فضائل پر رسالہ فضائل بسم اللہ تالیف حضرت مفتی اعظم پاکستان ملاحظہ فرمائیں۔

۳۶۷: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْرُوبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْمَةَ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يَدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَمْ يَجَأَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تَدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِيَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَجِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيَّ يَسْتَجِلُّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَجَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةَ يَسْتَجِلُّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ أَيِّهِمَا۔

۳۶۷: عثمان بن ابی شیبہ ابو معاویہ اعمش خیمہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ جاتے تو ہم لوگوں میں سے کوئی شخص کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ جب تک کہ آپ کھانا شروع نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئے تو ایک دیہاتی شخص بھاگتا ہوا آیا وہ اس طرح دوڑتا ہوا آیا جیسے کوئی شخص پیچھے سے دھکیل رہا ہے اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی جیسے کوئی شخص اس کو پیچھے سے دھکے دے رہا ہو۔ اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو آپ نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اور وہ شیطان پہلے تو اس دیہاتی شخص کو لے کر آیا تاکہ وہ اپنے لئے کھانا حلال کر لے اس کی وجہ سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر اس لڑکی کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعہ کھانے کو حلال کر لے لہذا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔

۳۶۸: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدُّسْتَوَائِيَّ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ كَلْبُومٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلْتُمْ أَحَدَكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِن نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ۔

۳۶۸: مؤمل بن ہشام اسماعیل ہشام دستوائی بدیل عبد اللہ حضرت ام کلثوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص کھانا کھانا شروع کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ پہلے اللہ کا نام لے۔ اگر اس وقت وہ اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس طرح کہ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُهُ وَآخِرُهُ یعنی میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں شروع اور آخر میں۔

۳۶۹: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بَعْنَى ابْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ حَدَّثَنَا الْمُنْثَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَزَاعِمِيُّ عَنْ عَمِّهِ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسْمِعْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَآخِرُهُ فَضَحَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَفَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ۔

۳۶۹: مؤمل بن فضل، عیسیٰ بن یونس، جابر بن صبح، حضرت ثنیٰ بن عبد الرحمن خزاعی نے اپنے چچا امیہ بن مخشی سے روایت کیا جو کہ صحابی رسول تھے کہ آنحضرت ﷺ اشریف فرماتے اور ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ اس شخص نے بسم اللہ نہ کہی۔ یہاں تک کہ اس کے کھانے سے ایک لقمہ باقی رہ گیا جب اس نے اسے کھانے کے لئے اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ اَوْلَهُ وَآخِرُهُ یعنی میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں شروع سے آخر تک۔ یہ بات سن کر آنحضرت ﷺ کو ہنسی آگئی اور آپ نے فرمایا اس شخص کے ساتھ شیطان برابر کھانا کھا رہا تھا جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے تے کر دی اور جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا وہ سب اُگل دیا۔

باب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَتَّكِنًا

۳۷۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَحِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُ مَتَّكِنًا۔

۳۷۰: محمد بن کثیر سفیان علی بن اقمیر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تکیہ کا (سہارا) لگا کر نہیں کھاتا (اس لئے کہ یہ غور کرنے والوں کی عادت ہے یا اس طریقہ سے کھانا پینا نقصان دہ ہے)۔

۳۷۱: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا وَكَيْعُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ بَعْنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَ مُقَعٍ۔

۳۷۱: ابراہیم بن موسیٰ الرازی وکیع مصعب بن سلیم سے مروی ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتے تھے مجھے آنحضرت ﷺ نے کسی جگہ بھیجا میں جس وقت واپس آیا تو میں نے دیکھا آنحضرت ﷺ اُڑوں بیٹھ کر کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔

إِقْعَاءُ كِي تَشْرَحُ:

إقْعَاءُ اس نشست کو کہا جاتا ہے جو کہ دونوں سرین (کولہوں) کو زمین پر رکھ کر اور دونوں پاؤں کھڑے کر کے یعنی اُڑوں

بیٹھنا۔

۳۷۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مَتَّكِنًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقْبَهُ رَجُلَانِ۔

۳۷۲: موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت بنانی شعیب عن عبد اللہ بن عمرو عن ابيہ قال ما رأيت رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم یأکل متکیناً قط ولا یطأ عقبہ رجلان۔

(تھے)

باب: پیالہ یا پلیٹ کے درمیان سے کھانے کا بیان

۳۷۳: مسلم بن ابراہیم شعبہ عطاء سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص کھانا شروع کرے تو پیالہ کے درمیان میں سے نہ کھائے بلکہ ایک جانب سے کھائے کیونکہ برکت درمیان میں نازل ہوتی ہے (اور کنارے پر آجاتی ہے اگر وہ شروع میں درمیان میں سے ہی کھانا شروع کرے گا تو برکت وغیر جاتی رہے گی)

۳۷۴: عمرو بن عثمان ان کے والد محمد بن عبدالرحمن حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جس کو چار اشخاص اٹھایا کرتے تھے اس کا نام غراتھا۔ جب اشراق کا وقت ہوا اور لوگوں نے اشراق کی نماز پڑھی تو وہ پیالہ لایا گیا اس میں ٹرید بھرا ہوا تھا تو تمام لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو گئے جب لوگوں کی بھیڑ ہو گئی تو آپ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ ایک دیہاتی نے کہا آپ کے بیٹھے کا یہ کونسا طریقہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نیک بندہ بنایا ہے اور اللہ نے مجھے غرور اور تکبر کرنے والا نہیں بنایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ کناروں سے کھاؤ اور اس (برتن) کے درمیان میں سے چھوڑ دو (اس میں برکت پیدا ہوگی)

باب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مِنَ أَعْلَى الصَّحْفَةِ
۳۷۳: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلْتَ أَحَدَكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلُ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلَ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَاتَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا۔

۳۷۴: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحَمِصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرَفِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَسْرٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قِصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةٌ رَجَالٌ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الصُّحْحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقِصْعَةِ يَعْنِي وَقَدْ تَرَدَّ فِيهَا فَالتَفُّوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَفَرُوا جَفَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا غَنِيْدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا مِنْ حَوْلِهَا وَذَعُوا ذُرْوَتَهَا يَبَارِكُ فِيهَا۔

کھانے کے آداب:

ٹرید ایک قسم کا اہل عرب کا کھانا ہے اس میں روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو دیا جاتا ہے اور آپ گھٹنے ٹیک کر اس وجہ سے بیٹھے تھے کہ جگہ ہو جائے اور زیادہ لوگ اس جگہ بیٹھ سکیں۔ مذکورہ حدیث سے کھانے کے چند آداب معلوم ہوئے۔ (۱) یہ کہ ایک ساتھ کھانے میں برکت ہے (۲) یہ کہ برتن کے کناروں سے کھانا چاہئے (۳) اگر زیادہ مجمع ہو تو کس طرح بیٹھا جائے کہ دوسروں کے لئے بھی جگہ ہو جائے۔

باب: جس دسترخوان پر ناجائز چیزیں ہوں وہاں نہیں

بیٹھنا چاہئے

۳۷۵: عثمان بن ابی شیبہ کثیر بن ہشام جعفر بن برقان زہری سالم ان کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت

باب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ عَلَى مَا نَدَىٰ

عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ

۳۷۵: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ۔

مُحَمَّدٌ ﷺ نے دو قسم کے کھانوں سے منع فرمایا ایک تو ایسے دسترخوان پر کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب استعمال ہو رہی ہو۔ دوسرے اُلٹے منہ لیٹ کر کھانے سے امام ابوداؤد نے فرمایا یہ حدیث منکر ہے اس حدیث کو جعفر بن برقان نے زہری سے نہیں سنا۔

نا جائز امور کی موجودگی میں کھانا:

مذکورہ حرمت صرف شراب کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر کسی بھی حرام کام گانا، بجانا یا کوئی نا جائز کام ہو رہا ہو جب بھی وہاں کھانا کھانے کی ممانعت ہے بلکہ طاقات کے مطابق اس گناہ کے کام کو مناسب طریقہ سے روک دینا ضروری ہے۔

۳۷۶: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزُّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْحَدِيثِ۔

۳۷۶: ہارون بن زید ان کے والد جعفر زہری سے اسی طریقہ سے روایت ہے۔

باب: دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم

۳۷۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلْتَ أَحَدَكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ۔

۳۷۷: احمد بن حنبل سفیان زہری ابو بکر بن عبید اللہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اس کو چاہئے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور جب پانی (وغیرہ) پئے تو دائیں ہاتھ سے پئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔

۳۷۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِي وَجْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنُ بَنِي قَسَمٍ اللَّهُ وَكُلُّ بِيَمِينِكَ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ۔

۳۷۸: محمد بن سلیمان بن بلال ابو وجزہ حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیٹے! قریب ہو جاؤ اور بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ (یعنی ایک کنارہ سے کھاؤ جو اپنے قریب ہونہ کہ دوسری جانب سے)۔

باب: گوشت کھانے کا بیان

۳۷۹: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

۳۷۹: سعید بن منصور ابو معشر ہشام بن عروہ ان کے والد عائشہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا چھری (چاقو) سے گوشت نہ کاٹو کیونکہ یہ اہل

باب فی أكل اللحم

عجم کا طریقہ ہے بلکہ دانتوں سے نوح کرکھاؤ کیونکہ اس میں زیادہ لذت ہوتی ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ (مراد گوشت پکنے کے بعد مذکورہ طریقہ سے نہ کھاؤ پکنے سے قبل کا یہ حکم نہیں)۔

۳۸۰: محمد بن عیسیٰ، ابن علیہ، عبد الرحمن بن اسحاق، عبد الرحمن بن معاویہ عثمان، صفوان بن اُمیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میں گوشت کو ہڈی میں سے علیحدہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا تم ہڈی اٹھا کر منہ سے لگاؤ (اور گوشت کو دانتوں سے نوح کرکھاؤ) اس لئے کہ اس طریقہ سے گوشت کھانے سے زیادہ لذت پیدا ہوتی ہے اور گوشت جلدی ہضم ہوتا ہے۔

۳۸۱: ہارون بن عبد اللہ، ابوداؤد زہیر، ابو اسحاق، سعد بن عیاض، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تمام ہڈیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی گوشت والی ہڈی پسندیدہ تھی۔

۳۸۲: محمد بن بشار، امام ابوداؤد سے اسی سند سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو دست کا گوشت بہت محبوب تھا اور آپ کو دست کے گوشت میں ہی زہر دیا گیا تھا آپ کا خیال تھا کہ گوشت میں زہر یہودیوں نے ملایا ہے۔

باب: کدو کھانے کا بیان

۳۸۳: یعنی مالک، اسحاق بن عبد اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک درزی نے آنحضرت ﷺ کو کھانا کھانے کے لئے مدعو کیا جو کھانا کہ آپ کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ہمراہ (دعوت) میں چلا گیا۔ اس دعوت میں جو کی روٹی، کدو کا شوربا، نمک، چمڑکا ہوا خشک گوشت، آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ پلیٹ کے کونوں سے کدو کے کٹڑے تلاش فرما رہے تھے پھر میں اُس دن سے ہمیشہ کدو کھانا پسند کرتا ہوں۔

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسَّيِّئِينَ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ وَأَنْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ۔

۳۸۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ كُنْتُ أَكُلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ اللَّحْمَ بِيَدِي مِنَ الْعَظْمِ فَقَالَ أَدِنِ الْعَظْمَ مِنْ فَيْكِ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ۔

۳۸۱: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُرَاقَ الشَّاةِ۔

۳۸۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ قَالَ وَسَمَّ فِي الذَّرَاعِ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ سَمُوهُ۔

باب فِي أَكْلِ الدَّبَّاءِ

۳۸۳: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيْطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَبْرًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دَبَّاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَّبَعُ الدَّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَرَلْ أَحَبَّ الدَّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَيْهِ۔

آپ ﷺ کا کھانے کا طریقہ:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ پلیٹ کے چاروں جانب سے کدو تلاش فرما کر کھانا تناول فرما رہے تھے جبکہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کھانے میں سے سامنے سے کھانا چاہئے۔ ان دونوں روایات کی تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ جب ساتھ کھانے والے راضی ہوں تو اس کی اجازت ہے کہ برتن سے کسی جگہ سے کھایا جائے چونکہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ اجازت حاصل تھی بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی آرزو تھی کہ آپ ہمارے سامنے تناول فرمائیں۔ مذکورہ حدیث سے کدو کی محبت کاسنت ہونا اور درزی کا پیشہ بہتر ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔

باب: شریذ کا بیان

۳۸۴: محمد بن حسان، مبارک بن سعید، عمر بن سعید، بصرہ کے ایک شخص، حضرت عکرمہ سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کھانوں میں روٹی کا شریذ اور حسیس کا شریذ بہت پسند تھا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے۔

بَاب فِي أَكْلِ الشَّرِيدِ

۳۸۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمِئِيُّ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الشَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالْقَرِيدُ مِنَ الْحَبْسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ۔

باب: کسی کھانے سے نفرت کرنا ناجائز ہے

۳۸۵: عبد اللہ بن محمد زہیر، سماک بن حرب، قبصہ بن حلب اپنے والد حلب سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے میں نے سنا ہے جبکہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ کھانے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے مجھے گھن آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے دل میں اس طرح کا خلجان پیدا نہ ہو جس میں نصرانیت بتلا رہی (کہ وہ ہر چیز میں شک کرتے ہیں)

بَاب فِي كَرَاهِيَةِ التَّقَدُّرِ لِلطَّعَامِ

۳۸۵: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحْرَجُ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ صَارَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ۔

باب: ناپاکی کھانے والے جانور کے گوشت کھانے

اور دودھ پینے سے ممانعت

۳۸۶: عثمان بن ابی شیبہ، عبدہ، محمد بن اسحاق، ابو یحییٰ، مجاہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی کھانے والے جانور اور ان کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔

بَاب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ

وَالْبَانِيَا

۳۸۶: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَاءِ.

۳۸۷: ابن شنی، ابو عامر، ہشام، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نجاست خور جانور کے دودھ پینے سے منع فرمایا ہے (یعنی جو جانور گندگی اور ناپاکی کھائے اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے۔

۳۸۷: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَالَةِ.

۳۸۸: احمد بن ابوسریح، عبد اللہ بن جہم، عمرو بن ابی قیس، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاظت کھانے والے اونٹ کی سواری کرنے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔

۳۸۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَهْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخَيَّانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يَرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ بَانِهَاءِ.

نجاست خور جانور پر سوار ہونا:

اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ جانور اونٹ وغیرہ پر سوار ہونے سے اس کا پسینہ بدن کو لگ سکتا ہے اور اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے اس لئے منع فرمایا گیا۔

باب: گھوڑے کا گوشت کھانے کا بیان

۳۸۹: سلیمان بن حرب، حماد، عمرو بن دینار، محمد بن علی، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ خیبر والے دن گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔

باب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

۳۸۹: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَأَذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

گھوڑے کا گوشت:

حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ بذل الجہود میں اس مسئلہ کی تفصیلی بحث مذکور ہے۔

۳۹۰: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابوزبیر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے غزوہ خیبر والے دن گھوڑے، خچر، گدھے ذبح کئے تو آپ نے ہمیں گدھے، خچر کے گوشت سے منع فرمایا اور آپ نے گھوڑے کے گوشت کھانے سے منع نہیں فرمایا۔

۳۹۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبَعَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ.

۳۹۱: سعید بن شیبہ، حنیفہ بن شریح، بقیہ، ثور بن یزید، صالح بن یحییٰ، ان کے والد، ان کے دادا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

۳۹۱: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبَةَ وَحَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمَصِيُّ قَالَ حَيُّوَةُ حَدَّثَنَا بِقِيَّةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے اور نچر اور گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ چوہ نے اس قدر اضافہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کچلیوں والے درندے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

يُرِيدُ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدَى كَرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ زَادَ حَيَوَةَ وَكُلِّي ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

گھوڑے سے متعلق ضعیف حدیث:

مذکورہ حدیث ضعیف ہے اس پر کلام کیا گیا ہے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تزیہی ہے (شروحات حدیث میں اس مسئلہ کی تفصیل ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہے)

باب: خرگوش کھانے کا بیان

۳۹۲: موسیٰ بن اسماعیل، حماد ہشام بن زید، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں ایک طاقتور لڑکا تھا تو میں نے خرگوش کا شکار کیا اور میں نے اس کو بھونا حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے اس خرگوش کے دُم کا حصہ میرے ہاتھ خدمت نبوی میں بھیجا۔ میں وہ لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قبول فرمایا۔

۳۹۳: یحییٰ بن خلف، روح بن عبادہ، محمد بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے والد خالد بن الحویرث سے سنا، حضرت عبد اللہ بن عمرو صفاح میں تھے محمد کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ ان کے پاس ایک شخص خرگوش کا شکار کر کے آیا اور اس نے عرض کیا اے عبد اللہ بن عمرو! اس کے سلسلہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں خرگوش پیش کیا گیا اور میں اس وقت وہاں پر بیٹھا ہوا تھا آنحضرت ﷺ نے اس کو تناول نہیں فرمایا اور نہ آپ نے اس کے کھانے کی ممانعت فرمائی۔ آپ کا خیال تھا کہ اس کو حیض آتا ہے۔

باب فی أكل الأرنب

۳۹۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا حَزْرًا فَصَدْتُ أَرْنَبًا فَسَوَّيْتُهَا فَبَعَثَ مَعِيَ أَبُو طَلْحَةَ بَعَجْرَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَقَبَّلَهَا.

۳۹۳: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي خَالِدَ بْنَ الْحَوِيرِثِ يَقُولُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ بِالصَّفَاحِ قَالَ مُحَمَّدٌ مَكَانَ بَمَكَةَ وَإِنَّ رَجُلًا جَاءَ بَارْتَبٍ فُذَّ صَادَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَا تَقُولُ قَالَ قَدْ جِئْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ.

خرگوش کا گوشت:

اس بناء پر آپ نے خرگوش کو ناپسند فرمایا کہ اس کو تناول نہیں فرمایا بہر حال ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک خرگوش حلال ہے۔

باب: گوہ کھانے کا بیان

۳۹۴: حفص بن عمر، شعبہ، ابو بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی

باب فی أكل الضَّبِّ

۳۹۴: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان کی خالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی پیڑ اور گوہ بھیجی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی اور پیڑ تناول فرمایا اور بوجہ نفرت (کراہت) گوہ کو چھوڑ دیا لیکن آنحضرت ﷺ کے دسترخوان پر اسے کھایا گیا اگر وہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر نہ کھایا جاتا۔

۳۹۵: یعنی مالک ابن شہاب ابو امامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ حضرت میمونہ کے گھر پر حاضر ہوئے تو آپ کے سامنے بھنی ہوئی گوہ پیش کی گئی۔ آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بعض خواتین جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تھیں کہنے لگیں کہ حضور ﷺ کو بتا دو کہ یہ کیا ہے کیونکہ آپ اسے کھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ گوہ ہے۔ یہ بات سن کر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے بلکہ یہ میرے ملک میں نہیں ہوتی اس وجہ سے مجھ کو اس سے نفرت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کھانا شروع کر دیا اور آنحضرت ﷺ دیکھ رہے تھے۔

۳۹۶: عمرو بن عون خالد حصین زید بن وہب حضرت ثابت بن ودیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک لشکر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے تو ہم لوگوں نے چند گوہ پکڑ لیں۔ میں نے ایک گوہ بھون کر خدمت نبوی میں حاضر کی اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے ایک کڑی لے کر اس کی انگلیوں کو شمار فرمایا اور فرمایا یہ اسرائیل کا ایک گوہ مسخ ہو کر جانور بن گیا تھا اور زمین میں چھوڑ دیا گیا مجھ کو معلوم نہیں کہ وہ جانور کونسا ہے اور راوی نے بیان کیا پھر آپ نے اس کو تناول نہ فرمایا لیکن اس کے کھانے کی ممانعت نہیں فرمائی۔

۳۹۷: محمد بن عوف حکم بن نافع ابن عیاش مضمض بن زرعہ شریح بن عبید ابوراشد حضرت عبدالرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی

أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمْنًا وَأَضْبًا وَأَقِطًا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الْأَقِطِ وَتَرَكَ الْأَضْبَ تَقَدَّرًا وَأَكَلَ عَلَى مَا نَبَذَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَا نَبَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ۔

۳۹۵: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَاتَى بِضَبِّ مَحْنُودٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبَرُوا النَّبِيَّ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ قَالَ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَارِضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ۔

۳۹۶: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضَبَابًا قَالَ فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ عَوْدًا فَقَعَدَ بِهِ أَصَابِعُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسَخَّتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ قَالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ۔

۳۹۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ

ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔

صُمِّصَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحَبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ۔

باب: حباری (نامی چڑیا) کے گوشت کھانے کا بیان
۳۹۸: فضل بن سہل، ابراہیم، برید بن عمران کے والد ان کے دادا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حباری کا گوشت کھایا ہے۔

بَابُ فِي أَكْلِ لَحْمِ الْحَبَارِيِّ
۳۹۸: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حَبَارِيٍّ۔

باب: زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے کا بیان

۳۹۹: موسیٰ بن اسماعیل، غالب، حضرت ملقہ بن تلب، اپنے والد حضرت تلب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کے کیڑے مکوڑوں کی حرمت کا حکم نہیں سنا۔

بَابُ فِي أَكْلِ حَشْرَاتِ الْأَرْضِ
۳۹۹: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ حَدَّثَنِي مِلْقَامُ بْنُ تَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشْرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا۔

۴۰۰: ابو ثور، سعید بن منصور، عبد العزیز، عیسیٰ نمیلہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ عبد اللہ بن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ سے دریافت کیا گیا، سید (جانور) کھانا کیسا ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿قُلْ لَا أُجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَحْرَمًا﴾ (یہ سن کر) ایک بوڑھے شخص نے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا ناپاک جانوروں میں سے یہ ایک نجس جانور ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے تو بے شک وہ اسی طرح ہے جس کا کہ ہم لوگوں کو علم نہیں۔ (یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے حشرات الارض کا کھانا درست نہیں)۔

۴۰۰: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ نُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَمْرٍو فُسِّئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَقَالَ قُلْ لَا أُجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَحْرَمًا الْآيَةَ قَالَ قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذِكْرًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو إِنَّ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَهَوَّ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ۔

باب: بچو کھانے کا بیان

۴۰۱: محمد بن عبد اللہ، جریر بن حازم، عبد اللہ، عبد الرحمن، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّعِ
۴۰۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّبْحِ فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيَجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ۔
 وسلم سے بجو کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ تو ایک قسم کا شکار ہے اور جب اسے محرم شخص بحالت احرام شکار کر لے تو اسے ایک ذنبہ حرم میں دینا ہوگا۔

حنفیہ کے نزدیک بجو کھانا:

حنفیہ کے نزدیک بجو کھانا حلال نہیں البتہ شوافع اس کی اجازت دیتے ہیں اور حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بجو کے حرام ہونے پر مندرجہ بالا احادیث سے استدلال فرمایا ہے۔

باب: درندوں کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان

۴۰۲: ثقفی مالک ابن شہاب ابو ادریس حضرت ابولعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ (جیسے ریچھ شیر لومڑی بھیریا وغیرہ)

۴۰۳: مسدد ابو عوانہ ابولشیر میمون بن مهران حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہر کچلی والے درندے اور ہر پنچے والے پرندے کے (گوشت) کھانے سے منع فرمایا (یعنی جو پرندہ پنچے سے شکار کرے)

۴۰۴: محمد بن مصفیٰ محمد بن حرب زبیدی مروان عبد الرحمن حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا سن لو درندوں میں سے کچلیوں (سے چیر پھاڑ کر کھانے) والا درندہ حلال نہیں اور نہ بستی کا گدھا اور نہ ذمی کافر کا (راستہ میں) پڑا ہوا مال مگر جب اس کافر نے وہ مال (بیکار سمجھ کر یا لا پرواہی سے) خود ہی چھوڑ دیا ہو جو شخص کسی قوم کا مہمان ہو اور پھر اس قوم نے اس کی مہمانداری نہ کی تو اس شخص کے لئے جائز ہے کہ اپنی مہمانداری کے بقدر زبردستی ان سے وصول کر لے۔

باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ السَّبَاعِ!

۴۰۲: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنِ أَبِي شَهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ۔

۴۰۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ۔

۴۰۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُوَبَةَ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنِ الْمُقَدَّمِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا لَا يَجْعَلُ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللَّقْطَةُ مِنْ مَالٍ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْفِنِي عَنْهَا وَيَأْتِيَ رَجُلًا صَافٍ قَوْمًا فَلَمْ يَفْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاةٍ۔

کفار سے مہمان نوازی کا دور نبوی ﷺ کا ایک حکم:

مذکورہ حکم اسلام کے شروع زمانہ میں تھا اس وقت مشرکین سے مہمان نوازی کرنے کا اقرار لیا گیا تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔

۴۰۵: محمد بن بشار ابن عدی ابن ابی عروبہ علی بن حکم میمون بن مهران سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ حلال نہیں ہے کچلیوں والا درندہ اور نہ بستی کا گدھا اور نہ کافر ذمی کا پڑا ہوا مال مگر جب اس کافر نے وہ مال خود ہی چھوڑ دیا ہو اور جو شخص کسی قوم کا مہمان ہو اور پھر اس قوم نے اس شخص کی مہمان نوازی نہ کی تو اس شخص کے لئے جائز ہے کہ زبردستی مہمان نوازی کے بقدر لوگوں سے وصول کر لے۔

۴۰۶: محمد بن بشار ابن ابی عروبہ ابن حکم میمون بن مهران سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے اور پھاڑنے والے جانور اور ہر ایک چنگل سے پکڑنے والے پرندے کے گوشت سے منع فرمایا ہے۔

۴۰۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَّا لَا يَحِلَّ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللَّقْطَةُ مِنْ مَالِ مَعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعِينِي عَنْهَا وَإِنَّمَا رَجُلٌ صَافٍ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَافٍ۔

۴۰۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ۔

چنگل سے پکڑنے والے جانور کھانا:

چنگل سے پکڑنے والے پرندے سے وہ پرندہ مراد ہے جو کہ چنگل سے شکار کرے جیسے گدھ، بانسرو وغیرہ اور درندے جانور سے مراد وہ جانور ہے جو دانت سے شکار کرے جیسے شیر، بھیڑیا وغیرہ۔

۴۰۷: عمرو بن عثمان محمد بن حرب ابوسلمہ سلیمان بن سلیم صالح بن یحییٰ ان کے دادا مقدم بن معدی کرب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کیا تو آپ ﷺ کی خدمت میں یہود حاضر ہوئے اور شکایت کرنے لگے کہ لوگوں نے جلدی کر کے ان کے بازے میں بندھے ہوئے جانور لوٹ لئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا خبردار تم لوگوں سے جو کفار عہد و پیمانہ کر لیں تو ان لوگوں کے مال (دولت) لوٹنا جائز نہیں ہے لیکن حق سے (یعنی ضرورت شرعی کی بناء پر) اور تم لوگوں پر بستی کے گدھے، گھوڑے، خچر اور ہر کچلی والا درندہ اور ہر ایک بچہ (سے کھانے) والا پرندہ حرام ہے۔

۴۰۷: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلِيمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ الْيَهُودَ فَشَكَّوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَيَّ حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَّا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمْرُ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبَعَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ۔

ذمی کی تشریح:

اصطلاح شریعت میں ذمی اس کافر کو کہا جاتا ہے جو کہ مسلمانوں کو ٹیکس (جزیہ) ادا کر کے ان سے عہد کر کے دارالاسلام میں رہتا ہو۔ اس کافر کا مال مسلمانوں کے مال جیسا ہے اور اس کو پورا پورا تحفظ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ایسا ہی کافر مراد ہے اور ایسے ہی کافر کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ((دمائہم کدماتنا و اموالہم کاموالنا)) الحدیث یعنی ان کے خون اموال مسلمانوں کے خون اور مال و دولت جیسے ہیں۔

۴۰۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدِ الصَّنَعَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْهَرِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَأَكْلِ تَمَنِهَا۔

۴۰۸: احمد بن حنبل، محمد بن عبد الملک، عبدالرزاق، عمرو بن زید، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی کے کھانے اور اس کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔

باب: پالتو گدھوں کے گوشت کھانے کا بیان

۴۰۹: عَبْدُ اللَّهِ عبيد الله، اسرا ئيل، منصور، عبید، عبد الرحمن، حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ قحط سالی میں بیتلا ہو گئے تو میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا جو کہ اپنے اہل و عیال کو کھلاتا علاوہ چند گدھوں کے اور آنحضرت ﷺ آبادی کے گدھوں کے گوشت کو حرام فرما چکے تھے چنانچہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ قحط میں بیتلا ہیں اور میرے پاس کچھ مال موجود نہیں ہے جو اپنے اہل و عیال کو کھلا سکوں، لیکن کچھ موٹے تازے گدھے موجود ہیں اور آپ نے گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ بات سن کے آپ نے فرمایا تم اپنے لوگوں کو موٹے گدھے کھلاؤ اس لئے کہ میں نے گاؤں کے گدھوں کو ناپاکی (کھانے) کی وجہ سے حرام قرار دیا تھا۔

باب فی أكل لحوم الحمير الأهلية

۴۰۹: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبَجَرَ قَالَ أَصَابْنَا سَنَةً فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطِعِمُ أَهْلِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابْنَا السَّنَةَ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطِعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانَ الْحُمُرِ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أُطِعِمُ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِ الْقَرْيَةِ۔

گدھوں کا گوشت:

مطلب یہ ہے کہ بستی میں اکثر و بیشتر ناپاکی گندگی بڑی رہتی ہے میں نے اس بنا پر گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا۔

۴۱۰: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنِ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ دِينَارَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بُن دِينَارٍ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمْرِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ قَالَ عَمْرُو فَأَخْبَرْتُ هَذَا النُّخَيْرِ أَبَا الشَّغْفَاءِ فَقَالَ قَدْ تَمَّانَ الْحَكْمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرِيُّ يَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ - (ہے۔)

گوشت کھانے سے منع فرمایا اور آپ نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث کے راوی عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے ابو الشغفاء سے بیان کی انہوں نے بیان کیا ہم لوگوں میں حکم غفاری بھی اسی طریقہ سے بیان کرتے تھے لیکن اس علامہ نے اس کا انکار کیا (یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا انکار فرمایا ہے)۔

گھوڑے کی بابت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال:

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے گھوڑوں کے حلال ہونے سے انکار فرمایا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، گدھوں، خچروں کو سواری کے لئے بنایا ہے۔

۴۱۱: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وَهَبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا -

۴۱۱: سہل بن بکار و وہیب بن بکار نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، گدھوں، خچروں کو سواری کے لئے بنایا ہے۔

باب: ٹڈی کھانے کا بیان

۴۱۲: محمد بن الفرغ، ابن زبرقان، سلیمان ابو عثمان نہدی، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ٹڈی کھانے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے متعدد لشکر ہیں نہ تو میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں (جب تک کہ اس کے بارے میں واضح طور پر حکم نازل نہ ہو) امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو معتمر نے اپنے والد کے واسطے سے ابو عثمان حضرت رسول کریم ﷺ سے سلمان کے واسطے سے بغیر روایت کیا ہے۔

۴۱۳: نصر بن علی، علی بن عبد اللہ زکریا، ابو العوام ابو عثمان، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا علی بن عبد اللہ نے بیان کیا ابو العوام کا نام فائدہ ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کو حماد نے

باب فِي أَكْلِ الْجَرَادِ

۴۱۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبُعْدَاذِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الزُّبُرْقَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سِئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْفَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا أَكَلُهُ وَلَا أَحْرِمُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ -

۴۱۳: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَمَارَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَامِ الْجَزَارِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِئِلَ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَ أَكْفَرُ جُنْدِ اللَّهِ قَالَ عَلِيُّ اسْمُهُ فَإِنَّهُ يَعْنِي أَبَا الْعَوَامِ قَالَ أَبُو

ابوالعوام کے واسطے سے سلمان کے تذکرہ کے بغیر ابوعثمان سے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے۔

باب: جو مچھلی مرنے کے بعد پانی پر تیرنے لگے اس

کے کھانے کا بیان

۴۱۴: احمد بن عبدہ، یحییٰ بن سلیم، اسماعیل بن اُمیہ، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مچھلی کو دریا باہر ڈال دے یا دریا کا پانی گھٹ جائے تو اس کو کھالو اور جو مچھلی دریا میں مرنے کے بعد پانی پر تیرنے لگے تو اس مچھلی کو نہ کھاؤ۔ امام ابوداؤد درجۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سفیان ثوری، ابوبہ حماد نے ابن ابی زبیر سے جابر پر موقوفاً روایت کیا ہے اور یہ حدیث سنداً بھی ابن ابی ذئب، ابن ابی زبیر کے واسطے سے بیان کی گئی ہے لیکن وہ واسطہ ضعیف ہے۔

۴۱۵: حفص بن عمر، شعبہ، حضرت ابویعفور سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے ٹڈی کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھ سات غزوات میں شرکت کی اور ہم لوگ آپ ﷺ کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے۔

دَاوُدُ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ۔

بَابُ فِي أَكْلِ الطَّافِي مِنَ

السَّمَكِ

۴۱۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَلْقَى الْبُحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو بَرَكَةَ وَحَمَادُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْ قَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا مِنْ وَجْهِ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ۔

۴۱۵: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتًّا أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ۔

ٹڈی حلال ہے:

ٹڈی حلال ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے ہم لوگوں کے لئے دو مردے حلال ہیں ایک ٹڈی اور دوسرے مچھلی اور حدیث ۴۱۳ سے آپ کو ٹڈی کے حرام حلال ہونے کے بارے میں تردید ہونا معلوم ہوتا ہے لیکن اُحْلَتْ لَنَا الْمَيْتَاتُ والی مشہور حدیث سے ٹڈی کی حلت واضح ہو گئی ہے۔

باب: سخت ترین مجبوری میں مردار کھانے کا بیان

۴۱۶: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص (مدینہ منورہ کے نزدیک واقع ایک گاؤں) حرہ میں ٹھہرا۔ اس شخص کے ساتھ اس کے اہل و عیال بھی تھے

بَابُ فِي الْمَضْطَّرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ

۴۱۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ

اس سے ایک شخص نے کہا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے اگر تمہیں وہ اونٹنی ملے تو اس کو پکڑ لینا تو اس شخص کو وہ اونٹنی مل گئی لیکن اونٹنی کا مالک نہ ملا۔ پھر وہ اونٹنی بیمار پڑ گئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا اس کو ذبح کر لو مگر اس شخص نے بیوی کی بات نہیں مانی اور وہ اونٹنی مر گئی۔ اس پر اس شخص کی بیوی نے کہا کہ اس اونٹنی کی کھال اتار لو تاکہ ہم اس کی چربی اور گوشت خشک کر کے کھائیں۔ اس شخص نے کہا میں (اس کے بارے میں) آنحضرت ﷺ سے دریافت کر لوں۔ وہ شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس

إِنَّ نَاقَةَ لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرَّضَتْ فَقَالَتْ أَمْرَأَتُهُ انْحَرِّهَا فَأَبَى فَنَفَقَتْ فَقَالَتْ اسْلُخْهَا حَتَّى نَقِدَّ شَحْمَهَا وَكَحْمَهَا وَتَأْكُلَهُ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ عَنِّي يُعْنِيكَ قَالَ لَا قَالَ فَكُلُوهَا قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ هَلَّا كُنْتُ نَحَرْتُهَا قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ۔

کھانے پینے کی اتنی چیز ہے جو تمہیں (مردار کھانے سے) بچالے اس شخص نے کہا نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم وہ اونٹنی کھا لو۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی دوران اس اونٹنی کا مالک آپہنچا میاں بیوی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ مالک نے کہا تم نے اس اونٹنی کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس شخص نے کہا مجھے آپ سے شرم آگئی (اور میں نے اسے ذبح نہ کیا)

۴۱۷: ہارون بن عبد اللہ، فضل بن دکین، عقبہ بن وہب، ان کے والد حضرت حج عامری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے (کس حالت میں) مردار کھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا شام کے وقت دودھ کا ایک پیالہ اور صبح کے وقت دودھ کا ایک پیالہ۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ عقبہ نے مجھے اس کی تشریح یہی بتائی کہ اس سے مراد دودھ کا ایک پیالہ صبح کو اور دودھ کا ایک پیالہ شام کو ہے۔ اس میں میرے والد کی قسم میں بھوکا رہتا ہوں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے اس شخص کے لئے مردار کو حلال قرار دے دیا۔

۴۱۷: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَكِينٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ وَهَبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ الْفَجَّيْعِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَعْتَبِقُ وَنَنْصَطِبُ قَالَ أَبُو نَعِيمٍ فَسَرَهُ لِي عُقْبَةُ فَذَحَّ غَدْوَةً وَقَدَحَ عَشِيَّةً قَالَ ذَاكَ وَأَبَى الْجُوعُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ۔

حالت اضطرار کا حکم!:

شریعت نے ایسی سخت حالت میں جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہو اور مردار کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ ہو ایسی شدید ترین حالت میں جان بچانے کے لئے بقدر ضرورت مردار کی گنجائش دی ہے جیسا کہ ارشادِ باری ہے: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾۔

باب: بیک وقت مختلف قسم کے کھانے پکانا اور کھانا

۴۱۸: محمد بن عبد العزیز، فضل بن موسیٰ، حسین بن واقد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بَاب فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ!

۴۱۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ

وَاقِدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِي خُبْزَةٌ بَيْضَاءٌ مِنْ بَرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ لِقَائِي فِي أَيْ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُنُقِهِ ضَبٌّ قَالَ أَرْفَعُهُ

نے ارشاد فرمایا سفید روٹی گندم کے آٹے کی دودھ اور گھی سے چڑھی ہوئی مجھے بے حد پسند ہے۔ اسی وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ ﷺ کے لئے وہ روٹی تیار کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ گھی کونسے برتن میں تھا؟ عرض کیا گیا یہ گوہ کی کھال کے مشکیزہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو اٹھا لو۔

آپ ﷺ کی پسندیدگی:

رسول اللہ ﷺ نے گوہ کی کھال کے مشکیزہ میں رکھے گئے گھی کو ناپسند فرمایا اسی لئے وہ روٹی تناول نہ فرمائی ورنہ آپ نے اس کے لئے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ نیز حدیث سے ایک وقت دو کھانوں کے جمع کرنے کا جواز معلوم ہوا۔

باب: پنیر کھانے کا بیان

۴۱۹: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَوْسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبِي النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ فَذَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ

۴۱۹: یحییٰ بن موسیٰ ابراہیم عمرو بن منصور شعبی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوة تبوک میں ایک پنیر کی تکیہ لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری منگوائی اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو کاٹا (اور تناول فرمایا)۔

باب فی أكل الجبن

باب: سرکہ کھانے کا بیان

۴۲۰: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَارِبِ بْنِ دِقَارٍ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ نِعَمَ الْإِدَامِ الْخَلِّ

۴۲۱: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعَمَ الْإِدَامِ الْخَلِّ

۴۲۰: عثمان بن ابی شیبہ معاویہ سفیان محارب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے۔

۴۲۱: ابوالولید طیالسی مسلم بن ابراہیم ثنی بن سعید طلحہ بن نافع حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے۔

باب فی الخَلِّ

آپ ﷺ کی محبوب غذا:

آنحضرت ﷺ کو سرکہ بہت پسند تھا۔ سرکہ کے بہت سے طبی فوائد ہیں اور اس سے کفایت شعاری بھی ہوتی ہے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ سرکہ تناول فرماتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ سرکہ کیا عمدہ سالن ہے۔

باب: لبسن کھانے کا بیان

باب فی أكل الثوم

۴۲۲: احمد بن صالح، ابن وہب، یونس ابن شہاب، عطاء، حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص لہسن پیاز کھائے تو وہ ہم سے علیحدہ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے پھر آپ کی خدمت میں ایک پلیٹ پیش کی گئی جس میں ساگ سبزی رکھی ہوئی تھی تو آپ کو اس کی بو محسوس ہوئی اور آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو ان سبزیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا: یہ فلاں صحابی جو آپ کے پاس تھے کے قریب کر دو۔ وہ صحابی اس کو ناپسند کر رہے ہیں تو فرمایا تم کھاؤ کیونکہ میں تو اس ذات سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے (یعنی اللہ تعالیٰ یا فرشتوں سے) احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ ابن وہب نے بدر کی تشریح پلیٹ سے کی ہے۔

۴۲۳: احمد بن صالح، ابن وہب، عمرو بکر بن سوادہ ابو نجیب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لہسن اور پیاز کا تذکرہ ہوا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اوڑھ ان تمام میں لہسن زیادہ تیز ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس کو کھاؤ لیکن جو شخص اس کو کھائے وہ اس مسجد میں داخل نہ ہو جب تک کہ اس کی بدبو منہ سے ختم نہ ہو جائے۔

لہسن، پیاز کی حلت:

مذکورہ حدیث سے کچے پیاز یا لہسن کھانے کی حلت ثابت ہے لیکن کچی پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں جانا گناہ ہے کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے۔

۴۲۴: عثمان بن ابی شیبہ، جریر شیبانی، عدی بن ثابت، زر بن حبیش، حذیفہ سے مروی ہے راوی نے بیان کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے نبی سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے (بجالت نماز یا مسجد میں) قبلہ کی طرف تھوک دیا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا ہوگا۔ اور جو شخص اس بدبودار سبزی کو کھائے (یعنی کچا لہسن کھائے) تو وہ ہماری مسجد کے پاس نہ آئے۔ آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔

۴۲۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلَ فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْقَوْلِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَهُ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَإِنِّي أَنَاجِي مَنْ لَا تَنَاجِي قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بِيَدِهِ فَسَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ طَبَقًا۔

۴۲۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ وَالْبَصَلَ وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلُّهُ الْيَوْمَ أَفْتَحَرْتُمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ۔

۴۲۴: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زُرِّ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ حَدِيفَةَ أَظْنَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَقَلَّ تَجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْحَبِيبَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا۔

۳۲۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ۔

۳۲۵: احمد بن حنبل، یحییٰ، عمید اللہ نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس درخت یعنی لہسن سے کھائے تو وہ مساجد میں داخل نہ ہو (تاکہ اس سے لوگوں کو اذیت نہ ہو)

۳۲۶: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو هَلَالٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هَلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ نَوْمًا فَلَأْتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ وَوَلَدْتُ بِرُكْعَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ رِيحَ النَّوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أَوْ رِيحُهُ فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جَنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنِي يَدَكَ قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِي كَتَمٍ فَمِصِي إِلَى صَدْرِي فَأَذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ قَالَ إِنَّ لَكَ عَذْرًا۔

۳۲۶: شیبان، ابوالہلال، ابوبردہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ میں لہسن کھا کر مسجد میں داخل ہوا جہاں پر آنحضرت ﷺ نماز ادا فرماتے تھے اور ایک رکعت ہو چکی تھی جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو آپ کو لہسن کی بدبو محسوس ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا جو شخص اس درخت میں سے کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے جب تک کہ اس کی بدبو زائل نہ ہو جائے جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم! آپ ﷺ مجھے اپنا ہاتھ دیں میں نے آپ کا دست مبارک سینے تک اپنے کرتے میں داخل کر لیا تو میرا سینہ بندھا ہوا نکلا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم معذور ہو۔

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی وجہ:

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں ناچار شخص ہوں مجھے لہسن مل گیا تھا اس وجہ سے میں نے لہسن کھالیا اور انہوں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے سینہ باندھ رکھا تھا۔ بعض حضرات فرماتے تھے کہ حضرت مغیرہ کو کوئی بیماری تھی اس لئے انہوں نے لہسن کھایا تھا۔ آپ نے ان کو معذور خیال فرما کر اجازت دے دی۔

۳۲۷: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ يَعْنِي الْعَطَّارَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا يَدَّ أَكْلِهِمَا فَأَمِئْتُوهُمَا طَبْحًا قَالَ يَعْنِي الْبَصْلَ وَالنَّوْمَ۔

۳۲۷: عباس، ابوعامر، خالد بن ميسرة، حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو درختوں کے کھانے سے ممانعت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا جو شخص ان کو کھائے تو وہ ہماری مسجد میں داخل نہ ہو اور پھر ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ کھانا ہی پڑ جائے تو ان کو پکا کر ان کی بو کو ختم کر ڈالو۔ ان دو درختوں سے مراد پیاز اور لہسن ہے۔

۳۲۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ أَبُو وَكَيْعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ

۳۲۸: مسدّد، ابو وکیع، شریک، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لہسن کھانے سے منع کر دیا گیا ہاں اگر کچی ہوئی ہو (تو

کھا لیا جائے) امام ابوداؤد فرماتے ہیں شریک کے والد کا نام جنبل تھا۔

السَّلَامُ قَالَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْقَوْمِ إِلَّا مَطْبُوحًا
قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَرِيكُ بْنُ حَنْبَلٍ۔

۴۲۹: ابراہیم بن موسیٰ (دوسری سند) حیوۃ بن شریح، بقیۃ بحیر، خالد، حضرت ابوزید خیار بن سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پیاز کھانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے جو آخری کھانا تناول فرمایا اس میں (پکی ہوئی) پیاز شامل تھی۔

۴۲۹: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ح وَ
حَدَّثَنَا حَيَوَةُ بْنُ شَرِيحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ
عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي زَيْدِ خَيْبَارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ
عَائِشَةَ عَنِ الْبَصْلِ فَقَالَتْ إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامٌ فِيهِ بَصْلٌ۔

خَلَاصَةُ الْبَابِ: اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ لہسن کھانا مباح ہے لیکن اس شخص کے لئے مکروہ ہے جو جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتا ہو (یعنی لہسن کھا کر نماز کے لئے مسجد میں جانا مکروہ ہے) اور یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس سے بدبو پیدا ہوتی ہو جہاں تک آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کا تعلق ہے تو چونکہ آپ ﷺ ہر لمحہ وحی کے نازل ہونے کے متوقع رہتے تھے اس لئے آپ ﷺ کبھی بھی لہسن نہیں کھاتے تھے اور اس سے مکمل اجتناب فرماتے تھے۔

اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ پیاز، لہسن اور گندنا کا حکم آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کے لئے کیا تھا آیا یہ چیزیں آپ ﷺ کے لئے حرام تھیں یا نہیں؟ چنانچہ بعض حنفی علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں آنحضرت ﷺ کی ذات خاص کے لئے حرام نہیں تھیں ان کے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مکروہ تیز ہی تھیں۔

حدیث: ۴۲۷ میں ”ہماری مسجد“ مفرد لفظ یعنی ”مسجد“ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف مسجد نبوی ﷺ کے لئے ہے اور صیغہ متکلم میں مع الغیر کا استعمال (یعنی میری مسجد کہنے کے بجائے ہماری مسجد کہنا) مسجد نبوی ﷺ کی تعظیم و اکرام کے پیش نظر ہے لیکن چونکہ اس حکم کی علت اور اس کے سبب میں تمام ہی مساجد بلکہ مجالس خیر جیسے مجلس ذکر وغیرہ، مجلس درس و تدریس اور اولیاء اللہ و علماء دین کی مجالس بھی شامل ہیں اس لئے جو حکم مسجد نبوی ﷺ کا ہے کہ لہسن وغیرہ کھا کر اس میں نہ جایا جائے یہی حکم دیگر مساجد و مجالس خیر کا بھی ہوگا اور اگر اس احتمال کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اس ارشاد گرامی میں مفرد لفظ مسجد سے مراد جنس ہے کہ (آپ ﷺ نے لفظ مسجد بول کر تمام مساجد مراد لی ہیں) تو پھر اس تاویل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی علاوہ ازیں بعض روایت میں مساجد نا یعنی ہماری مساجد کا لفظ منقول ہے اس صورت میں تو تمام مساجد کے لئے یہ حکم بالکل صریح ہوگا۔

باب: کھجور کھانے کا بیان

باب فی التَّمْرِ

۴۳۰: ہارون، عمر بن حفص، ان کے والد محمد بن ابی یحییٰ، یزید اعور، حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اس پر کھجور رکھی اور فرمایا: یہ (کھجور) اس (روٹی) کا سالن ہے۔

۴۳۰: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ
بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى
عَنْ يَزِيدِ الْأَعْوَرِ عَنْ يَوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ
شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ۔

۴۳۱: ولید مروان سلیمان ہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں (ان کو آسودہ حالی حاصل نہیں ہے)

باب: کھجور کھاتے وقت کھجور کو دیکھنا اور اس کو صاف

کرتے جانا

۴۳۲: محمد بن عمرو بن جبلہ سلم بن قتیبة ہمام اہلق بن عبد اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی کھجوریں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی طرح دیکھنا شروع کیا اور کیڑے نکال کر پھینک دیئے۔

۴۳۳: محمد بن کثیر ہمام اہلق بن حضرت عبد اللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیڑا لگی ہوئی کھجوریں پیش ہوتی تھیں پھر حدیث کو اسی طرح بیان کیا۔

باب: ایک مرتبہ میں دو دو تین تین کھجوروں سے

ملا کر کھانا

۴۳۴: واصل ابن فضیل ابوالحق جبلہ بن حمیم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو کھجوریں کھانے سے منع فرمایا مگر جبکہ تم اپنے ساتھی سے اجازت مانگ لو۔

باب: دو طرح کے کھانوں کو ملا کر کھانا

۴۳۵: حفص بن عمر ابراہیم بن سعد ان کے والد حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو تر کھجور کے ساتھ ملا کر تناول فرماتے تھے۔

۴۳۶: سعید ابواسامہ ہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی

۴۳۱: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْتَ لَا تَمْرٍ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ۔

بَاب فِي تَفْتِيْشِ التَّمْرِ

عِنْدَ الْأَكْلِ

۴۳۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قَتِيْبَةَ أَبُو قَتِيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَيْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيْقٍ فَجَعَلَ يَفْتِيْشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ

۴۳۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُوْدٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ۔

بَاب الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ

عِنْدَ الْأَكْلِ

۴۳۴: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيْلٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ۔

بَاب فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْثَيْنِ فِي الْأَكْلِ

۴۳۵: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمْرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْقِفَاءَ بِالرُّطْبِ۔

۴۳۶: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ نَصِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو آدھے تر کھجور کے ساتھ تناول فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔

نہایت عمدہ غذا:

حاصل حدیث یہ ہے کہ خربوزہ اور کھجور نہایت عمدہ قدرتی غذا ہے اور ان دونوں کو مذکورہ طریقہ سے کھانا نہایت مفید اور سنت نبوی پر عمل ہے۔

۴۳۷: محمد بن وزیر و لید حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ سلیم بن عامر بسر کے دو صاحبزادوں نے جو کہ سلمی تھے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مکھن اور کھجوریں پیش کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن اور کھجور بہت پسندیدہ تھا۔

۴۳۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَرْيَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ بَسْرِ السُّلَمِيِّ قَالَ لَا دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ.

باب: اہل کتاب کے برتنوں کے استعمال کا بیان

۴۳۸: عثمان بن ابی شیبہ عبد الاعلیٰ برد بن سنان عطاء حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد کرتے تھے اور ہم لوگوں کو مشرکین کے برتن ملنے تھے تو ہم ان برتنوں سے (پانی وغیرہ) پیا کرتے تھے اور اپنے استعمال میں لاتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی اعتراض نہیں فرماتے تھے۔

باب فِي اسْتِعْمَالِ اَنْبِيَةِ اَهْلِ الْكِتَابِ!
۴۳۸: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَاسْمَعِيلُ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصِيبَ مِنْ اَنْبِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَاسْقَوْهُمْ.

مشرکین کے برتن:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مشرکین کے برتن کے استعمال پر آپ نے نکیر نہیں فرمائی تو گویا ان کے برتن کا استعمال درست ہوا۔ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے برتن کا استعمال بھی ضرور درست ہوگا۔

۴۳۹: نصر بن عاصم محمد بن شعیب عبد اللہ بن علاء ابو عبید اللہ حضرت ثعلبہ حنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ اہل کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں اور وہ لوگ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم

۴۳۹: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُنَيْبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا نَجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ

لوگوں کو ان کے علاوہ دوسرے برتن مل جائیں تو ان برتنوں میں کھاؤ
پیو۔ اور ان کے علاوہ دوسرے برتن نہ ملیں تو تم ان برتنوں کو پانی میں دھو
لو (پاک کر لو) پھر ان برتنوں میں کھاؤ پیو۔

يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخَنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي
أَنْتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ وَجَدْتُمْ
غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
غَيْرَهَا فَارْحَضُوا بِهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔

ناپاک برتن کا استعمال کرنا:

مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت کسی برتن میں شراب یا خنزیر کے گوشت کا علم ہو جائے تو وہ برتن ناپاک ہے۔ اس کا استعمال جائز
نہیں۔ البتہ محض شک و شبہ کی بنا پر برتن کے ناپاک ہونے کا حکم نہ ہوگا۔ لَا عِبْرَةَ بِالْوَهْمِ الْبَتِّ تَقْوَى کے طور پر کوئی شخص مشرکین
کے برتن بالکل استعمال نہ کرے تو یہ اچھی بات ہوگی۔

باب: سمندری جانور کے بارے میں احکام

۴۳۰: عبد اللہ بن محمد زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی
ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو قریش کا ایک
قافلہ پکڑنے کے لئے ہم لوگوں پر امیر بنا کر روانہ فرمایا اور آپ نے
کھجور کا ایک تھیلہ راستہ کے توشہ کے لئے ساتھ میں دیا اور ہمارے
پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں
کھجور کا ایک ایک دانہ دیتے ہم اس کو اس طریقہ سے چوستے تھے کہ
جس طرح کوئی بچہ چوستا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ پانی پی لیا کرتے وہ
ہمارے لئے پورے دن اور رات کے لئے کافی ہوتا اور ہم لوگ اپنی
لکڑیوں سے درخت کے پتے جھاڑتے تھے اور پھر اس کو پانی میں بھگو
کر کھایا کرتے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو ہم
لوگوں کو ریت کا ایک بڑا ٹیلہ جیسا محسوس ہوا جب ہم لوگ اس کے
نزدیک آئے تو (درحقیقت) ایک جانور تھا جس کو کہ غبرہ کہا جاتا ہے
(وہ ایک قسم کی مچھلی ہوتی ہے کہ جس کی کھال سے ڈھال تیار کی جاتی
ہے) ابو عبیدہ نے کہا یہ تو مردار ہے اور ہمارے لئے حلال نہیں ہے پھر
انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ آپ کے فرستادہ ہیں اور راہ الہی میں نکلے
ہیں اور تم سخت مجبور ہو گئے ہو تو اس کو کھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے
بیان کیا ہم لوگ وہاں پر ایک مہینہ تک قیام پذیر رہے اور ہم تین سو افراد

باب فِي دَوَابِّ الْبَحْرِ

۴۳۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ
عَلَيْنَا أبا عَبِيدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَى عَيْرًا لِقَرَيْشٍ
وَزَوَدَنَا جَرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ فَكَانَ
أَبُو عَبِيدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً كُنَّا نَمُصُّهَا كَمَا
يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ
فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بَعْضِنَا
الْحَبْطَ ثُمَّ نَبَلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ وَانْطَلَقْنَا عَلَى
سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَفَعَ لَنَا كَهَيْبَةَ الْكَيْبِ الضَّخِيمِ
فَاتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعُبَيْرُ فَقَالَ أَبُو
عَبِيدَةَ مَيْتَةٌ وَلَا تَحِلُّ لَنَا ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ
رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اضْطَرُّرْتُمْ إِلَيْهِ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا
عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا فَلَمَّا
قَدِمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقِي أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ

فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتَطْعَمُونَا مِنْهُ فَأَرْسَلْنَا مِنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
تھے سب اسی کو کھاتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ فرہہ ہو گئے۔ جب ہم لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو ہم نے آپ سے اس کا تذکرہ

کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا (وہ) تم لوگوں کا رزق تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بھیجا تھا اب تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت باقی ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ تو ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس کا گوشت بھیجا (آپ نے (وہ گوشت) تناول فرمایا)۔
دریائی جانور کا حکم:

احناف کے نزدیک دریائے جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے بقیہ سب حرام ہیں اور مچھلی چاہے زندہ ہو یا مری ہوئی ہو دونوں درست اور جائز ہیں البتہ جو مچھلی تالاب میں مرنے کے بعد پانی کی سطح پر اُلٹا تیرنے لگے وہ مردار کے حکم میں ہے اور ناجائز ہے۔

باب: چوہا گھی میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

بَابُ فِي الْفَارَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

۴۳۱: مسدّد سفیان زہری عبید اللہ ابن عباس، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک چوہا گھی میں گر گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا چوہے کے چاروں طرف سے گھی پھینک کر باقی گھی کھا لو۔

۴۳۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَلْقُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوا -

جسے ہوئے گھی کا حکم:

مذکورہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ گھی جما ہوا ہو اگر جما ہوا نہ ہو تو یہ حکم نہیں ہے اور آج کل جیسے کہ عام طور پر آئل استعمال کرنے کا رواج ہے اس سارے کو بھی تلف کرنا پڑے گا اور یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔

۴۳۲: احمد بن صالح، حسن بن علی، عبدالرزاق، معمر زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب چوہا گھی میں گر کر مر جائے تو اگر گھی جما ہوا (یعنی بستہ) ہو تو چوہے اور اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو اور اگر گھی پکھلا ہوا ہو تو پھر اس کے قریب نہ جاؤ۔ حسن نے بیان کیا عبد الرزاق نے فرمایا اس حدیث کو زیادہ تر عمر نے زہری کے واسطے سے عبید اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (مرفوعاً) روایت کیا ہے۔

۴۳۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِمًا فَلَا تَقْرُبُوهُ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرَبَّمَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

ناپاک گھی کا حکم:

مفہوم حدیث یہ ہے کہ مذکورہ گھی استعمال نہ کرو۔ نہ اس کو فروخت کیا جائے نہ کھایا جائے لیکن حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے گھی سے چراغ روشن کرنے کی اجازت دی ہے۔

تشریح: یہ اس گھی کا حکم ہے جو جما ہوا ہو اور جو گھی پگھلا ہوا ہو وہ اس صورت میں سارا نجس ہو جاتا ہے اور بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں اس طرح اس گھی کو بیچنا بھی اکثر ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ البتہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نے اس کے بیچنے کو جائز رکھا ہے۔

اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا اس گھی سے کوئی اور فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے جب کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو چراغ میں جلانے، کشتیوں میں ملنے یا اس کے کسی اور مصرف میں لاکر اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہ قول حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور حضرت امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول جو زیادہ مشہور ہے بھی یہی ہے۔ لیکن یہ جواز کراہت کے ساتھ ہے۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد سے دو روایتوں منقول ہیں۔ حضرت امام مالک سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس گھی کو مسجد کے چراغ میں جلانا جائز نہیں ہے۔

۴۴۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذُؤَيْهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مِمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ۔

۴۴۳: احمد بن صالح، عبدالرزاق، عبدالرحمن بن بوزویہ، معمر زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے۔

باب: اگر مکھی کھانے میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟

۴۴۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عَجْلَانَ سَعِيدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَاْمَقْلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بَجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ۔

۴۴۴: احمد بن حنبل، بشر ابن عجلان، سعید مقبری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو اس میں ڈبو دو کیونکہ اس کے ایک بازو میں مرض ہے اور دوسرے بازو میں شفا ہے اور وہ اس بازو کو (برتن میں) ڈالتی ہے جس میں کہ بیماری ہے اس لئے اس پوری مکھی کو غوطہ دینا چاہئے۔ (یہ حکم اس وقت ہے جب ایسی چیز کو کھانے کا ارادہ ہو اور وہ چیز گرم بھی نہ ہو)۔

باب: کھاتے وقت اگر لقمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے؟

باب فِي اللَّقْمَةِ تَسْقُطُ

۴۳۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَيْقَى أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَاكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسَلَتْ الصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَبِي طَعَامِهِ يَأْرُكُ لَهُ۔

۴۳۵: موسیٰ بن اسماعیل، حماد ثابت، انس بن مالک سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ جب کھانے سے فراغت حاصل فرماتے تو آپ اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے اور ارشاد فرماتے جب تم لوگوں میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو چاہئے کہ اس پر سے گرد و غبار دور کر کے اس کو کھا لے اور اس کو شیطان کیلئے نہ چھوڑے اور آپ نے ہم کو پیالہ یا پلیٹ صاف کرنے کا حکم فرمایا اور آپ فرماتے تھے کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص واقف نہیں ہے کہ اس کے کون سے کھانے میں خیر و برکت ہے۔

انگلیاں چاٹنا:

کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا اور لقمہ اٹھا کر کھانے کی صورت میں انگلیوں کو چاٹنا باعث خیر و برکت ہے۔ حاصل حدیث یہی ہے۔

خلاصۃ الباب: انگلیوں سے کھانا سنت ہے لہذا ان تینوں کے ساتھ چوتھی اور پانچویں انگلی نہ ملائی جائے الایہ کہ چوتھی اور پانچویں انگلی کو ملانا ضروری ہو۔

”انگلیوں کو چاٹنے“ سے مراد یہ ہے کہ جن انگلیوں سے کھاتے تھے ان کو چاٹ لیا کرتے تھے چنانچہ پہلے بیچ کی انگلی کو چاٹتے پھر اس کے پاس کی انگلی کو پھر انگوٹھے کو چاٹتے تھے۔

طبرانی نے عامر بن ربیعہ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کی مدد کے لئے چوتھی انگلی بھی ملا لیا کرتے تھے نیز ایک حدیث مرسل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ پانچوں انگلیوں سے کھاتے تھے۔ یا تو یہ تپتی چیز کھانے پر محمول ہے یا یہ کہ آپ ﷺ بیان جواز کی خاطر کبھی کبھی اس طرح بھی کھاتے تھے، لیکن اکثر اوقات تین ہی انگلیوں سے کھانے کی عادت تھی۔

باب: ملازم اور غلام کو ساتھ کھانا کھلانا افضل ہے

۴۳۶: تعینی، داؤد موسیٰ بن یسار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کسی شخص کے لئے اس کا خادم کھانا بنائے پھر کھانا لے کر حاضر ہو اور وہ خادم (چولہے کی) گرمی اور دھواں اٹھا چکا ہے تو اس کو چاہئے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے۔ اگر کھانا کم ہو تو اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ یا دو لقمے دے دے۔

باب فی الخادم یا کُلُّ مَعَ الْمَوْلَى

۴۳۶: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمَهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ رَلَى حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ۔

خادم کے حقوق:

اس حدیث میں خادم کے حقوق کی ہدایت فرمائی ہے حاصل حدیث یہ ہے کہ خادم نے تمہارے لئے تکلیف اٹھائی ہے، محنت

کی ہے۔ اس لئے اس کی ولداری ضروری ہے۔

باب: رومال سے ہاتھ خشک کرنے کا بیان

۴۳۷: مسدّد یحییٰ عطاء ابن جریج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ رومال سے صاف نہ کرے جب تک کہ وہ اپنی انگلیوں کو نہ چاٹے یا کسی دوسرے شخص کو انگلیاں نہ چٹوائے۔

۴۳۸: نفیلی ابو معاویہ ہشام بن عروہ عبد الرحمن بن سعد ابن کعب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ تین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور آپ ﷺ اپنے ہاتھ کو صاف نہ فرماتے جب تک کہ آپ ﷺ اس کو چاٹ نہ لیتے۔

باب: کھانا کھانے کے بعد کی دُعا

۴۳۹: مسدّد یحییٰ ثور خالد بن معدان ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آنحضرت ﷺ فرماتے اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ صاف ستھرا شکر نہ ایسا شکر جو کہ ایک مرتبہ کانی ہو اور اسے چھوڑ دیا جائے اور اسکی کچھ ضرورت باقی نہ رہے۔ اے ہمارے پروردگار آپ تعریف کے لائق ہیں۔

دسترخوان کے اٹھاتے وقت کی دُعا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کَثِیْرًا اِنَّہٗ یَرُوعُ اِسَّ دُعا اس وقت پڑھنا مسنون ہے جب سامنے سے دسترخوان اٹھایا جائے اور کھانے کے بعد کی مسنون دُعا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا اِنَّہٗ

تشریح: کھانے کے بنیادی طور پر تین آداب بیان کئے جاتے ہیں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ کھانے کی ابتداء بسم اللہ کہہ کر ہونی چاہئے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہئے اور تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے برتن میں اپنے سامنے سے کھانا چاہئے۔ جمہور علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ اس حدیث میں مذکورہ بالا تین باتوں کا جو حکم دیا گیا ہے وہ استحباب کے طور پر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کھانے کے بعد خدا کی حمد و شکر کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی کھانے بیٹھیں تو سب لوگ بسم اللہ کہیں! جب کہ بعض علماء کے نزدیک کہ جن میں حضرت امام شافعی بھی شامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ محض ایک آدمی بسم اللہ کہہ لینا سب کے لئے کافی ہو جائے گا۔ پانی یا دوا وغیرہ پینے کے وقت بسم اللہ کہنے کا بھی وہی حکم ہے جو کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنے کا ہے۔

باب فی الْمِیْدِیْلِ

۴۳۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا یَحْیٰی عَنْ ابْنِ جُرَیجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلْتُمْ اَحَدُكُمْ فَلَا یَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِیْدِیْلِ حَتّٰی یَلْعَقَهَا اَوْ یَلْعَقَهَا۔

۴۳۸: حَدَّثَنَا النَّفِیْلِیُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ کَعْبٍ بْنِ مَالِکٍ عَنْ اَبِیْہِ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ كَانَ یَاْكُلُ بِثَلَاثِ اَصَابِعٍ وَلَا یَمْسَحُ يَدَهُ حَتّٰی یَلْعَقَهَا۔

باب مَا یَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا طَعِمَ

۴۳۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا یَحْیٰی عَنْ ثُوْرِ عَنِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طِیْبًا مَبَارَکًا فِیْہِ غَیْرَ مَکْفِیٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنٰی عَنْہُ رَبَّنَا۔

دسترخوان کے اٹھاتے وقت کی دُعا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کَثِیْرًا اِنَّہٗ یَرُوعُ اِسَّ دُعا اس وقت پڑھنا مسنون ہے جب سامنے سے دسترخوان اٹھایا جائے اور کھانے کے بعد کی مسنون دُعا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا اِنَّہٗ

تشریح: کھانے کے بنیادی طور پر تین آداب بیان کئے جاتے ہیں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ کھانے کی ابتداء بسم اللہ کہہ کر ہونی چاہئے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہئے اور تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے برتن میں اپنے سامنے سے کھانا چاہئے۔ جمہور علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ اس حدیث میں مذکورہ بالا تین باتوں کا جو حکم دیا گیا ہے وہ استحباب کے طور پر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کھانے کے بعد خدا کی حمد و شکر کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی کھانے بیٹھیں تو سب لوگ بسم اللہ کہیں! جب کہ بعض علماء کے نزدیک کہ جن میں حضرت امام شافعی بھی شامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ محض ایک آدمی بسم اللہ کہہ لینا سب کے لئے کافی ہو جائے گا۔ پانی یا دوا وغیرہ پینے کے وقت بسم اللہ کہنے کا بھی وہی حکم ہے جو کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنے کا ہے۔

۳۵۰: محمد بن علاء و کعب سفیان، ابو ہاشم، اسماعیل بن ربیع، ان کے والد کوئی دوسرا شخص، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي.....** اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا، پلایا اور ہم کو اطاعت گزاروں میں سے بنایا۔ (یعنی اہل ایمان بنایا)

۳۵۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ -

۳۵۱: احمد بن صالح، ابن وہب، سعید بن ابی ایوب، ابو عقیل، ابو عبد الرحمن، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ تناول فرماتے یا کچھ نوش فرماتے تو یہ فرماتے اللہ تعالیٰ کے لئے تمام شکر ہے جس نے ہم کو کھلایا، پلایا اور اس کو خلق سے اتارا اور اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنایا۔ (یعنی رفع حاجت کے اخراج کے لئے راستہ بنایا)۔

۳۵۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا -

باب: کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ صاف کرنے

باب فِي غَسْلِ الْيَدِ مِنَ

الطَّعَامِ

الطَّعَامِ

۳۵۲: احمد بن یونس، زہیر، سہیل، ان کے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نیند آجائے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے اور (اسی حالت میں) اس کو نقصان پہنچ جائے تو وہ شخص صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔

۳۵۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ عَمْرٌ وَكَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ -

بغیر ہاتھ دھوئے سونا:

مطلب یہ ہے کہ اپنی ہی غلطی ہے کہ ہاتھ دھو کر کیوں نہیں سویا اس میں دوسرا ذمہ دار نہیں ہے اپنی غلطی کا خود ہی شخص ذمہ دار ہے۔

باب: کھانا کھلانے والے شخص کے لئے دُعائے خیر

باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ

كَرْنِي كَابِيَان

الطَّعَامِ

۳۵۳: محمد بن بشار، ابو احمد، سفیان، یزید بن ابی خالد، ایک آدمی، حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ابو اہیشم بن تیمان نے حضرت رسول

۳۵۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ

کریم ﷺ کے لئے کھانا بنایا تو انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی مدعو کیا۔ جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کو اس کا معاوضہ ادا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ ان کا کیا معاوضہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی شخص کے گھر میں داخل ہو اور وہ کھانا کھائے اور پانی پئے پھر اس کے لئے دُعا مانگے تو یہی اس کا معاوضہ ہو گیا۔

۴۵۴: محمد بن خالد عبد الرزاق، معمر ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لائے وہ روٹی اور زیتون کا تیل لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے وہ تناول فرمایا اس کے بعد فرمایا۔ روزہ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس روزہ افطار کریں اور صالحین تمہارا کھانا کھائیں اور تم پر فرشتے رحمت بھیجیں۔

باب: جن حیوانات کی حرمت کا قرآن و حدیث میں

تذکرہ نہیں ہے

۴۵۵: محمد بن داؤد محمد بن شریک، عمرو بن دینار، حضرت ابوالشعناء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ دور جاہلیت کے لوگ بعض اشیاء کھایا کرتے تھے اور بعض اشیاء کو مذموم سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بھیجا اپنی کتاب نازل فرمائی حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیا لہذا اس نے جو حلال قرار دیا ہے وہی حلال ہے اور جس کو حرام قرار دیا ہے وہی حرام ہے اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے تو وہ معاف ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ: ﴿قُلْ لَا أجدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ تلاوت فرمائی۔ یعنی اے محمد آپ فرمادیں جن اشیاء کے بارے میں وحی نازل ہوئی ہے ان میں سے کسی کھانے والے شخص پر کوئی شے حرام نہیں پاتا ہوں سوائے میتہ کے بہتے ہوئے خون اور خنزیر کے گوشت کے۔ اس لئے کہ وہ نجس ہے اور اس جانور کے جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے۔

۴۵۶: مسدؤد یحییٰ، زکریا، عامر، حضرت خارجہ بن صلت تمیمی اپنے بیچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام

الذَّالِيْنَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَنَعَ أَبُو هَيْثَمِ بْنِ الْيَمَانِ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَعُوا قَالَ أَيُّبُوا أَخَاكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِثَابُكَ قَالَ إِنْ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَأَكَلَ طَعَامَهُ وَشَرِبَ شَرَابَهُ فَدَعَا لَهُ فَلَيْكَ إِثَابُهُ۔

۴۵۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ۔

باب مَا لَمْ يَذْكَرْ

تَحْرِيْمُهُ

۴۵۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ شَرِيكِ الْمَكِّيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقْدَرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا قُلْ لَا أَجدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَّا آخِرَ الْآيَةِ۔

۴۵۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ

ہوئے جب وہ آپ کے پاس سے واپس روانہ ہوئے تو ان کے راستہ میں ایک قوم ملی کہ جن میں ایک پاگل شخص زنجیروں میں بندھا ہوا پڑا تھا اس پاگل شخص کے اولیاء اور ورثاء نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا (یعنی حضرت رسول کریم ﷺ) خیر ہی خیر لے کر تشریف لائے ہیں تو کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز شے (عمل وغیرہ) ہے کہ جس کے ذریعہ اس دیوانے شخص کا علاج کر سکے۔ میں نے سورہ فاتحہ (الحمد شریف) پڑھ کر پھونک ماری اور وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھے ایک سو بکریاں عنایت کیں میں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا تم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ (منتر وغیرہ) تو نہیں پڑھا تھا، مسدود نے کسی اور مقام پر کہا کہ آپ

نے فرمایا: کیا تم اس نے اس کے علاوہ کچھ کہا (پڑھا) تھا؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا تو تم یہ بکریاں لے لو میری عمر کی قسم ہے لوگ جادو وغیرہ کر کے کھاتے ہیں جو کہ باطل (گناہ) ہے تم نے تو ایک برحق اور سچی شے پڑھ کر پھونک مار کر کھایا ہے۔

۳۵۷: عبید اللہ بن معاذ ان کے والد شعبہ عبد اللہ شعمی، حضرت خارجہ بن صلت نے اپنے چچا سے بیان کیا (وہ) تین روز تک صبح شام الحمد شریف پڑھ کر اس پر پھونک مارتے رہے جب الحمد شریف پڑھ کر فارغ ہو جاتے تو تھوک منہ میں جمع کر کے اس پر تھوک دیتے وہ شخص اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے وہ رسی سے کھل گیا ہو تو ان لوگوں نے (معاوضہ میں) بکریاں عنایت کیں یہ شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور حدیث اول کی طرح روایت نقل کی۔

التَّيْمِيَّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أُنِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوْتَقٍ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حَدَّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَدَاوِيهِ فَرَفِئْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ إِلَّا هَذَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هَلْ قُلْتُ غَيْرَ هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلِ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتُ بِرُقِيَّةٍ حَقًّا.

۳۵۷: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عُذْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بَرَأَهُ ثُمَّ تَفَلَّ فَكَانَمَا أَنْشَطَا مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُوهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

أَوَّلُ كِتَابِ الطِّبِّ

طب عام طور پر طاء کے زیر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے مگر علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ زیر زبر اور پیش تینوں کے ساتھ مستعمل ہے۔ اس کے معنی ہیں ”علاج کرتا“۔ بعض مواقع پر اس کو طاء کے زیر کے ساتھ سحر کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے اسی حوالے سے ”مطبوب“ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس پر جادو کیا گیا ہو۔

طب کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے اور نفس سے بھی۔ چنانچہ حفظانِ صحت دفعِ امراض کے لئے جسم کے علاج کو جسمانی طب کہتے ہیں اور نفسانی تباہی و بربادی تک پہنچانے والے افکار و نظریات اور اعمال اور زائل اخلاق کو ترک کرنے کے لئے نفس کا علاج کرنے کو طبِ نفسانی کہتے ہیں۔ جس طرح طب کی دو اقسام ہیں اسی طرح علاج کی بھی دو اقسام ہیں۔ ایک تو جسمانی اور طبعی خواہ یہ مرکبات کی شکل میں ہوں مضر دات کی (جیسے کہ ظاہر دوائیں ہوتی ہیں) دوسری قسم روحانی و لسانی ہے جو قرآن اور

دوسری چیزیں جو حکم قرآن میں شامل ہیں، کی صورت میں ہیں۔ نبی کریمؐ اپنی امت کا طبی علاج بھی کرتے تھے اور نفسانی و روحانی بھی۔

باب فی الرَّجُلِ یَتَدَاوَى

باب: علاج کرنا چاہئے

۳۵۸: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّصْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتَدَاوَى فَقَالَ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ۔

۳۵۸: حفص بن عمر شعبہ زیاد اُسامہ بن شریک سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا (اس وقت) صحابہؓ اس طریقہ سے تشریف فرما تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے ہوں (یعنی خاموش سر جھکائے ہوئے تشریف فرما تھے) تو میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا اس دوران دیہاتی لوگ ادھر ادھر سے پہنچے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ دوا علاج کیا کریں (یا نہیں) آپ نے فرمایا تم علاج کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض پیدا نہیں فرمایا کہ جس کیلئے دوا علاج نہ ہو علاوہ ایک بیماری کے اور وہ بڑھا پاپا ہے (یعنی بڑھا پاپا دور نہیں ہو سکتا)۔

خلاصۃ الباب: دوا صرف ایک سبب ہے حقیقی شفاء دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اور مریض کو صحت دینے میں علاج حقیقی اور مستقل بالذات مؤثر ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شفا محض اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے جبکہ دوا اور علاج وغیرہ تو ظاہری اسباب میں سے ہیں۔ کسی بھی مرض میں دوا اسی وقت کارگر ہو سکتی ہے جب مشیت الہی اس میں شامل ہو۔ چنانچہ جمہدی میں اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ ایسا کوئی مرض جس کا علاج نہ ہو۔ جب کوئی شخص علیل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جس کے ساتھ ایک پردہ ہوتا ہے وہ فرشتہ اس پردہ کو علیل شخص کی بیماری اور دوا کے درمیان حائل کر دیتا ہے اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بیمار آدمی جو بھی دوا استعمال کرتا ہے وہ بیماری پر اثر انداز نہیں ہوتی اور اس سے صحت و تندرستی حاصل نہیں ہوتی یہاں تک کہ جب مشیت الہی ہوتی ہے کہ بیمار تندرستی پالے تو وہ فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ بیماری اور دوا کے درمیان سے پردہ اٹھا دے اس کے بعد بیمار جب دوا استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعے اس کو صحت و تندرستی عطا کر دیتا ہے۔

اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ علاج معالجہ کرنا مستحب عمل ہے اور یہی مذہب صحابہ کرامؓ اور اہل علم کا ہے۔ نیز اس میں ان حضرات کی بھی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہر چیز قضا و قدر کے ساتھ لہذا دوا و علاج معالجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علاج معالجہ کے قائل جمہور علماء کی دلیل مذکورہ احادیث ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بیماریوں کو پیدا کرنے والا بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن بیماری کے اثرات کو زائل کرنے کے لئے ذرائع پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جس طرح بیماری قضا و قدر کے تابع ہے اسی طرح علاج کرنا بھی تقدیر الہی ہی سے ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ہر شخص کی موت اٹل ہے مگر اس کے باوجود اپنی حفاظت و سلامتی کے ذرائع اختیار کرنا اور اپنی جان کو کسی حادثہ احملاً سے محفوظ رہنے کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا یا میدان جنگ میں دشمنان دین کو قتل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ صحت و تندرستی اور جان کی حفاظت و سلامتی کے لئے علاج جیسے اسباب و ذرائع اختیار کرنا نہ تو حکم ربی کے

خلاف ہے اور نہ ہی توکل کے منافی ہے۔ جیسے کھانے کے ذریعے بھوک مٹانا توکل کے منافی نہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں علاج بھی کرتے تھے اور اس کو دور کرنے کے ذرائع بھی اختیار کیا کرتے تھے۔

باب: پرہیز کرنے کا بیان

۳۵۹: ہارون ابوداؤد فلیح بن سلیمان ایوب یعقوب حضرت ام منذر رضی اللہ عنہا بنت قیس انصاریہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بیماری کی وجہ سے کمزور تھے اور ہم لوگوں کے پاس کھجور کے لچھے لگے ہوئے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کو تناول فرمانے لگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے کے لئے کھڑے ہو گئے؟ آپ نے ان سے کہنا شروع کیا تم کھانے سے باز آؤ ابھی تم اچھے نہیں ہوئے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھانے سے رک گئے۔ ام منذر کہتی ہیں کہ میں نے جو اور چقدر پکائے تھے تو میں وہ لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم اس میں سے کھا لویہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ (مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا کہ طیب یا ڈاکٹر جن چیزوں سے استعمال سے روکے ان سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ پرہیز نہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ ویسے بھی محاورہ ہے کہ: ”پرہیز علاج سے بہتر ہے۔“)

باب: سیٹگی لگانے کا بیان

۳۶۰: موسیٰ بن اسماعیل حماد محمد بن عمرو ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کی تمام دواؤں میں کوئی دوا بہتر ہے تو وہ حجامت یعنی سیٹگی لگانا ہے۔

۳۶۱: محمد بن وزیر یحییٰ عبد الرحمن بن ابی موال حضرت فائدہ جو عبید اللہ بن ابی رافع کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ اپنے مولیٰ سے اور وہ اپنی دادی سے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں وہ روایت کرتی ہیں

باب فی الحِمِیَةِ

۳۵۹: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو غَامِرٍ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي غَامِرٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلِيُّ نَافِقَهُ وَلَنَا دَوَالِي مَعْلَقَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيُّ لِيَأْكُلَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ مَهْ إِنَّكَ نَافِقُهُ حَتَّى كَفَّتْ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسَلَقًا فَجَنُتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَصِْبْ مِنْ هَذَا فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ.

باب فی الحِجَامَةِ

۳۶۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ.

۳۶۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَسَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي حَدَّثَنَا فَائِدَةُ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي

کہ جو بھی شخص اپنے درد سر کی شکایت لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیٹگی لگوانے کے لئے فرماتے تھے اور جو شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پاؤں کے درد کی شکایت لے کر حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے: ان کو مہندی لگاؤ۔

رَافِعٌ عَنْ مَوْلَاهُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ سَلْمَى خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ اخْضِبْهُمَا۔

باب: کس جگہ سیٹگی لگائی جائے؟

۴۶۲: عبد الرحمن، کثیر، ولید، ابن ثوبان، ان کے والد، حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کی مانگ میں فصد لگواتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مونڈھوں کے درمیان فصد لگواتے اور آپ ارشاد فرماتے جو شخص ان جگہوں کا خون نکلوائے تو اس شخص کو کسی مرض کے لئے کوئی دوا استعمال نہ کرنا نقصان نہیں پہنچاتے۔

باب فی مَوَاضِعِ الْحِجَامَةِ

۴۶۲: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَكَيْسَرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ كَثِيرٌ إِنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتَيْهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ وَّلِشَىءٍ۔

سیٹگی لگوانے کی جگہ اور فرق کا مفہوم:

فرق سر میں بالوں کے درمیان مانگ کو کہا جاتا ہے اور دو آنہ کرنا سے مراد یہ ہے کہ ان مذکورہ جگہوں پر بذریعہ سیٹگی خون نکلوانا مفید ہے بلکہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔

۴۶۳: مسلم، جریر، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے پٹھوں اور دونوں مونڈھوں کے درمیان تین مرتبہ سیٹگی لگوائی۔ معمر نے بیان کیا کہ میں نے سر کے درمیان سیٹگی لگوائی تو میری عقل زائل ہو گئی یہاں تک کہ میں لوگوں کے بتلانے سے الحمد شریف پڑھتا۔

۴۶۳: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَارِمٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجِمَ ثَلَاثًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ قَالَ مُعَمَّرٌ احْتَجِمْتُ فَلَذَهَبَ عَقْلِي حَتَّى كُنْتُ أَلْقُنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِي وَكَانَ احْتَجِمَ عَلَى هَامَتَيْهِ۔

باب: سیٹگی لگوانا کب مستحب ہے؟

۴۶۴: ابو توبہ، ربیع بن نافع، سعید بن عبد الرحمن، سہیل، ان کے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سترھویں، اسیسویں اور اکیسویں تاریخ میں سیٹگی لگوائی تو اس شخص کے لئے ہر ایک مرض سے شفا ہوگی۔

باب متى تستحب الحجامه

۴۶۴: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ احْتَجِمَ لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ۔

۳۶۵: موسیٰ بن اسماعیل، ابوبکرہ ان کی پھوپھی کیسہ بنت حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد اپنے گھر والوں کو منگل کے روز سینگ لگانے سے منع کرتے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ منگل کا دن خون کا دن ہے اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں خون نکلنے سے انسان تندرست نہیں ہوتا۔

۳۶۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ بَكَارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرْتَنِي عَمَّتِي كَبْشَةَ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ وَقَالَ غَيْرُ مُوسَى كَبْشَةَ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْفَلَائِءِ وَيَرْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ يَوْمَ الْفَلَائِءِ يَوْمَ الدَّمِّ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْفَأُ

باب: رگ کاٹنے اور سینگ لگانے کی جگہ

باب فِي قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ

۳۶۶: محمد بن سلیمان ابو معاویہ البوسفیان، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جانب ایک طبیب بھیجا تو اس حکیم نے ان کی ایک رگ کاٹی (چھیننے لگانے کے لئے)

۳۶۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَبِي طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا

۳۶۷: مسلم بن ابراہیم ہشام ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے درد کی بنا پر اپنے سر میں پر سینگ لگوائی۔

۳۶۷: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَشَامُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ عَلَيَّ وَرِكَهٍ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ

باب: داغ لگانے کا بیان

باب فِي الْكِيِّ

۳۶۸: موسیٰ بن اسماعیل، حماد ثابت، مطرف، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے داغ لگانے سے منع فرمایا ہم لوگوں نے داغ لگایا لیکن اس سے نہ تو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہم کامیاب ہوئے۔

۳۶۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مَطْرَفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِيِّ فَامْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أُنْجِحْنَا

۳۶۹: موسیٰ بن اسماعیل، حماد ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تیر کے زخم کی بنا پر سعد بن معاذ کے داغ لگایا۔

۳۶۹: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ زَمِيَّتِهِ

ضرورة داغ لگانا:

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کی بنا پر داغ لگانا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

باب: ناک میں دوا ڈالنے کا بیان

باب فِي السَّعُوطِ

۳۷۰: عثمان بن ابی شیبہ، احمد و نبیب، عبد اللہ بن طاؤس، طاؤس، حضرت

۳۷۰: حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا وَهَبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَطَ۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک میں دو اڈا لی ہے۔

باب: نشرہ (شیاطین کے ناموں کے) ایک قسم کے

باب فی

منتر کا بیان

النُّشْرَةَ

۴۷۱: احمد بن حنبل، عبدالرزاق، عقیل، وہب بن امیہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے نشرہ (جو کہ منتر کی ایک قسم ہے) کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان کا کام ہے۔

۴۷۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مَنِيبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔

باب: تریاق کا بیان

باب فی التَّرياقِ

۴۷۲: عبید اللہ بن عمر بن میسرہ، عبد اللہ بن یزید، سعید بن ابی ایوب، شریحیل بن یزید، عبدالرحمن بن رافع، حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرماتے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ پھر جو کچھ بھی کروں اگر میں نے تریاق پی رکھی ہو، تعویذ لگا رکھا ہو یا اپنی طرف سے شعر کہوں۔ امام ابوداؤد نے فرمایا یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا (مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ کام کر بھی لوں تو مجھے یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے) اور ایک قوم نے تریاق کھانے کی اجازت دی ہے۔

۴۷۲: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا شَرِيحِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّوْحِيحِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَبَالِي مَا آتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرَبْتُ تَرِياقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْنِي التَّرياقِ۔

تریاق: تریاق زہر کے اثرات ختم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کو مذموم خیال فرمایا ہے کیونکہ تریاق ناجائز اور ممنوع اشیاء سے تیار کیا جاتا ہے اگر اس کو اس طرح تیار کیا جائے کہ اس میں ممنوع چیزیں استعمال نہ کی گئی ہوں تو پھر اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔

باب: مکروہ دواؤں کے استعمال کا بیان

باب فی الْأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ

۴۷۳: محمد بن عبادہ، یزید بن ہارون، اسماعیل بن عیاش، ثعلبہ بن مسلم، ابی عمران، امّ درداء، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

۴۷۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ

أَمَ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ۔

نے مرض اور دوا دونوں نازل کئے اور ہر قسم کے مرض کے لئے دوا مقرر فرمائی تو تم لوگ دوا استعمال کرو لیکن حرام شے سے دوا تیار نہ کرو۔

دوا کی شرعی حیثیت:

دوا درحقیقت شفا دینے والی نہیں ہے شفاء اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہی سمجھ کر علاج کرنا چاہئے۔

۴۷۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُفْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَفْعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا۔

۴۷۴: محمد بن کثیر سفیان ابن ابی ذنب سعید بن خالد عن سعید بن المسیب عن عبد الرحمن بن عفمان ان طیبیا سأل النبى ﷺ عن صفع يجعلها في دواء فنهاه النبى ﷺ عن قتلها۔

حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حکیم نے مینڈک کو دوا میں ڈالنے کے لئے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا۔

مینڈک کھانا:

مینڈک کھانا جائز نہیں اس لئے اس کو بلاوجہ شرعی مارنا بھی ناجائز ہے۔

۴۷۵: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ۔

۴۷۵: ہارون بن عبد اللہ حدیثنا محمد بن بشیر حدیثنا یونس بن ابی اسحاق عن مجاہد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔

ناپاک اشیاء کا حکم:

مراد یہ ہے کہ آپ نے ناپاک اشیاء جیسے شراب، پیشاب، پاخانہ وغیرہ کے استعمال اور حرام اشیاء سے منع فرمایا ہے۔

۴۷۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَسَا سُمًّا فَسُمَّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔

۴۷۶: احمد بن حنبل حدیثنا ابو معاویہ حدیثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ ﷺ من حسا سوما فسومه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔

عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زہر پی لے گا تو وہی زہر قیامت کے دن اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ شخص دوزخ کی آگ میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ پیا کرے گا۔

۴۷۷: مسلم بن ابراہیم شعبہ علقمہ بن وائل اپنے والد وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ طارق بن سوید یا سوید بن طارق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ان کو منع فرمایا تو

۴۷۷: مسلم بن ابراہیم شعبہ علقمہ بن وائل اپنے والد وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ طارق بن سوید یا سوید بن طارق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ان کو منع فرمایا تو

عَنْ الْحَمْرِ فَتَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَتَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا ذَوَاءٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَلَكِنَّهَا دَاءٌ۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو ایک دوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ وہ تو بیماری ہے۔

حرام اشیاء کا استعمال:

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ناپاک اور حرام چیز جیسے شراب وغیرہ ان کو استعمال نہیں کرنا چاہئے کہ ان کا استعمال بہر صورت حرام ہے۔

باب: عجوہ کھجور کی (ایک اعلیٰ قسم) کی فضیلت کا بیان

۴۷۸: اسحاق بن اسماعیل سفیان ابن ابی نجیح، مجاہد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بیمار پڑ گیا تو آنحضرت ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میری دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے دل کو پہنچی پھر آپ نے فرمایا تم دل کے مریض ہو تم قبیلہ ثقیف کے حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ وہ (اس کا) علاج کرتا ہے۔ اس کو چاہئے کہ وہ مدینہ منورہ کی عجوہ کھجوروں کے سات دانے لے کر ان کو ٹھیل کے ساتھ کوٹ لے پھر ان کو مالیدہ بنا کر تمہارے منہ میں ڈالے۔

باب فی تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

۴۷۸: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَعْدِ قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي فَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَقْنُودٌ أَنْتَ الْحَارِثُ بْنُ كَلْدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَنْتَطَبُّ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمْرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَاهَنْ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلِدْكَ بِهِنَّ۔

عجوہ کی وضاحت:

عجوہ عرب کی ایک اعلیٰ قسم کی کھجور کا نام ہے اور لدو اس دوا کو کہا جاتا ہے جو بیمار شخص کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اگرچہ آنحضرت ﷺ کو مذکورہ مرض دوا کا علم تھا لیکن آپ نے دوسرے طبیب سے مشورہ کا حکم فرمایا تاکہ بہترین دوا تجویز ہو۔

۴۷۹: عثمان بن ابی شیبہ ابواسامہ ہاشم بن ہاشم، حضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت عجوہ (مدینے کی اعلیٰ قسم کی کھجور) سے سات عدد دکھالیں تو اس شخص کو اس دن جادو اور زہر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔

۴۷۹: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ۔

باب: بچوں کے حلق دبانے کا بیان

۴۸۰: مسدّد حامد سفیان زہری عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت امّ قیس بنت مھسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے بچے کو لے کر خدمت

باب فی الْعِلَاقِ

۴۸۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

نبوی میں حاضر ہوئی جس کا میں نے عذرہ (بیماری) کی وجہ سے حلق دیا یا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم کس وجہ سے اس بیماری میں بچوں کا حلق دباتی ہو؟ تم عود ہندی لے لیا کرو کیونکہ اس میں سات (قسم کی) شفا ہے۔ ذات الجنب اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے کہ ناک کے رستہ سے اس کو (مرض) عذرہ میں ڈالا جائے اور اس کو (مرض) ذات الجنب میں لدود بنا کر استعمال کرایا جائے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ عود سے مراد قسط ہے۔

عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مُحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِنِ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ فَقَالَ عَلَامَ تَدْعُونَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنِ فِيهِ سَبْعَةٌ أَشْفِيَةٌ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يَسْعَطُ مِنَ الْعُدْرَةِ وَيَلْدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ۔

عذرہ کی وضاحت:

عذرہ ایک قسم کی بیماری ہے جو بہت سے بچوں کو گرمی کے موسم میں ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے حلق میں درد ہو جاتا ہے۔ پسلیوں کا درد سینہ کی بندش اور کھانسی وغیرہ ہوتی ہے۔

باب: سرمہ لگانے کا بیان

۴۸۱: احمد بن یونس زہیر عبد اللہ سعید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ سفید لباس استعمال کیا کرو کیونکہ وہ تم لوگوں کا لباسوں میں سب سے بہترین لباس ہے اور تم اس میں (سفید لباس میں) اپنے مردوں کو کفن دیا کرو اور تم لوگوں کے لئے اشد بہترین سرمہ ہے جو آنکھ کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے اور پلک کے بالوں کو آگاتا ہے۔

باب فی الکحل

۴۸۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ وَإِنْ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ۔

باب: نظر لگ جانے کا بیان

۴۸۲: احمد بن حنبل عبد الرزاق معمر ہمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر لگنا برحق ہے۔

باب ما جاء في العين

۴۸۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَنِبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ۔

۴۸۳: عثمان بن ابی شیبہ جریر اعمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ دو ربوی میں نظر لگانے والے شخص کو حکم ہوتا کہ وہ وضو کرتا پھر جس کو نظر لگی ہوتی وہ اس پانی سے غسل دیا کرتا۔

۴۸۳: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُؤَمَّرُ الْعَائِنُ فَيَوْضَأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ۔

باب: جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے

باب فی

صحبت نہ کی جائے

۳۸۴: ابو توبہ محمد ان کے والد حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے سنا آنحضرت ﷺ نے فرماتے تھے تم لوگ اپنی اولاد کو خفیہ طریقہ سے ہلاک نہ کیا کرو کیونکہ دودھ پینے کے ایام میں صحبت کرنا شہسوار کو آلیتا ہے اور اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا بچے کی کمزوری کا باعث ہے)۔

۳۸۵: یعنی مالک محمد بن عبد الرحمن عمرو بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جدامہ اسدیہ سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں لوگوں کو غیلہ سے منع کروں پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس کے لوگ اس طرح اس طرح کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیلہ کے معنی ہیں رضاعت کے دوران بیوی سے ہمبستری کرنا۔

الغیل

۳۸۴: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يَدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدْغِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ۔

۳۸۵: حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ جَدَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِيَ عَنِ الْغَيْلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مَالِكُ الْغَيْلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرَضِعُ۔

غیلہ کی تشریح:

غیلہ کہتے ہیں بچے کے دودھ پینے کے زمانہ میں عورت سے صحبت کرنا۔ پچھلی حدیث سے غیلہ کی ممانعت ثابت ہوتی ہے لیکن اس حدیث سے غیلہ کا جواز ثابت ہے لیکن غیلہ یعنی دودھ پلانے کے زمانہ میں عورت سے صحبت کی اجازت اس صورت میں ہے جبکہ بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو ورنہ ناجائز ہوگا۔

باب: تعویذ ڈالنے کا بیان

۳۸۶: محمد بن علاء ابو معاویہ اعمش عمرو بن مرہ یحییٰ بن جزازہ نب کے بیٹے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے منتر گنہ اور تولہ (جو ایک قسم کا جادو ہوتا ہے دھاگے یا کاغذ میں عورتیں مرد سے محبت کے لئے منتر وغیرہ کرتی ہیں) یہ سب شرک ہے زینب نے کہا یہ تم کیسے کہتے ہو اللہ کی قسم دردی شدت سے میری آنکھ نکل جاتی تھی اور میں فلاں یہودی کے پاس دم کرانے کے لئے آتی جاتی تھی تو جب وہ میرے اوپر دم کرتا تھا تو میرا درد ڈھیر جاتا تھا۔ عبد اللہ نے کہا یہ کام تو شیطان ہی کا تھا شیطان اپنے

باب فی تعلیق التَّمَانِمِ

۳۸۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرُّقْيَ وَالتَّمَانِمَ وَالتَّوَلَّاتِ شِرْكٌ قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْدِفُ وَكُنْتُ أُخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِيَنِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَّنَتْ

ہاتھ سے آنکھ کو چھوتا تھا جب اس کووم کیا تو وہ اس سے رک گیا تمہارے لئے تو یہی کافی تھا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے انسانوں کے پروردگار امراض کو رفع فرما اور شفاء عطا فرما آپ ہی شفاء عطا فرمانے والے ہیں آپ وہ شفاء عطا فرمائیں کہ کسی مرض کو باقی نہ چھوڑیں۔

۴۸۷: مسدّد عبد اللہ مالک، حصین، شعی، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھاڑ پھونک اور تعویذ یا تو نظر بد لگے پر کیا جاتا ہے یا زہریلے کیڑے کے ڈسنے پر۔

باب: جھاڑ پھونک کرنے کا بیان

۴۸۸: احمد بن صالح، ابن سرح، ابن وہب، داؤد عمرو بن یحییٰ، حضرت یوسف بن محمد اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس کے پاس تشریف لے گئے، امام احمد کہتے ہیں کہ جب وہ مریض تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے تمام انسانوں کے پرورش کرنے والے اس بیماری کو ثابت بن قیس سے دور فرما دے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحان کی کچی مٹی لے کر ایک پیالہ میں رکھی اور اس پر پانی پھونک کر ڈال دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی ثابت بن قیس پر ڈال دیا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن سرح یوسف بن محمد نے فرمایا اور یہی صحیح ہے۔

بطحان: بطحان مدینہ منورہ میں ایک وادی کا نام ہے مذکورہ حدیث سے مریض کے لئے دو اور دو عادنوں ثابت ہیں اور آپ نے بطور دو اس کے یہ عمل کیا۔

۴۸۹: احمد بن صالح، ابن وہب، معاویہ، عبد الرحمن، ان کے والد عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ اس سلسلہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے منتر

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَمَا يَنْحُسُّهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَّهَا كَفَتْ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَذْهَبَ الْبَأْسُ رَبِّ النَّاسِ انْشُبِ أَنْتِ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَاؤِكَ شِفَاءً لَا يَغَادِرُ سَقَمًا۔

۴۸۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْوَلٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةٍ۔

باب مَا جَاءَ فِي الرُّقِيِّ

۴۸۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ثُمَّ أَخَذَ تَرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الصَّوَابُ۔

۴۸۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرُقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي

میرے سامنے پیش کرو کیونکہ جب تک منتر کے مضمون میں کسی قسم کی شرک کی بات نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

۳۹۰: ابراہیم بن مہدی، علی بن مسہر، عبدالعزیز بن عمر، صالح بن کیسان، ابوبکر بن سلیمان، ابن ابی حمزہ، حضرت شفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم حفصہ کو نملہ کا جھاڑ پھونک کیوں نہیں سکھا دیتیں جس طرح تم نے ان کو لکھنا سکھایا۔

ذَلِكَ فَقَالَ اغْرِضُوا عَلَيَّ رِقَائِكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا -

۳۹۰: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سَلِيمَانَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةُ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ -

نملہ کی وضاحت:

نملہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جو کہ پسلیوں کے قریب ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے شفاء بنت عبد اللہ! تم نملہ بیماری کے علاج کے لئے جس عمل سے واقف ہو وہ تم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی سکھا دو۔ مذکورہ حدیث سے خواتین کے لئے تعلیم حاصل کرنا اور نمر سیکھنا وغیرہ واضح طور پر معلوم ہوا۔

۳۹۱: مسدّد عبد الواحد، عثمان زباب، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک ندی کے قریب سے گزرا تو اس میں اتر کر غسل کیا۔ جب میں غسل سے فارغ ہوا تو مجھے بخار چڑھ گیا۔ پھر اس بات کی اطلاع رسول کریم ﷺ کو ہوئی آپ نے فرمایا اس کو شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دو، میں نے عرض کیا میرے سردار! اور اچھے جھاڑ پھونک بھی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا جھاڑ پھونک کا (عمل) تین قسم کی آفات (سے بچنے) کے لئے ہوتا ہے ایک نظر بد دوسرے سانپ کے کاٹنے (سے بچنے) کے لئے۔ تیسرے بچھو کے ڈنک مارنے کے لئے۔

۳۹۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي جَدَّتِي قَالَتْ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حَنِيْفٍ يَقُولُ مَرَرْنَا بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا فَمِعِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرُوا أَبَا نَابِثٍ يَتَعَوَّذُ قَالَتْ فَقُلْتُ فَقَالَ لَا رُقِيَّةَ إِلَّا لِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدَعَةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحُمَةُ مِنَ الْحَيَاتِ وَمَا يَلْسَعُ -

۳۹۲: سلیمان بن داؤد شریک (دوسری سند) عباس یزید بن ہارون، عباس، شعبی، عباس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھاڑ پھونک تو صرف نظر بد کے لئے ہوتا ہے یا زہریلے جانور کے کاٹنے کے لئے یا خون بہنے کے لئے۔ اور یہ سلیمان بن داؤد کے الفاظ ہیں۔

۳۹۲: حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْعَبَّاسُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا رُقِيَّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْفَأُ لَمْ يَذْكُرِ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ وَهَذَا لَفْظُ سَلِيمَانَ بْنِ دَاوُدَ -

تعویذ گندہ کرنا:

مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر مذکورہ تین اشیاء میں منتر فائدہ مند ہوتا ہے واضح رہے کہ شریعت اسلام میں منتر سے مراد عمل کرنا یعنی ادعیہ ماثورہ یا اسمائے حسنیٰ سے تعویذ گندہ کرنے کا نام ہے عرب میں جو شکر کا نہ الفاظ وغیرہ سے عمل کرتے تھے منتر کرتے تھے وہ حرام ہے جلد اول میں تفصیل گزر چکی۔

باب: جھاڑ پھونک کیسے کی جائے؟

۴۹۳: مسدّد عبد الوارث، عبد العزیز، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ثابت سے کہا کیا میں تمہارے اوپر وہ جھاڑ پھونک نہ کروں جو کہ نبیؐ کیا کرتے تھے؟ ثابتؓ نے جواب دیا کیوں نہیں ضرور کرو۔ انسؓ نے اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ..... یعنی اے اللہ تمام لوگوں کے پالن ہار مرض کے رفع فرمانے والے شفا عطا فرما۔ آپ ہی شفا دینے والے ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی صحت بخشنے والا نہیں اس کو ایسا صحت مند بنا دے کہ اس کو کسی قسم کا مرض نہ رہے۔

باب كَيْفَ الرَّقِي

۴۹۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ يَعْني لِثَابِتٍ أَلَا أُرْقِيكَ بِرُقِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ أَشْفِهِ شِفَاءً لَا يَغَادِرُ سَقَمًا۔

مریض کے لئے خاص دُعا:

مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار اس مریض کو شفا کے لئے عطا فرما۔ مذکورہ دُعا ہر ایک بیماری سے شفا کے لئے مجرب اور اکسیر ہے۔

۴۹۴: عبد اللہ مالک، یزید، عمرو نافع بن جبیر، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خدمت نبویؐ میں حاضر ہوئے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میرے جسم میں اس قدر درد تھا کہ میری جان پہ بن آئی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا (تمہارے) بدن میں جس جگہ درد ہو رہا ہے اس جگہ تم اپنا دایاں ہاتھ پھیر کر سات مرتبہ یہ پڑھو۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی عزت اور قدرت کی۔ اس شے کی بُرائی سے جس کو میں پاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے درد کو رفع فرما دیا پھر ہمیشہ میں اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو اس کے پڑھنے کا کہتا ہوں۔

۴۹۴: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ السَّلْمِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ وَيْبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْسَحْهُ بِمِصْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَرِّيَّ وَجَلَّ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ أَمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ۔

۴۹۵: یزید، زیاد، محمد بن کعب، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے

۴۹۵: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمَيْلِيِّ

روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول کریم ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ تم لوگوں میں سے جو شخص مریض ہے یا کوئی دوسرا مسلمان بھائی اس سے اپنا مرض بیان کرے تو وہ یہ پڑھے رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْخِ هَامَارُ پروردگارِ وہ اللہ ہے جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہے۔ اے اللہ تیرا اختیار ہے زمین و آسمان میں جیسے تیری آسمان میں رحمت ہے اسی طرح زمین پر رحمت نازل فرما اور ہمارے گناہوں کی اور غلطیوں کی مغفرت فرما۔ تو پاک ہے لوگوں کا پروردگار ہے اپنی رحمت میں سے رحمت نازل فرما اور اپنی شفاء میں سے شفاء عطا فرما اس تکلیف سے (اگر یہ کلمات کہے جائیں) تو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔

۴۹۶: موسیٰ بن اسماعیل، حماد بن محمد بن اسحاق، حضرت عمرو بن شعیب، ان کے والد ان کے دادا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ان کو گھبراہٹ کیلئے یہ کلمات سکھاتے تھے: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ..... یعنی میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اسکے غصہ سے اور اسکے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے (شیطانوں کے) میرے پاس آنے سے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے صاحبزادوں میں سے جو عقل و شعور کی حد تک پہنچتا اسکو یہ دُعا سکھا دیا کرتے تھے اور جو ہوشیار نہ ہوتا اسکے گلے میں یہ دُعا تحریر فرما کر لٹکا دیا کرتے تھے۔

۴۹۷: احمد بن ابی سرح، مکی، حضرت یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ کی پندلی میں چوٹ کا ایک نشان دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ چوٹ لگی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ سلمہ کو زخم لگ گیا ہے۔ پھر مجھے حضرت رسول کریم ﷺ کے پاس لائے آپ نے میرے اوپر تین مرتبہ پھونکا اس روز سے اب تک مجھ کو اس کی شکایت نہیں ہوئی۔

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زِيَادَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَيْدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحِمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَيَّ هَذَا الْوَجَعُ فَيَبْرَأُ۔

۴۹۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَرْعِ كَلِمَاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ۔

۴۹۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثْرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلْمَةَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلْمَةَ فَأَتَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَنَفَثَ فِي ثَلَاثِ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ۔

تعویذ کے جواز کی حدیث:

مذکورہ حدیث شریف سے اللہ تعالیٰ کے اسماء یا دُعاؤں کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے اور مذکورہ حدیث ۴۹۶ سے ثابت ہوا کہ اسمائے حسنیٰ وادعیہ ماثورہ کرنے سے شفا ہوتی ہے اور اس روایت سے گلے میں تعویذ کا لٹکانا بھی ثابت ہوتا ہے۔

۴۹۸: زہیر عثمان بن ابی شیبہ سفیان بن عیینہ، عبد ربہ، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس جس وقت کوئی بیمار شخص کسی قسم کی شکایت کرتا تھا تو آپ اپنا تھوک لے کر مٹی لگا کر فرماتے ہم لوگوں میں سے بعض کے تھوک کے ساتھ یہ ہماری زمین کی مٹی ہوتی مٹی ہے تاکہ (اس کے لگانے سے) ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارا مریض شفا یاب ہو جائے۔

۴۹۹: مسدذ یحییٰ زکریا، عامر، خارجہ بن صلت نے اپنے چچا سے روایت کیا کہ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے پھر واپس ہو کر ایک قوم کے پاس آئے جن میں ایک مجنون شخص تھا وہ لوہے سے بندھا ہوا تھا اس شخص کے رشتہ داروں نے کہا ہم لوگوں نے سنا ہے تم لوگوں میں یہ شخص (یعنی آپ) خیر و برکت لے کر تشریف لائے ہیں تو کیا تم لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ تم جس سے اس شخص کا معالجہ کرو۔ چنانچہ میں نے الحمد شریف پڑھ کر اس پر دم کیا۔ وہ شخص ٹھیک ہو گیا ان لوگوں نے مجھے سو بکریاں دیں۔ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا بس تم نے یہی سورت پڑھی؟ اور مسدذ نے ایک دوسرے مقام پر یوں کہا کہ آپ نے فرمایا: کیا تم نے اس سورۃ کے علاوہ کچھ اور پڑھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی نہیں۔ بلکہ صرف یہی سورت پڑھی تھی۔ نبی نے ارشاد فرمایا تم یہ بکریاں لے لو۔ میری زندگی کی قسم! لوگ تو جھوٹے منتر و پرزق کھاتے ہیں تم نے تو سچے منتر (عمل) پر کھایا۔

۵۰۰: احمد بن یونس، زہیر، سہیل، حضرت ابوصالح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا جو کہ قبیلہ اسلم میں سے تھا وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آج رات کسی (کیڑے) نے ڈس لیا ہے تو مجھے تمام رات نیند نہیں آئی۔ آپ نے دریافت فرمایا کس چیز نے ڈس لیا ہے عرض کیا بچھونے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم شام کے وقت یہ پڑھ لیتے: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ یعنی میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے کلمات کی جو کہ مکمل ہیں تمام مخلوقات کی برائی سے تو

۴۹۸: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا اشْتَكَى يَقُولُ بِرِيقِهِ ثُمَّ قَالَ بِهِ فِي التُّرَابِ تُرْبَةً أَرْضِنَا بِرِيقِهِ بَعْضُنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا۔

۴۹۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيَّةِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثِقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حُدِنَّا أَنْ صَاحِبَكُمُ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ فَرَقِيْتَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْرًا فَأَعْطُونِي مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ إِلَّا هَذَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هَلْ قُلْتُ غَيْرَ هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلِ بِرِيقِهِ بَاطِلٌ لَقَدْ أَكَلْتُ بِرِيقِهِ حَقًّا۔

۵۰۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَهِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِدَعْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنْمِ حَتَّى أَصْبَحْتُ قَالَ مَاذَا قَالَ عَقْرَبُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أُمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ

تَضْرُكُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -

تمہیں بچھو نقصان نہ پہنچاتا ان شاء اللہ۔

زہریلے جانور کے لئے دُعا:

مذکورہ دُعا موذی جانوروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے اکسیر اور مجرب ہے۔

۵۰۱: حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ طَارِقِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ مَخَاشِينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَدِيغٌ لَدَعْتَهُ عَقْرَبٌ قَالَ فَقَالَ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ پڑھ لیتا تو اسے کوئی کیزرانہ ڈستایا فرمایا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچا سکتا۔

۵۰۲: مسدد ابو عوانہ ابو بشر ابوالتوکل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سفر میں چل رہی تھی (تو وہ حضرات) ایک عربی قبیلہ کے پاس ٹھہرے ان میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے سردار کو (کسی زہریلے جانور نے) ڈس لیا ہے تو تم لوگوں کے پاس کوئی دوا موجود ہے جس سے ان کو فائدہ ہو جائے۔ اس پر ہم لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم میں اس کا دم کرتا ہوں لیکن ہم نے تم لوگوں سے مہمانداری چاہی مگر تم لوگوں نے ہماری مہمانداری نہیں کی میں اب کبھی دم نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھ کو معاوضہ ادا نہ کرو تو ان لوگوں نے اس کے معاوضہ میں بکریوں کا ایک ریوڑ دینا مقرر کیا۔ چنانچہ وہ صاحب اس کے پاس گئے اور اس پر الحمد شریف پڑھ کر تھوکانا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گیا گویا قید سے رہا ہوگا۔ راوی نے بیان کیا پھر ان لوگوں نے جو اجرت مقرر کی تھی وہ دے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اس اجرت کو تقسیم کر دو۔ جس شخص نے دم کیا تھا اس نے کہا ابھی تقسیم نہ کرو جب تک کہ آنحضرت ﷺ کے پاس نہ جائیں اور آپ سے دریافت نہ کریں پھر اگلے دن خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ ایک عمل ہے۔ تم لوگوں نے بہتر کیا ایک حصہ میرا بھی اپنے ساتھ لگاؤ۔ (یہ روایت اکثر کتب حدیث میں مروی ہے)۔

۵۰۱: حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ طَارِقِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ مَخَاشِينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَدِيغٌ لَدَعْتَهُ عَقْرَبٌ قَالَ فَقَالَ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَلْدَغْ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ۔

۵۰۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَعَّ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرْقِي وَلَكِنْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تَضَيَّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَأَنَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أَمَّ الْكِتَابِ وَيَتَفَلُّ حَتَّى بَرَأَ كَأَنَّمَا انْشَيْطٌ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَوْفَاهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى تَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْأَلُونَهُ فَعَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ عِلْمُكُمْ أَنَّهَا رُقِيَةٌ أَحْسَنْتُمْ اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ -

۵۰۳: عبید اللہ بن معاذ ان کے والد (دوسری سند) ابن بشار، محمد شعبہ عبد اللہ شعی، حضرت خارجہ بن صلت نے اپنے چچا سے روایت کیا کہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے پاس سے روانہ ہوئے تو عرب کے ایک قبیلہ کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اس شخص (یعنی حضرت رسول کریم ﷺ) کے پاس سے کچھ خیر لے کر آئے ہو کیا تم لوگوں کے پاس کوئی دوا یا عمل ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو مجنون ہو گیا ہے زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ہمارے پاس (عمل) ہے۔ وہ لوگ اس مجنون شخص کو لے کر آئے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ راوی نے کہا کہ میں نے اس شخص پر تین روز تک صبح شام سورہ فاتحہ پڑھی میں تھوک اپنے منہ میں اکٹھا کرتا تھا پھر اس کو تھوک دیتا تھا۔ راوی نے بیان کیا پھر وہ شخص اس طرح سے اچھا ہو گیا کہ جیسے کوئی قید سے رہا کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کے عوض مجھ کو موز دوری دی۔ میں نے کہا میں معاوضہ نہیں لوں گا جب تک کہ آپ سے معلوم نہ کر لوں۔ جب میں نے آپ سے معلوم کیا تو آپ نے فرمایا میری عمر کی قسم لوگ جھوٹا منتر کر کے روٹی کھاتے ہیں تم نے تو سچا عمل کر کے روٹی کھائی۔

۵۰۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيَّ عَنِ عَمِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْنَا عَلَى حَتَّى مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا أَنْبِئْنَا أَنْكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بَخِيرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقِيَّةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهَا فِي الْقُبُودِ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَجَانُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقُبُودِ قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَحْمَعُ بُرْقِي ثُمَّ أَتَفَلُّ فَكُنَّا نَمَشُطُ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَعْطَوْنِي جُعَلًا فَقُلْتُ لَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةً بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقِيَّةً حَقًّا۔

عملیات کرنے والے کے لئے حکم:

لفظ رقیہ کے عربی بان میں منتر کے معنی آتے ہیں ہم نے منتر کے ترجمہ کے بجائے لفظ عمل سے کیا ہے کیونکہ منتر کے مفہوم میں مشرکانہ قسم کے الفاظ کا ایہام ہو سکتا ہے بہر حال مذکورہ حدیث سے تعویذ گنڈے اور عملیات وغیرہ پر اجرت لینا درست ثابت ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اسمائے الہی یا ادعیہ ماثورہ سے عملیات کیا جائے اور عامل ان چیزوں سے واقف بھی ہو اور جائز معاوضہ لے معمولی نقش و تعویذ پر بے تماشہ اجرت لینے کی کوشش نہ کرے یہ ظلم ہے اور کسی کو دھوکہ نہ دے۔

حَاضِرَةُ النَّبَاتِ: رقی رقیہ کی جمع ہے اور اس کا ایک کا معنی افسون ہے ہم اسے اپنی زبان میں فتر اور جھاڑ پھونک بولتے ہیں اور بالاتفاق قرآنی آیات و اسمائے الحسنی کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے اس کے علاوہ ایسے کلمات سے جن کے معانی و مفاہیم واضح اور معلوم ہوں اور یہ دین و شریعت کی تعلیمات کے منافی نہ ہوں۔ ہاں البتہ ایسے الفاظ و کلمات جو شرعی تعلیمات کے خلاف ہوں ان سے قطعاً ناجائز ہے۔ اسی طرح اہل عزائم و تفسیر جو علم نجوم و رمل کی مدد سے عمل کرتے ہیں اور حفظ ساعات و تعیین اوقات جیسی چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ اہل دیانت و اہل تقویٰ کے نزدیک مکروہ و حرام ہے۔

۵۰۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ ۵۰۴: عبید اللہ بن معاذ ان کے والد (دوسری سند) ابن بشار، ابن جعفر

شعبہ عبد اللہ شعی، حضرت خارجہ بن صلت رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دیوانے شخص پر صبح و شام تین روز تک سورہ فاتحہ دم کی۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوتے تو اپنا تھوک اکٹھا کر کے اس پر تھوک دیتا پھر وہ شخص ٹھیک ہو گیا کہ وہ رسیوں سے چھوٹ گیا ہوا ان لوگوں نے ان کو بکریاں عنایت کیں۔ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر (واقعہ) عرض کیا اس کے بعد اسی طریقہ پر روایت بیان کی جس طرح کہ مسدود کی روایت میں ہے۔

۵۰۵: تعنی مالک ابن شہاب عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ بیمار ہوئے تو آپ اپنے دل میں معوذتین پڑھ کر دم فرماتے جب آپ کے مرض (یا درد وغیرہ) میں شدت ہوئی تو میں معوذتین پڑھ کر آپ کے جسم پر آپ ہی کے ہاتھ مبارک پھیرتی ان کی برکت کی امید میں۔

باب: فرہ کرنے کا بیان

۵۰۶: محمد بن یحییٰ نوح ابراہیم محمد بن اسحاق ہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میری والدہ نے چاہا کہ میں فرہ (موٹی) ہو جاؤں کیونکہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا تھا۔ انہوں نے تمام (قسم کی) تدابیر اختیار کر لیں لیکن میں فرہ نہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے مجھ کو تازہ کھجور کے ساتھ گلڑی ملا کر کھلانا شروع کر دیا تو میں بہتر طریقہ سے فرہ (یعنی اچھی صحت کی) ہوئی۔

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدُوَّةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُرَاقَهُ ثُمَّ تَقَلَّ فَكُنَّا نَمَّا أَنْشِطَ مِنْ عَقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ۔

۵۰۵: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمَعْرُذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءً بَرَكَتِهَا۔

باب فِي السَّمْنَةِ

۵۰۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَارِسٍ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنِي لِذُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَاءَ بِالرُّطْبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السَّمْنِ۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کی تدبیر:

مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ چاہتی تھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جلد جوان اور موٹی تازی ہو جائیں تاکہ آپ ان سے اچھی طرح فائدہ حاصل فرما سکیں اس کے لئے ان کی والدہ نے مذکورہ عمل اختیار فرمایا جو کہ مفید ثابت

کتاب الکھانہ وَالتَّطَيُّر!

کہانت اور بدفالی کا بیان

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اتِّبَانِ

الْكُهَّانِ

باب: غیب کی باتیں بتلانے والے یا پیشین گوئیاں

کرنے والے شخص کے پاس جانے کی ممانعت

۵۰۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمِ الْأَنْزَرِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرَاءَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

۵۰۷: موسیٰ بن اسماعیل، حماد (دوسری سند) مسدد، یحییٰ، حماد حکیم ابوتیمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے۔ موسیٰ نے اپنی روایت میں مزید یہ کہا کہ آپ نے فرمایا پھر اس کی باتوں کو سچا سمجھے یا کسی عورت سے صحبت کرے مسدد نے اپنی روایت میں کہا کہ حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرے یا بیوی (یا عورت) کے پاخانہ کی جگہ میں جماع کرے تو وہ شخص اس دین سے بری ہو گیا جو کہ حضرت رسول کریم ﷺ پر نازل فرمایا گیا ہے۔

خلاصۃ الباب: صراح نے لکھا ہے کہ ہن فال کو کہتے ہیں اور کہانت زبر کے ساتھ فال گوئی کرنی اور زیر کے ساتھ حرف۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ ہن وہ جو خبر دے آئندہ آنے والے حالات و واقعات اور اسرار و پوشیدہ چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرے۔ عرب میں ایسے کاہن تھے جن میں سے بعض اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کو جنات خبریں دے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ شیطان احکام الہی آسمان پر سے چوری چھپے سن آئے اور کاہنوں کو اس میں جو کچھ چاہتے زیادہ کر کے بتا دیتے۔ پس کاہنوں کی خبروں کو عرب قبول کرتے تھے جب آنحضرت ﷺ مبعوث ہوئے تو شیطان آسمانوں پر جانے سے روک دیئے گئے اور کہانت باطل ہو گئی۔

بعض لوگ مقدمات اسباب و علامات سے کچھ معلوم کر لیتے ہیں ان کو اعراف کہا جاتا ہے۔ وہ چوری کی چیز کی جگہ اور گرم شدہ کا پتہ بتا دیتے تھے جیسے ریل کرنے والے کرتے ہیں اور کبھی کہانت کا اطلاق اعراف اور علم نجوم جاننے والے پر بھی کیا جاتا ہے یہ سب افعال حرام ہیں اور ان پر پیسے دینے لینے جرم ہیں اور یہ دونوں گنہگار ہیں۔ محتسب پر لازم ہے ایسے لوگوں کی تادیب کرے۔

باب: علم نجوم

بَابُ فِي النُّجُومِ

۵۰۸: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ

۵۰۸: ابوبکر، مسدد، یحییٰ، عبید اللہ بن اخنس، ولید، یوسف، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّجْمِ عِلْمًا
مِنْ النُّجُومِ افْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ -
قدر (جادو میں) اضافہ کیا۔

علم نجوم کی شرعی حیثیت:

مفہوم یہ ہے کہ جس قدر علم نجوم زیادہ سیکھا؟ اسی قدر جادو ٹونا وغیرہ بھی زیادہ سیکھا۔ اس حدیث میں جو علم نجوم کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس سے مراد ایسا علم ہے جس سے آئندہ کی باتیں بتلائی جائیں یا پیشین گوئی کی جائے جیسے کہ پنڈت اور نجومی لوگ کرتے ہیں۔ شرعاً یہ سب ناجائز ہے لیکن ستاروں کا پہچانا اور سمندری ہوائی سفر وغیرہ کے رستے معلوم کرنا اور دیگر جائز مقاصد کے لئے ستاروں کا علم حاصل کرنا درست ہے۔ ستاروں کی پہچان ہی سے تو بحری جہاز قطب نما (compas) کی دریافت سے پہلے بھی لوگ اپنا سفر صحیح منزل کی جانب رواں دواں رکھتے تھے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ

لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ۹۷]

۵۰۹: قُضِيَ مَالِكُ صَاحِبِ عِبِيدِ اللَّهِ، حَضْرَتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے (مقام) حدیبیہ میں اس بارش
کے بعد نمازِ فجر ادا فرمائی جو کہ رات کو ہو گئی تھی۔ آپ نے نمازِ فجر سے
فراغت کے بعد لوگوں کی طرف رخ فرما کر متوجہ ہونے کے بعد فرمایا
کیا تم کو علم ہے تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے عرض کیا
اللہ اور رسولِ خوب واقف ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میرے بعض بندے بوقتِ فجر صاحبِ ایمان ہو گئے اور بعض کافر ہو
گئے۔ جس شخص نے تو یہ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی
رحمت سے بارش ملی تو وہ شخص مجھ پر ایمان لایا اور ستارے کا انکار کرنے
والا ہوا۔ اور جس شخص نے کہا کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے
بارش ملی تو وہ میرا منکر ہوا اور ستارے پر یقین لایا۔

۵۰۹: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ
كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ
خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ
فِي إِبْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ
أَقْبَلَ عَلَيَّ النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ
رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ
مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا
بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ
بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنُورِ كَذَا وَكَذَا
فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ -

شُرک کی قسم:

مطلب یہ ہے کہ جو شخص ستاروں کو تصرف کرنے والا اور نظامِ عالم کو متاثر کرنے والا سمجھتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے انکار کرنے والے بندوں میں شمار فرماتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہی تصرف کرنے والا سمجھتا ہے تو وہ اللہ کے نیک بندوں میں ہے۔ مذکورہ حدیث سے نجومیوں کی باتوں کا شرکاً نہ ہونا ظاہر ہے تفصیل کے لئے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان کا مضمون مطبوعہ جواہر الفجر ۳۳ "علم نجوم کی شرعی حیثیت" ملاحظہ فرمائیں۔

باب: رمل کی باتوں پر ایمان لانا اور پرندوں کی آواز

باب فی الخطِّ وَزَجْرِ

سے فال لینے کی ممانعت کا بیان

الطَّيْرِ

۵۱۰: مسدذ یحییٰ، عوف، حبان، حضرت قطن بن قبیصہ اپنے والد حضرت قبیصہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عیافت بدفالی اور طرق بہت پرستی کی ایک قسم ہے۔ طرق پرندے اڑانے کو کہتے ہیں جبکہ عیافت زمین پر لیکر کھینچنے کو کہتے ہیں۔

۵۱۱: ابن بشار، حضرت محمد بن جعفر نے بیان کیا کہ عیافت سے مراد پرندوں کو ڈانٹ (ڈپٹ) کر اڑانا جبکہ طرق سے مراد وہ لائنیں ہیں جو کد زمین پر کھینچی جاتی ہیں۔

۵۱۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ حَبَّانُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا قَطْنُ بْنُ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعِيَافَةُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّرُقُ مِنَ الْجِبْتِ الطَّرُقُ الزَّجْرُ وَالْعِيَافَةُ الْخَطُّ۔

۵۱۱: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ عَوْفُ الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطَّرُقُ الْخَطُّ يُخَطُّ فِي الْأَرْضِ۔

عمل رمل:

مذکورہ حدیث سے عمل رمل سیکھنے اور اس پر یقین کرنے کی سخت ممانعت ظاہر ہے۔ عمل رمل میں زمین پر خط کھینچ کر آئندہ کا حال بتلایا جاتا ہے۔ بہر حال عمل اور علم جفر سب ناجائز ہیں۔

باب: بُرَى فال لینا اور رمل کرنے کا بیان

۵۱۲: محمد بن کثیر، سفیان، سلمہ، عیسیٰ، زر بن حبیش، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا بُرَى فال لینا شرک ہے اور (ہم لوگوں میں سے) ہر ایک شخص کو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ ہی جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توکل کرنے کی وجہ سے اس کو رفع فرمادیتے ہیں۔

باب فی الطَّيْرَةِ وَالْخَطِّ

۵۱۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهْبَلٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الطَّيْرَةُ شِرْكُ الطَّيْرِ شِرْكُ فَلَانًا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ۔

توکل کا حکم:

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اتفاقاً غلطی سے کوئی وہم پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہئے۔ کاہن، جوتش اور دست شناس (Palmist) وغیرہ کے پیچھے بھاگ کر عقیدہ وقت اور مال برباد نہیں کرنا چاہئے کیونکہ غیب اور مستقبل کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے۔

۵۱۳: مسدذ یحییٰ، حجاج، یحییٰ، ہلال، عطاء بن یسار، حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا

۵۱۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ

هَلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَمَنَ رَجَالٌ يَخْطُونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنْ
الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ لَذَاكَ۔

خط کھینچنے والے نبی:

بعض روایت سے ان نبی کا نام حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت دانیال علیہ السلام معلوم ہوتا ہے یعنی یہ حضرات صحیح صحیح خط
کھینچتے تھے لیکن یہ واقعہ گزشتہ امتوں کا ہے آج کے دور میں یہ جائز نہیں ہے۔

۵۱۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ
وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ
فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ
كَأَنَّهَا الطَّيَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرُبُ
فَيُجْرِبُهَا قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلِ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ
الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يُورَدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِخٍّ قَالَ فَرَأَجَعَهُ
الرَّجُلُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا
هَامَةَ قَالَ لَمْ أَحَدِّثْكُمْوه قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَبُو
سَلَمَةَ قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ۔

۵۱۴: محمد حسن، عبدالرزاق، معمر زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے روایت
کرتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا نہ کسی شخص کو دوسرے کی بیماری لگتی
ہے اور نہ ماہ صفر منحوس ہے اور نہ ہی کسی میت کی کھوپڑی میں سے اُلوکی
صورت نکلتی ہے تو ایک دیہاتی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پھر ان اونٹوں کو کیا ہو جاتا ہے جو ہرن کی طرح (بہت زیادہ
چاق و چوبند اور صحت مند) صحرا میں پھرتے ہیں اور جب ان میں کوئی
خارش زدہ اونٹ گھس جاتا ہے تو ان کو بھی وہ خارش دار کر دیتا ہے۔ تو
آپ نے اس شخص سے فرمایا تو پہلے اونٹ کو کس نے خارش میں مبتلا
کیا؟ زہری نے بیان کیا ایک شخص نے مجھ سے (بروایت حضرت
ابوہریرہ) بیان کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ مریض اونٹ کو تندرست
اونٹوں کے گھاٹ پر پانی پلانے کے لئے نہ لایا جائے۔ پھر وہ شخص
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور کہا کہ کیا آپ نے یہ روایت
نقل نہیں کی نہ تو ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے اور نہ ماہ صفر منحوس ہے
اور ہامہ یعنی اُلو کچھ نہیں ہے۔ ابوہریرہ نے فرمایا میں نے یہ روایت بیان
نہیں کی ابوسلمہ کہتے ہیں کہ ابوہریرہ نے خود اس روایت کو بیان فرمایا تھا
اور میں نے ان کو اس حدیث کے علاوہ کبھی بھولتے ہوئے نہیں سنا۔

اہل عرب کے غلط خیال کی تردید:

اہل عرب اُلو اور صفر کے مہینہ کو منحوس سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تردید فرمائی اور فرمایا: دیگر جانوروں کی طرح
اُلو بھی ایک جانور ہے اور دوسرے مہینوں کی طرح صفر کا مہینہ بھی ایک مہینہ ہے نہ کوئی مہینہ منحوس ہے اور نہ کوئی جانور منحوس ہے نہ
کوئی دن منحوس ہے۔

۵۱۵: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوَاءَ وَلَا صَفَرَ۔

۵۱۵: یعنی 'عبد العزیز' علاء ان کے والد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا نہ تو عدویٰ ہے (یعنی ایک کا مرض دوسرے کو لگ جانا) اور نہ ہامہ ہے (یعنی کسی جگہ اُلو بولنا یا مرنے والے کی جانور کی صورت میں رُوحِ ذیانی میں آنا) اور نہ نواء ہے اور نہ صفر کا مہینہ منحوس ہے (جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں)۔

کچھ مشرکانہ خیالات:

مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے اور ایک شخص کا مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے اس طرح ان لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جس گھر پر اُلو بیٹھ جائے تو وہ گھرا بجز جاتا ہے اسی طرح صفر کے مہینہ میں کام کرنے کو باعثِ نحوست سمجھتے تھے یا جنگلوں میں بھوت پریت مختلف صورت میں آکر انسان کو راستہ بھٹکاتے ہیں۔ آپ نے ان تمام خیالات کی تردید فرمائی اور فرمایا یہ سب غلط خیالات ہیں اس کی تفصیل حدیث ۵۱۸ میں مذکور ہے۔

۵۱۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرَقِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجَلَانَ حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا غَوْلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ سِنَلُ مَالِكٍ عَنْ قَوْلِهِ لَا صَفَرَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُجْلُونَ صَفَرَ يُجْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَفَرَ۔

۵۱۶: محمد بن عبد الرحیم سعید بن حکم یحییٰ ابن عجلان قعقاع عبید اللہ زید بن اسلم ابوصالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوت (وغیرہ) نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث حارث بن مسکین کو پڑھ کر سنائی گئی اور میں وہاں موجود تھا کہ اشہب نے خبر دی۔ فرمایا کہ امام مالک سے لا صفر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا دور جاہلیت میں لوگ کبھی صفر کے مہینہ کو حلال بنا لیتے تھے اور کبھی صفر کے مہینہ کو حرام بنا کر حرام کر لیتے تھے اور محرم کو حلال بنا لیتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفر کا مہینہ کوئی تاثیر نہیں رکھتا۔

جنات وغیرہ سے ڈرنا:

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی مخلوق کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی خواہ وہ جنات شیاطین ہوں یا بھوت ہوں یا دیگر کوئی ہو۔ اس لئے غیر اللہ سے ڈرنا لغو اور بد عقیدگی ہے۔

۵۱۷: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عُدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْقَوْلُ الصَّالِحُ وَالْقَوْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ

۵۱۷: مسلم بن ابراہیم ہشام قتادہ انس سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا مرض دوسرے شخص کو نہیں لگتا اور بری فال لینا بے اصل چیز ہے اور مجھے اچھی فال پسند ہے اور نیک فال کا مطلب اچھی بات ہے (یعنی کوئی کام کرتے ہوئے کسی کے منہ سے اچھی بات سن کر قیاس کر لیا جائے کہ ان

شام اللہ میرا شروع کیا ہوا کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا تو یہ جائز ہے۔

الْحَسَنَةُ۔

فاسد خیالات:

اس حدیث میں بھی اہل عرب کے باطل خیالات کی تردید فرمادی گئی ہے۔ عرب کے لوگ مرض کو متعدی سمجھنے کے علاوہ بعض پرندوں کی آوازوں سے بدگلوئی لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فلاں جانور کی آواز سے نحوست ہوگی فلاں سے نہیں۔ آپ نے ان باطل خیالات کی بھی تردید فرمائی البتہ نیک فال لینے کو درست فرمایا۔

۵۱۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ قَوْلُهُ هَامٌ قَالَ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ قَيْدْفَنَ إِلَّا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ قُلْتُ فَقَوْلُهُ صَفْرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشِينُونَ بِصَفْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَفْرَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبُطْنِ فَكَانُوا يَقُولُونَ هُوَ يُعْدَى فَقَالَ لَا صَفْرَ۔

۵۱۸: محمد بن مصفیٰ حضرت بقیہ سے روایت ہے کہ محمد بن راشد سے میں نے دریافت کیا کہ یہ ارشاد نبوی ہے ”ہام“ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ جس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ شخص قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کی کھوپڑی قبر میں سے نکل کر باہر آ جاتی ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا صفر کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے لوگ صفر کو منحوس خیال کرتے تھے اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا صفر کچھ نہیں ہے محمد بن راشد نے بیان کیا بعض حضرات سے میں نے سنا وہ کہتے تھے کہ صفر پیٹ میں ایک درد کا نام ہے۔ اہل عرب کہتے تھے کہ وہ درد ایک شخص سے دوسرے کو لگ جاتا ہے آپ نے فرمایا صفر کچھ نہیں ہے۔

۵۱۹: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ سُهَيْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ أَخَذْنَا فَأَلْكَ مِنْ لِيكَ۔

۵۱۹: موسیٰ بن اسماعیل و ہبیب سہیل ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک بات سنی جو کہ آپ کو اچھی معلوم ہوئی آپ نے فرمایا ہم نے تمہاری فال تمہارے منہ سے سن لی (یعنی اس کا بہتر انجام ہوگا)۔

۵۲۰: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الصَّفْرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبُطْنِ قُلْتُ لِمَا هَامَةٌ قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الْهَامَةُ الَّتِي تَصْرُخُ هَامَةً النَّاسُ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هِيَ ذَابَّةٌ۔

۵۲۰: یحییٰ ابو عاصم ابن جریج حضرت عطاء سے روایت ہے کہ لوگ کہتے تھے صفر ایک درد ہوتا ہے جو کہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ ابن جریج نے کہا پھر میں نے دریافت کیا ہامہ کیا ہے؟ عطاء نے کہا لوگ کہتے تھے کہ ہامہ جو کہ ایک جانور ہے اور جو بولتا ہے وہ انسانوں کی کھوپڑی ہوتی ہے حالانکہ وہ آدمی کی کھوپڑی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ایک جانور ہوتا ہے۔

۵۲۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

۵۲۱: احمد بن حنبل ابو بکر و کعب سفیان حضرت عروہ احمد قرشی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے گلوں لینے کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا اس کی بہترین اقسام میں فال ہے اور گلوں کسی مسلمان کو (کام

سے) نہ روکے اور تم لوگوں میں سے جب کوئی ایسی شے دیکھے جو کہ اس کو بری لگتی ہے تو وہ یہ کہے: اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ يَعْنِي اے اللہ! آپ کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں پہنچا سکتا اور آپ کے علاوہ کوئی برائیوں کو ہٹا نہیں سکتا اور برائی سے باز رہنے کی طاقت نیکی کرنے کی قوت صرف آپ ہی کی توفیق سے ہے۔

۵۲۲: مسلم بن ابراہیم، شام، قتادہ، عبد اللہ بن بریدہ، اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کسی شے میں بری فال نہیں لیتے تھے اور جب آپ کسی کو عامل (حکمران) بنا کر روانہ فرماتے تو آپ اس کا نام معلوم فرماتے اگر آپ کو اس کا نام اچھا لگتا تو آپ اس سے خوش ہوتے اور وہ مسرت آپ کے چہرہ انور پر معلوم ہوتی اور اگر آپ کو اس کا نام ناگوار لگتا تو اس کے رنج کے آثار آپ کے چہرہ انور سے نظر آتے اور جب آپ کسی بستی میں داخل ہوتے تو آپ اس بستی کا نام معلوم فرماتے اگر اس بستی کا نام آپ کو اگلتا تو آپ خوش ہوتے اور آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی معلوم ہوتی اور اس کا نام برا ہوتا تو آپ کو رنج ہوتا اور رنج کے آثار آپ کے چہرہ انور پر معلوم ہوتے۔

۵۲۳: موسیٰ بن اسماعیل، ابان، یحییٰ، حضرمی، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ ہامہ ہے اور نہ عدویٰ ہے اور نہ نحوست (کوئی چیز) ہے اگر نحوست (اور بدشگونی) ہوتی تو تین اشیاء میں ہوتی: ایک تو گھوڑے میں، دوسرے عورت میں، تیسرے گھر میں۔

أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ قَالَ ذُكِرَتْ الطَّيْرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَأَلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ۔

۵۲۲: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنْتَقِرُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرَبِيَّ بَشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُبِّي كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَوَّحَ وَرَبِيَّ بَشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُبِّي كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ۔

۵۲۳: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى أَنَّ الْحَضْرَمِيَّ بْنَ لَاحِقٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا هَامَةَ وَلَا عَلَوَى وَلَا طَيْرَةَ وَإِنْ تَكُنَّ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ فِي الْقَرْسِ وَالْمَرْأَةِ وَالنَّارِ۔

نحوست اور بدشگونی:

ہامہ عدویٰ کی تشریح گزر چکی۔ حاصل حدیث یہ ہے کہ نحوست اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے اگر برائی ہوتی ہے تو وہ مندرجہ بالا تین چیزوں میں ہوتی ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں ان اشیاء میں نحوست اور برکت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

۵۲۳: تعنی، مالک، ابن شہاب، حمزہ، سالم، عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نحوست تین اشیاء میں ہوتی ہے ایک تو گھر میں، دوسرے عورت

۵۲۳: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْرَةَ وَسَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

میں تیسرے گھوڑے میں۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ گھوڑے اور گھر میں نحوست ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا چند گھرایے ہیں جن میں لوگ آباد ہوئے پھر ان کا انتقال ہو گیا اور دوسرے لوگ آباد ہوئے ان کا بھی انتقال ہو گیا تو مکان کی نحوست یہی ہے۔ واللہ اعلم

قَالَ الشُّومُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَرَّءٌ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سِئَلْتُ مَالِكَ عَنِ الشُّومِ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمُ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَهَا آخَرُونَ فَهَلَكُوا فَهَذَا تَفْسِيرُهُ فِيمَا تَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

۵۲۵: مخلص عباس، عبدالرزاق، معمر، یحییٰ، ایک شخص حضرت فروہ بن مسیک سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس ایک زمین موجود ہے جس کو آئین کہا جاتا ہے اور وہ زمین ہم لوگوں کے کھیت کی ہے اور وہ غلہ کی جگہ ہے ہمیشہ وہاں پر آفت رہتی ہے یا راوی نے کہا اس کی وبا شدید ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس زمین میں رہنا چھوڑ دو۔ وباء کے علاقہ میں رہنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔

۵۲۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرَوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبِيْن هِيَ أَرْضُ رَيْفِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبَتْهُ أَوْ قَالَ وَبَاوَهَا شَدِيدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ دَعَهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرْفِ التَّلْفَ۔

۵۲۶: حسن، بشر، عکرمہ، اسحق بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ ایک مکان میں تھے جس میں ہماری تعداد بھی بہت تھی اور مال بھی کافی تھا پھر ہم لوگ اس جگہ سے دوسرے گھر میں آئے تو اس میں ہم لوگوں کا مال بھی کم ہو گیا اور ہمارے آدمی بھی کم ہو گئے (مر گئے) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی برے حال کے ساتھ اس مکان کو چھوڑ دو۔

۵۲۶: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثِيرٍ فِيهَا عَدَدُنَا وَكَثِيرٍ فِيهَا أَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَرُوهَا دَمِيمَةً۔

مکان کو موثر سمجھنا:

مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس مکان میں رہنے سے کیا فائدہ ایسا نہ ہو کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ اور مکان کو موثر سمجھنے لگو۔

۵۲۷: عثمان بن ابی شیبہ، یونس بن محمد، مفضل بن فضالہ، حبیب، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ پلیٹ میں رکھ دیا اور فرمایا: اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے (کھاتے ہیں)۔

۵۲۷: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَفْضَلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْدُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقُضْعَةِ

وَقَالَ كُلُّ نَفَقَةٍ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔

جزامی کے ساتھ کھانا پینا:

مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد کامل ہے ہم ایک کا مرض دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ نہیں تسلیم کرتے اور مذکورہ حدیث اور ایک دوسری حدیث: ((قَوْلًا مِنَ الْجَذَامِ كَفَرًا اِلَّا سَدًّا)) میں تعارض نہیں کیونکہ مذکورہ بالا حدیث میں جزامی شخص کے ساتھ کھانے پینے کی اس کو اجازت ہے کہ جو کہ کامل اور مکمل طور پر متوکل علی اللہ ہو جیسے آنحضرت ﷺ کوئی ولی کامل تو اس کے لئے جزامی وغیرہ کے ساتھ کھانا پینا درست ہوگا لیکن جو شخص کمزور عقیدہ کا ہو اگر وہ جزامی وغیرہ سے بچے کھانے میں احتراز کرے تو اس کے لئے ایسا کرنے میں حرج نہ ہوگا۔

الحمد لله وفضلہ پارہ نمبر ۲۳۰ مکمل ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پارہ ۲۵

أَوَّلُ كِتَابِ الْعِتْقِ!

غلام آزاد کرنے کا بیان

باب: مکاتب اپنے بدل مکاتب میں سے کچھ ادا کر

دے پھر وہ عاجز ہو جائے یا مرجائے

۵۲۸: ہارون ابو بدر ابو عتبہ اسمعیل بن عیاش سلیمان بن سلیم حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکاتب غلام ہے جب تک کہ تحریر کردہ میں سے ایک درہم تک بھی اس کے ذمہ باقی ہے۔

بَابُ فِي الْمَكَاتِبِ يُؤَدِّي بَعْضَ

كِتَابَتِهِ فَيُعْزَرُ أَوْ يَمُوتُ

۵۲۸: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَلِيمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَاتِبِهِ دِرْهَمٌ

مکاتب کیا ہے؟

مکاتب یہ ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام یا باندی سے کہے کہ مجھے اتنا مال کما کر دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ اگر وہ غلام یا باندی طے شدہ مال کما کر دے تو آزاد ہو جائیں گے۔ جب تک اس مال کا کچھ بھی حصہ حتیٰ کہ ایک درہم بھی ان کے ذمے ہوگا تو وہ آزاد نہیں ہوں گا بلکہ بدستور غلام رہیں گے۔

۵۲۹: محمد بن ثنیٰ ہمام عباس حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس غلام نے ایک سواوقیہ پر مکاتب کی پھر اس نے تمام مطالبہ ادا کر دیا لیکن دس اوقیہ باقی رہے تو وہ غلام ہی ہے یعنی آزاد نہ ہو گا۔

۵۲۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أَوْقِيَةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوْاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دِنَانِيرٍ فَهُوَ عَبْدٌ

۵۳۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَهَانَ مَكَّاتِبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لِأَحَدَاكُنَّ مَكَّاتِبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبِ مِنْهُ۔

۵۳۰: مسدود بن مسرہد سفیان زہری حضرت نہان سے روایت ہے جو اُم سلمہ کا مکتب تھا کہ میں نے اُم سلمہ سے سنا کہ آنحضرت ﷺ ہم لوگوں سے فرماتے تھے جب کسی شخص کے پاس کوئی مکتب ہو اور اس مکتب کے پاس اتنا مال موجود ہو جس سے بدل مکتب دے سکتا ہے تو اس سے اس کے مالک کو پردہ کرنا چاہئے۔

غلام سے پردہ:

یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ غلام سے مالک کو پردہ کرنا چاہئے یا نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پردہ کرنا چاہئے جبکہ دیگر ائمہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ جب تک غلام غلام ہے آپ نے پردے کے لئے نہیں فرمایا لیکن جب وہ مکتب کا بدل ادا کرنے کے قابل ہے اور آزادی حاصل کر رہا ہے تو آپ نے پردے کا حکم فرمایا ہے۔ (واللہ اعلم)

باب: جب کتابت کا عقد فسخ ہو جائے تو مکتب کو

فروخت کرنا جائز ہے

بَابُ فِي بَيْعِ الْمُكَاتِبِ إِذَا فُسِّخَتْ

الْمُكَاتِبَةُ

۵۳۱: تقيہ عبداللہ بن مسلمہ لیث ابن شہاب عروہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ بریرہ ان کے پاس بدل کتابت کے سلسلہ میں مدد حاصل کرنے کے لئے آئیں۔ انہوں نے اپنے بدل کتابت میں سے کچھ ادا نہیں کیا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم اپنے مالکوں سے جا کر دریافت کرو اگر انہیں یہ منظور ہو کہ تمہاری ساری بدل کتابت کو ادا کر کے تمہاری ولاء میں حاصل کر لوں تو میں (ایسا) کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مالکوں سے جا کر یہ بات کہی۔ انہوں نے ولاء ادا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کو مجھے اللہ کے لئے دینا منظور ہو تو دے دیں لیکن تمہاری ولاء ہم ہی لیں گے۔ عائشہ نے یہ بات خدمت نبوی میں عرض کی تو آپ نے ان سے فرمایا بریرہ رضی اللہ عنہا کو خرید کر آزاد کر دو کیونکہ ولاء اسی کی ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس قسم کی شرائط لگاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے۔ جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جو کتاب اللہ

۵۳۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قُضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتِكَ وَيَكُونَ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شِئْتَ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ

اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرْطُهُ مِائَةٌ مَرَّةً شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ۔
میں نہیں ہے تو اس کی وہ شرط درست نہیں ہوگی اگرچہ وہ ایسی شرط سو مرتبہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کی شرط زیادہ صحیح اور مضبوط ہے۔

ولاء کی تعریف:

شریعت میں ولاء اس ترکہ کو کہا جاتا ہے جو کہ آزاد کیا ہوا غلام یا آزادی کی ہوئی باندی چھوڑ کر مر جائے۔ اور ولاء کا وہی حقدار ہے جو آزاد کرے تفصیل کے لئے تنویر الحواشی شرح سراجی ملاحظہ فرمائیں۔

۵۳۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةَ لِتَسْتَعِينَ فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَةً فَأَعِينِي فَقَالَتْ إِنَّ أَحَبَّ أَهْلِكَ أَنْ أَعِدَّهَا عِدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقِكَ وَيَكُونَ لِأَوْلَادِكَ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا وَسَأَقِ الْحَدِيثَ نَحْوَ الزُّهْرِيِّ زَادَ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِهِ مَا بَالَ رَجُلٌ يَقُولُ أَحَدَهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلَانٌ وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ۔
۵۳۲: موسیٰ بن اسماعیل، وہیب، ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بریرہؓ اپنی ادائیگی (بابت بدل مکاتبت) میں امداد حاصل کرنے کیلئے آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے نو اوقیہ ادائیگی پر مکاتبت طے کی ہے کہ ہر سال ایک اوقیہ چاندی ادا کروں گی تو اس سلسلہ میں میری مدد کریں۔ عائشہؓ نے فرمایا اگر تمہارے لوگوں کو منظور ہو تو میں تم کو ایک ہی مرتبہ میں تمام دے دیتی ہوں اور میں تم کو آزاد کر دیتی ہوں اور میں تمہاری ولاء وصول کروں گی تو پھر بریرہؓ اپنے لوگوں کے پاس آئیں اور پھر حدیث کو آخر تک بیان کیا جس طرح کہ اوپر مذکور ہے۔ البتہ اس قدر اضافہ کیا کہ نبیؐ نے یہ بھی فرمایا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دوسرے شخص سے کہتے ہیں کہ تم آزاد کرو اور ولاء ہماری ہوگی حالانکہ ولاء اسی کی ہے جو آزاد کرے۔

ولاء کا حقدار کون ہے؟

آپ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ ولاء تو اسی کو ملتی ہے جو کہ باندی، غلام یا آزاد کرے مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر عقد کتابت فتح ہو جائے یعنی غلام آزاد کرنے کا معاوضہ ادا کرنے سے عاجزی ظاہر کر دے تو وہ پھر غلام بن جاتا ہے اس کا فروخت کرنا جائز ہے۔

۵۳۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى ابْنُ الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَعْتُ جُورِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمٍ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ أَوْ ابْنِ عَمِّ لَهُ فَكَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً مَلَاخَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ
۵۳۳: عبدالعزیز بن یحییٰ، محمد بن سلمہ، ابن اسحاق، محمد بن جعفر، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جویریہ بنت حارث بن مطلق، ثابت بن قیس بن شماس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں (یعنی وہ جہاد میں گرفتار ہو گئیں) انہوں نے بدل کتابت کا معاملہ کر لیا۔ جویریہ ایک حسین و جمیل خاتون تھیں ہر ایک کی ان پر نگاہ پڑتی تھی۔ عائشہؓ نے کہا جویریہؓ نبیؐ کی خدمت میں اپنا بدل کتابت طلب کرنے کیلئے حاضر ہوئیں (یعنی آپؐ کچھ مدد فرمائیں تو وہ روپیہ بدل

کتابت کا ادا کر کے آزادی حاصل کر لیں) جب وہ دروازہ پر کھڑی ہوئیں تو میں نے ان کو دیکھ کر ان کا آنا ناگوار خیال کیا (ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو دیکھیں اور آپ ان سے نکاح کرنے کیلئے رغبت کریں) میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ ان کی وہی شے دیکھیں گے جو میں نے دیکھی ہے۔ اس وقت اس نے کہا یا رسول اللہ میں جویرہ ہوں حارث کی لڑکی اور میری جو پہلے حالت تھی آپ اس سے واقف ہیں (یعنی میں ایک مالدار شخص کی لڑکی ہوں) اور میں ثابت بن قیس کے حصہ میں آگئی تو میں نے خود کو مکاتب بنا لیا ہے اور میں آپ کی خدمت اقدس میں اپنا بدل کتابت مانگنے کیلئے حاضر ہوئی ہوں) تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تم سے اس سے زیادہ عمدہ بات کہتا ہوں۔ جویرہ نے کہا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہارا بدل مکاتب ادا کر کے تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ حضرت جویرہ نے کہا میں (منظور) کر چکی (یعنی میں نے خود کو آپ کے نکاح میں) دے دیا۔ عائشہ نے فرمایا لوگوں نے جب سنا کہ نبی نے حضرت جویرہ سے نکاح کر لیا تو قبیلہ بنی المصطلق نے جس قدر گرفتار شدہ لوگ تھے ان تمام کو رہا کر دیا۔ اس خیال سے کہ یہ لوگ آنحضرت کے سرال والے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کوئی خاتون اس قدر بابرکت نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اس کی قوم کو اس قدر نفع پہنچا ہو جیسے کہ حضرت جویرہ تھیں کہ ان کی وجہ سے قبیلہ بنی مصطلق کے ایک سو قیدی رہا ہو گئے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ولی خود اپنا نکاح کر سکتا ہے۔

قَالَتْ عَائِشَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الْوَدَى رَأَيْتُ فَقَالْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا جُوَيْرِيَةٌ بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجَنَّبَكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ لَكَ إِلَيَّ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُوْدَى عِنْدَكَ كِتَابَتِكَ وَأَتَزَوَّجُكَ قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ فَتَسْمَعُ تَعْنِي النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْيِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أُعْظَمَ بَرَكَتَهُ عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يَزَوِّجُ نَفْسَهُ.

غزوة بنی مصطلق:

غزوة بنی مصطلق کا دوسرا نام غزوة مزبج بھی ہے یہ غزوة ۶ میں پیش آیا اس غزوة میں بہت سے لوگ گرفتار ہو کر آئے ان ہی گرفتار شدہ افراد میں حضرت جویرہ بنت حارث بھی تھیں آپ نے ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا تفصیل کے لئے سیرت مصطفیٰ ﷺ سیرت النبی ﷺ ملاحظہ فرمائیں۔

باب: کوئی شرط لگا کر آزاد کرنے کا بیان

باب فِي الْعِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

۵۳۴: مسدد بن مسرہ، عبدالوارث، سعید بن جبہان، حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا غلام تھا انہوں نے

۵۳۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ

مجھ سے کہا کہ میں اس شرط پر تم کو آزاد کرتی ہوں کہ تم تمام زندگی آنحضرتؐ کی خدمت کرو گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کو میں نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے یہ شرط نہ بھی طے کرتیں تو میں پھر بھی تمام زندگی آنحضرتؐ کی خدمت سے علیحدہ نہ ہوتا پھر حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہی شرط لگا کر مجھے آزاد فرمادیا۔

باب: جو شخص غلام میں سے کچھ حصہ آزاد کر دے؟

۵۳۵: ابو الولید ہمام (دوسری سند) محمد بن کثیر ہمام قتادہ حضرت ابوملیح نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی غلام میں سے اس کے ایک حصے کو آزاد کر دیا پھر آنحضرتؐ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا ہے کہ پھر آنحضرتؐ نے اس غلام کے آزاد کرنے کی رخصت عطا فرمائی۔

كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أَعْتَقَكَ وَأَشْتَرِيكَ عَلَيَّ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشْتُ فَأَعْتَقْتَنِي وَأَشْتَرْتَنِي عَلَيَّ۔

باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

۵۳۵: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى أَخْبَرَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ۔

غلام آزاد کرنے کا حکم:

مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مکمل طور پر اس غلام کو آزاد کرنے کا حکم فرمادیا اور وہ غلام آزاد ہو گیا۔

باب: جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے

باب مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَهُ

وَبَيْنَ آخَرَ

۵۳۶: محمد بن کثیر ہمام قتادہ نصر بن انس بشیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنا حصہ (مشترک غلام سے) آزاد کر دیا تو آنحضرتؐ نے اس غلام کی آزادی کو جائز قرار دے دیا اور غلام کی باقی آدمی قیمت کو اس کے ذمہ ڈال دیا (کہ وہ دوسرے حصہ دار کو ادا کر دے)۔

۵۳۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ وَغَرَمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ۔

۵۳۷: محمد بن ثنیٰ محمد بن جعفر (دوسری سند) احمد بن علی بن سوید روح شعبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسے غلام (یا باندی) کو آزاد کر دے کہ جس میں دوسرا شخص بھی شریک (حصہ دار) ہے تو اس شخص پر اس غلام کا آزاد کرانا ضروری ہو گیا اور یہ سوید کے الفاظ ہیں۔

۵۳۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا رُوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ۔

دوسرے حصہ دار کا غلام آزاد کرنا:

مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو دوسرے حصہ دار کے حصہ کی قیمت ادا کرنا ضروری ہوگا اور یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ آزاد کرنے والا مال دار شخص ہو۔

۵۳۸: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ سُؤَيْدٍ حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ يَأْسُنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ الْمُثَنَّى النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُؤَيْدٍ۔

۵۳۸: ابن ثنیٰ معاذ بن ہشام ان کے والد (دوسری سند) احمد بن علی بن سوید روح ہشام بن ابوعبداللہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو وہ پورا غلام آزاد ہو گیا اس شخص کے مال میں سے اگر وہ (آزاد کرنے والا) مال دار شخص ہے۔ ابن ثنیٰ نے نصر بن انس کا نام نہیں لیا اور یہ الفاظ ابن سوید کے ہیں۔

دوسرے شریک کے حصہ کے غلام کو آزاد کرنا:

مذکورہ مسئلہ میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر غلام آزاد کرنے والا شخص غریب ہے تو دوسرے شریک شخص کو غلام سے مزدوری کرانے کی قیمت ادا کریں گے اور اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو مالدار کے مال میں سے دوسرے شریک کو اس کے حصہ کے بقدر قیمت دلوائی جائے گی۔

باب: غلام آزاد کرنے والا اگر غریب ہے تو غلام سے

بَابُ مَنْ ذَكَرَ السَّعْيَةَ فِي

مزدوری کرائی جائے گی

هَذَا الْحَدِيثِ

۵۳۹: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي الْعَطَّارَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتَقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ۔

۵۳۹: مسلم بن ابراہیم ابان قتادہ نصر بن انس بشیر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنا حصہ آزاد کر دیا جو کہ مشترک غلام میں تھا تو اس شخص کے ذمہ پورا غلام آزاد کرنا ضروری ہے بشرطیکہ وہ مالدار ہو۔ اگر اس شخص کے پاس مال نہیں ہے تو غلام پر مشقت ڈالے بغیر محنت کرائی جائے گی۔

غلام سے خدمت لینا:

مطلب یہ ہے کہ اس غلام سے دوسرا شریک یہ مطالبہ کرے گا کہ تم ہمارے حصہ کی قیمت ادا کر کے بالکل آزاد ہو جاؤ لیکن اس صورت میں غلام کی جسمانی حالت کا ضرور خیال رکھا جائے گا کہ اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے محنت نہیں لی جائے گی۔

۵۳۰: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ۵۳۰: نصر بن علی یزید (دوسری سند) علی بن عبداللہ محمد بن بشر سعید

ابْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ أَوْ شِقِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَّصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمَ الْعَبْدِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْعَى لِمَالِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ.

قنادہ نصر بن انس، بشیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مشترک غلام سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس شخص کے ذمہ اپنے مال سے اس غلام کو آزاد کرانا ضروری ہے بشرطیکہ وہ مالدار ہو اور اگر آزاد کرنے والا شخص مالدار نہ ہو تو اس غلام کی درمیانی قیمت مقرر کر لی جائے تو پھر دیگر شرکاء کے حصہ کے بقدر غلام ملازمت اور محنت کرے لیکن اس پر زبردستی نہ کی جائے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ دونوں حدیثوں میں فرماتے ہیں کہ پھر غلام سے بغیر مشقت محنت کرائی جائے۔

مشترک غلام آزاد کرنا:

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غلام کے چند لوگ مالک ہوں اور ان لوگوں میں سے کوئی ایک شخص اپنا حصہ آزاد کر دے تو اگر وہ شخص مالدار ہے تو غلام اسی وقت آزاد ہو جائے گا اور دیگر حصہ داروں کے حصے اپنے مال میں سے دے گا اور اس سلسلہ میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسی صورت میں دیگر حصہ داران کو اختیار ہے خواہ وہ اپنے حصہ کے بقدر اس غلام سے مزدوری کرائیں اور خواہ آزاد کرنے والے شخص سے قیمت کا مطالبہ کریں اور اس مسئلہ کی مکمل تفصیل ہدایہ کتاب العتاق اور بذل المحمود شرح ابوداؤد میں مذکور ہے وہاں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہے۔

۵۳۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَائِدِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السَّعْيَاءَةَ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَمُوسَى بْنُ خَلْفٍ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَمَعْنَاهُ وَذَكَرَ فِيهِ السَّعْيَاءَةَ.

۵۳۱: محمد بن بشیر، یحییٰ بن ابی عدی، حضرت سعید سے اسی طرح روایت ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو روح بن عبادہ نے سعید بن ابی عربہ سے روایت کیا ہے اور راوی نے سعایہ کا نام ذکر نہیں کیا۔ جریر اور موسیٰ بن خلف نے قنادہ سے یزید کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس روایت میں سعایہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

باب: جن حضرات کے نزدیک مال نہ ہونے کے

باوجود (غلام سے) مزدوری نہ کرائی جائے انکی دلیل

۵۳۲: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شِرْكَاءَهُ

۵۳۲: یعنی مالک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور وہ ہر حصہ دار کو اس کے حصہ کے مطابق دے گا اور غلام اس پر آزاد ہو جائے گا اور اگر

يَسْتَسْعَى!

حَصَّصَهُمْ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ -

اس شخص کے پاس مال موجود نہیں ہے تو اس غلام میں سے جس قدر آزاد ہوا ہے اسی قدر حصہ آزاد ہوگا (باقی بدستور غلام رہے گا)

۵۴۳: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ -

۵۴۳: مولد اسماعیل، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت ہے ایوب نے بیان کیا کہ نافع نے کبھی اس کو فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ کے الفاظ سے بیان کیا ہے اور کبھی بیان نہیں کیا۔

وضاحت حدیث:

مطلب یہ ہے کہ مذکورہ راوی نے حدیث کو صرف ان الفاظ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ تک بیان کیا ہے۔

۵۴۴: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أُدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ -

۵۴۴: سلیمان بن داؤد العتکی، حماد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح روایت ہے۔ ایوب نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (یہ جملہ) حدیث میں داخل ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا نافع کا قول ہے۔ (یعنی اس روایت میں راوی کو اشتباہ ہو گیا)۔

۵۴۵: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَائًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَفْسِيَهُ -

۵۴۵: ابراہیم بن موسیٰ الرازی، عیسیٰ بن عبید اللہ، نافع، ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے اسکو بالکل آزاد کر دے اگر اس شخص کے پاس اس قدر مال موجود ہو کہ وہ غلام کی قیمت ادا کر سکے اور اگر آزاد کرنے والا شخص مالدار نہ ہو تو اس غلام میں سے اسی قدر آزاد ہوگا (اور باقیوں کو اپنے حصوں کا اختیار حاصل ہے خواہ اس کو غلام رکھیں یا آزاد کر دیں)۔

۵۴۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى -

۵۴۶: محمد بن خالد بن یزید بن ہارون، یحییٰ بن سعید، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی روایت کی طرح روایت ہے۔

۵۴۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَوْرِيَةَ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ أَنْتَهَى حَدِيثَهُ إِلَيَّ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ عَلَى مَعْنَاهُ -

۵۴۷: عبد اللہ بن محمد بن اسماء جوریہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح یہ حدیث روایت ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہے لیکن اس روایت میں یہ جملہ: "وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" مذکور نہیں ہے بلکہ روایت: وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ پر ختم ہوئی ہے۔

۵۴۸: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ

۵۴۸: حسن بن علی، عبدالرزاق، معمر زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص مشترک

غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو جس قدر حصہ باقی رہا وہ بھی آزاد ہوگا اگر اسکے پاس اس قدر مال موجود ہو کہ غلام کی قیمت ادا کر سکے تو اسکے مال میں سے آزاد ہو جائے گا۔

ابن عمرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدٍ فَتَقَّ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ۔

۵۳۹: احمد بن حنبل، سفیان، عمر و سالم نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی غلام دو آدمیوں میں مشترک ہو اور ان میں سے ایک شخص اپنے حصہ کو آزاد کر دے تو اگر آزاد کرنے والا شخص مالدار ہو تو اس غلام کی واجبی قیمت مقرر کی جائے گی نہ بہت کم اور نہ بہت زیادہ۔ پھر وہ غلام اس شخص کی جانب سے آزاد ہو جائے گا (یعنی واجبی قیمت دوسرے حصہ دار کو ادا کرے گا)۔

۵۳۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَقْوَمُ عَلَيْهِ قِيَمَةٌ لَا وَكَسٌ وَلَا شَطَطٌ ثُمَّ يَعْتَقُ۔

۵۵۰: احمد بن حنبل، محمد بن جعفر شعبه، خالد ابو بشر، حضرت ابن المثلب، اپنے والد حنبل بن ثعلبہ بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو باقی قیمت کا آپ ﷺ نے اس کو ضمان نہیں دلویا۔ امام احمد نے فرمایا ان صحابی کا نام تلب ہے (ت سے) نہ کہ ثلب (ث سے) اور اس حدیث کے راوی شعبہ تو تلے تھے یعنی ان کی زبان سے تاء ادا نہیں ہوتی وہ ت کوٹ کہتے تھے۔

۵۵۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ ابْنِ التَّلْبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضْمِنْهُ النَّبِيُّ قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ يَعْنِي التَّلْبَ وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْفَعُ لَمْ يَبِيْنِ التَّاءَ مِنَ التَّاءِ۔

باب: جو رشتہ دار کسی محرم کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد

باب فِي مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

ہو جائے گا

مَحْرَمٍ

۵۵۱: مسلم، موسیٰ بن اسماعیل، حماد قناده، حسن، حضرت سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص رشتہ دار محرم کا مالک ہو تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

۵۵۱: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ۔

ذی رحم محرم:

ذی رحم سے مراد والد، بیٹا، بھائی، چچا وغیرہ ہے کہ جس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

۵۵۲: محمد بن سلیمان، عبد الوہاب، سعید قناده، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رشتہ دار محرم کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو گیا۔

۵۵۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَبْيَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ۔

۵۵۳: محمد بن سلیمان، عبد الوہاب، سعید، قتادہ، حضرت حسن سے روایت ہے کہ جو شخص رشتہ داند محرم کا مالک ہو تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

۵۵۴: ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، سعید، حضرت قتادہ، حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

باب: اُمّ ولد اپنے آقا کے انتقال کے بعد آزاد ہو جائے گی

۵۵۵: عبد اللہ بن محمد، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاق، خطاب بن صالح، ان کی والدہ سلامہ بنت معقل سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی خارجه قیس غیلان کی ایک خاتون تھیں (وہ کہتی ہیں) دور جاہلیت میں مجھے میرے چچا لے کر آئے اور مجھے حباب بن عمرو ابوالیسر بن عمر کے بھائی تھے ان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میرے پیٹ سے حباب کا ایک بیٹا عبد الرحمن پیدا ہوا۔ اس کے بعد حباب کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اہلیہ نے کہا اللہ کی قسم تم حباب کے قرض کے عوض فروخت کی جاؤ گی۔ میں یہ بات سن کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں خارجه قیس غیلان کی ایک عورت ہوں میرے چچا دور جاہلیت میں مجھ کو مدینہ منورہ میں لے کر آیا اور اس نے مجھے ابوالیسر بن عمرو کے بھائی خارجه قیس غیلان، حباب بن عمرو کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میرے پیٹ سے حباب کے ایک لڑکے عبد الرحمن کی ولادت ہوئی۔ اب حباب کی بیوی کہتی ہیں کہ تمہیں اس قرض کے بدلے فروخت کیا جائے گا۔ آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا حباب کا وارث کون ہے؟ لوگوں نے کہا ان کے بھائی ابوالیسر بن عمر (وارث ہیں)۔ آپ نے ان سے کہلویا کہ تم سلامہ کو آزاد کر دو جب تم سنو کہ میرے پاس غلام باندی آئے ہیں تو تم میرے پاس آ جانا میں تم کو اس کا معاوضہ دوں گا۔ سلامہ نے بیان کیا یہ بات سن کر ان لوگوں نے مجھ کو آزاد کر دیا۔ پھر آپ کی خدمت میں غلام باندی آئے تو آپ نے میرے معاوضہ میں ان کو ایک غلام عطا فرمایا۔

۵۵۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَجِمٍ مَحْرُومٍ فَهُوَ حُرٌّ۔

۵۵۴: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ مِثْلَهُ۔

باب فی عتق اُمہات الاولاد

۵۵۵: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ خَطَّابِ بْنِ صَالِحِ مَوْلَى الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ أُمْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ غَيْلَانَ قَالَتْ قَدِمَ بِي عَمِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحَبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَبَابِ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَتْ أُمْرَأَتُهُ الْآنَ وَاللَّهِ تَبَاعِينَ فِي ذَنْبِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُمْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ غَيْلَانَ قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحَبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْيُسْرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَبَابِ فَقَالَتْ أُمْرَأَتُهُ الْآنَ وَاللَّهِ تَبَاعِينَ فِي ذَنْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَلَى الْحَبَابِ قِيلَ الْيُسْرِ بْنُ عَمْرٍو فَبَعَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَعْتَقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقِي قَدِمَ عَلَيَّ فَأْتُونِي أَعْوِضْكُمْ مِنْهَا قَالَتْ فَأَعْتَقُونِي وَقَدِمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّي غُلَامًا۔

اُمّ ولد کی بیع:

اُمّ ولد اس باندی کو کہتے ہیں جس کے پیٹ سے آقا کی اولاد ہو اور اُمّ ولد کی بیع سے متعلق تفصیل اور باندی اگر آقا کا بچہ پیدا کرے تو اس کو فروخت کرنا وغیرہ مسئلہ کی تفصیل شروحات حدیث و کتب فقہ "فتاویٰ شامی" وغیرہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۵۵۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَأَنْتَهَيْنَا۔

۵۵۶: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، قیس، عطاء، جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم اُمّ ولد (یعنی اس باندی کو جس کے یہاں ہمارے نطفہ سے اولاد ہو) کو دور نبوی میں اور ابو بکر صدیقؓ کے دور میں فروخت کیا کرتے تھے پھر جب عمر فاروقؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ہمیں اس سے منع فرمادیا (اور ہم رک گئے) (ام ولد کی خرید و فروخت بند کر دی)

باب: مدبر کو فروخت کرنے کا بیان

۵۵۷: احمد بن حنبل، ہشیم، عبد الملک بن ابی سلیمان، عطاء، اسماعیل سلمہ بن کھیل، عطاء، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے انتقال کے بعد اپنے غلام کو آزاد کیا اور اس شخص کے پاس اس غلام کے علاوہ اور مال نہیں تھا تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے فروخت کرنے کا حکم فرمایا تو وہ غلام سات سو یا نو سو میں فروخت ہوا۔

باب فی بیع المدبر

۵۵۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أُعْتِقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبِيعَ بِسِتِّعِ مِائَةٍ أَوْ يَتَسَعِ مِائَةٍ۔

مدبر کی تشریح:

شریعت میں مدبر اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کو کہ اس کے آقا نے یہ کہہ دیا ہو میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدبر کو کسی حالت میں بھی فروخت کرنا جائز نہیں اور مذکورہ حدیث کی تاویل فرمائی گئی ہے اور امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہا نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ رائے سے اختلاف فرمایا۔ بذل الجود فتح الملہم، شرح مسلم وغیرہ میں اس مسئلہ کی تفصیل موجود ہے ملاحظہ فرمائیں۔

۵۵۸: جعفر بن مسافر، بشر بن بکر، اوزاعی، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت ہے البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا تم اس غلام کی قیمت لینے کے زیادہ حقدار ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے مستثنیٰ ہے۔

۵۵۸: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَسْفَرٍ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا زَادَ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْتَ أَحَقُّ بِشَمِيهِ وَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ۔

۵۵۹: احمد بن حنبل، اسماعیل، ایوب، ابو یزید، جابر سے روایت ہے کہ انصار میں ایک شخص تھا جس کو ابو بکرؓ نے کہا جاتا تھا اس شخص نے اپنے مدبر

۵۵۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ

غلام جس کو یعقوب کہتے تھے آزاد کیا اور اس شخص کے پاس اسکے علاوہ اور کچھ مال نہیں تھا تو نبیؐ نے اس غلام کو طلب فرمایا اور فرمایا کون شخص اس غلام کو خریدنا چاہتا ہے؟ تو اسے نعیم بن عبد اللہ بن نحاس نے آٹھ سو درہم میں خرید لیا۔ پھر آپ نے وہ درہم اس انصاری کو عنایت فرما دیئے اور فرمایا: جب تم لوگوں میں کوئی محتاج ہو (یعنی آزاد کرنے والا شخص) تو اس کو اپنے آپ سے شروع کرنا چاہئے پھر جو اپنے سے فاضل رہے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور اپنے اہل و عیال سے جو بچ جائے تو اپنے دوسرے خاندان کے لوگوں پر خرچ کرے (راوی کو شک ہے کہ آپ نے ذی رحم فرمایا) اور رشتہ داروں سے جو بچ جائے تو اس کو اس طرح اور اس طرح کرو۔

جَابِرٌ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غَلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ ذُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَأَشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّاسِ بِمِائَةِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَدَقَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَيْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَلَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَلَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا۔

احباب پر خرچ کرنا:

مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں سے جو بچ جائے وہ دوست احباب پر خرچ کرو اگر اس سے بھی فاضل رہے تو باقی کو صدقہ کر دو۔ اس طرح نہ کرو کہ خاندان والے افلاس سے تنگ ہوں اور تم اپنا مال صدقہ کر دو۔

باب: جو شخص اپنے غلاموں کو آزاد کر دے اگر وہ غلام تہائی مال سے زیادہ ہوں تو کیا حکم ہے؟

بَابُ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثَّلَاثُ

۵۶۰: سلیمان بن حرب، حماد ایوب، ابوقلابہ ابوہلب، عمران بن حصین سے روایت ہے کہ ایک شخص نے انتقال کے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا اور اس شخص کے پاس ان غلاموں کے علاوہ اور کچھ مال نہیں تھا۔ جب نبیؐ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے اس آزاد کرنے والے شخص کو سخت ست فرمایا اور آپ نے ان غلاموں کو طلب فرمایا اور انکے تین حصے کئے اور انکے درمیان قرعہ اندازی کی پھر آپ نے ان غلاموں سے دو غلاموں کو آزاد کر دیا اور چار غلاموں کو غلام ہی رہنے دیا۔

۵۶۰: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبِدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَلَبِغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ الثَّيْنِ وَأَرَقَى أَرْبَعَةً۔

تمام غلام آزاد کرنے کا مسئلہ:

مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کے ایک تہائی غلاموں کو آزاد فرمادیا کیونکہ اس شخص کو اتنے ہی غلام آزاد کرنے کا اختیار تھا۔

۵۶۱: ابوالکامل، عبد العزیز بن مختار، خالد حضرت ابوقلابہ سے اسی طریقہ سے روایت ہے اس روایت میں اس طرح مذکور نہیں ہے کہ آنحضرت

۵۶۱: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ بِإِسْنَادِهِ

وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا۔
 ۵۶۲: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ

۵۶۲: وہب بن بقیہ خالد ابو قلابہ حضرت ابوزید سے روایت ہے ایک انصاری نے اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا پھر یہی حدیث بیان کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص کے جنازے پر اس کی تدفین سے قبل میں موجود ہوتا تو یہ شخص مسلمانوں کی قبروں میں نہ دفنایا جاتا۔

اللَّهُ هُوَ الطَّحَّانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يَعْني النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ۔

۵۶۳: مسدّد حماد بن زید یحییٰ ایوب محمد بن سیرین حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے انتقال کے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر ڈالا اور اس شخص کے پاس ان غلاموں کے علاوہ کوئی اور مال نہیں تھا پھر اس بات کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے ان غلاموں کے درمیان قرعہ اندازی کی تو ان غلاموں میں سے دو کو آزاد کر دیا اور چار غلاموں کو غلام ہی رہنے دیا۔

۵۶۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَأَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبِدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَلَبَّغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْقَى أَرْبَعَةً۔

غلاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرعہ ڈالنا:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرعہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ غلام آپس میں جھگڑانہ کریں اور کسی کی دل شکنی نہ ہو۔

باب: جو شخص اپنے دولت مند غلام کو آزاد کرے تو اس کے مال کا مالک کون ہوگا؟

بَابُ فِيْمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا
وَلَهُ مَالٌ

۵۶۴: احمد بن صالح ابن وہب ابن لہیعہ لیث عبید اللہ بکیر رافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مالدار غلام کو آزاد کیا تو وہ مالک کا حق ہے مگر یہ کہ مالک شرط کر لے۔

۵۶۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ الْأَسْحَجِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ السَّيِّدُ۔

غلام آزاد کرنے سے متعلق:

مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرتے وقت مالک اس طرح کہے یہ مال بھی تمہارا ہے۔ تو اس صورت میں غلام وہ مال بھی ساتھ لے جاسکتا ہے۔

باب: زنا سے پیدا شدہ باندی غلام آزاد

بَابُ فِي عِتْقِ

کرنے کا حکم

۵۶۵: ابراہیم بن موسیٰ، جریر، سہیل بن ابی صالح، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا زنا (کرنے سے پیدا ہوا) بچہ تینوں میں سب سے بُرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں راہ الہی میں ایک اور کوڑا دے دوں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ میں زنا کے بچہ کو آزاد کروں۔

وَلَدِ الزَّانَا

۵۶۵: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَدُ الزَّانَا شَرُّ النَّاسِ لِأُمَّةٍ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَأَنْ أَمْتَعُ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زَانِيَةٍ.

زنا کا بچہ:

تینوں میں مذموم بُرے ہونا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ماں باپ تو حلال سے پیدا ہوئے تھے اور ان پر زنا کرنے کی حد بھی لاگو ہوگی اور اس بچہ کی اصل ہی خبیث ہے۔

باب: غلام آزاد کرنے کے ثواب کا بیان

۵۶۶: عیسیٰ بن محمد، ضمیرہ بن ابی عبیدہ، عریف بن دلیلی سے روایت ہے ہم لوگ وائلہ بن اسحق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا ہم لوگوں سے ایسی روایت بیان کرو کہ جس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ ہو۔ وائلہؓ کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص قرآن پڑھے جبکہ اسکے گھر میں مصحف موجود ہو پھر ہی وہ زیادتی اور کمی کرتا ہے (یعنی ایسا تو سہواً ہو ہی جاتا ہے) ہم لوگوں نے (یہ سن کر) کہا کہ ہم نے تو تم سے اس حدیث کے سننے کا قصد کیا تھا جو آپ نے نبی سے سنی ہو۔ اس پر وائلہؓ نے بیان کیا کہ ہم خدمت نبوی میں اپنے ایک ساتھی کیلئے حاضر ہوئے اس ساتھی نے اپنے اوپر جہنم کو لازمی قرار دے لیا تھا قتل کر دینے کی وجہ سے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کی طرف سے (غلام) آزاد کرو۔ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر ایک جوڑے بدلے میں اسکا ہر ایک جوڑے (عضو) جہنم سے آزاد کرے گا۔

بَابُ فِي ثَوَابِ الْعِتْقِ

۵۶۶: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَمِلَةَ عَنْ الْعَرِيفِ بْنِ الدَّلَيْمِيِّ قَالَ أَتَيْنَا وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نَقْصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيُرِيدُ وَيَنْقُصُ قُلْنَا إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِي النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنْهُ يَعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

سہواً تلاوت میں غلطی:

مذکورہ حدیث کے ارشاد ”قرآن کریم مکان میں ٹکلتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے گھروں میں قرآن کریم موجود رہتا ہے اور تم تلاوت کرتے وقت اس میں یعنی تلاوت کرنے میں بھول کر جاتے ہو اور تلاوت قرآن میں غلطی سمجھ کر ہو جاتی ہے۔ اگر مجھ سے فرمان نبوی سنانے اور نقل کرنے میں بھول ہو جائے تو اس پر حیرت نہ کرو کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور انسان غلطی اور

بھول چوک سے خالی نہیں اور صحیح بات بتلانے کی کوشش کے باوجود اگر بھول چوک ہو جائے تو عند اللہ اس پر گرفت نہیں ہے۔
مذکورہ حدیث سے غلام آزاد کرنے کی فضیلت ثابت ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا غلام آزاد کرنا بہتر ہے جس میں عیب نہ ہو اور
صحیح سالم غلام آزاد کیا جائے اور یہی حکم ہر ایک صدقہ کا ہے کہ اس میں اچھی سے اچھی چیز راہ الہی میں دی جائے ارشاد باری تعالیٰ
ہے: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

باب: کس قسم کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟

بابُ أُمِّ الرَّقَابِ أَفْضَلُ

۵۶۷: محمد بن ثنی، معاذ بن ان کے والد قوادہ سالم معدان حضرت
ابو جحیح سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے قلعہ طائف کا گھیراؤ کیا یا (کہا)
طائف کے محل کا گھیراؤ کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اپنے والد سے قلعہ طائف کی بجائے قصر طائف سنا ہے تو میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں تیر مارا تو اس کو ایک درجہ نصیب
ہوگا۔ پھر اخیر حدیث تک بیان کیا اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص کسی مسلمان
مرد کو آزاد کرے تو اس شخص کی ہر ایک ہڈی کے عوض اللہ تعالیٰ آزاد
کرنے والے شخص کی ہڈی کو دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو عورت
کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ عورت کی ہر ایک ہڈی
کے عوض اس کی آزاد کرنے والی عورت کی ہر ہڈی کو قیامت کے دن
آگ سے محفوظ رکھے گا۔

۵۶۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
هَشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي
الْجَعْدِ عَنْ مُعَذَّانِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْبُعْمَرِيِّ عَنْ
أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ بِقَصْرِ الطَّائِفِ قَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ
بِقَصْرِ الطَّائِفِ يَحِضُنُ الطَّائِفِ كُلَّ ذَلِكَ
فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ عَزًّا وَجَلًّا فَلَهُ دَرَجَةٌ وَسَاقِ الْحَدِيثِ
وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ
أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزًّا وَجَلًّا جَاعِلٌ وَقَاءً
كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحْرَّرِهِ مِنْ
النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ
جَاعِلٌ وَقَاءً كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ
عِظَامِ مُحْرَّرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اسلام میں غلامی کی اصلیت:

بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اسلام میں غلامی کی اصلیت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا خیال غلط ہے کیونکہ غلام آزاد کرنے کا
جب ہی تو حکم ہے جبکہ غلام ہونا پایا جائے البتہ یہ ضرور ہے کہ غلامی کی حوصلہ شکنی ضرور کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غلام باندی کو آزاد
کرنے کا اتنا بڑا ثواب قرار دیا ہے۔ نیز بعض حدود کی خلاف ورزی میں بھی جرمانے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
واللہ اعلم۔

اور اس موضوع پر مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی کتاب ”الرق فی الاسلام“ اسلام میں غلامی کی حقیقت ملاحظہ فرمائیں۔

۵۶۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ
عبد الوہاب بقیہ صفوان، سلیم شرجیل بن السط سے روایت ہے

کہ انہوں نے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جس شخص نے ایک مسلمان شخص کی گردن کو آزاد کیا تو اس شخص کے لئے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے گی (یعنی اللہ تعالیٰ اسے اسکے عوض دوزخ سے نجات عطا فرمادے گا)

۵۶۹: حفص بن عمر شعبہ، عمرو سالم، حضرت شرحبیل بن سمط نے کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب سے کہا کہ آپ ہمیں وہ حدیث سنائیں جو آپ نے نبی سے سنی ہو تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت جیسی روایت بیان فرمائی یہاں تک کہ یہ بیان کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے یا جو عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے تو قیامت کے روز اس کی ہر ایک ہڈی اس کی ہر ایک ہڈی کو جہنم سے بچانے والی ہو جائے گی اور اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ جو مرد دو مسلمان خواتین کو آزاد کرے تو وہ اس کو دوزخ سے آزاد کرادیں گی ان دونوں خواتین کی دو دو ہڈیوں کے عوض آزاد کرنے والے کی ایک ہڈی آزاد ہوگی (اسلئے کہ دو عورتیں ایک مرد کے مساوی ہوتی ہیں)

باب: تندرستی کی حالت میں غلام باندی آزاد

کرنے کا بیان

۵۷۰: محمد بن کثیر، سفیان، ابواسحق، ابو حنیبہ، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص انتقال کے وقت غلام باندی آزاد کرتا ہے تو اس شخص کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد دوسرے شخص کو (کھانا وغیرہ) دے۔

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ السَّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ عَبْسَةَ حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَانَهُ مِنَ النَّارِ۔

۵۶۹: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ السَّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مَرَّةَ أَوْ مَرَّةَ بْنِ كَعْبٍ حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى مُعَاذٍ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا امْرَأَةٌ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً زَادَ وَإِنَّمَا رَجُلٌ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ إِلَّا كَانَتَا فِكَأَكُهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ۔

باب فی فضل العتق

فی الصّحّة

۵۷۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِبِيَّ عَنْ أَبِي الْبَدْرَدَائِعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يَهْدِي إِذَا شَبِعَ۔

فاضل چیز کا صدقہ کرنا:

مطلب یہ ہے کہ جب اپنی ضرورت سے فاضل ہو جائے تو اس وقت صدقہ کرنا زیادہ باعث اجر نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ خود کو ضرورت ہوتے ہوئے راہ الہی میں خوشی سے خیرات کرے کہ یہ افضل ترین صدقہ ہے۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ!

۵۷۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى - (کے ساتھ)۔

آپ ﷺ کی قراءت:

اس باب میں وہ احادیث بیان کی گئی ہیں جو کہ آنحضرت ﷺ سے اختلاف قراءت سے متعلق ہیں اور مذکورہ آیت کریمہ کی تلاوت آنحضرت ﷺ سے خا کے زیر سے ثابت ہوا اگرچہ بعض حضرات نے وَاتَّخَذُوا کی خا کو زبر کے ساتھ پڑھا ہے تفصیل کے لئے کتب تجوید تجوید القرآن اور جمال القرآن ملاحظہ فرمائیں۔

۵۷۲: حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ فُلَانًا كَانُ مِنْ آيَةِ أَذْكَرَ يَهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا -

آپ کا اتفاق عمل:

یعنی اتفاقاً وہ آیات کریمہ ذہن میں نہیں رہی تھیں نہ یہ کہ آپ وہ آیات کریمہ قطعی طور پر بھول گئے تھے اس وجہ سے اس شخص کے تلاوت کرنے سے وہ آیات کریمہ یاد آگئیں۔

۵۷۳: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا حُصَيْفٌ حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغَلَّ بِعَلٍّ لَعَلَّ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فَقَدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا

۵۷۳: تہیہ بن سعید عبد الواحد حسیف، مقسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغَلَّ بِعَلٍّ﴾ یعنی یہ بات نبی کی شایان شان نہیں کہ وہ مال غنیمت میں سے خیانت کرے۔ ایک لال رنگ کی چادر کے سلسلہ میں نازل ہوئی جو کہ غزوہ بدر کے دن گم ہو گئی تھی تو بعض لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ چادر لے لی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ

نازل فرمائی۔

كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ إِلَيَّ آخِرِ آيَةٍ۔

نبی کی ذات مقدس:

مطلب یہ ہے کہ نبی کی ذات اقدس پر اس قسم کا شبہ ہی نہ کرنا چاہئے نبی ایسی بات کا تصور تک نہیں کر سکتا۔

۵۷۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَحْلِ وَالْهَرَمِ۔
 ۵۷۴: محمد بن عیسیٰ، معمر بن انس کے والد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پروردگار! میں کنجوسی اور بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں۔

بڑھاپے سے پناہ:

مذکورہ حدیث میں ایسے بوڑھے پن سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جس میں انسان کے ہوش و حواس باقی نہ رہیں اور عبادت تک کی

قوت نہ رہے ایسے بڑھاپے کو عربی میں ”هَرَمٌ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

۵۷۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَالِدَ نَبِيِّ الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسِبَنَّ۔
 ۵۷۵: قتیبہ بن سعید یحییٰ بن سلیم بن اسماعیل عاصم حضرت لقیط بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں قبیلہ بنی المنتفق کی جانب سے یا بنی المنتفق کے وفد میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ پھر انہوں نے حدیث بیان فرمائی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تحسبن سین کے زیر سے فرمایا اور اس کے زیر یعنی لا تحسبن نہیں فرمایا۔

۵۷۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَبِقِ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فِي غَنِيمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغَنِيمَةَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَفُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغَنِيمَةَ۔
 ۵۷۶: محمد بن عیسیٰ سفیان عمرو بن دینار عطاء بن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی کچھ بکریاں لے ہوئے تھا کہ وہاں پر مسلمان پہنچ گئے اس شخص نے کہا السلام علیکم (لیکن) مسلمانوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور اسکی بکریاں لے گئے اس پر یہ آیت: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَفُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغَنِيمَةَ﴾ کے الفاظ بھی پڑھے (اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مال موجود ہے تم پہلے ایسے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا اب ہوشیار رہو)

۵۷۷: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْبَارِقِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ
 ۵۷۷: سعید بن منصور ابو الزناد (دوسری سند) محمد بن سلیمان انباری حجاج بن محمد اور ابو الزناد ان کے والد خارجہ بن زید حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ﴿غَيْرُ أَوْلَى الضَّرِّ﴾ (را

کے پیش کے ساتھ) تلاوت فرماتے تھے (یعنی پہلے آیت کریمہ ﴿لَا يَسْعَى الْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ تک کا حصہ آپ پر نازل ہوا تھا۔ جب یہ حکم لوگوں پر گراں گزرا تو غیبِ اولیٰ الضمیر (لفظ غیر کے زیرِ پائش کے ساتھ) نازل ہوا۔

۵۷۸: عثمان بن ابی شیبہ محمد بن علاء عبد اللہ بن مبارک یونس ابو علی زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ پیش کے ساتھ تلاوت فرمایا (یعنی العین میں نون کے پیش کے ساتھ نہ کہ زبر کے ساتھ)۔

۵۷۹: نصر بن علی ان کے والد عبد اللہ بن مبارک یونس علی زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ﴾ نون کے پیش کے ساتھ پڑھی۔

وَهُوَ أَشْبَعُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ غَيْرَ أُولَى الضَّرِّ وَلَمْ يَهْلُ سَعِيدٌ كَانَ يَقْرَأُ۔

۵۷۸: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ۔
۵۷۹: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ۔

لفظ جروح کی قراءت:

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے مذکورہ آیت میں لفظ: والجروح کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے باقی لفظ کو زبر کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ مسئلہ تنجید سے متعلق ہے جس کی مکمل تفصیل کتاب تحفۃ العسمریہ شرح جزریدہ وغیرہ میں مذکور ہیں۔

۵۸۰: نقلی زہیر، فضیل، حضرت عطیہ بن سعد عوفی سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمرؓ کے سامنے آیت: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ میں (ض پر زبر) پڑھا۔ انہوں نے مِنْ ضَعْفٍ (ض پر پیش) دے کر پڑھا (پھر فرمایا) میں نے بھی آنحضرت ﷺ کے سامنے اسی طرح پڑھا تھا جس طرح تم نے میرے سامنے پڑھا ہے۔ آپ نے بھی اسی طرح میری گرفت کی جس طرح پر میں نے تمہاری گرفت کی۔

۵۸۱: محمد بن یحییٰ، عبید ہارون، عبد اللہ بن جابر، عطیہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (پیش کے ساتھ) مِنْ ضَعْفٍ پڑھا۔

۵۸۲: محمد بن کثیر، سفیان، اسلم، عبد اللہ ان کے والد، حضرت عبد الرحمن بن ایزئی سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ

۵۸۰: حَدَّثَنَا النَّفِثِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ سَعْدِ الْعَوْفِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ لَقَالَ مِنْ ضَعْفٍ قَرَأَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَتْهَا عَلَيَّ فَأَخَذَ عَلَيَّ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ۔

۵۸۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ يَحْيَى بْنُ عَقِيلٍ عَنْ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ضَعْفٍ۔

۵۸۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَسْلَمَ الْيَنْقَرِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ قَالَ أَبِي بِنُ كَعْبٍ بِفَضْلِ
اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفَرَّحُوا -

تعالیٰ عنہ نے اس طرح پڑھا: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
فَلْتَفَرَّحُوا﴾

۵۸۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُعْبِرَةُ
بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَجْلَحِ حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
فَبِذَلِكَ فَلْتَفَرَّحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ -

۵۸۳: محمد بن عبد اللہ مغیرہ ابن مبارک، جاح، عبد اللہ ان کے والد
حضرت عبد الرحمن بن ابی اسبے والد سے اور وہ حضرت ابی بن کعب رضی
اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے آیت کریمہ ﴿قُلْ
بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفَرَّحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ﴾
پڑھی۔

لفظ تفرحوا کی ایک قراءت:

مطلب یہ ہے کہ آپ نے مذکورہ آیت میں دونوں مقام پر ت کے ساتھ تلاوت فرمایا اور دیگر قراء کرام نے دونوں مقامات پر
”ی“ کے ساتھ پڑھا ہے۔ واللہ اعلم

۵۸۴: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ
أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ
بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْرَأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ -

۵۸۴: موسیٰ بن اسماعیل، حماد ثابت، شہر بن حوشب، حضرت اسماء بنت
یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس طریقہ پر تلاوت فرمایا: إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ۔

إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ کا مفہوم:

مذکورہ آیات کے ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت نوح رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے برا کام کیا۔ آپ نے عمل ماضی کی صورت
میں ادا فرمایا اور غیر کی راہ پر بھی زبر پڑھا کیونکہ عمل کا مفعول ہے۔ علامہ کسائی اور یعقوب کی قراءت اسی طرح اور دیگر حضرات
کے نزدیک عمل کی لام پر تون اور غیر کی راء پر پیش ہے کیونکہ اس صورت میں یہ عمل کی صفت ہے۔

۵۸۵: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي
ابْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ
قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّهُ عَمِلَ
غَيْرَ صَالِحٍ فَقَالَتْ قَرَأَهَا إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ هَارُونُ النَّحْوِيُّ وَمُوسَى
بْنُ خَلْفٍ عَنْ ثَابِتٍ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ -

۵۸۵: ابوکامل، عبد العزیز، ثابت، حضرت شہر بن حوشب سے روایت
ہے کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ
آنحضرت ﷺ اس آیت کریمہ کو کس طریقہ پر تلاوت فرماتے تھے:
﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس طرح پڑھتے
تھے: ﴿إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ﴾ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ہارون
نحوی، موسیٰ بن خلف نے ثابت سے اس روایت کو اسی طرح روایت کیا
ہے کہ جس طرح عبد العزیز نے روایت کیا ہے۔

۵۸۶: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى
عَنْ حَمْرَةَ الزِّيَّاتِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ حَضَرَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَاتِهِ

۵۸۶: ابراہیم بن موسیٰ، عیسیٰ، حمزہ زیات، ابوالحق، سعید بن جبیر، حضرت
ابن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبَرَ لَرَأَى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي طَوْلَهَا حَمْرَةً.

﴿مِنْ لَدُنِّي﴾ کی ایک قراءت:

آنحضرت ﷺ جب دعا مانگتے تو آپ پہلے اپنے لئے دعا فرماتے اور فرماتے ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور موسیٰ پر (رحمت ہو) اگر وہ صبر سے کام لیتے تو وہ بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں دیکھتے لیکن انہوں نے تو یہ فرمادیا: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي﴾ اس آیت کریمہ میں حمزہ نے تشدید کے ساتھ مِنْ لَدُنِّي پڑھا (یہی مشہور قراءت ہے)

زیادہ تر قراء کرام کی قراءت مِنْ لَدُنِّي کے نون کو تشدید کے ساتھ ہی پڑھنے کی منقول ہے اگرچہ کچھ قراء نے نون کو بغیر تشدید کے پڑھا ہے۔

۵۸۷: محمد بن عبد الرحمن اُمیہ بن خالد ابوالجاریہ شعبہ ابوالحق سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مِنْ لَدُنِّي کے نون کو تشدید کے ساتھ تلاوت فرمایا۔ (مشہور قراءت بھی اسی طریقہ پر ہے)

۵۸۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعُبَيْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَهَا قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي وَقَلَّهَا.

۵۸۸: محمد بن مسعود عبد الصمد عبد الوارث محمد بن دینار سعید بن اوس حضرت مصدع ابی یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ فرماتے تھے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مجھے اس طرح پڑھایا ہے جس طرح آنحضرت ﷺ نے ان کو پڑھایا آیت کریمہ میں: ﴿فِي عَيْنِ حَمِيئَةٍ﴾ تخفیف کے ساتھ (مشہور قراءت بھی اسی طرح ہے)

۵۸۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ مِصْدَعِ أَبِي يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَقْرَأَنِي أَبِي بِنِ كَعْبٍ كَمَا أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِ حَمِيئَةٍ مُحَقَّقَةً.

۵۸۹: یحییٰ بن فضل وہیب ہارون ابان عطیہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا البتہ (مقام) علیین کے لوگوں میں سے ایک شخص اہل جنت کو جھانکے گا تو اس کے چہرے کی وجہ سے جنت اس طرح روشن ہوگی کہ جس طرح چمکتا ہوا موتی۔ راوی نے کہا اس حدیث میں لفظ دَرِي دال کے پیش کے ساتھ دَرِي ہے۔ دال کے زبر اور حمزہ کے ساتھ یعنی دَرِي نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی انہی حضرات میں

۵۸۹: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو النَّمَرِيُّ أَخْبَرَنَا هَارُونُ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَعْلَبٍ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عَالِيَيْنَ يَشْرَفُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَتُضِيءُ الْجَنَّةُ لَوَجْهِهِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دَرِيٌّ قَالَ وَهَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ دَرِيٌّ مَرْفُوعَةٌ الدَّالُ لَا تَهْمَزُ وَإِنَّ أَبَا

بَكَرٍ وَعَمَرَ لِمَنْهُمْ وَأَعَمَّا -

سے ہیں بلکہ ان سے بھی بہتر ہیں۔

۵۹۰: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ عَنْ قُرُورَةَ بِنِ مُسَيْبِ بْنِ عَطِيْفَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَأٍ مَا هُوَ أَرْضٌ أَمْ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَيْسَ بَأَرْضٍ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةَ مِنَ الْعَرَبِ فَيَأْمَنُ سِتَّةً وَتِسْأَتَهُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ عُمَانُ الْفُطَفَانِيُّ مَكَانَ الْعَطِيْفِيِّ وَقَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ -

۵۹۰: عثمان بن ابی شیبہ ہارون ابو اسامہ حسن ابو سبرہ قروہ بن مسیب عطیفی سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا پھر حدیث بیان کی اسکے بعد کہا کہ ہم لوگوں میں سے ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ! سبأ جو کہ آیت ﴿جَنَّاتِكَ مِنْ سَبَأٍ وَمِنْ بَدْيَيْنَ﴾ میں ہے یہ کسی خاتون کا نام ہے یا کسی ملک کا؟ آپ نے فرمایا نہ تو یہ کسی خاتون کا نام ہے اور نہ ملک کا نام ہے۔ سبأ ایک شخص کا نام ہے جس کے عرب میں دس بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے چھ بیٹوں نے یمن میں رہائش اختیار کر لی اور چار بیٹے ملک شام جا کر رہنے لگے (پھر ہوتے ہوتے انکی اولاد میں اضافہ ہو گیا اور سبأ کی ایک قوم ہو گئی) عثمان نے کہا اس روایت میں عثمان نے بجائے عطیفی کے فطافلہ کہا ہے اور حَدَّثَنِي کے بجائے حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ کہا ہے۔

۵۹۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ الْهَلَبِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةٌ فَذَكَرْتُ حَدِيثَ الْوُحْيِيِّ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ -

۵۹۱: احمد بن عبدہ اسماعیل ابو معمر سفیان عمرو عکرمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وحی کی حدیث کو بیان کیا تو فرمایا یہی وہ بات ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ میں ہے۔ (یعنی انہوں نے زور کے ساتھ بڑھا ہے لیکن زیادہ تر قرآن نے زور کے ساتھ جاریا ہے مشہور قرأت اچھا طرح ہے)۔

۵۹۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ التَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَذْكُرُ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ بَلَى قَدْ جَانَبَكَ أَبِيي فَكَذَّبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرَتْ وَكَتَبَتْ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مَوْسَلُ الرَّبِيعِ لَمْ يَذْكُرْ أُمَّ سَلَمَةَ -

۵۹۲: محمد بن رافع اسی بن سلیمان ابو جعفر رابع بن انس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اہل بیتہ حضرت رسول کریم ﷺ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ آیت کریمہ ﴿بَلَى قَدْ جَانَبَكَ أَبِيي فَكَذَّبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرَتْ وَكَتَبَتْ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ تلاوت فرماتے تھے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے اس لیے کہ ربیع نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیکھا۔

۵۹۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَمْ أَفْهَمُ جَيْدًا عَنْ صَفْوَانَ قَالَ ابْنُ عَدْبَةَ ابْنُ بَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

۵۹۳: احمد بن حنبل احمد بن عبدہ صفوان عمرو عطاء ابن بعلی نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی سے میں نے سنا کہ آپ منبر پر بیٹھا دواؤں کا مالک کر لیتے تھے۔ (مطلب یہ ہے کہ سورہ فرقان کی آیت کریمہ کے جزویا مالک کر لیتے تھے اور جو حضرات سے پڑھتے تھے صرف اس طریقہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَبِ يقرأ وَتَأْوُوا يَا مَلِكُ.

۵۹۴: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَنَا الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ.

۵۹۵: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يقرأُهَا فَهَلُ مِنْ مَذْكَرٍ يَعْنِي مُفْقَلًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَضْمُومَةٌ الْمِيمِ مَفْضُوحَةٌ الدَّالِ مَكْسُورَةٌ الْكَافِ.

۵۹۶: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى النَّحْوِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقرأُهَا فَرُوحَ وَرَيْحَانَ.

۵۹۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَارِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يقرأُ أَيْحَسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.

۵۹۸: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي فَلَابَةَ عَمَّنْ أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَوْمِيذٍ لَا يَعْذَبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوتِقُ وَتَأْلَهُ أَحَدٌ.

۵۹۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي فَلَابَةَ قَالَ أَنبَأَنِي مِنَ أَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَنْ أَقْرَأَهُ مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَوْمِيذٍ لَا يَعْذَبُ.

سے پڑھتے تھے وَتَأْوُوا يَا مَلِكُ کو حذف کر کے۔

۵۹۴: نصر بن علی، ابواحمد، اسرائیل، اسحاق، حضرت عبدالرحمن بن یزید، حضرت عبداللہ بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے مجھے اِنِّي اَنَا الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ پڑھایا۔ (مذکورہ آیت کریمہ کی مشہور قرأت اس طریقہ سے ہے: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)۔

۵۹۵: حفص بن عمر، شعبہ، ابواسحاق، اسود، عبداللہ روایت کرتے کہ نبی نے ﴿فَهَلُ مِنْ مَذْكَرٍ﴾ تلاوت فرمایا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مدکر میں میم پر پیش ہے اور دال پر زبر اور کاف پر زیر ہے۔ (مذکورہ جملہ پارہ ۲۷: کا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے لفظ مدکر کو دال کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے اگرچہ بعض قراء نے بجائے دال کے ذال پڑھا ہے)۔

۵۹۶: مسلم بن ابراہیم، ہارون نحوی، بدیل، عبد اللہ بن حقیق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فَرُوحَ وَرَيْحَانَ راء کے پیش کے ساتھ تلاوت فرماتے ہوئے سنا۔ (یعقوب کی قراءت میں راء پر پیش ہے اور دیگر قراء کرام راء پر زیر پڑھتے ہیں)۔

۵۹۷: احمد بن صالح، عبد الملک، سفیان، محمد بن منکر، جابر سے روایت ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے۔ ﴿أَيْحَسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾۔ (مذکورہ آیت کی مشہور قرأت یَحْسَبُ ہے یعنی الف کے بغیر مذکورہ آیت پارہ ۳۰ کی ہے)۔

۵۹۸: حفص بن عمر، شعبہ، خالد ابوقلابہ نے اس شخص سے سنا کہ جس شخص کو رسول اللہ نے پڑھایا تھا۔ آیت کریمہ: ﴿فَيَوْمِيذٍ لَا يَعْذَبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوتِقُ وَتَأْلَهُ أَحَدٌ﴾۔ (مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھول کے سینہ کے ساتھ اور زبر پر زبر اور ث کے ساتھ پڑھا ہے)۔

۵۹۹: محمد بن عبید، حماد، خالد حداد، حضرت ابوقلابہ سے روایت ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا کہ جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا: ﴿فَيَوْمِيذٍ لَا يَعْذَبُ﴾۔ (یہ آیت کا جملہ سورہ فجر پارہ نمبر ۳۰ کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جملہ کو مضارع مجھول کے ساتھ تلاوت فرمایا ہے)۔

۶۰۰: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ الطَّائِبِيِّ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا ذَكَرَ فِيهِ جِبْرِيلُ وَمِيكَالُ فَقَالَ جِبْرَائِيلُ وَمِيكَالُ -

۶۰۱: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ حَدَّثَنَا بَشْرُ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ ذَكَرَ كَيْفَ قِرَاءَةَ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَالَ عِنْدَ الْأَعْمَشِ فَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ الطَّائِبِيِّ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الصُّورِ فَقَالَ عَنْ يَمِينِهِ جِبْرَائِيلُ وَعَنْ بَسَارِهِ مِيكَالُ -

جبریل میکائیل کی قراءت:

۶۰۰: عثمان بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، محمد بن ابی عبیدہ ان کے والد اعمش، طائی، عطیہ عوفی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل اور میکائیل۔

۶۰۱: زید بن احزم، بشر بن عمر، حضرت محمد بن حازم سے روایت ہے کہ اعمش کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جبریل اور میکائیل کی قراءت کس طرح ہے؟ انہوں نے حضرت سعد طائی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عطیہ عوفی سے سنا، انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ کا تذکرہ فرمایا جو صور لئے ہوئے کھڑا ہے تو آپ نے فرمایا ان کے دائیں جانب جبرائیل ہے اور بائیں جانب میکائیل ہے۔

لفظ جبریل اور میکائیل میں متعدد قراءت ہیں تفسیر مظہری اور دیگر کتب تفسیر میں مختلف قراءت مذکور ہیں اور لفظ جبر کے سریانی زبان میں بندہ (عبد) کے معنی آتے ہیں اور لفظ میک کے بھی یہی معنی ہیں اور لفظ ایل یا آل اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں مطلب اللہ کا بندہ۔

۶۰۲: احمد بن حنبل، عبدالرزاق، حضرت معمر سے روایت ہے کہ کبھی کبھی ابن مسیب فرمایا کرتے تھے حضرت رسول کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ تلاوت فرماتے تھے اور: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ سب سے پہلے مروان نے پڑھا (اور باقی قراءت کی قراءت لفظ مَلِكِ سے ہے) امام ابوداؤد فرماتے ہیں زہری بواسطہ انس رضی اللہ عنہ زہری بواسطہ سالم ان کے والد کی حدیث کے یہ سند مرسل زیادہ صحیح ہے۔

۶۰۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَعْمَرٌ وَرُبَّمَا ذَكَرَ ابْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ وَعُثْمَانُ يَقْرَأُونَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ مَرْوَانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصْحَبٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ وَالزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -

۶۰۳: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

۶۰۳: سعید بن یحییٰ ان کے والد ابن جریج، عبداللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ سورہ فاتحہ اس

طریقہ سے تلاوت فرماتے تھے: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾
 ایک آیت: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ دوسری آیت: ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ تیسری آیت: ﴿مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ﴾ چوتھی آیت (الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ یَقْطَعُ قِرَاٰتَهُ
 (یعنی آپ ہر ایک آیت کریمہ کو علیحدہ علیحدہ تلاوت فرماتے تھے ایک دوسرے سے نہیں ملاتے تھے)

مَلِكَةً عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ اَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاٰتَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ یَقْطَعُ قِرَاٰتَهُ اٰیةً اٰیةً۔

۶۰۴: عبید اللہ بن عمر، عثمان بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، سفیان بن حسین، حکم، ابراہیم ان کے والد، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک گدھے پر سوار تھا اسی وقت سورج غروب ہونے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کس جگہ غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) خوب (اچھی طرح) واقف ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تَغْرُبُ فِی عَیْنِ حَامِیَةِ (حَمِیَةِ) کی بجائے حَامِیَةِ پڑھا۔ یہ (سورج) ایک گرم چشمہ میں (جا کر) غروب ہوتا ہے۔

۶۰۴: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ اَبِی شَيْبَةَ وَعَبِيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مَيْسَرَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سَفِيَّانِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمِيَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّمِيْمِيِّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلٰی حِمَارٍ وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَقَالَ هَلْ تَدْرِي اَيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ لَئِيْنَهَا تَغْرُبُ فِی عَیْنِ حَامِیَةِ۔

۶۰۵: محمد بن عیسیٰ، حجاج، ابن جریج، عمر بن عطاء، مولیٰ ابن اسقع، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس صفہ مہاجرین میں تشریف لائے آپ سے ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ قرآن کی کونسی آیت کریمہ سب سے زیادہ بڑی ہے؟ (یعنی مرتبہ اور اثر کے اعتبار سے کونسی بڑی آیت ہے؟) حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ (اللا هو پروتف نہیں فرمایا بلکہ ملا کر پڑھا ہے)

۶۰۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ اَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَطَاءٍ اَنَّ مَوْلىَ لَابْنِ الْاَسْقَعِ رَجُلٌ صِدْقٍ اَخْبَرَهُ عَنِ اَبْنِ الْاَسْقَعِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانَهُمْ فِی صَفَةِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَسَأَلَهُ اِنْسَانٌ اَىْ اٰیةٍ فِی الْقُرْآنِ اَعْظَمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ۔

آیت الکرسی کی فضیلت:

مذکورہ آیت کریمہ آیت الکرسی پارہ نمبر ۳ کی ہے احادیث میں آیت الکرسی کے بے شمار فضائل مذکور ہیں جو شخص پابندی سے اس کا ورد کرے گا ان شاء اللہ ہر قسم کی آفات اور شیطانی اثرات سے اس کی حفاظت ہوگی۔

۶۰۶: ابو عمر، عبد الوارث، شیبان، اعمش، حضرت شقیق کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ یوسف میں: ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ پڑھا۔ شقیق نے بیان کیا کہ ہم لوگ تو اسے: ﴿هَيْتَ لَكَ﴾

۶۰۶: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ اَبِي الْحَجَّاجِ الْمَنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ اَبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ

پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ کو جس طرح سکھایا گیا مجھے وہی پسند ہے۔

۶۰۷: حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيبِ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا يَقْرَأُونَ هَذِهِ آيَةَ وَقَالَتْ هَيْتُ لَكَ فَقَالَ إِنِّي أَقْرَأُ كَمَا عَلِمْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَقَالَتْ هَيْتُ لَكَ -

وضاحت آیت:

سورہ یوسف پارہ نمبر ۱۲ کی مذکورہ آیت کے جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی اور کہا یوسف چلے آؤ۔

۶۰۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهَبُ ح وَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ - (یعنی آپ نے لفظ تَغْفِرْ کو تاء کے ساتھ واحد مؤنث غائب مضارع جمہول سے پڑھا ہے اور مشہور قراءت تَغْفِرْ (مضارع جمع حکم) یعنی نون کے ساتھ ہے)۔

۶۰۹: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَاهِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

۶۱۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا سُورَةَ أَنْزَلْنَاهَا وَقَرَضْنَاهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْني مُحَقَّفَةً حَتَّى آتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ -

۶۱۰: موسى بن اسماعیل حماد ہشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ نے ہم کو پڑھ کر سنایا: سُورَةَ أَنْزَلْنَاهَا وَقَرَضْنَاهَا یعنی قَرَضْنَا میں راء کی تخفیف کے ساتھ۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ تخفیف راء تلاوت فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ ان آیات کریمہ پر پہنچے۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْحَمَامِ

کتاب غسل

۶۱۱: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي عُدْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْمَحَامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَآزِرِ -
 صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حمام میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تہبند باندھ کر حمام میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔

تہبند باندھ کر حمام میں داخل ہونا:

حمام میں داخل ہوتے وقت تہبند کو اس لئے ضروری قرار دیا گیا کہ ستر کھلی نہ رہ جائے حمام سے مراد غسل خانہ وغیرہ ہے اس وقت عرب کے غسل خانے (حمام) ہمارے یہاں کے غسل خانوں سے مختلف ہوتے تھے۔

”حمام“ سے مراد وہ غسل خانے ہیں جو عوامی ضرورت کے لئے بازاروں میں بنائے جاتے ہیں اور جہاں ہر کس و ناکس نہانے کی غرض سے آتا جاتا ہے۔ بلکہ پہلے زمانوں میں تو اس قسم کے حمام ہوتے تھے جہاں علیحدہ علیحدہ نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا بلکہ کئی کئی ایک ہی جگہ ساتھ ساتھ غسل کرتے تھے ظاہر ہے کہ اس صورت میں ستر پوشی ممکن نہیں ہو سکتی تھی اس لئے آپ ﷺ نے مسلمانوں کو حمام میں جانے سے منع کر دیا البتہ بعد میں مردوں کو اس شرط کے ساتھ جانے کی اجازت دی کہ وہ بغیر تہبند کے جو گھنٹوں تک ہونا ضروری ہے وہاں غسل نہ کریں۔

مظہر کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (تہبند کی شرط کے ساتھ بھی) عورتوں کو حمام میں جانے کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ ان کے اعضاء ہتر کے ٹھم میں داخل ہیں کہ ان کے لئے جسم کا کوئی حصہ بھی کھولنا جائز نہیں ہے تاہم واقعی ضرورت و مجبوری کی صورت میں عورتوں کے لئے بھی اجازت ہے مثلاً شدید سردی کے موسم میں حیض و نفاس سے فراغت کے بعد یا ناپاک ہونے کی صورت میں نہانے کی ضرورت ہو یا کسی علاج کے سلسلے میں گرم پانی سے نہانا ضروری ہو اور گرم پانی کا حمام کے علاوہ کہیں اور انتظام نہ ہو نیز ٹھنڈے پانی سے نہانا ضرور نقصان کا باعث ہو تو اس صورت میں عورت کو بھی حمام جانے کی مخصوص اجازت ہوگی۔

یہاں یہ غلطی پیدا ہو سکتا ہے کہ اس وضاحت سے وہ وجہ ظاہر نہیں ہوئی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس ممانعت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کیوں کیا گیا ہے کیونکہ عورت کی موجودگی میں عورت کے لئے بلا فرق وہی حکم ہے جو مرد کی موجودگی میں مرد کے لئے ہے کہ جس طرح مرد کو کسی مرد کے سامنے اپنے جسم کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ علاوہ اس حصہ جسم کے جو شرعی طور پر عورت کے لئے ستر کے ٹھم میں ہے اس اعتبار سے قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی یہ اجازت ہونی چاہئے کہ وہ زمانہ حمام میں جا سکتی ہیں بشرطیکہ وہ اپنے جسم کے اس حصے کو ضرور چھپائے رکھیں جن کو عورت کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے؟ اس غلطی کو اس توجیہ کے ذریعہ رفع کیا جا سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عورتوں کو مذکورہ شرط کے ساتھ حمام میں جانے کی اجازت اس لئے نہیں دی ہوگی کہ (دیکھو تویں میں) عام طور پر عورتیں اپنی ہم جنسوں کے سامنے اپنی ستر پوشی کا کوئی خاص لحاظ نہیں رکھتیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتوں کے سامنے حتیٰ کہ اجنبی عورتوں کے سامنے اپنے ستر کی عریانیت کو معیوب نہیں سمجھتیں چہ جائیکہ اپنی اقداب چھپے ماں باپ یا بہن وغیرہ کے سامنے ہتر کھولنے کو کوئی برائی سمجھیں یہاں تک کہ گھر میں بھی غسل وغیرہ کے مواقع پر عورتیں ایک دوسرے کے سامنے اپنے ستر کو چھپانے کا خیال نہیں رکھتیں چہ جائیکہ حمام میں کہ جہاں ویسے بھی ایک دوسرے کے سامنے ستر پوشی بڑی مشکل ہے قائم رکھنی پڑتی ہے بلکہ اکثر عورتیں تو کوئی کپڑا وغیرہ پلینے تک کی روادار نہیں ہوتیں لہذا آنحضرت ﷺ نے عورتوں کے ذریعہ عورتوں کی اس حالت کا ادراک کر لیا اور ان کے لئے اس راستہ ہی کو بند کر دیا۔

۶۱۲: محمد بن قدامہ جریر (دوسری سند) محمد بن ثقیف، محمد بن جعفر شعبہ منصور سالم، حضرت ابوالمخیر سے روایت ہے کہ اہل شام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے دریافت فرمایا تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ملک شام کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا (میرا خیال ہے کہ) شاید تم اس علاقہ کی باشندہ ہو جہاں خواتین بھی حمام میں (غسل کرنے کے لئے) جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آگاہ رہو! میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو عورت اپنے گھر کے علاوہ اپنے کپڑے کسی اور جگہ اتارتی ہے تو وہ عورت اپنے پردہ کو پھاڑتی (یعنی ختم کرتی ہے) جو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ جریر کی حدیث ہے جو کہ زیادہ مکمل ہے اور جریر نے ابوالمخیر کو بیان نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

۶۱۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ مَنصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَنَ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ يَابِهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ جَرِيرٌ وَهُوَ أَنْتُمْ وَلَمْ يَذْكَرْ جَرِيرٌ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

خواتین کو حمام میں جانا:

مذکورہ حدیث سے خواتین کو حمام میں داخل ہونے کی ممانعت ظاہر ہے یا مذکورہ حمام سے وہ حمام مراد ہیں کہ جہاں پر مرد بھی غسل کرتے ہوں۔ واضح رہے کہ اگر کوئی خاتون کسی دوسرے کے گھر میں ضرورت کی بنا پر پردہ کے ساتھ کپڑے بدلنے کے لئے کپڑے اتارے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔

۶۱۳: احمد بن یونس، زہیر، عبد الرحمن بن زیاد، عبد الرحمن بن رافع، عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبیؐ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کیلئے عنقریب عجم کی سرزمین فتح ہو جائیگی اور تمہیں اس میں وہ مکانات ملیں گے جن کو حمام کہا جاتا ہے تو اس میں مرد تہبند کے بغیر داخل نہ ہوں۔ اور خواتین کو بھی داخل ہونے سے روکو سوائے مریض یا نفاس والی عورت کے۔ (یعنی جس عورت کے بچہ پیدا ہوا ہو یا بیمار عورت کو یا کسی دوسری ضرورت شرعی کی بنا پر کوئی عورت حمام میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔)

۶۱۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ بِنِ أَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَفْتَحُ لَكُمْ أَرْضَ الْعَجَمِ وَسَتَدْخُلُونَ فِيهَا بِيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَامَاتُ فَلَا يَدْخُلْنَهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزْرِ وَأَمَتُوهَا النِّسَاءُ إِلَّا مَرِيضَةٌ أَوْ نَفْسَاءُ -

باب: ننگے ہونے کی ممانعت

باب النهي عن التعري

۶۱۴: ابن نفيل، زهير، عبد الملك، سليمان العزري، عطاء يعلى سے روایت

۶۱۴: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ نَفِيلٍ حَدَّثَنَا

ہے کہ نبیؐ نے ایک شخص کو تہبند کے بغیر میدان میں غسل کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ منبر پر چڑھے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد ارشاد فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے۔ پردہ پوش کرنے والا اور پردہ پوش اور شرم و حیا کو عزیز رکھتا ہے تو تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص غسل کرے تو ستر پوشی کرے۔ (یعنی اگر غسل کرنے کی جگہ پر بے پردگی ہو تو پردہ کر کے غسل کرے اور اگر بے پردگی نہ ہو تو بے پردگی ہو کر غسل کرنا درست ہے)۔

۶۱۵: محمد بن احمد بن ابی خلف، اسود بن عامر، ابوبکر بن عیاش، عبدالملک بن ابی سلیمان، عطاء، صفوان بن یعلیٰ، حضرت یعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلی حدیث بہت مکمل ہے۔

۶۱۶: عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ابی النضر، زرعة بن حضرت عبدالرحمن بن جرہد اور ان کے والد سے روایت ہے کہ جرہد جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت رسول کریم ﷺ ہم لوگوں کے پاس تشریف فرماتے اور (اس وقت) میری ران (غلطی سے) کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ ران ستر ہے (یعنی اس کو چھپاؤ)۔

ران ستر ہے:

ران کے بھی چھپانے کا حکم ہے اور مرد کی ستر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے کتب فقہ میں اس کی صراحت ہے ہر دو الجناز قنوی شامی میں اس مسئلہ کی تفصیل مذکور ہے۔

۶۱۷: علی بن سہل، حجاج، ابن جریج، حبیب بن ابی ثابت، عامر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نہ تو اپنی ران کھولو اور نہ ہی کسی زندہ یا مردہ شخص کی ران دیکھو۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نکارت ہے۔

زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعُرْزَمِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبِرَّازِ بِلَا إِزَارٍ فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاتَّبَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَسْبَى سِتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتِيرْ۔

۶۱۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَوَّلُ أُمَّ۔

۶۱۶: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرَهْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ جَرَهْدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَفَخَذَى مُنْكَشِفَةً لِقَالَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْفَخْدَ عَوْرَةٌ۔

باب: برہنہ ہو کر چلنے کا بیان

۶۱۸: سلمیٰ بن ابراہیم، یحییٰ بن سعید، عثمان بن حکیم، ابوامامہ، حضرت

باب ما جاء في التعرّي

۶۱۸: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک وزن دار پتھر اٹھا کر چار ہاتھاکہ (اتفاقاً) میرا تہبند گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا کپڑا اٹھا کر باندھ لو اور برہنہ ہو کر نہ چلا کرو۔

سَعِيدُ الْأَمَوِيُّ عَنْ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَمَلْتُ حَجْرًا ثَقِيلًا فَبَيْنَا أَمْشِي لَسَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوا عُرَاءً۔

۶۱۹: عبد اللہ بن مسلمہ ان کے والد (دوسری سند) ابن بشار یحییٰ، حضرت بہز بن حکیم اپنے والد اور وہ ان کے دادا معاویہ قشیری سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ اپنی ستر کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں؟ آپ نے فرمایا اپنی ستر تمام سے چھپاؤ علاوہ اپنی بیوی یا باندی کے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب لوگ ملے جلے ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے یہ ہو سکے کہ کوئی تمہاری ستر نہ دیکھے تو چاہئے کہ تمہارا ستر کوئی نہ دیکھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں میں سے جب کوئی شخص گھر میں تنہا ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ شرم و حیا کرنا چاہئے۔

۶۱۹: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتِنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرِيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيَنَّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ۔

۶۲۰: عبد الرحمن بن عبد الرحيم ابن ابی فدیك ضحاک بن عثمان زید بن اسلم عبد الرحمن، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کی ستر نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی ستر دیکھے اور نہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں (چادر یا لحاف وغیرہ میں) لپٹے اور نہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لپٹے۔

۶۲۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ۔

ایک کپڑے میں سونا:

یعنی برہنہ ہو کر اس طرح لیٹنا عورت اور مرد دونوں کے لئے ناجائز ہے کہ ایک مرد کی ستر دوسرے مرد سے لگے یا ایک عورت کی ستر دوسری عورت کے ساتھ لگے خواہ برہنہ ہو کر آرام کریں یا کپڑے پہنے ہوئے۔ لیکن اگر کوئی عورت یا کوئی مرد ضرورت شدیدہ کی بنا پر ایک لحاف میں یا چادر میں آرام کریں یعنی مرد مرد کے ساتھ اس طرح لیٹ جائے کہ ایک مرد دوسرے کی طرف اور لپٹے اور دوسرا پاؤں کی جانب۔ اسی طرح عورت عورت کے ساتھ آرام کرتے تو اس صورت کی گنجائش ہے۔

۶۲۱: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطَّافَاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَتَسَبَّهَا -

کم سن بچوں کا والدین کے پاس سونا:

مطلب یہ ہے کہ جب تک اولاد کم سن ہے تو اس کو والدین میں سے کسی ایک کے پاس یا دونوں کے پاس لیٹنا درست ہے البتہ جب بچہ باشعور ہو جائے تو اس کو علیحدہ لٹانا ضروری ہے۔

أَوَّلُ كِتَابِ اللَّبَاسِ

۶۲۲: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَحْدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ إِذَا سَأَلْتُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرٌ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرٌّ مَا صُنِعَ لَهُ قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تَبَلَّى وَيُخَلِّفُ اللَّهُ تَعَالَى -

۶۲۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ -

۶۲۴: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقِيُّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا سَعِيدٍ

۶۲۲: عمرو ابن مبارک، جریری، ابونضرہ، حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبیؐ جب نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو آپ اس کپڑے کا نام لیتے جو اس کپڑے کا نام ہوتا قمیص یا عمامہ (وغیرہ) پھر آپ فرماتے اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ یعنی اے اللہ تمام تعریف آپ کیلئے ہے آپ نے مجھ کو یہ لباس پہنایا میں آپ سے اس لباس کی خیر و برکت مانگتا ہوں اور جس مقصد کیلئے یہ لباس بنایا گیا ہے اسکی بھی خیر مانگتا ہوں اور میں آپ سے اس لباس کی برائی اور اسکی برائی سے کہ جس کیلئے یہ لباس تیار کیا گیا پناہ مانگتا ہوں۔ ابونضرہ نے کہا آپ کے اصحاب میں سے جب کوئی صحابی نیا لباس پہنتا تو لوگ ان سے کہتے اللہ کرے تم اس لباس کو (پہن کر) پرانا کرو اور تمہیں دوسرا (اس سے بہتر) لباس پہننا نصیب ہو۔

۶۲۳: مسدد، عیسیٰ بن یونس، جریری سے اسی طریقہ پر روایت ہے۔

۶۲۴: مسلم بن ابراہیم، محمد بن دینار، جریری سے اسی طرح روایت ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں عبد الوہاب نے ابوسعید کو بیان نہیں فرمایا اور حماد بن سلمہ نے اس روایت کو جریری

ابو العلاء کے واسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

۶۲۵: نصیر بن فرج، عبد اللہ سعید ابومرحوم، سہل بن معاذ ان کے والد حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي وَلَا قُوَّةَ)) یعنی اللہ ہی کے لئے تمام قسم کی خوبیاں ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری قوت و طاقت کے بغیر مجھے یہ رزق پہنچایا تو اس شخص کے اگلے پچھلے تمام گناہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جس شخص نے نیا لباس پہن کر یہ دعا پڑھی: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي وَلَا قُوَّةَ)) یعنی تمام خوبی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری محنت و طاقت کے بغیر مجھے یہ لباس عطا فرمایا تو اس شخص کے اگلے پچھلے تمام گناہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

باب: نیا لباس پہننے والے کے لئے کیا دعا پڑھی

جائے؟

۶۲۶: اسحاق بن جراح، ابوالنضر، اسحاق بن سعید ان کے والد ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص سے روایت ہے کہ نبی کی خدمت میں چند اقسام کے کپڑے آئے ان کپڑوں میں ایک چھوٹی اونٹنی دھاری دار کالے رنگ کی چادر تھی تو آپ نے فرمایا۔ تم لوگ اس کا زیادہ مستحق کس کو سمجھتے ہو؟ لوگ اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ام خالد کو لاؤ وہ آپ کی خدمت میں لائی گئیں وہ چادر آپ نے اس کو پہنادی پھر دو مرتبہ فرمایا: اس چادر کو پرانا کرو پھاڑو (یعنی پہن کر پرانی کرو بطور دعا کے فرمایا) اور آپ چادر کے لال اور زرد رنگ کے نقوش کو ملاحظہ فرماتے جاتے تھے سناہ سناہ اے ام خالد! جھٹی زبان میں سناہ عمدہ اور بہتر کو کہا جاتا ہے (یعنی بہت خوبصورت لگ رہی ہے)۔

باب: قمیص کا بیان

۶۲۷: ابراہیم بن موسیٰ، فضل بن موسیٰ، عبد المؤمن بن خالد، عبد اللہ بن

وَحَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

۶۲۵: حَدَّثَنَا نَصِيرُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ وَمَنْ لَيْسَ تَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ -

باب فِيمَا يُدْعَى لِمَنْ لَيْسَ تَوْبًا

جَدِيدًا

۶۲۶: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْأَذِينِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِكِسْوَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ أَحَقُّ بِهَذِهِ فَقَالَ اتُّرُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأَتَى بِهَا فَالْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ أَيْبَلَى وَأَخْلِقِي مَرَّتَيْنِ وَجَعَلْ يَنْظُرُ إِلَيَّ عَلِمَ فِي الْخَمِيصَةِ أَحْمَرٌ أَوْ أَصْفَرٌ وَيَقُولُ سَنَاءُ سَنَاءُ يَا أُمَّ خَالِدٍ وَسَنَاءُ فِي كَلَامِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ -

باب مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

۶۲۷: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ

بریدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں قمیص بہت پسندیدہ تھا۔

۶۲۸: اسحق بن ابراہیم معاذ بن ہشام ان کے والد بدیل بن میسرہ شہر بن حوشب، حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین پہنچے تک تھیں۔

بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدِ الْحَنْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْقَمِيصَ -

۶۲۸: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِيَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَمِيصٍ -

باب: قبا کا بیان

۶۲۹: قمیہ بن سعید یزید لیث، حضرت عبداللہ، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے لوگوں کو قبا میں تقسیم فرمائیں اور آپ نے مخرمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ عنایت نہ فرمایا، تو مجھ سے مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اے میرے بیٹے! تم میرے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں چلو۔ میں ان کے ساتھ گیا انہوں نے وہاں پر پہنچ کر کہا کہ تم اندر چلے جاؤ اور میرا نام لے کر آنحضرت ﷺ کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت مسور نے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو بلا لیا۔ آپ ان ہی قباؤں میں سے ایک قبا زیب تن فرمائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں نے یہ قبا تمہارے لئے رکھ رکھی تھی۔ مسور کہتے ہیں کہ انہوں نے قبا کو دیکھا۔ ابن مہوب نے یہ اضافہ کیا کہ مخرمہ نے قبا کو دیکھا پھر دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں کہ حضرت مخرمہ نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا آپ نے فرمایا مخرمہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔

خلاصۃ الباب: قبا عرب کا ایک قسم کا لباس ہوتا ہے تقسیم کے وقت حضرت مخرمہ کو قبا کے نہ ملنے کا افسوس تھا۔ کسی مصلحت سے آپ نے ان کو اس وقت وہ قبا عنایت نہیں فرمائی بعد میں آپ نے وہ قبا حضرت مخرمہ کو عطا فرمادی۔

باب: شہرت حاصل کرنے کیلئے لباس پہننے کا بیان

۶۳۰: محمد بن عیسیٰ ابووانہ (دوسری سند) محمد بن عیسیٰ شریک عثمان ابو زرعہ مہاجر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شہرت (یا نام و نمود)

باب فی لبس الشہرۃ

۶۳۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ عِيْسَى عَنْ شَرِيكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكَ يَرْفَعُهُ قَالَ
مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا
مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ تَلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ -
بھڑ کے گی۔

ریا کاری کی ممانعت:

معلوم ہوا کہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز خواہ وہ لباس ہو یا جو تایدیگر استعمال کی اشیاء سب بوقت ضرورت استعمال کرے اور مقصد ضرورت پوری کرنا ہونہ کہ ریا کاری۔

۶۳۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ ثَوْبٌ
۶۳۱: مسدّد ابو عوانہ کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلت و رسوائی کا لباس پہنائیں گے۔
مَذَلَّةٌ -

خلاصۃ اللباس: مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی عزت طلبی اور اپنی بڑائی کے اظہار کی غرض سے اعلیٰ و نفیس لباس پہنے یعنی اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ میرے جسم پر اعلیٰ لباس دیکھ کر میری عزت کریں اور مجھے شہرت و بڑائی ملے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل و حقیر کپڑا پہنائے گا، یعنی اس کو اس کپڑے کے ذریعہ ذلیل و بے عزت کرے گا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے دنیا میں ایسا لباس پہنے گا جس سے تواضع اور بے نفسی ظاہر ہوتی ہو (یعنی جس کو دنیا دار لوگ ذلیل و حقیر لباس سمجھتے ہوں اس کو اللہ تعالیٰ عقی میں عزت و عظمت کا لباس پہنائے گا۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شہرت کے کپڑے سے مراد وہ حرام کپڑے ہیں کہ جن کا پہننا مباح نہیں ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ کپڑا مراد ہے جو فقراء و مساکین کو ذلیل و خوار رکھے اور ان کی دل شکستگی کی غرض سے ازراہ غرور و تکبر پہنے، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کپڑا مراد ہے جو ازراہ تمسخر و مذاق یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لئے پہنے یا وہ کپڑا مراد ہے جو اپنے زہد و پارسائی کے اظہار کے لئے پہنے اسی طرح بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں دراصل ”اعمال“ کو کپڑے سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی مراد یہ ہے کہ جو شخص ازراہ ریا یعنی محض دکھانے سنانے کے لئے اچھے اعمال کرے تاکہ ان کی وجہ سے دنیا والوں کی نظر میں اس کو شہرت و عزت حاصل ہو تو قیامت کے دن اس کا حشر یہ ہوگا! بہر حال حدیث کے سیاق کو دیکھتے ہوئے یہ بات بلاشک کہی جاسکتی ہے کہ وہ مرادو مطلب زیادہ صحیح ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔

۶۳۲: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَابِطٍ حَدَّثَنَا
حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنَيْبٍ الْجَرَّهِيَّ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -
۶۳۲: عثمان بن ابی شیبہ ابو نصر، عبد الرحمن بن ثابت، حسان بن عطیہ، ابو منیب، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ شخص ان (ہی) میں سے ہے۔

خَلَاَصَةُ النَّبَاتِ: مطلب یہ ہے کہ ایسی مشابہت اختیار کرے کہ جس کی بناء پر یہ امتیاز نہ ہو سکے کہ یہ شخص کافر ہے یا مسلمان ہے؟ جو شخص ایسی وضع قطع اختیار کرے کہ جیسے کفار کی وضع قطع ہوتی ہے پھر جہاد میں کوئی مسلمان اس شخص کو کافر سمجھ کر قتل کر دے تو قاتل کی گرفت نہیں ہوگی۔ بہر حال اسلام نے غیر مسلموں کا شعار اپنانے کو حرام قرار دیا ہے۔

ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص جس قوم و جماعت کی مشابہت اختیار کرے گا اس کو اسی قوم و جماعت جیسی خیر و معصیت ملے گی مثلاً اگر کوئی شخص اپنے لباس و اطوار وغیرہ کے ذریعہ کسی غیر مسلم قوم یا فاسق و فاجر کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں وہی گناہ لکھے جائیں گے جو اس غیر مسلم قوم کے لوگوں یا فاسق و فاجر کو ملتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو علماء و مشائخ اور اولیاء اللہ کے نمونے پر ڈھالے گا کہ انہی جیسا لباس پہنے گا، انہی جیسے اطوار اختیار کرے گا اور انہی جیسے اعمال کرے گا تو وہ بھلائی و سعادت کے اعتبار سے انہی کے زمرہ میں شمار ہوگا۔ اس ارشاد گرامی کے الفاظ بہت جامع و ہمہ گیر ہیں جن کے دائرے میں بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں آجاتی ہیں یعنی مشابہت کا مفہوم عمومیت کا حامل ہے کہ مشابہت خواہ اخلاق و اطوار میں ہو یا افعال و کردار میں ہو اور خواہ لباس و طرز رہائش میں ہو اور یا کھانے پینے، نکلنے بیٹھنے، رہنے سہنے اور بولنے چالنے میں ہو سب کا یہی حکم ہے۔

باب: کھال اور بالوں کا لباس پہننے کا بیان

۶۳۳: یزید بن خالد بن یزید بن عبد اللہ، حسین بن علی، ابن ابی زائدہ، ان کے والد مصعب، صفیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کانٹے بالوں سے بنی ہوئی خوبصورت چادر تھی کہ جس میں حسین (راوی) نے دوسری حدیث حضرت عتبہ بن سلمیٰ سے روایت کی کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننے کے لئے کپڑا مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کتان کے دو کپڑے پہنادیئے (ان کپڑوں کے پہننے کے بعد) جب میں اپنے آپ کو دیکھتا تو میں خود کو دیگر رفقاء سے لباس میں بہتر اور اچھا دیکھتا۔

۶۳۴: عمرو بن عون، ابو عوانہ، قتادہ، حضرت ابوبردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بیٹے! اگر تم ہم لوگوں کو حضرت رسول اکرم ﷺ کے ساتھ دیکھتے اور بارش ہوئی ہوتی تو تم یہ سمجھتے (خیال کرتے) کہ ہم لوگوں میں سے بکریوں اور بھیڑوں کی بو آ رہی ہے۔

باب فی لبس الصوفی والشعر

۶۳۳: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مَرْحَلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ وَقَالَ حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلْمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابِي -

۶۳۴: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا بَنِي لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصَابَنَا السَّمَاءُ حَسِبْتُ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ -

صحابہ رضی اللہ عنہم کی ناداری:

مطلب یہ ہے کہ تنگ دستی کی وجہ سے ہم لوگوں کا لباس کھالوں اور بالوں کا ہوتا تھا اور اس لباس پر پانی پڑنے کی وجہ سے بکری اور بھیڑ کی بو آنے لگتی۔

۶۳۵: عمرو بن عون، عمارہ ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ذی یزن کے بادشاہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کپڑے کا ایک جوڑا تحفہ بھیجا جو کہ اس نے تینتیس اونٹ یا اونٹنیاں دے کر خرید لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔

۶۳۶: موسیٰ بن اسماعیل، حماد علی بن زید اسلمی بن حضرت عبد اللہ بن حارث سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کا ایک جوڑا میں سے زائد اونٹنیاں دے کر خرید پھر وہ ذی یزن بادشاہ کو تحفہ بھیج دیا (تا کہ ان کے تحفے کا بدلہ ہو جائے) آپ تحفہ قبول فرماتے اور اس کا بدلہ ضرور دیتے۔

۶۳۷: موسیٰ بن اسماعیل، حماد (دوسری سند) موسیٰ، سلیمان، حمید حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مولے کپڑے کا ایک تہبند نکالا جو کہ یمن میں بنتا تھا اور ایک کپڑے جس کو ملبدہ کہتے تھے وہ نکالا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قسم کھائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ان ہی دو کپڑوں میں ہوا۔

۶۳۸: ابراہیم بن خالد، عمر بن یونس، عکرمہ ابو زمیل، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حروری لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا تو میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے فرمایا تم اس قوم کے پاس جاؤ۔ میں یمن کا اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کر ان کے پاس گیا اور راوی حدیث ابو زمیل نے بیان کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک خوبصورت اور باوجاہت شخص تھے۔ انہوں نے بیان کیا جب میں خارجیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا خوش آمدید! اے ابن عباس یہ تم نے کیا لباس پہن رکھا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ

۶۳۵: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا عُمَارَةَ بْنَ زَادَانَ عَنْ قَائِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزْنَ أَهْدَى إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلَاثَةِ وَقَلَّابِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلَاثِ وَقَلَّابِينَ نَاقَةً فَقبلَهَا۔

۶۳۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى حُلَّةً بِبِضْعَةِ وَعِشْرِينَ قَلْوَصًا فَأَهْدَاهَا إِلَيَّ ذِي يَزْنَ۔

۶۳۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُعْبِرَةِ الْمَعْنَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَبِي بَرُودَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ النَّبِيِّ يُسَمُّونَهَا الْمَلْبَدَةَ فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِضَ فِي هَذَيْنِ التَّوْبِينِ۔

۶۳۸: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو نُورٍ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زَمِيلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَتْ الْحَرُورِيَّةُ آتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ آتَيْتُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَلَبِستُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلِيِّ الْيَمَنِ قَالَ أَبُو زَمِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا جَمِيلًا جَهْرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ

الْحُلَّةُ قَالَ مَا تَعْبُونَ عَلَيَّ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلِيَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ۔
عہمانے کہا تم لوگ مجھ کو کیا طعنہ دے رہے ہو۔ میں نے حضرت رسول
کریم ﷺ کو عمدہ سے عمدہ لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے۔

خلاصۃ الباب: حروری ایک تو تمھی جو خوارج میں سے تھی۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مخالف ہو گئے تھے اور اس
حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حد و شرع میں رہتے ہوئے عمدہ لباس استعمال کرنا ممنوع نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے عمدہ لباس بھی
استعمال فرمایا ہے۔

اللہ عزوجل کا صد ہا شکر و احسان ہمہ وقت ادا کرنا چاہیے کہ اُس نے ہم جیسے ہمہ شہہ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے یعنی چاہیے کہ
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مادی نعمت عطا کرے تو وہ اس کو ظاہر کرے مثلاً وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور مبالغہ و اسراف کی حد
تک جائے بغیر اچھے کپڑے پہنے، لیکن اس کو خوش پوشا کی کسی غرور و تکبر اور اتراہٹ کے جذبہ سے نہیں ہونی چاہئے بلکہ شکر
گزاری کی نیت سے ہونی چاہئے تاکہ فقر و محتاج، زکوٰۃ صدقات لینے کے لئے اس کی طرف رجوع کریں اس سے معلوم ہوا کہ
اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھپانا اچھا نہیں ہے بلکہ کفرانِ نعمت کا موجب ہے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو روحانی نعمت جیسے
علم و فضل کی دولت اور بزرگی و شخصیت عطا فرمائے تو اس کو چاہئے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس نعمت کا اظہار کرے تاکہ لوگ اس
سے فائدہ اٹھائیں۔

اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ اوپر کی حدیث میں تو ترکِ زینت کی طرف راغب کیا گیا ہے اور اس حدیث میں خوش پوشا کی کے
ذریعہ گویا زیب و زینت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس صورت میں ان دونوں حدیثوں کے درمیان جو ظاہری تضاد محسوس ہوتا
ہے اس کے دفعیہ کے لئے کیا توجیہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اوپر کی حدیث کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ خوش پوشا کی
کی حیثیت و استطاعت نہ ہو چنانچہ اس صورت میں ”ترکِ زینت کی طرف راغب کیا گیا ہے تاکہ اگر کسی شخص کو کسی موقع پر خوش
پوشا کی کی ضرورت بھی لاحق ہو اور وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس مقصد کی تکمیل کے لئے غیر موزوں تکلیف و اہتمام کر کے
اور ناروا زحمت برداشت کر کے اچھے کپڑے حاصل کرنے کی سعی نہ کرے بلکہ صبر و استقامت کی راہ اختیار کر کے ترکِ زینت ہی
پر عامل رہے اس کے برخلاف جو شخص عمدہ پوشاک پہنے اور لباس کی نفاست و لطافت کو اختیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ اس
کے باوجود ”ترکِ زینت“ ہی کو اپنا معمول کی بنا پر پھٹے پرانے اور میلے کچیلے کپڑے پر قناعت کئے رہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے
کیونکہ اس کی یہ عادت اصل میں بخل و خسرت پر محمول ہوگی۔

باب مَا جَاءَ فِي
باب: خز (ایک قسم کے ریشمی کپڑے) کے استعمال کا

بیان

الْخَزُّ

۶۳۹: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْطَلِطِيُّ الْبَصْرِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ ح و
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي
۶۳۹: عثمان بن محمد عبد الرحمن بن عبد اللہ (دوسری سند) احمد بن عبد
الرحمن ان کے والد عبد اللہ بن سعد حضرت سعد بن عثمان سے
روایت ہے کہ میں نے بخارا میں ایک شخص کو دیکھا جو سفید نخر پر سوار

تھا اور کالے رنگ کا ریشمی عمامہ باندھے ہوئے تھا اس نے کہا مجھے یہ عمامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے یہ الفاظ عثمان کے ہیں۔ ("خز" ایک قسم کا کپڑا ہے جس میں ریشم اور اون لے ہوتے ہوتے ہیں)۔

۶۳۰: عبد الوہاب، بشر بن بکر، عبد الرحمن، عطیہ بن قیس، حضرت عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ مجھے ابو عامر یا ابو مالک نے بتایا کہ اللہ کی قسم! پھر دوسری قسم کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ خز اور ریشم کو جائز بنا لیں گے پھر اور کچھ بیان فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا ان لوگوں میں بعض لوگ بند رہیں جائیں گے بعض لوگ قیامت تک خنزیر بن جائیں گے۔

أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يَخَارِي عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ خَزٌّ سَوْدَاءُ فَقَالَ كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِهِ -

۶۳۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ وَاللَّهِ يَمِينُ أُخْرَى مَا كَذَّبْتَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَذَكَرَ كَلَامًا قَالَ يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخِرُونَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

امت محمدیہ کے چہرہ بگاڑ دیئے جانے کے متعلق:

مذکورہ حدیث اور دیگران احادیث میں کوئی تعارض نہیں کہ جن میں امت محمدیہ کے چہرے بگاڑ دیئے جانے اور زمین میں دھنس جانے کی نفی فرمائی گئی ہے بہر حال اس امت میں جزوی طور پر خسف اور مسخ قیامت سے قبل یعنی زمین میں دھنس جانا اور چہرہ بگاڑ جانا ہو سکتا ہے۔ عمومی خسف اور مسخ نہیں ہوگا اور دوسری حدیثوں میں عمومی خسف اور مسخ کی نفی کی گئی ہے۔ کتب حدیث سے اس طرح ثابت ہے۔

باب: ریشم پہننے کا بیان

۶۳۱: عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے پر ایک ریشمی لباس فروخت ہوتا ہوا دیکھا تو انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا کاش آپ اس کو خرید لیتے اور اس کو آپ جمعہ اور جس دن آپ کی خدمت میں وفود حاضر ہوتے ہیں اس دن پہن لیا کرتے۔ (یہ سن کر) آپ نے ارشاد فرمایا اس لباس کو وہ شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ پھر اسی قسم کے کچھ جوڑے آپ کے پاس آئے آپ نے اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک جوڑا عنایت فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ لباس مجھے پہنا رہے

باب ما جاء في لبس الحرير

۶۳۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سَبْرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تَبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبَسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَلَدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

کَسَوْنِيهَا وَقَدْ قُلْتُ فِي حُلَّةِ عَطَارِدَ مَا قُلْتُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَم
أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَا لَه
مُشْرِكًا۔

ہیں حالانکہ آپ نے پہلے تو عطارد (نامی شخص) کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو وہ شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے یہ جوڑا تمہیں پہننے کے لئے نہیں دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مشرک بھائی (یعنی عثمان بن حکم) کو دے دیا۔

خَلَاصَةُ الْبَابِ: اس ارشاد گرامی کا تعلق اس شخص سے ہے جو مردوں کے لئے ریشم کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے ریشمی کپڑا پہنے یا یہ زجر و تہدید پر محمول ہے اور یا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایسا شخص ایک خاص مدت تک جنت میں داخل ہونے سے پہلے ریشمی کپڑا پہننے سے محروم رہے گا کیونکہ جنت میں جنتیوں کا لباس ریشمی ہوگا اور حافظ سیوطی کے قول کے مطابق اکثر علماء نے اس حدیث کی یہ تاویل بیان کی ہے کہ جو شخص دنیا میں ریشمی کپڑا پہنے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو ابتداء ہی میں جائز المرام قرار پا کر جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت جویریہ سے نقل کی ہے کہ: ((من لبس الحرير في الدنيا بسبه الله يوم القيامة ثوبا من نار)) یعنی جس شخص نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائے گا۔

۶۳۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَهَبٍ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ
شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بِهِذِهِ
الْقِصَّةِ قَالَ حُلَّةٌ اسْتَبْرَقِي وَقَالَ فِيهِ تَمَّ أُرْسِلَ إِلَيْهِ
بِعَجْبَةٍ دِيحًا وَقَالَ تَبِعَهَا وَتَصِيبُهَا حَاجَتَكَ۔

۶۳۳: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ
قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ قُرَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا
كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا أَصْبَعَيْنِ وَثَلَاثَةَ وَأَرْبَعَةَ۔

۶۳۲: احمد بن صالح، ابن وہب، یونس، عمرو بن حارث، ابن شہاب، سالم حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے یہی حدیث روایت ہے اس روایت میں اس طرح ہے کہ وہ جوڑا استبرق کا تھا (استبرق ریشمی کپڑا ہوتا ہے) پھر آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ریشم کا جبہ بھیجا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو۔

۶۳۳: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، عاصم احوال، حضرت ابو عثمان نہدی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن فرقد کو تحریر فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے پہننے سے منع فرمایا لیکن اس قدر اس قدر دو انگلی یا تین یا چار انگلی کے برابر۔

۶۳۴: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ
عَلِيِّ قَالَ أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سَيْرَاءَ فَأُرْسِلَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبَسْتُهَا
فَأْتَيْتُهُ فَرَأَيْتُ الْقَضْبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ إِنِّي لَم
أُرْسِلَ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ

۶۳۴: سلیمان بن حارث، ابو عون، ابو صالح، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص نے ایک ریشمی دھاری دار لباس بھیجا تو آپ نے وہ لباس میرے پاس بھیجا میں اس کو پہن کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے چہرہ مبارک کو غصہ میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ لباس تمہارے پہننے کے لئے نہیں بھیجا تھا۔ پھر آپ نے مجھے حکم فرمایا میں نے (وہ

نِسَائِي -

لباس) اپنی عورتوں کو تقسیم کر دیا۔

باب: ریشمی لباس پہننے کی ممانعت

بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

۶۳۵: یعنی مالک نافع، ابراہیم بن عبد اللہ ان کے والد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی (کپڑے) اور کسم (زعفران) کے رنگ کے کپڑے پہننے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور قرآن کریم رکوع کی حالت میں پڑھنے سے منع فرمایا۔

۶۳۵: حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَيْسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعْصَفِرِ وَعَنْ تَخْتِمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ -

۶۳۶: احمد بن محمد، عبد الرزاق، معمر زہری، ابراہیم بن عبد اللہ ان کے والد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ سے فرمایا ہے اس روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

۶۳۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْمُرُوزِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا قَالَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ -

رکوع، سجدہ میں قرآن پڑھنا:

رکوع اور سجدہ میں تسبیح پڑھنے کا حکم ہے اور قرآن کریم حالت قیام میں پڑھنے کا حکم ہے۔

۶۳۷: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرو، حضرت ابراہیم بن عبد اللہ سے یہی روایت ہے اور اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں منع کیا۔

۶۳۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا زَادَ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ -

۶۳۸: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، علی بن زید، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ روم کے بادشاہ نے نبی کو سندس (یعنی باریک اور نفیس ریشمی لباس) کا ایک چوڑا بھیجا۔ آپ نے اس کو پہن لیا۔ انس نے فرمایا میں آپ کے ہاتھوں کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہل رہے تھے پھر آپ نے وہ کپڑا حضرت جعفر بن ابی طالب کو بھیجا۔ جعفر وہ کپڑا پہن کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم کو وہ (چوڑا) پہننے کیلئے نہیں دیا تھا انہوں نے کہا پھر میں اس کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی نجاشی (حبش کے بادشاہ) کے ہاں بھجوادو۔

۶۳۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقَّةً مِنْ سُدُسٍ فَلَبَسَهَا فَكَانَتِي أَنْظُرُ إِلَى يَدَيْهِ تَذْبَذْبَانِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَيَّ جَعْفَرٌ فَلَبَسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكُمَا لِتَلْبَسَهُمَا قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيكَ النَّجَاشِي -

۶۳۹: محمد بن خالد، روح، سعید، قتادہ، حسن، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا

۶۳۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رُوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ

کہ میں ارغوانی رنگ کی زین پر سوار نہیں ہوتا نہ ہی میں زعفران کے رنگ کا لباس پہنتا ہوں اور نہ میں وہ کرتہ پہنتا ہوں جس پر ریشم لگا ہوا ہو اور حسن نے اپنی قمیص کے گریبان کی طرف اشارہ کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے (مزید) فرمایا۔ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نہیں صرف خوشبو ہے اور خواتین کی خوشبو رنگین ہے بودالی نہیں (جیسے کہ مہندی اور زعفران وغیرہ کہ ان میں اس قدر خوشبو نہیں کہ وہ باعث فساد بن سکے) سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ خواتین باہر نکلیں لیکن اگر وہ اپنے گھر میں شوہر کے پاس (جائے) تو دل چاہے تو خوشبو لگالے (اس میں گناہ نہیں)

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَرُكَبُ الْأَرْجُونَ وَلَا الْبَسُّ الْمُعْصَفَرُ وَلَا الْبَسُّ الْقَمِيصَ الْمُكْثَفَ بِالْحَرِيرِ قَالَ وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبٍ فَمِصَّبِهِ قَالَ وَقَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنٌ لَهُ وَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحٌ لَهُ قَالَ قَالَ سَعِيدُ أَرَاهُ قَالَ إِنَّمَا حَمَلُوا قَوْلَهُ فِي طِيبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطِيبْ بِمَا شَاءَتْ -

خلاصہ الباب: عورت کے لئے باہر نکلتے وقت خوشبو لگا کر جانا ناجائز ہے اور مفہوم حدیث یہ ہے کہ آپ سرخ زین باندھے ہوئے جانور پر سوار نہیں ہوتے تھے۔

”جس میں رنگ تو ہو مہک نہ ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت ایسی کوئی چیز استعمال کرنی درست نہیں ہے جس میں مہک اور خوشبو ہوں..... گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حدیث میں خوشبو کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا ظاہری اسلوب بیان ”خبر“ کا ہے لیکن معنی میں امر یعنی حکم کے ہے جس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ ترجمہ میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ مرد جو خوشبو استعمال کریں اس میں رنگ کی آمیزش نہ ہونی چاہئے۔ اس کے برخلاف عورت جو خوشبو استعمال کرے اس میں مہک نہ ہونی چاہئے۔ اسی طرح شمائل ترمذی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ مردوں کی خوشبو ایسی چیز ہونی چاہئے جس سے مہک تو نکلتی ہو لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو ایسی چیز ہونی چاہئے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن اس سے مہک نہ نکلتی ہو۔ اس روایت کا مطلب بھی وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلتے وقت کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس کی مہک پھیلتی ہو کیونکہ اگر یہ مطلب نہیں لیا جائے گا تو عبارت کا مفہوم اس لئے غیر واضح ہو جائے گا کہ کوئی بھی ”خوشبو“ بغیر مہک کے نہیں ہو سکتی اس صورت میں اس کی طرف ”مہک“ کی نسبت غیر ضروری اور بے فائدہ ہوگی اور اگر یہ کہا جائے کہ کچھ خوشبوئیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں بالکل مہک نہیں ہوتی اور عورتوں کے لئے ایسی ہی خوشبوؤں کا استعمال جائز کیا گیا ہے تو یہ بات بالکل غیر حقیقی اور غیر صحیح ہوگی۔

۶۵۰: یزید بن خالد، مفضل، عیاش بن عباس، حضرت ابو حصین، یعنی شعیب بن شعیب سے روایت ہے کہ میں اپنے ایک ساتھی کے جس کی کنیت ابو عامر تھی اور جو قبیلہ معافر کے تھے اس کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لئے نکلا اس وقت بیت المقدس کے لوگوں کے داعی قبیلہ ازد کے ابوریحانہ تھے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک تھے۔

۶۵۰: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيِّ أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ لُضَائِلَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقِشْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ يَعْنِي الْهَيْثَمِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْنَى أَبُو عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمُعَاوِرِ

ابوالحسین نے بیان کیا کہ میرا ساتھی مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ گیا۔ پھر میں بھی پہنچ گیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے ابوریحانہ کے وعظ کا کچھ حصہ سنا؟ میں نے کہا نہیں اس نے کہا کہ میں نے ابوریحانہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی سے سنا ہے آپ نے منع فرمایا ہے دس چیزوں سے: (۱) دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے سے، (۲) نیلا گودنے سے، (۳) زیب و زینت کے لئے داڑھی یا سر کے بال اکھاڑنے سے، (۴) اور بغیر کپڑے (وغیرہ کی آڑ) کے دو مردوں کے ایک ساتھ سونے سے، (۵) ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ ننگا لپٹنے سے، (۶) (آپ نے منع فرمایا) کہ کوئی مرد اپنے کپڑے کے نیچے عجمی لوگوں کی طرح ریشم لگائے (۸۷) اور لوٹ مار کرنے سے منع فرمایا (۹) درندوں کے چمڑوں پر سوار ہونے سے (۱۰) اور بادشاہ کے علاوہ کسی دوسرے کو انگوٹھی پہننے سے۔

۶۵۱: یحییٰ بن حبیب، روح، ہشام، محمد عبیدہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے سرخ زین پوشوں کی ممانعت بیان فرمائی ہے (جبکہ وہ ریشمی ہو)

۶۵۲: حفص بن عمر، مسلم بن ابی ابراہیم، شعبہ، ابواسحاق، ہمیرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی سے اور قسی کے پہننے سے اور لال رنگ کے زین پوشوں سے منع فرمایا ہے۔

خِلاصَةُ النَّبَاتِ: "قسی" اصل میں اس کپڑے کو کہا جاتا تھا جو مصر کے ایک شہر "قسی" میں تیار ہوتا تھا اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ "قسی" ایک خاص قسم کے کپڑے کو کہا جاتا تھا جس میں ریشمی دھاریاں ہوتی تھیں اس صورت میں اس ممانعت کا تعلق احتیاط و تقویٰ کی بناء پر نہیں تزیینی سے ہوگا اور حضرت ابن مالک نے کہا ہے کہ مذکورہ ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ وہ کپڑا یا تو پوری طرح ریشم کا ہو یا اس کے بانے میں ریشم ہو اس صورت میں یہ ممانعت نبی تحریمی کے طور پر ہوگی اور طبیعت نے یہ کہا ہے کہ "قسی" جس کپڑے کو کہتے تھے وہ کتان کا ہوتا تھا جس میں ریشم بھی مخلوط ہوتا تھا۔

۶۵۳: موسیٰ بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، زہری، عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز ادا فرمائی کہ جس میں نقش بنے ہوئے تھے اور

لُصِّلِي بِبَيْلَاءَ وَكَانَ فَاصُهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رِيحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدِفْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَنِي هَلْ أَدْرَكْتَ قِصَصَ أَبِي رِيحَانَةَ قُلْتُ لَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرِ عَنِ الْوُشْرِ وَالْوُشْمِ وَالْتِفِ وَعَنْ مُكَامِعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ بَغْيِيرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامِعَةَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بَغْيِيرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْبِيِّ وَرَكُوبِ النَّمُورِ وَكِبُوسِ الْخَاتِمِ إِلَّا لِدَى سُلْطَانٍ۔

۶۵۱: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى عَنْ مِثَالِ الْأَرْجُوانِ۔

۶۵۲: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَمِيرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتِمِ اللَّذَّهِبِ وَعَنْ لَيْسِ الْقَيْسِيِّ وَالْمَيْسِرَةِ الْحُمْرَاءِ۔

۶۵۳: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

آپ انہیں دیکھتے رہے۔ پھر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ چادر ابوجہم کو دے دو مجھے نماز پڑھنے کی حالت میں اس چادر کے نقش و نگار کا خیال رہا اور تم لوگ مجھے ایک سادہ (قسم کی) چادر لا کر دے دو (یعنی ایسی چادر دے دو) جس میں نقش و نگار نہ ہوں۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابوجہم بن حذیفہ بنو عدی بن کعب میں سے ہیں۔

باب: کپڑے پر اگر ریشمی نقوش ہوں یا کپڑا ریشم

سے سلا ہوا ہو تو وہ ممنوع نہیں

۶۵۴: مسدّد عیسیٰ بن یونس، مغیرہ، عبداللہ ابو عمرو سے جو کہ اسماء بنت ابوبکرؓ کے آزاد کردہ غلام ہیں سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھا انہوں نے بازار میں (ملک) شام کا تیار کردہ ایک کپڑا خریدا اس میں لال رنگ کا ایک دھاگہ (ریشمی) دیکھا تو انہوں نے وہ کپڑا واپس کر دیا۔ پھر میں اسماء بنت ابوبکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تم مجھے نبی کا جبہ شریف لا کر دے دو وہ لے کر آگئیں تو وہ جبہ شریف طیالہ کا بنا ہوا تھا کہ جس کے گریبان اور آستینوں اور اس کے آگے پیچھے ریشم لگا ہوا تھا۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا الْهَتْمِي أَنَا فِي صَلَاتِي وَأَتَوَلَّى بِأَنْجَانِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو جَهْمُ بْنُ حُدَيْفَةَ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ۔

باب الرُّخَصَةِ فِي الْعِلْمِ

وَحَيْطُ الْحَرِيرِ

۶۵۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا قَرَأَى فِيهِ حَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا جَارِيَةَ نَاوِلِيْنِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةَ مَكْفُوفَةَ الْجَنَبِ وَالْكُمَيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالْبَيْتِاجِ۔

طیالہ کی وضاحت:

طیالہ ایک معمولی قسم کا نقش کپڑا ہوتا ہے واضح رہے کہ چار انگل یا اس سے کم مقدار میں اگر کپڑے میں ریشم لگا ہوا ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔

۶۵۵: ابن نفیل، زہیر، حنیف، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے سے منع فرمایا ہے جو کہ صرف ریشم کا بنا ہوا ہو بلکہ نقش و نگار والا اور جس کپڑے کا صرف ریشم کا تانا ہو تو اس کے استعمال میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔

۶۵۵: حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُصَيْفٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُوبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الْقُوبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ۔

باب: بوجہ عذر ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے

باب فِي لِبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ

۶۵۶: نفیلی، عیسیٰ بن یونس، سعید، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد

۶۵۶: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمَصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكْمَةٍ كَانَتْ بِهِمَا -
 الرَّحْمَنُ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْرَحُ بْنُ زَيْدٍ بَنِي الْعَوَّامِ كُوفِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِلْمٌ فِي الْحَرِيرِ
 فِي السَّفَرِ مِنْ حِكْمَةٍ كَانَتْ بِهِمَا -
 فرمائی۔

خلاصۃ الباب: بخاری و مسلم میں بھی اس کی تائید میں احادیث وارد ہیں کہ ”حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی کیونکہ ان کے خارش ہو گئی تھی (اور یہ خارش جو میں پڑ جانے کی وجہ سے تھی جیسا کہ آگے کی روایت سے معلوم ہوگا) (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان دونوں (حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمن) نے جو میں پڑ جانے کی شکایت کی تو آنحضرت ﷺ نے ان کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی۔“

موجز میں لکھا ہے کہ ریشم اپنی اصل کے اعتبار سے گرم اور مفرح ہوتا ہے اور ریشمی کپڑا پہننے سے جو میں ختم ہو جاتی ہیں۔

باب فی الحریر
 باب: خواتین کے لئے خالص ریشمی لباس پہننا

جائز ہے

للنساء

۶۵۷: حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
 يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي أَلْفَحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِي الْعَافِقِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ
 بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا
 فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ
 ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ ذُكُورٍ أُمَّتِي -
 ۶۵۷: قتیبہ بن سعید لیث بن سعدی نے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی کپڑا لے کر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور اپنے بائیں ہاتھ میں سونا رکھا اور ارشاد فرمایا: یہ دونوں اشیاء میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں۔

خواتین کے لئے ریشم کا استعمال:

خواتین کے لئے سونا اور ریشم دونوں کا پہننا جائز ہے لیکن مردوں کے لئے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اور حدیث نمبر ۶۵۶ میں آپ نے جو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دی تو سخت مجبوری میں اجازت دی گئی تھی یا وہ اجازت اس زمانہ کی ہے جس زمانہ میں مردوں کے لئے ریشمی لباس حرام نہیں تھا۔

۶۵۸: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَبِيْرُ بْنُ عُبَيْدِ
 الْحَمِيْصِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى
 عَلِيَّ أُمَّ كَلْبُومِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَرْدًا سَبْرَاءَ
 قَالَ وَالسَّبْرَاءُ الْمُصْلَعُ بِالْقَرِّ -
 ۶۵۸: عمرو بن عثمان، کبیر بن عبید اللہ، زبیدی، حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا۔ کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ کی صاحبزادی اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کو ریشمی نقش و نگار والی چادر پہنے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ سبیراء ریشم کی دھاریوں کو کہتے ہیں۔

۶۵۹: نصر بن علی ابواحمد، معمر، عبدالملک بن میسرہ، عمرو بن دینار، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ لڑکوں سے ریشمی کپڑا چھین لیا کرتے اور لڑکیوں کو پہنادیا کرتے۔ معمر کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اس حدیث کو نہیں پہچانا (اس لئے یہ ضعیف حدیث ہوئی)

باب: حبرہ (ایک قسم کے یمنی نقش و نگار والے)

کپڑے کے پہننے کا بیان

۶۶۰: ہدبہ بن خالد، ہمام، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا لباس بہت پسند تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا لباس بہت اچھا لگتا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یمنی چادر۔

حبرہ (باکے زیر کے ساتھ بروزن زغبتہ) ایک خاص قسم کی یمنی چادر کو کہتے ہیں جو اس زمانہ میں بننے والی چادروں میں سب سے عمدہ ہوتی تھی اس چادر میں اکثر سرخ دھاریاں ہوتی تھیں، بعض ایسی بھی ہوتی تھیں جن میں سبز دھاریاں بھی ہوتی تھیں اس کی بناوٹ میں خالص سوت ہوتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اسی وجہ سے پسند فرماتے تھے جب کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس پسندیدگی کا سبب اس کا سبز رنگ ہوتا تھا کیونکہ سبز کپڑا اہل جنت کے ملبوسات میں سے ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ بہت زیادہ پسند تھا جیسا کہ طبرانی نے اوسط میں اور ابن نسی اور ابو نعیم نے محبت میں یہ روایت نقل کی ہے کہ:

اللَّهِ كَانَ أَحَبَّ الْأَلْوَانِ إِلَيْهِ الْخَضْرَاءُ

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رنگوں میں سبز رنگ سب سے زیادہ پسند تھا۔“

اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اس لئے پسند فرماتے تھے کہ اس کی دھاریاں سرخ ہوتی تھیں اور سرخ رنگ میل خور ہوتا ہے۔

باب: سفید لباس کی فضیلت

۶۶۱: احمد بن یونس، زہیر، عبد اللہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ سفید لباس پہنا کرو کیونکہ تم لوگوں کے لباس میں وہ ایک عمدہ لباس ہے اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو اور تم لوگوں

باب فی البیاض

۶۶۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ

خَيْرَ ثِيَابِكُمْ وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ
أَكْحَالِكُمْ الْإِنْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيَنْبِتُ الشَّعْرَ -
کے بال اُگاتا ہے۔

خلاصۃً البیاب: سفید کپڑے کو بہت پاک تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ سفید کپڑا چونکہ جلد میلا ہو جاتا ہے اس لئے وہ بار بار
اور بہت زیادہ دھویا جاتا ہے اس کے برخلاف رنگین کپڑا چونکہ میل خور ہوتا ہے اس لئے وہ کافی عرصہ کے بعد ہی دھویا جاتا ہے اور
”زیادہ پاکیزہ“ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے رنگوں میں مخلوط نہیں ہوتا اسی طرح سفید کپڑے کو خوش تر اس سبب سے کہا گیا
ہے کہ سلیم الطبع لوگ سفید ہی کپڑے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ البتہ ضرورت کی صورت اس سے خارج ہے۔ جیسے بعض
لوگ نیلا اور یا کسی اور رنگ کے کپڑے کو اس ضرورت کی بنا پر اختیار کرتے ہیں کہ وہ سفید کپڑے کو بار بار دھوتے رہنے پر قادر
نہیں ہوتے۔

جہاں تک کفن کا تعلق ہے تو واضح رہے کہ کفن میں سفید ہی کپڑا دینا افضل ہے کیونکہ اس وقت مردہ گویا فرشتوں کی مجلس میں
حاضر ہوتا ہے جیسے کہ سفید کپڑا پہننا اس شخص کے لئے افضل ہے جو مجلسوں اور محفلوں میں جانا چاہئے، مثلاً جمعہ یا جماعت کے لئے
مسجد میں اور علماء و اولیاء اللہ کی ملاقات کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ عید میں وہ کپڑا پہننا
افضل ہے جو زیادہ قیمتی ہوتا کہ خدا کی عطا کی ہوئی نعمت کا زیادہ سے زیادہ اظہار ہو سکے۔ چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی
ہوتی ہے جس میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ عیدین اور جمعہ میں سرخ دھاریوں والی چادر اوڑھتے تھے۔

باب: پرانے کپڑوں کا دھونا اور صاف ستھرا رہنا

۶۶۲: نفیلی، مسکین، اوزاعی (دوسری سند) عثمان بن ابی شیبہ اوزاعی
حسان بن عطیہ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ ہم لوگوں کے پاس حضرت رسول کریم ﷺ تشریف
لائے اور آپ نے ایک شخص کو پرانہ حالت میں دیکھا کہ اس شخص
کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا یہ شخص سر کو
صاف ستھرا کرنے کے لئے کوئی شے نہیں پاتا جس سے کہ اپنا سر آراستہ
کرے اور آپ نے ایک میلے کپڑے والے کو دیکھ کر فرمایا کیا اس
شخص کو پانی نہیں میسر آتا جس سے وہ اپنا کپڑا دھوئے یعنی پاک صاف
کرے۔

۶۶۳: نفیلی، زہیر ابو اخطی، حضرت ابو الاحوص نے اپنے والد سے
روایت کیا ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور (اس وقت)
میرے کپڑے میلے کپیلے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال
ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس کس

بَابُ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفِي الْخُلُقَانِ

۶۶۲: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُسْكِينٌ عَنِ
الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
وَكَيْعٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَأَى رَجُلًا شَحِيحًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَمَا كَانَ
يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ شَعْرَهُ وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ
وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسَخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً
يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ -

۶۶۳: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو
إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ دُونَ
فَقَالَ أَلَيْكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قَالَ

قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْأَيْلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
 قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَكْثَرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ
 وَتَوَكَّرَ امْتِنَهُ -

قسم کا مال موجود ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بکریاں اور
 گھوڑے اور باندی اور غلام سب کچھ دے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں مال عنایت فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر
 اور اس کی عزت تمہارے جسم پر نظر آنی چاہئے۔

حَلَاكَةُ النَّبَاتِ: آیت کریمہ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحیٰ: ۱۱] کا بھی یہی مفہوم ہے اگر اللہ تعالیٰ نعمت سے
 نوازے تو نعمت کو ظاہر کرو اور ناشکری مت کرو اور ریاکاری نہ کرو۔

اللہ عزوجل کا صد ہاشکر و احسان ہمہ وقت ادا کرنا چاہیے کہ اُس نے ہم جیسے ہمہ شہہ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے یعنی چاہیے کہ
 جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مادی نعمت عطا کرے تو وہ اس کو ظاہر کرے مثلاً وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور مبالغہ و اسراف کی حد
 تک جائے بغیر اچھے کپڑے پہنے لیکن اس کو خوش پاشا کی کسی غرور و تکبر اور اتراہٹ کے جذبہ سے نہیں ہونی چاہئے بلکہ شکر
 گزاری کی نیت سے ہونی چاہئے تاکہ فقرا محتاج زکوٰۃ صدقات لینے کے لئے اس کی طرف رجوع کریں اس سے معلوم ہوا کہ
 اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھپانا اچھا نہیں ہے بلکہ کفرانِ نعمت کا موجب ہے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو روحانی نعمت جیسے
 علم و فضل کی دولت اور بزرگی و شخصیت عطا فرمائے تو اس کو چاہئے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس نعمت کا اظہار کرے تاکہ لوگ اس
 سے فائدہ اٹھائیں۔

باب: زرد رنگ کے استعمال کا بیان

۶۶۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ يَعْنِي ابْنَ
 أَسْلَمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ
 حَتَّى تَمْتَلِءَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ
 بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ
 مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ -

۶۶۳: عبد اللہ بن مسلمہ، عبد العزیز بن محمد، زید بن اسلم سے روایت ہے
 کہ عبد اللہ بن عمر اپنی داڑھی زرد رنگ سے رنگا کرتے تھے یہاں تک کہ
 انکے تمام کپڑے زرد رنگ سے بھر جایا کرتے تھے۔ آپ سے کسی شخص
 نے کہا کہ آپ زرد رنگ سے داڑھی کو کیوں رنگتے ہیں؟ تو انہوں نے
 جواب دیا کہ میں نے نبی کو اس میں رنگتے ہوئے دیکھا ہے اور نبی کو
 اس سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں تھی اور بے شک آپ اس سے اپنے
 تمام کپڑے رنگتے تھے یہاں تک کہ اپنی پگڑی مبارک کو بھی۔

حَلَاكَةُ النَّبَاتِ: واضح رہے کہ ”خضاب“ سے مراد وہ خضاب ہے جو سیاہ نہ ہو کیونکہ سیاہ خضاب لگانا ممنوع ہے جہاں
 تک صحابہ وغیرہ کا تعلق ہے تو وہ مہندی کا سرخ خضاب کرتے تھے اور کبھی کبھی زرد خضاب بھی کر لیا کرتے تھے چنانچہ مہندی کا
 خضاب لگانے کے بارے میں متعدد احادیث منقول ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ مہندی کا خضاب مؤمن ہونے کی ایک علامت
 ہے تمام علماء کے نزدیک مہندی کا خضاب لگانا جائز ہے بلکہ بعض فقہاء نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے اس کو مستحب بھی کہا
 ہے اور اس کے فضائل میں وہ احادیث بھی نقل کرتے ہیں اگرچہ ان احادیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

مجمع البحار میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں خضاب کرنے کا حکم ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جن کے بال کھڑی یعنی کچھ سیاہ اور

کچھ سفید ہوں، بلکہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے بال سفید ہو گئے ہوں اور سیاہ بالوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہ گیا ہو، جیسا کہ حضرت ابو قحافہؓ کے بال تھے جن کے متعلق اگلی حدیث میں ذکر آ رہا ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ خضاب کے مسئلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں اور اس اختلاف کی بنیاد احوال کے مختلف ہونے پر ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس حکم کا تعلق اس مسلم شہر و علاقہ کے لوگوں سے ہے جہاں خضاب لگانے کا عام دستور ہو کہ اگر کوئی شخص اپنے شہر کے لوگوں کے تعامل و عادت سے اپنے آپ کو الگ رکھے گا تو غیر مناسب شہرت کا حامل ہوگا جو مکروہ ہے اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بالوں کی سفیدی اس کے باوقار و پاکیزہ بڑھاپے کی علامت اس کے چہرے مہرے کی نورانیت اور خوشنمائی کا سبب ہو بلکہ خضاب کرنے سے اس کی شخصیت کا وقار پھیکا پڑ جاتا ہو تو اس کے حق میں خضاب نہ کرنا ہی زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے اس کے برخلاف جس شخص کے بالوں کی سفیدی اس کے بدنما اور بے وقت بڑھاپے کی غماز ہو جس کی وجہ سے اس کی شخصیت کی دلکشی مجروح ہوتی ہو تو اس کو اپنا یہ عیب چھپانا اور خضاب لگانا زیادہ بہتر و مناسب ہے۔

باب: سبز رنگ کا بیان

۶۶۵: احمد بن یونس، عبید اللہ ایاذ حضرت ابو رمثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرے رنگ کی دو چادریں تھیں۔

باب: لال رنگ کے بارے میں

۶۶۶: مسدد عیسیٰ بن یونس، ہشام بن عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے انہوں نے انکے دادا سے روایت کیا ہے کہ ہم لوگ نبی کے ساتھ ایک گھائی سے نیچے اترے آپ نے میری طرف دیکھا میں اس وقت ایک شال اوڑھے ہوئے تھا جو کہ گہرے رنگ میں رنگی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے کس قسم کی چادر اوڑھ رکھی ہے؟ میں آپ کے فرمانے سے سمجھ گیا کہ آپ کو (یہ شال اوڑھنا) ناگوار ہوا ہے۔ میں گھر میں آیا تو دیکھا کہ گھروالے تندور بھڑکا رہے تھے۔ میں نے وہ شال اس تندور میں پھینک دی پھر میں دوسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا عبد اللہ! چادر کا کیا ہوا؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا: تم نے وہ چادر اپنے گھروالوں میں سے کسی کو کیوں نہیں پہنادی؟ اس لئے کہ خواتین کو یہ رنگ پہننا کچھ بُرا نہیں۔

باب فی الخضرۃ

۶۶۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِبَادٍ حَدَّثَنَا إِبَادُ عَنْ أَبِي رَمَثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ أَحْضَرَيْنِ۔

باب فی الحمرة

۶۶۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَبِيَّةٍ فَانْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رِبْطَةٌ مُضْرَجَةٌ بِالْمُضْفَرِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الرِّبْطَةُ عَلَيْكَ فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنَوُّرًا لَهُمْ فَقَدَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْعَيْدِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلْتَ الرِّبْطَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ۔

۶۶۷: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ الْمَضْرَجَةُ
الَّتِي لَيْسَتْ بِمُشَبَّعَةٍ وَلَا الْمَوْرَدَةُ -
۶۶۷: عمرو بن عثمان، ولید ہشام بن الغاز سے روایت ہے کہ
مضرجہ کے معنی ہیں کہ نہ بالکل شوخ سرخ اور نہ بالکل گلابی بلکہ
بین میں ہو۔

سرخ رنگ کا استعمال کرنا:

مردوں کے لئے سرخ رنگ کا لباس خواہ عمامہ ہو یا کوئی اور کپڑا ہوا استعمال کرنا مکروہ ہے اور اگر اس رنگ میں کوئی ناپاکی پڑی ہو تو
اس کا استعمال مکروہ تحریمی ہے ورنہ تزیینی ہے اور اگر کوئی کپڑا سرخ دھاری دار ہو یا سرخ رنگ کے ساتھ دوسرا رنگ بھی ہو تو اس کا
استعمال درست ہے اور جن احادیث میں آپ کا سرخ رنگ کا کپڑا استعمال کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے اس سے مراد
دھاری دار سرخ ہے۔ قیل کرہ اذا صبغ بالاحمر القانئ لانه خلط بالنحس شامی ص ۲۱۲ ج ۵۔

(امداد المفتین ص ۳۲۳)

یہ حدیث صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرد کو سرخ کپڑا پہننا حرام ہے نیز یہ حدیث اس بات کی بھی
دلیل ہے کہ جو شخص کسی ممنوع چیز کا مرتکب ہو اور وہ سلام کرے تو وہ سلام کا جواب دیئے جانے اور کریم و توقیر کئے جانے کا مستحق
نہیں ہے۔

۶۶۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
شَفْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو
عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ أَرَاهُ وَعَلَى ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بَعْضُفَرٍ
مُورَدٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَاَنْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ
فَقُلْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفَلَا كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ثَوْرٌ عَنْ خَالِدٍ فَقَالَ مُورَدٌ
وَطَاوُسٌ قَالَ مَعْصُفَرٌ -
۶۶۸: محمد بن عثمان، اسماعیل، شرحبیل، شفعہ، عبد اللہ بن عمرو بن العاص
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے رسول کریم ﷺ نے دیکھا ابوعلی
نے بیان کیا کہ اس حالت میں کہ میرے اوپر گیرا رنگ کا کپڑا
(لباس) تھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ (یعنی یہ لباس تمہارے لئے
نامناسب ہے) تو میں وہاں سے چل دیا اور میں نے وہ کپڑا آگ میں
جلادیا۔ پھر مجھ سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اپنے کپڑے
(لباس) کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے وہ کپڑا جلادیا۔ تو
آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ کپڑا اپنی کسی اہلیہ کو کیوں نہ پہننے کے لئے
دے دیا؟ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ثور نے بواسطہ خالد، مورد اور
طاؤس نے لفظ معصفر روایت کیا ہے۔

۶۶۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ
يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَحْيَى
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَيَّ
النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
۶۶۹: محمد بن حزابہ، اسحاق، اسرائیل، ابو یحییٰ، مجاہد، حضرت عبد اللہ بن عمرو
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں
ایک شخص حاضر ہوا اور اس پر لال رنگ کے دو کپڑے تھے۔ اس نے
آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔

سرخ رنگ کا حکم:

بعض حضرات نے مذکورہ حدیث میں مردوں کے لئے مطلقاً لال رنگ کے استعمال کے حرام ہونے پر استدلال کیا ہے خواہ وہ رنگ گیر و رنگ ہو یا مطلقاً لال رنگ ہو لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے۔ بہر حال مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لئے دیکتا ہو اسرخ رنگ جس کو احرقانی کہا جاتا ہے وہ حرام ہے مطلقاً سرخ رنگ حرام نہیں ہے تفصیل کے لئے امداد المقتبین از حضرت مفتی اعظم پاکستان ص ۲۳۳ ملاحظہ فرمائیں۔

۶۷۰: محمد بن علاء ابو اسامہ ولید محمد بن عمرو بنو حارثہ کا ایک شخص حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر کے لئے نکلے تو آنحضرت ﷺ نے ہمارے اونٹوں کے پالانوں کی زین پوشوں کی جانب دیکھا ان میں لال اون کی دھاریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں نہیں دیکھتا کہ تم لوگوں پر سرخی غالب آنے لگی ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی وجہ سے جلدی کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ہم لوگوں کے جلدی اٹھنے کی وجہ سے بعض اونٹ بولکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے پھر ہم نے ان اونٹوں سے کپڑے اتار لئے۔

۶۷۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا أَبُو اسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى اِیْلَانَا اُكْسِيَةَ فِيهَا خِيوطٌ عَمَّيْنِ حُمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلَا اَرَى اَنْزَى هَذِهِ النُّحْمَرَةَ قَدْ عَلَتَكُمْ فَقَمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَفَرُ بَعْضُ اِیْلَانَا فَآخَذْنَا الْاُكْسِيَةَ فَتَرَعْنَاهَا عَنْهَا۔

سرخ رنگ سے متعلق ایک تشبیہ:

آپ کے فرمانے کا حاصل یہ تھا کہ یعنی تم لوگوں نے ابھی تو اونٹوں اور گھوڑوں کی زین سرخ رنگ کی کر لی ہیں لیکن آہستہ آہستہ تم لوگ اب لباس بھی سرخ بنا لو گے؟ اگرچہ آپ نے ان زینوں کو حرام نہیں فرمایا تھا کیونکہ وہ بالکل گہرے سرخ رنگ کے نہیں تھے بلکہ دھاری دار تھے لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے صرف مذکورہ ارشاد سے وہ کپڑے اونٹوں سے اتار کر پھینک دیئے۔

۶۷۱: ابن عوف محمد بن اسماعیل ان کے والد ضمضم شریح حبیب بن عبید حضرت حرث بن ان سلیمی سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی اسد کی ایک خاتون نے بیان کیا کہ ایک دن میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہم ان کے کپڑے سرخ (رنگ) میں رنگ رہی تھیں ہم اسی کیفیت میں تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کو دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت زینب

۶۷۱: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ وَقَرَأْتُ فِي اَصْلِ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ يَعْنِي ابْنَ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الْاَبْحِ السَّلِيحِيِّ اَنْ اَمْرَاةً مِنْ بَنِي اَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ

رضی اللہ عنہا نے یہ (منظر) دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ آنحضرت ﷺ نے اس کام کو مذموم خیال فرمایا چنانچہ وہ انھیں اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو ڈالے اور انہوں نے کپڑے کی سرخی کو غائب کر دیا۔ اس کے بعد پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پھر جھانک کر دیکھا جب آپ نے کچھ نہیں پایا تو آپ اندر (گھر میں) تشریف لے آئے۔

نَصَبُ نِيَابًا لَهَا بِمَعْرِفَةِ قَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْمَعْرِفَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ فَأَعَدَّتْ فَفَسَلَتْ نِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ فَاطَّلَعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ۔

ضعیف حدیث:

مذکورہ حدیث کے ایک راوی ضمیم بن زرعہ پر بعض حضرات نے جرح کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث کی سند میں ضعف ہے۔ بہر حال مطلقاً سرخ رنگ کا استعمال حرام نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔

باب: لال رنگ کی رخصت و اجازت

باب فی الرُّخْصَةِ

۶۷۲: حفص بن عمر شعبہ ابو اسحاق حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کے بال مبارک کانوں کی لوتک رہتے تھے اور آپ کو میں نے لال رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا (اور) میں نے کسی شخص کو اس قدر حسین و جمیل کبھی نہیں دیکھا۔

۶۷۲: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمِرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ لَمْ أَرِ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ۔

۶۷۳: مسدؤ ابو معاویہ ہلال بن عامر ان کے والد عامر سے روایت ہے کہ نبی کو میں نے منیٰ میں نجر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تو آپ کے اوپر لال رنگ کی چادر تھی اور (اس وقت) علی کرم اللہ وجہہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز پہنچا رہے تھے (یعنی آپ جو ارشاد فرما رہے تھے وہ لوگوں تک اپنی آواز میں بلند آواز سے پہنچا رہے تھے)

۶۷۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هَلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِيٍّ يَخْطُبُ عَلَيَّ بَعْلَةَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرٌ وَعَلَيَّ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ۔

باب: کالے رنگ کے استعمال کرنے کا بیان

باب فی السَّوَادِ

۶۷۴: محمد بن کثیر ہمام قتادہ مطرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں نے ایک کالی چادر کو رنگ دیا تو آپ نے اس کو پہنا پھر جب آپ کو اس چادر میں پسینہ آیا اور اُون کی بو محسوس ہونے لگی تو آپ نے اس چادر کو (ایک طرف) ڈال دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ کو خوشبو پسندیدہ تھی۔

۶۷۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَطْرُوفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَةً سَوَادًا فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرَفَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصَّوْفِ فَقَذَفَهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ تَعَجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبُ۔

باب فی الھُدْبِ

باب: کپڑے کا کنار استعمال کرنے کا بیان

۶۷۵: عبید اللہ حماد بن سلمہ یونس عبیدہ ابو تمیمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا (اپنے بدن مبارک پر) لپیٹے ہوئے احتباء کی حالت میں تشریف فرما تھے اور اس کا کنارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پر پڑا ہوا تھا۔

۶۷۵: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ أَبِي خِدَاشٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٌ بِسُكْمَةٍ وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ.

ایک نشست احتباء:

احتباء دونوں پنڈلی اٹھا کر سرین کے بل بیٹھنے کی کیفیت کو کہتے ہیں یہ کبھی چادر سے بھی ہوتا ہے اس حدیث میں آپ کا چادر سے احتباء مراد ہے۔

باب فی الْعَمَائِمِ

باب: عمامہ کے استعمال کرنے کا بیان

۶۷۶: ابو الولید مسلم بن ابراہیم موسیٰ بن اسماعیل حماد ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مئہ معظمہ فتح کر کے مئہ معظمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے (سر مبارک) اوپر کالے رنگ کا عمامہ (بندھا ہوا) تھا۔

۶۷۶: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

۶۷۷: حسن بن علی ابو اسامہ مساور جعفر بن عمرو بن حریت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا اور آپ پر کالے رنگ کا عمامہ تھا اور اس کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

۶۷۷: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرَّخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

۶۷۸: قتیبہ بن سعید محمد ابو حسن ابو جعفر ان کے والد حضرت محمد بن علی بن زکانه سے روایت ہے کہ حضرت زکانه رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑی آپ نے حضرت زکانه کو (کشتی میں) پچھاڑ دیا حضرت زکانه رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے ہم لوگوں اور کفار و مشرکین کے درمیان فرق ٹوہپوں پر عماموں کا ہے۔

۶۷۸: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْفَقْفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رُكَّانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَّانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَرَعهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ رُكَّانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فَرُقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ.

کفار کے عمل سے فرق کرنے کا حکم:

کفار مکہ عمامہ بغیر ٹوپی کے اوڑھے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ٹوپی پر عمامہ باندھتے تھے آپ نے ارشاد فرمایا ہم لوگوں اور کفار مکہ کے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ عمامہ بغیر ٹوپی کے استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگ ٹوپی کے استعمال کرتے ہیں اس حدیث سے واضح ہے کہ کفار کے ہر ایک عمل سے مسلمانوں کو فرق کرنا چاہئے۔

۶۷۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرْبُودَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ عَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي۔

۶۷۹: محمد بن اسماعیل، عثمان، سلیمان بن خربوذ، شیخ مدنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے (سر پر) عمامہ باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ کا شملہ میرے آگے اور پیچھے کی جانب (یعنی دونوں جانب) لٹکا دیا۔

باب: بطور صماء کپڑا لپیٹنا منع ہے

۶۸۰: عثمان بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابوصالح، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی نے دو طریقہ سے کپڑا لپیٹنے سے منع فرمایا ایک تو بطور اجتباء کے کہ جس سے اسکی شرم گاہ آسمان تک (یعنی بالکل) کھل جائے دوسرے اس طرح کہ آدمی ایک کپڑا پورے بدن پر لپیٹ لے لیکن ایک طرف سے بدن کھلا ہو اور پھر (وہ شخص) اس کپڑے کو موٹاھے پڑا لے (اس لئے کہ اس طرح کرنے سے آدمی کی شرم گاہ کھل جائے گی)

۶۸۱: موسیٰ بن اسماعیل، حماد ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صماء سے اور ایک کپڑے کے اجتباء سے منع فرمایا۔

باب فی لبسۃ الصماء

۶۸۰: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مَفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسُ ثَوْبَهُ وَاحِدًا جَانِبِيهِ خَارِجًا وَيَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ۔

۶۸۱: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّمَاءِ وَعَنِ الْاجْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ۔

صماء کیا ہے؟

صماء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک چادر اوڑھے اور ہاتھوں کو چادر ہی کے اندر لپیٹے ہوئے رہے۔ یہ صورت اس لئے ممنوع ہے کہ اس طرح آدمی کے گرجانے کا خطرہ ہے اور اجتباء اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص ایک کپڑے میں سرین زمین پر رکھ کر اور دونوں پاؤں کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھے۔ یہ صورت اس لئے منع فرمائی گئی کہ اس میں ستر کھل جانے کا اندیشہ ہے۔

باب: قمیص کے گریبان کھلے رہنے

باب فی حَلِّ

الأزرار

کابیان

۶۸۲: نفیلی احمد بن یونس زہیر عروہ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قوم مزینہ کی جماعت کے ساتھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی (یعنی اسلام پر بیعت کی) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا گریبان کھلا ہوا تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالا اور میں نے مہر نبوت کو چھو لیا۔ عروہ نے بیان کیا میں نے ان کا گریبان کھلا ہوا دیکھا چاہے سردی ہو یا گرمی (وہ دونوں) کبھی قمیص میں گھنڈی (بٹن) نہیں لگاتے تھے۔

۶۸۲: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالََا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ نَفِيلٍ ابْنُ قُسَيْبٍ أَبُو مَهَلٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةَ بْنُ قُرَّةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مَزِينَةَ فَبَايَعْتُهُ وَإِنْ قَمِيصُهُ لَمُطْلَقٌ الْأَزْرَارِ قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسَسْتُ النَّخَامَ قَالَ عُرْوَةُ لَمَا رَأَيْتُ مَعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ قَطُّ إِلَّا مُطْلَقِي أَزْرَارِهِمَا فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ وَلَا يَزِرُّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا۔

مہر نبوت:

مہر نبوت آپ کے شانوں کے درمیان تھی اس کی پوری کیفیت شامل ترمذی اور سیرت مصطفیٰ ﷺ میں مذکور ہے اور حضرت قرہ حضرت معاویہ اتباع رسول میں اپنی قمیص میں گھنڈی یا بٹن وغیرہ اس لئے نہیں لگاتے تھے کہ ان حضرات نے آنحضرت ﷺ کو اسی طرح دیکھا تھا۔ یہ اتباع رسول ﷺ کا اعلیٰ نمونہ ہے۔

باب فِي التَّقَعُّعِ

باب: کپڑے سے سر ڈھانپنے کا بیان

۶۸۳: محمد بن داؤد عبد الرزاق معمر زہری عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک وقت کی گرمی کے موسم میں بوقت دوپہر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں جو اپنا سر ڈھانپ کر ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ (عموماً) تشریف نہیں لاتے تھے۔ پھر آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور آپ نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی آپ اندر تشریف لائے۔

۶۸۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظُّهَيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَّقِنًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ۔

تقنع کا مفہوم:

عربی زبان میں تقنع کے معنی سر کو چادر وغیرہ سے چھپالینا اور چادر کے کونوں کو موٹوں پر ڈالنا اور ایسا طریقہ کبھی سردی گرمی سے حفاظت کے لئے ہوتا ہے اور کبھی شرم و حیا کے طور پر آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں اندر خواتین کے پاس جاتے تو آپ سر

مبارک پر چادر کا کنار اڑا لیتے تھے۔

آنحضرت ﷺ کا اپنا سر مبارک کو چادر کے کونے سے ڈھانکنا یا تو دھوپ کی تمازت و تپش سے بچنے کے لئے تھا یا آپ ﷺ نے اپنا سر اس لئے ڈھانک رکھا تھا کہ چہرہ چھپا رہے اور لوگ (دشمنانِ دین) پہچان نہ سکیں۔

یہ حدیث اصل میں اس حدیث کا ایک کلمہ ہے جس میں ہجرت نبوی ﷺ کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ (مکہ میں) بیعت عقبہ کے بعد آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کے حکم کے منتظر تھے! پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما اس بات کے درخواست گزار تھے کہ اس سفر میں ان کو رفاقت کا شرف حاصل ہو چنانچہ آنحضرت ﷺ ان سے فرماتے تھے کہ اگر ہجرت کا حکم نازل ہوا تو ایسا ہی ہوگا (کہ اس سفر میں تم ہی رفیق بنو گے) چنانچہ ایک دن اچانک ہجرت کا حکم نازل ہوا تو آپ ﷺ دو پہر میں حضرت ابوبکرؓ کے گھر تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے اور یہ ہدایت ملی ہے کہ میں ہجرت کے لئے مکہ سے نکل جاؤں اور تم میرے رفیق بنو پھر آنحضرت ﷺ اہرامات میں حضرت ابوبکرؓ کو لے کر ان کے مکان کی اس کھڑکی سے نکلے جو مکہ کے نشیبی علاقہ میں واقع ٹور پہاڑ کی سمت میں تھی اور غار ثور میں چھپ گئے..... الخ۔

باب: تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا بیان

باب ما جاء في إسبال الأزار

۶۸۴: مسدّد یحییٰ ابو غفار ابو تمیمہ ظریف بن خالد ابو جری جابر بن سلیم سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ جو بھی گفتگو کرتے ہیں لوگ اس گفتگو کو قبول کر لیتے ہیں میں نے لوگوں سے معلوم کیا یہ کون شخص ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نبی ہیں میں جب آپ کے قریب گیا تو میں نے عَلَيكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دو مرتبہ کہا۔ آپ نے فرمایا علیک السلام نہ کہا کرو اس لئے کہ اس طرح تو مردوں کو سلام کیا جاتا ہے بلکہ تم کہو السلام علیک۔ میں نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور میں اس اللہ کا فرستادہ ہوں جب تم کو کبھی تکلیف پہنچ جائے پھر تم اس کو یاد کرو یعنی اس سے دُعا مانگو تو تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور تم پر جس سال قحط پڑ جائے پھر تم اس سے دُعا مانگو تو وہ تمہارے لئے اناج اور (تمہارے جانوروں کے لئے) گھاس پیدا کر دے گا۔ اور جب تم کسی جنگل میں ہو پھر تمہاری اونٹنی گم ہو جائے اور تم اس سے دُعا مانگو تو وہ تمہاری سواری تمہیں لوٹا دے گا۔ میں نے عرض کیا مجھ کو نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کسی شخص کو گالی نہ دینا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اس دن سے میں نے کسی شخص کو گالی نہیں دی نہ کسی آزاد شخص کو نہ کسی غلام کو نہ اونٹ کو اور نہ بکری کو۔ پھر آپ نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو کمتر نہ سمجھو اور

۶۸۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي غِفَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيُّ وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ جَابِرِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَّرُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَلَيكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلَامُ عَلَيكَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضَرْبٌ لَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنِيَةً لَدَعَوْتَهُ أَنْتَبَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَقَرَاءٍ أَوْ فَلَاحٍ فَضَلَّتْ رَأْسُكَ لَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيكَ قَالَ قُلْتُ اعْهَدْ إِلَيَّ قَالَ لَا تَسْبِنَنَّ أَحَدًا قَالَ لِمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً قَالَ وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ

اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات کیا کرو کیونکہ یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اور اپنے تہبند کو آدمی ہڈی تک اونچا رکھا کرو اگر یہ نہ ہو سکے تو ٹخنوں تک (رکھ لو) اور تم تہبند نیچے لٹکانے سے بچتے رہو کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے اور وہ شخص تمہارے عیب سے واقف ہے اور وہ عیب بیان کرے تو تم اس شخص کے جس عیب سے واقف ہو اس کو بیان نہ کرو اس لئے کہ اس شخص کے کہنے کا گناہ اسی شخص کے سر ہوگا۔

وَأَنْ تُكَلِّمَ أَحَاكَ وَأَنْتَ مُنْسَبٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنْ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعِ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أُبَيَّتْ فَإِلَى الْكُعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنْ أَمْرٌ شَتَمَكَ وَعَيْرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فَيْكَ فَلَا تَعِيرَهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ۔

علیک السلام کہنا:

آپ نے علیک السلام کہنے سے اسلئے منع فرمایا کہ اہل عرب میت کو علیک السلام کہہ کر سلام کرتے تھے۔ ۶۸۵: نفیلی زہیر، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے تہبند کا ایک کونا لٹکتا رہتا ہے الا یہ کہ میں اس کا ہر وقت خیال کروں آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں (یعنی کپڑا لٹکاتے ہیں)

۶۸۵: حَدَّثَنَا الْقُفْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنْ أَحَدٌ جَانِبِي إِزَارِي يَسْتَرْجِي إِيَّيْ لَاتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ لَسْتُ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ۔

کپڑا لٹکانا منع ہے:

اس حدیث میں کپڑا لٹکانے کی ممانعت ہے کہ تہبند چادر ضرورت سے زیادہ اور تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا چاہئے۔ کیونکہ اس طرح انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے۔

۶۸۶: موسیٰ بن اسماعیل، ابان، یحییٰ ابو جعفر، عطاء بن یسار، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی تہبند لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا جاؤ تم وضو کر کے آؤ وہ شخص چلا گیا اور (دوبارہ) وضو کر لیا۔ پھر وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر وضو کر کے آؤ۔ اور اس شخص نے پھر وضو کر لیا۔ پھر وہ شخص آیا تو آپ نے اس شخص سے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس شخص کو یہی حکم فرماتے ہیں کہ وضو کر کے آؤ۔ پھر آپ خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ (آخر آپ کا مقصد کیا ہے) آپ نے فرمایا وہ شخص تہبند لٹکا کر نماز پڑھتا

۶۸۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبَ فِتْوَصًا فَذَهَبَ فِتْوَصًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَذْهَبَ فِتْوَصًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمْرْتَهُ أَنْ يَتَوَصَّأَ ثُمَّ سَكَتَ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ

رَجُلٍ مُسْبِلٍ۔ ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو تہبند یا (پاجامہ وغیرہ) لٹکا کر نماز پڑھے۔

۶۸۷: حفص بن عمر شعبہ، علی بن مدرک، ابو زرعہ، خرشہ بن حر، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین اشخاص سے گفتگو نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور نہ ان کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے اور ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کون لوگ ہیں جو کہ برباد ہو گئے اور خسارہ میں پڑ گئے۔ آپ نے پھر تین مرتبہ یہی فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو برباد ہو گئے اور خسارہ میں پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا ایک تو تہبند لٹکانے والا شخص، دوسرے احسان (کر کے) جتانے والا تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرنے والا۔

۶۸۸: مسدّد یحییٰ، سفیان، اعمش، سلیمان، خرشہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا لیکن پہلی روایت اس سے (زیادہ) مکمل ہے اور احسان جتانے والا وہ شخص ہے کہ احسان جتانے بغیر کچھ بھی نہ دے۔

۶۸۹: ہارون بن عبد اللہ، ابو عامر، ہشام، حضرت قیس بن نصر سے روایت ہے کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا اور وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ہم نشین تھے۔ انہوں نے بیان کیا آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے دمشق میں ایک شخص تھا جنہیں ابن الحظلیہ کہا جاتا تھا۔ وہ خلوت پسند تھے اور وہ لوگوں میں کم بیٹھا کرتے تھے (یعنی گوشہ نشین شخص تھے) اکثر و بیشتر وہ نماز میں مشغول رہتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو تسبیح و تکبیر میں مشغول ہو جاتے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں چلے جاتے۔ ایک دن وہ شخص ہم لوگوں کے پاس سے گزرے۔ ہم لوگ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ہم لوگوں کو نفع بخشنے اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے

۶۸۷: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحَرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ت : لِأَنَّ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا فَأَعَادَهَا ثَلَاثًا قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ أَوْ الْفَاجِرِ۔

۶۸۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسَهَّرٍ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحَرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَالْأَوَّلُ أَنَّهُ قَالَ الْمَنَانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مَنَةً۔

۶۸۹: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرِ التَّغْلِبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ بَدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلًا مَوْجِدًا فَلَمَّا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ صَلَاةٌ فَإِذَا فَرَغَ لَانَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَمَرَبْنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ بَعَثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ فَجَاءَ رَجُلٌ

مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ التَّقِينَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فَلَانَ فَطَعَنَ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْعَلَامُ الْعِفَارِيُّ كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ آخَرَ فَقَالَ مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فَتَنَزَّاعًا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا بَأْسَ أَنْ يُوجَرَ وَيُحَمَّدَ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سَرَّ بِذَلِكَ وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ لَيْسَ كُنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ تَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ تَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ الرَّجُلُ حَرِيمٌ الْأَسَدِيُّ لَوْ لَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِمْبَالُ إِزَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ حُرِيمًا فَعَجَلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَيَّ إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا

جہاد کے لئے ایک چھوٹے لشکر کو روانہ فرمایا جب وہ لشکر واپس آیا تو اس لشکر میں سے ایک شخص آیا اور اسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں رسول کریم ﷺ تشریف رکھتے تھے۔ وہ شخص اپنے قریب والے شخص سے کہنے لگا کاش تم نے ہم کو دیکھا ہوتا جب ہم دشمن سے مقابلہ کے لئے کھڑے تھے ہم لوگوں میں سے فلاں شخص نے نیزہ اٹھا کر دشمن کے مارا۔ اور (مارتے وقت) یہ کہا یہ مار (چوٹ) میری طرف سے لے۔ میں قبیلہ غفار کا بیٹا ہوں۔ تم اس کو کہنے کو کیا خیال کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا میری رائے میں تو اس شخص کا اجر ضائع ہو گیا یہ بات ایک دوسرے شخص نے بھی سنی تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دونوں اشخاص نے جھگڑا کیا یہاں تک کہ (یہ بات) حضرت رسول کریم ﷺ نے سن لی اور آپ نے فرمایا اس میں کیا برائی ہے؟ اگر اس شخص کو ثواب بھی مل جائے اور لوگ اس شخص کی تعریف بھی کریں۔ بشرطی نے بیان کیا میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور وہ اپنا سر اس شخص کی طرف اٹھا کر دریافت فرمانے لگے کہ کیا آپ نے یہ بات خود حضرت رسول کریم ﷺ سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ پھر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ متعدد مرتبہ یہی دریافت کرنے لگے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید وہ ان کے گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے۔ بشرطی کہتے ہیں کہ ایک روز پھر اس شخص کا ہمارے پاس سے گزرا تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کوئی ایسی بات ہم کو سنا دو کہ جس میں ہمارا فائدہ ہو اور تمہارا نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا ہم لوگوں میں سے جو شخص اپنا روپیہ گھوڑوں کے پالنے پر خرچ کرے (بہ نیت جہاد) تو اس شخص کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص برابر صدقہ کے لئے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو اور کبھی اپنا ہاتھ بند نہ کرے (یعنی مسلسل صدقہ دینے جا رہا ہو) پھر ایک روز وہ شخص ہمارے پاس سے گزرے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کوئی ایسی بات سنائیں جس میں ہماری بھلائی ہو اور اس میں (بیان کرنے میں) آپ کو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں سے

يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فرمایا خریم اسدی کیا اچھا شخص ہے اگر اس کے پٹھے (مراد سر کے بال) وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَتَّى بڑھے ہوئے نہ ہوتے اور اس کا تہبند نیچے نہ ہوتا۔ یہ خبر خریم کو پہنچی تو انہوں نے جلدی سے اس تہبند کو آدمی چنڈی تک اُونچا کر دیا۔ پھر ایک

روز اس شخص کا ہمارے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کوئی ایسی بات سنائیں کہ جس میں ہم لوگوں کا نفع ہو اور آپ کا نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ (سفر سے واپسی میں) فرماتے تھے تم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہو تو تم اپنی ساریوں کو ٹھیک کر لو اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کر لو تا کہ تم لوگوں میں تل کی طرح بن جاؤ (کہ تم کو ہر ایک آدمی دیکھ کر شناخت کر لے) اللہ تعالیٰ فحش بات کہنے اور فحش بات سننے کو پسند نہیں فرماتے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے ہشام کے واسطے سے آنحضرت ﷺ سے اسی طریقہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں میں تل کی طرح سے ہو جاؤ گے۔

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کا اصرار:

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی اصرار کیا اور انہوں نے اس قدر زردیک ہونا شروع کیا کہ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ وہ اس شخص کے گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے۔
”غرور و تکبر“ کی قید سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص غرور و تکبر کے بغیر اپنے پانچاے یا تہبند کو ٹخنوں سے لٹکائے تو یہ حرام نہیں تاہم مکروہ تنزیہی یہ بھی ہے اور کسی عذر کے سبب جیسے سردی یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے پانچامہ و تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پیر کے جتنے حصہ پر بھی تہبند وغیرہ لٹکا ہوا ہوگا وہ پورا حصہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ عمل ٹخنے سے نیچے تہبند وغیرہ لٹکانا ایک مذموم عمل ہے اور دوزخیوں کا کام ہے۔ ٹخنے سے نیچے ازار وغیرہ لٹکانے کے مسئلہ میں یہ بات واضح دہنی چاہئے کہ اس سلسلے میں جو احادیث منقول ہیں ان میں زیادہ تر ازار کے لٹکانے کا ذکر ہے اور ازار لٹکانے والے کے حق میں بہت سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم ﷺ نے ایک دن ایک شخص کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے تو آپ ﷺ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے اور نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ شعبان کی پندرہویں شب میں سب (مسلمانوں) کی بخشش کی جاتی ہے علاوہ عاق مدمن ضرور سبیل ازار کے کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ساری وعیدوں اور ممانعت کا تعلق محض ازار ہی سے نہیں ہے بلکہ سب کپڑوں سے ہے، یعنی بدن پر جو بھی کپڑا ضرورت سے زائد اور سنت کے دائرے سے باہر ہوگا اس پر مذکورہ ممانعت کا حکم عائد ہوگا جہاں تک ازار کی تخصیص کا تعلق ہے تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اس زمانہ میں چادر اور ازار عام طور پر لباس تھا اس لئے اس کے استعمال کی کثرت کی بنا پر اس کا ذکر کیا گیا، ویسے بعض روایتوں میں ازار کے ساتھ دوسرے کپڑوں جیسے قمیص اور پگڑی کا بھی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے چنانچہ آگے دوسری فصل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت نقل ہوگی کہ الاسبال فی الازار والقمیص والعمامة من جرمنھا شینھا لخیلاء الخ اسی طرح اسی فصل میں ابھی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی کی جو روایت گزری ہے اس میں مطلق کپڑے کا ذکر ہے اس سے

بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ لباس میں ضرورت سے زائد کپڑا رکھنے کی ممانعت کا تعلق ہر کپڑے سے ہے۔

بہر حال عزیمت یعنی اولیٰ درجہ یہ ہے کہ ازار یعنی تہبند و پانچامہ کو نصف پنڈلی تک رکھا جائے، چنانچہ آنحضرت ﷺ اپنا تہبند نصف پنڈلی ہی تک رکھتے تھے البتہ رخصت یعنی اجازت و آسانی کا درجہ ٹخنوں تک ہے کہ تہبند و پانچامہ کو زیادہ سے زیادہ ٹخنوں تک رکھا جاسکتا ہے کرتے قمیص اور عبا و شیروانی وغیرہ کے دامن کا بھی یہی حکم ہے اسی طرح قمیص و کرتے وغیرہ کی آستینوں کی مسنون لمبائی یہ ہے کہ وہ بند دست یعنی ہاتھ کے جوڑ تک ہوں عمامہ کا شملہ زیادہ سے زیادہ اتنا چھوڑا جانا چاہئے جو نصف پشت تک رہے جو شملہ لمبائی یا چوڑائی میں اس سے زائد ہوگا وہ بدعت اور اس سے زائد لٹکانے میں شمار ہوگا جو ممنوع ہے۔ چنانچہ بعض علاقوں اور شہروں کے لوگ اپنے لباس میں جو زائد از ضرورت کپڑا استعمال کرتے ہیں جیسے ضرورت سے زائد لمبی لمبی آستینوں اور وسیع و عریض دامنوں والے کرتے، کئی کئی گز کے پاجامے اور شلو اور اور بڑے بڑے عمامے اور پگڑا کا رواج بعض جگہ پایا جاتا ہے وہ خلاف سنت ہے بلکہ یہ زائد ضرورت کپڑے صرف کرنا اگر تکبر و غرور کی نیت سے ہوگا تو اس کو حرام کہیں گے اور اگر لوگوں کی دیکھا دیکھی یا کسی رواج کے تحت ہوگا تو اس کو مکروہ کہا جائے گا۔ کپڑوں میں ضرورت سے زائد لمبائی چوڑائی عورتوں کے لئے بھی ممنوع ہے لیکن مردوں کی بہ نسبت ایک بالشت یا دو بالشت کے بقدر زائد ہونا جائز ہے، بلکہ اتنی زائد مقدار تو مستحب ہے جو پردہ پوشی کے بقدر ہو، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

باب: تکبر اور غرور کی بُرائی

باب مَا جَاءَ فِي الْكِبْر!

۶۹۰: موسیٰ بن اسماعیل، حماد (دوسری سند) ہناد ابو الاحوص عطاء بن سائب، سلمان اغر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ (ہناد کی روایت ہے) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا تہبند ہے تو جو شخص ان دونوں (چیزوں) میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔

۶۹۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادُ ح وَحَدَّثَنَا هَنَادٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْمَعْنَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ قَالَ مُوسَى عَنْ سَلْمَانَ الْأَعْرَبِيِّ وَقَالَ هَنَادٌ عَنِ الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ هَنَادٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ۔

۶۹۱: احمد بن یونس، ابوبکر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا کہ جس کے قلب میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اور (وہ شخص) جہنم میں داخل نہ ہوگا کہ جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسمی نے بھی اعمش سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے۔

۶۹۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حُرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْقُسْمِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَهُ۔

۶۹۲: محمد بن ثنی، عبد الوہاب، ہشام، محمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۶۹۲: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا

سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک خوبصورت شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھ کو حسن و جمال پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن و جمال عطا فرمایا ہے جس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص حسن و جمال میں میرے جوتے کے تسمہ کے بقدر بھی مجھ سے زیادہ نہ بڑھنے پائے۔ کیا یہ بات غرور میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ غرور یہ ہے کہ انسان حق کے سامنے اگڑے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے۔

باب: تہبند کس جگہ تک باندھے؟

۶۹۳: حفص بن عمر شعبہ علاء بن عبد الرحمن انکے والد عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے ابوسعید خدریؓ سے تہبند کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے ایک باخبر آدمی سے بات کی ہے۔ نبیؐ نے ارشاد فرمایا مسلمان کا تہبند نصف ساق تک ہوتا ہے اگر (تہبند یا پاجامہ) پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان باندھے تو کوئی حرج نہیں (گنجائش ہے) اور (اگر) ٹخنوں سے نیچے (باندھے) تو دوزخ میں داخل ہونے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی جانب نہیں دیکھے گا جو کہ تکبر کی بنا پر اپنا تہبند (پاجامہ وغیرہ) لٹکائے۔

۶۹۴: ہناد حسین، عبدالعزیز، سالم بن عبد اللہ ان کے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسبال (کپڑے کا لٹکانا) تہبند کرتے اور عمامہ میں ہوتا ہے۔ جس شخص نے تکبر کی بنا پر ان (اشیاء) میں سے کسی کو گھسیٹا (نیچے لٹکایا) تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی جانب نہیں دیکھے گا۔

عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا اتَى النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالَ وَأَعْطَيْتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أَحَبُّ أَنْ يَقُولَنِي أَحَدٌ إِنَّمَا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِي وَإِنَّمَا قَالَ بِشِئْخِ نَعْلِي أَلَمِنَ الْكِبَرِ ذَلِكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْكِبَرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ۔

باب فی قَدْرِ مَوْضِعِ الْإِذَارِ

۶۹۳: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَيْرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مِنْ جَرِّ إِزَارِهِ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْهِ۔

۶۹۴: حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ مَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

اسبال کا مفہوم:

اسبال کہتے ہیں بوجہ تکبر کپڑے نیچے لٹکانا کرتا پاجامہ چادر زرو مال ہر ایک کپڑے کو غرور کی بنا پر نیچے لٹکانا ناجائز ہے اور کرتے میں اسبال یہ ہے کہ آدمی کرتے کی آستینوں کو پیچھے سے نیچے لٹکائے اگلیوں کی گرہ تک اس طرح آستین لٹکانا بھی منع ہے اور اسبال میں داخل ہے۔

کپڑے کو شرعی مقدار سے زائد لٹکانے کی جو حرمت و کراہت منقول ہے اس کا تعلق محض ازرا یعنی تہبند و پاجامہ ہی سے نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بلکہ کرتے اور چٹری میں کپڑے کا اسراف کرنا اور ان کو شرعی مقدار سے زائد لٹکانا حرام و مکروہ ہے

جیسا کہ او پر منقول ہے مزید تفصیل کیلئے کتب فقہ ملاحظہ کیجئے۔

۶۹۵: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيْةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ -

۶۹۵: ہناؤ ابن المبارک ابوالصباح حضرت یزید بن ابی سمیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے تہبند (نیچے) لٹکانے کے بارے میں جو فرمایا ہے وہی (ممانعت) قمیص (نیچے) لٹکانے میں بھی ہے۔

۶۹۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِرُ فَبَضِعَ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مَقْدَمِهِ عَلَى ظَهْرٍ قَدَمَيْهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مَوْخِرِهِ قُلْتُ لِمَ تَأْتِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِرُهَا -

۶۹۶: مسدد یحییٰ محمد بن ابی یحییٰ حضرت عمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تہبند باندھے ہوئے دیکھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سامنے کی طرف سے (تہبند) اس قدر لٹکاتے کہ ان کے کپڑے کا کونہ پیروں پر آجاتا اور وہ پیچھے اُٹھا کر لیتے۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ آپ ﷺ اس طرح چادر کیوں باندھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضرت رسول کریم ﷺ کو اس طرح ازار باندھتے ہوئے دیکھا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل:

مذکورہ حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیروں پر کپڑے کا کنارہ اور کونہ آنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے کپڑے کا کنارہ کھڑے ہونے کی حالت میں ان کے ٹخنوں پر رہتا اور اسہال کے متعلق تفصیلی بحث درس ترمذی از حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی میں مذکور ہے جس کا کچھ خلاصہ جلد اول میں بھی گزر چکا ہے۔

اگر تہبند کے آگے سے لٹکا ہوا ہو لیکن پیچھے سے اٹھا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں:

اس سے معلوم ہوا کہ تہبند و پا جامہ آگے کی طرف تو لٹکا رہے لیکن پیچھے کی طرف سے ٹخنوں سے اوپر اٹھا رہے تو عدم اسہال یعنی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کے حکم کی تعمیل کے لئے کافی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پارہ ۲۶

باب: خواتین کے لباس کا بیان

۶۹۷: عبید اللہ بن معاذ، ان کے والد شعبہ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی خواتین پر اور خواتین کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی۔

باب فی لباس النساء

۶۹۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ۔

مستحق لعنت افراد:

مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایسی خواتین پر لعنت بھیجی جو کہ خواتین کی وضع قطع چھوڑ کر مردوں کی وضع قطع اختیار کریں۔ اسی طرح جو مرد مردانہ وضع قطع چھوڑ کر خواتین کی وضع قطع اختیار کرنے جیسا کہ آج کل عورت و مرد اس قسم کے لباس استعمال کرنے لگے ہیں کہ مرد عورت معلوم ہوتا ہے اور عورت مرد معلوم ہوتی ہے ایسے افراد کے لئے اس حدیث میں سخت وعید ہے۔

۶۹۸: زہیر بن حرب، ابو عامر، سلیمان بن بلال، سہیل، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو خواتین کا لباس پہنے اور آپ ﷺ نے اس خاتون پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کا لباس ہے۔

۶۹۸: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سَهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ۔

۶۹۹: محمد بن سلیمان، سفیان، ابن جریج، حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ایک عورت (مردوں والا) جوتا پہنتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آنحضرت ﷺ نے مرد بننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔

۶۹۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنٌ وَبَعْضُهُ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ أَمْرَأَةً تَلْبَسُ التَّعْلَ لَفَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ۔

خلاصۃ الباب: ان احادیث مبارکہ میں ان عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے جو اپنے آپ کو وضع قطع رہن سہن اور لباس وغیرہ میں مردوں کے مشابہ بناتی ہیں۔ شرعہ الاسلام کی شرح میں لکھا ہے کہ مہندی لگانا عورتوں کے لئے تو مسنون ہے اور مردوں کے لئے بلا عذر لگانا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اس قول سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے مہندی سے بالکل عاری رہنا مکروہ ہے کیونکہ اس صورت میں اس کی مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيهِنَّ﴾
 باب: آیت ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيهِنَّ﴾
 (عورتیں اپنی چادریں لٹکا کر رکھیں)

۷۰۰: ابوالکامل ابو عوانہ ابراہیم صنفیہ بنت شیبہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ انہوں نے انصاری خواتین کا تذکرہ فرمایا تو انکی تعریف بیان فرمائی اور ان کیلئے اچھی بات کہی اور فرمایا جب سورہ نور کی آیت: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ﴾ نازل ہوئی یعنی اے نبی ایمان والی خواتین سے فرمادیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو تھامے رکھیں اور اپنا سنگھار نہ دکھلائیں مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے (یعنی چہرہ ہاتھ پاؤں) اور اپنے دوپٹے اپنے گریبان تک ڈالے رکھیں) تو انہوں نے پردوں کو یا تہبندوں (راوی کو شک ہے) کو چاک کر کے دوپٹے بنا لئے۔

۷۰۱: محمد بن عبید محمد بن ثور معمر ابن شمیم صنفیہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ﴾ نازل ہوئی یعنی وہ خواتین اپنے اوپر تھوڑی سی چادریں لٹکالیں تو انصاری خواتین اس طرح نکلتی تھیں جیسے کہ ان کے سروں پر کتے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ کالے رنگ کے کپڑے سروں پر ڈال لیا کرتی تھیں۔

باب: آیت کریمہ: ”اور دوپٹوں کو گرہ بانوں پر

ڈالے رکھیں“ کے بارے میں

۷۰۲: احمد بن صالح سلیمان ابن السرح احمد بن سعید ابن وہب قرہ ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان خواتین پر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے سب سے شروع میں ہجرت کی تھی جب اللہ تعالیٰ قدوس نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ یعنی اپنے دوپٹوں کو اپنے گرہ بانوں پر لٹکا دیں تو انہوں نے اپنے پردوں کو چاک کر کے اپنے دوپٹے بنا لئے گویا اسی وقت تعمیل حکم کی۔ ابن صالح نے اکتف کے بجائے اکتف کہا ہے۔

۷۰۳: ابن سرح نے بیان کیا کہ میں نے اپنے ماموں کی کتاب میں

۷۰۰: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
 اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ
 عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فَانْتَبَهَتْ
 عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا وَقَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ
 سُورَةُ النُّورِ عَمِدْنَ إِلَى حُجُورٍ أَوْ حُجُورٍ شَكَّ
 أَبُو كَامِلٍ فَشَقَّقَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُ خُمُرًا۔

۷۰۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ
 مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ حُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ
 أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 جَلَابِيهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى
 رُؤُسِهِنَّ الْغُرَبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ۔

باب فِي قَوْلِهِ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

عَلَى جُيُوبِهِنَّ

۷۰۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ح وَ حَدَّثَنَا
 سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ
 بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ
 أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْلُوفِيُّ عَنِ ابْنِ
 شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ
 يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ
 وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ فَشَقَّقْنَ أَكْتَفَ
 قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْتَفَ مَرُوطَهِنَّ فَاحْتَمَرْنَ بِهَا۔

۷۰۳: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ

بواسطہ عقیل ابن شہاب اسی طرح روایت دیکھی ہے۔

خَالِي عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ -

باب: عورت کو نسا سنگھار ظاہر کر سکتی ہے؟

بَابُ فِيمَا تُبَدَى الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا

۷۰۳: یعقوب مؤمل ولید سعید قتادہ خالد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور ان کے جسم پر باریک کپڑے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا اے اسماء جب عورت کو حیض آنے لگے تو یہ بات صحیح نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ اس کے علاوہ نظر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے اور خالد بن دریک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیکھا۔

۷۰۳: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاقِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَيَّ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يَدْرِكْ عَائِشَةَ -

باریک کپڑا پہننا:

بطلب یہ ہے کہ اس قدر باریک کپڑا جس سے جسم کی ساخت محسوس ہو عورت کو اس کا پہننا جائز نہیں اور محرم کے سامنے عورت کو چہرہ گئے اور ہاتھوں کا کھولنا درست ہے اس کے علاوہ اعضاء کا کھولنا درست نہیں اور پردے سے متعلق تفصیلی احکام حضرت تھانوی کے رسالہ ”پردے کے شرعی احکام“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

باب: غلام کا اپنی مالکہ کا سر کھلا ہوا دیکھنے کا بیان

بَابُ فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَانِهِ

۷۰۵: تھیہ یزید لیث ابن زبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹگی لگانے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطیبہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹگی لگانے کا حکم فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابوطیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دودھ شریک بھائی تھے یا ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔

۷۰۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ مَوْهَبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَحَاهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ أَوْ غَلَامًا لَمْ يَحْتَلِمَ -

۷۰۶: محمد بن عیسیٰ ابوجحج ثابت انس سے روایت ہے کہ نبی فاطمہ کے پاس ایک غلام لے کر تشریف لائے جو انہیں ہبہ کیا تھا۔ اس وقت فاطمہ ایک کپڑا پہنے ہوئے تھیں جب وہ اس کپڑے سے سر چھپاتیں تو وہ کپڑا

۷۰۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بَعْدُ كَانَ قَدْ

وَهَبَ لَهَا قَالٍ وَعَلَى فَاطِمَةَ نَوْبٌ إِذَا قُتِعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رَجُلِيهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رَجُلِيهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا تَلَقَى قَالٍ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَعُغْلَامِكُ -

تاگوں تک (پورا) نہ ہوتا اور جب تاگوں کو چھپائیں تو وہ کہڑا سر تک نہ پہنچ پاتا۔ نبی نے فاطمہ کو اس مشکل میں دیکھا تو فرمایا (اگر تمہارا سر یا تمہارے پاؤں کھلے جائیں تو) اس میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ یہ تمہارے والد ہیں یا تمہارا غلام ہے۔

مالکہ کا غلام سے پردہ:

واضح رہے کہ غلام اپنی مالکہ کا محرم ہوتا ہے اور جن حضرات نے اپنے غلام سے عورت کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا ہے اس حدیث کے بارے میں ان حضرات کی یہ رائے ہے کہ وہ غلام اس وقت بالغ نہیں تھا۔

باب فی قولہ: باب: ارشادِ باری تعالیٰ: ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ کے

بارے میں

﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾

۷۰۷: محمد بن عبید محمد بن ثور معمر زہری ہشام عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے ایک کی خدمت میں ایک بیچرا آتا تھا وہ اس کو ﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ میں سے سمجھتی تھیں۔ ایک دن نبی ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اس وقت وہ بیچرا بھی بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت کی تعریف و توصیف بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جب وہ عورت سامنے آتی ہے تو (موٹاپے کی وجہ) اس عورت کے پیٹ پر چار چار سلوٹیں ظاہر ہوتی ہیں اور جب وہ عورت پشت موڑ کر جاتی ہے تو آٹھ سلوٹیں نظر آتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ بھی خواتین کی باتوں سے واقف ہے اب یہ تم لوگوں کے پاس نہ آیا کرے اس وقت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اس سے پردہ کرنا شروع کر دیا۔

۷۰۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْنَتٌ فَكَانُوا يَعْدُونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْتَعُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بَارِبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِسَمَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا فَحَجَبُوهُ -

﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ سے مراد:

﴿غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کو عورت کی طرف رغبت نہیں ہوتی جیسے محنت مزدوری کرنے والے

کمانے والے صفائی کرنے والے یا بوڑھے ضعیف لوگ وغیرہ وغیرہ۔

۷۰۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ۷۰۸: محمد بن داؤد الرزاق معمر زہری عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث روایت ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچرے کو (میدان)

ابن وَهَبٌ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَأَخْرَجَهُ لَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطِعُمْ -

بیداء کی طرف نکلوا دیا اور وہ ہر جمعہ کو کھانا مانگنے کے لئے شہر میں آتا تھا۔

۷۰۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذْنٌ يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأِذْنٌ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ -

۷۰۹: محمود بن خالد عمر حضرت امام اوزاعی سے یہی حدیث روایت ہے اس میں اس طرح ہے کہ (جب آپ ﷺ نے اس بیخوے کو شہر بدر کر دیا) تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بھوکا مر جائے گا تو آپ ﷺ نے اس کو ایک ہفتے میں دو مرتبہ میں شہر میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائی تاکہ وہ بھیک مانگ کر شہر سے چلا جایا کرے۔

خلاصۃ الباب: مُخَنَّثٌ يَمْخِثُ (زیادہ صحیح مُخَنَّثٌ ہی ہے) اصل "مخنث" ہے جس کے لغوی معنی نرمی اور شکستگی کے ہیں۔ مخنث اس مرد کو کہتے ہیں جو عورتوں کا سالباس پہنے عورتوں کی طرح ہاتھ پیروں کو مہندی کے ذریعہ رنگین کرے بات چیت میں عورتوں کا لب و لہجہ اختیار کرے اور اسی طرح جملہ حرکات و سکنات میں عورتوں کا انداز اپنائے ایسے مرد کو ہماری بول چال میں بیخوہ یا زنانہ بھی کہا جاتا ہے۔ مخنث دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو خلقی کہ ان کے اعضاء جسم اور انداز میں خلقی اور جبلی طور پر عورتوں کی سی نرمی و لچک ہوتی ہے گویا ان میں قدرتی طور پر عورتوں کے اوصاف و عادات ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بعض مرد اگرچہ اپنے اعضاء جسم اور خلقت و جبلت کے اعتبار سے مکمل مرد ہوتے ہیں مگر جان بوجھ کر اپنے کو عورت بنانا چاہتے ہیں چنانچہ وہ بات چیت کے انداز اور رہن سہن کے طور طریقوں میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے فوطے اور عضو تناسل کٹوا کر نامرد بھی بن جاتے ہیں۔ مخنثوں کی اسی قسم کے حق میں لعنت و مذمت فرمائی گئی ہے۔ اس کے برخلاف پہلی قسم اس لعنت سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ تو معذوری کی شکل ہے اس میں اپنے قصد و ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

باب فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾

باب: ارشادِ ربّانی: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ

مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ کے بارے میں

۷۱۰: احمد بن محمد علی بن حسین ان کے والد یزید نحوی عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آیت کریمہ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ (یعنی مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں الخ کا حکم منسوخ ہوا اور اس سے وہ عورتیں مستثنیٰ ہو گئیں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور جنہیں نکاح کی طلب نہیں ہوتی۔

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾

۷۱۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَالِدِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الْآيَةَ فَيُسْخَرُ وَاسْتَسْنَى مِنْ ذَلِكَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّائِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا الْآيَةَ -

۷۱۱: محمد بن علاء ابن مبارک یونس زہری نبھان حضرت ام سلمہ رضی

۷۱۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ

اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر تھی اور آپ ﷺ کی خدمت میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں کہ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن اُمّ مکتوم رضی اللہ عنہا تشریف لائے اور یہ واقعہ پردے سے متعلق آیت نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ تو نابینا ہیں نہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہماری شناخت کر سکتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو کیا تم اس کو نہیں دیکھتیں۔

۷۱۲: محمد بن عبداللہ ولید اوزاعی، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روا کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگوں میں سے کسی شخص اپنے غلام کا نکاح اپنی باندی سے کر دے تو پھر اپنی باندی کا ستر دیکھے۔

۷۱۳: زہیر بن حرب و کعب داؤد بن سوار، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص اپنی باندی کا نکاح غلام یا خادم سے کر دے تو پھر اس کے ستر کو نہ دیکھے ناف کے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر تک۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں صحیح نام سواد بن داؤد ہے اور کعب سے اس میں خطا ہوئی ہے۔

باب: سر پر دوپٹہ اوڑھنے کا بیان

۷۱۴: زہیر بن حرب، عبدالرحمن (دوسری سند) مسدد یحییٰ سفیان، حبیب و ہب، حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ان کے پاس تشریف لائے اور وہ دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھیں تو آپ ﷺ نے فرمایا تم (دوپٹے کا) ایک ہی بچ رکھو اس کے دو بچ نہ کرو۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ لفظ لَیْتَنِی لَآ لَیْتَنِی کا مفہوم یہ ہے مرد کی طرح بگڑی نہ باندھیں یعنی دو بچ نہ دیں اس کے ایک یا دو گھوم

الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي نَبَّهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ كَأَنَّ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يَبْصُرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَى وَإِنْ أَنْتَمَا أَلْسْتُمَا تَبْصِرَانِهِ۔

۷۱۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَيْمُونِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا۔

۷۱۳: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزْنِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أُجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَصَوَابُهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ الْمُزْنِيُّ الصَّرَفِيُّ وَهَمَّ فِيهِ وَكَيْعٌ۔

باب كَيْفَ الْإِحْتِمَارُ

۷۱۴: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيْتَ لَيْتَ لَآ لَيْتَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَى قَوْلِهِ لَيْتَ لَآ لَيْتَيْنِ يَقُولُ لَا تَعْتَمُ

میں گمراہ نہ کریں۔

مِثْلَ الرَّجُلِ لَا تَكْرِرُهُ طَاقًا أَوْ طَاقِينَ -

خواتین کے لئے ایک ہدایت:

مطلب یہ ہے خواتین دوپٹہ اس طرح اوڑھیں کہ دوپٹہ اوڑھنے میں مردوں کے عمامہ باندھنے سے مشابہت نہ ہو اور دوپٹے کو

ایک ہی موڑ اوڑھیں۔

باب: خواتین کے لئے باریک کپڑا پہننے کا بیان

۷۱۵: احمد بن عمرو، احمد بن سعید، ابن وہب، ابن لہیعہ، موسیٰ بن جبیر، عبید اللہ بن عباس، خالد بن یزید، حضرت وحید بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ مصری کپڑے آئے تو آپ ﷺ نے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا مجھے بھی عکایت فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کپڑے کو چاک کر کے دو ٹکڑے کر کے اس میں سے ایک ٹکڑے کا قمیص (اپنے واسطے) بنا لو اور دوسرا ٹکڑا اپنی بیوی کو دے دو تاکہ وہ اس سے اپنا دوپٹہ بنا لے۔ راوی نے بیان کیا کہ جس وقت وحید نے پشت موڑی آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو بتا دینا کہ وہ اس دوپٹے کے نیچے ایک اور کپڑا بھی پہن لے تاکہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو یعنی اس کا جسم ننگا نظر نہ آئے۔ ابوداؤد فرماتے ہیں اس روایت کو یحییٰ بن ایوب نے روایت کرتے ہوئے (عبید اللہ بن عباس کے بجائے) عباس بن عبید اللہ بن عباس بیان کیا۔

بَابُ فِي لِبْسِ الْبَقَاطِي لِلنِّسَاءِ

۷۱۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَعَاوِيَةَ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقَاطِي فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ اصْطَعْهَا صَدْعَيْنِ فَأَقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ امْرَأَتَكَ تَحْتَمِرُ بِهِ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ وَأَمْرُ امْرَأَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -

خلاصہ الباب: ”بقاطی“ اصل میں ”قبطیہ“ کی جمع ہے، قبطیہ ایک خاص قسم کے کپڑے کو کہتے ہیں جو سفید اور مہین ہوتا تھا اور مصر میں بنا کرتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کوئی ایسا کپڑا پہننا چاہے جس کے نیچے بدن جھلکتا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ خالی وہی کپڑا نہ پہنے بلکہ کپڑے کے نیچے کوئی اور کپڑا لگالے تاکہ اس کا بدن نہ جھلکے۔

باب: عورت تہبند کتنا نکالے؟

۷۱۶: عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ابو بکر نافع، صفیہ بنت ابی عبید، ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کے سامنے جب تہبند کے بارے میں تذکرہ ہوا تو میں نے آپ کے سامنے عورت کے تہبند (یعنی شلوار وغیرہ عورتوں کے پاجامہ وغیرہ) کے بارے میں تذکرہ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! عورت کیا کرے؟ (یعنی اگر عورت شلوار پاجامہ تہبند وغیرہ نیچے تک نہ پہنے تو کیا

بَابُ فِي قَدْرِ الدَّيْلِ

۷۱۶: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تُرْجِي شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذَا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فِدْرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ -

کرے؟ کیونکہ ستر کھلنے کا اندیشہ ہے) آپ نے فرمایا عورت ایک بالشت تک (ازار وغیرہ) کو لمبا کرے پھر اُم سلمہ نے عرض کیا کہ تب بھی ستر کھلنے کا اندیشہ ہے تو آپ نے فرمایا پھر عورت ایک ہاتھ لمبا کرے اس سے زیادہ نہیں۔

۷۱۷: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَيُؤَبُّ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ -

۷۱۷: ابراہیم بن موسیٰ، عیسیٰ، عبید اللہ نافع، سلیمان بن یسار، حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابن اسحاق اور ایوب نے نافع، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے بیان کیا ہے۔

۷۱۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّلِيلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَرَزَاهُنَّ شِبْرًا فَكُنَّ يُرْسَلْنَ إِلَيْنَا فَتُدْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا -

۷۱۸: مسدد یحییٰ سفیان زید ابو صدیق، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لئے ایک بالشت تہبند لگانے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے (ازار) زیادہ (لمبا) کرنا چاہا تو آنحضرت ﷺ نے دو بالشت کی اجازت عطا فرمائی آپ ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہمارے پاس اپنا (لباس وغیرہ) بھیجا کرتی تھیں ہم اپنے ہاتھوں سے ان کپڑوں کی پیمائش کرتے تھے۔

باب: مرے ہوئے جانور کی کھال کے بارے میں

۷۱۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بِيَّانٍ وَعُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ أَهْدَيْتُ لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةً مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا دَبَّغْتُمْ إِيَّاهَا وَاسْتَفَعْتُمْ بِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا -

۷۱۹: مسدد وہب عثمان ابن ابی خلف سفیان زہری عبید اللہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ مسدد اور وہب کہتے ہیں کہ ميمونہ سے روایت ہے کہ ہماری آزاد کردہ باندی کو صدقہ کی ایک بکری ملی اور وہ مر گئی۔ حضرت رسول کریم ﷺ وہاں پر تشریف لائے تو آپ ﷺ نے فرمایا تم لوگ اس بکری کی کھال کو دباغت سے پاک بنا کر اپنے استعمال میں کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ وہ بکری تو مردار ہے آپ ﷺ نے فرمایا صرف اس بکری کو کھانا حرام ہے (اس کی کھال کو استعمال کرنا حرام نہیں ہے)

۷۲۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكَرْ مَيْمُونَةَ

۷۲۰: مسدد یزید معمر ابن شہاب زہری، حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا سے یہی حدیث روایت ہے اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ تم

قَالَ فَقَالَ أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكَرِ الدِّبَاغَ۔
لوگوں نے اس کی کھال سے کیوں نفع حاصل نہیں کیا اور اس روایت میں دباغت سے متعلق بیان نہیں کیا۔

۷۲۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَنْكُرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكَرِ الْأَوْزَاعِيَّ وَيُونُسَ وَعَقِيلُ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ الدِّبَاغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَفْصُ بْنُ الْوَلِيدِ ذَكَرُوا الدِّبَاغَ۔
۷۲۱: محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق، حضرت معمر نے بیان کیا کہ ابن شہاب زہری دباغت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اوزاعی، یونس اور عقیل نے زہری کی روایت میں دباغت کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور زبیدی اور سعید بن عبدالعزیز اور حفص بن ولید نے روایت میں دباغت کا تذکرہ کیا ہے۔

دباغت کی تعریف:

دباغت کہتے ہیں مٹی یا نمک یا راکھ یا مسالہ لگا کر کھال کو صاف کرنا اور مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز لگا کر کھال کو دھوپ میں رکھ کر صاف اور خشک کیا جاتا ہے جس سے کھال کی رطوبات خشک ہو جاتی ہیں انسان اور خنزیر کے علاوہ ہر ایک جانور کی کھال دباغت سے (خشک ہو کر) پاک ہو جاتی ہے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: ((کل اهاب دبیغ فقد طهر)) الحدیث

۷۲۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْسٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ۔
۷۲۲: محمد بن کثیر، سفیان، زید بن اسلم، عبد الرحمن، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے جب چمڑا (مسالے وغیرہ یا مٹی وغیرہ لگا کر) صاف ہو گیا تو وہ پاک ہو گیا۔

۷۲۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُوتَبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ۔
۷۲۳: عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، زید بن محمد بن عبد الرحمن ان کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے ہوئے جانوروں کی کھالوں سے فائدہ حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے جبکہ ان کو دباغت دے دی جائے۔

۷۲۴: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا قُرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ دَبَاغُهَا۔
۷۲۴: حفص بن عمر، موسیٰ بن اسماعیل، ہمام، قتادہ، حسن، جون، حضرت سلمہ بن محبت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں حضرت رسول کریم ﷺ ایک گھر میں تشریف لے گئے وہاں پر ایک مشک لٹکی ہوئی تھی (جو کہ پانی سے پوری بھری ہوئی تھی) آپ ﷺ نے اس میں سے پانی مانگا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ (مشک) مرے ہوئے جانور کی کھال کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ کھال دباغت

طُهورُهَا۔

دینے سے پاک ہوگئی ہے (اس کا استعمال بلاشبہ درست ہے)

۷۲۵: احمد بن صالح، ابن وہب، عمرو بن حارث، کثیر، عبد اللہ عالیہ بنت سبیح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ پر بکریاں تھیں وہ بکریاں مرنا شروع ہو گئیں تو میں ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کاش تم ان کی کھالوں کو لے کر ان سے نفع حاصل کرتیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا مرے ہوئے جانور کی کھال سے نفع حاصل کرنا درست ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جی ہاں یہ بات صحیح ہے ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگ حضرت رسول کریم ﷺ کے سامنے سے ایک مری ہوئی بکری گدھے کی طرح گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کاش تم لوگوں نے اس بکری کی کھال حاصل کر لی ہوئی۔ لوگوں نے عرض کیا (یا رسول اللہ ﷺ) وہ بکری مری ہوئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس میں کیا بات ہے؟ اس (بکری کی کھال) کو پانی اور قرظ پاک کر دیتا ہے۔

۷۲۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَعْنَى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سَبِيحٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِي عَنَمٌ بِأَحَدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا فَقَالَتْ أَوْ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجْرُونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطْهَرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ۔

قرظ کی تشریح:

قرظ ایک قسم کے درخت کے پتے ہوتے ہیں جس سے کھال صاف کی جاتی ہے۔ اب اس کی جگہ ”کیمیکلز“ نے لے لی ہے۔

باب: جن حضرات کی رائے میں مرے ہوئے جانور

بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهَا بَابِ

کی کھال دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتی

الْمَيْتَةِ

۷۲۶: حفص بن عمر شعبہ، حکم، عبد الرحمن، حضرت عبد اللہ بن عکیم سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کا خط سرزمین حبشہ میں ہم لوگوں کے سامنے پڑھا گیا میں اس وقت نوجوان تھا۔ اس خط میں تحریر تھا کہ تم لوگ مرے ہوئے جانوروں کی کھال سے فائدہ حاصل نہ کرو نہ تو اس کی کھال سے فائدہ حاصل کرو اور نہ ہی اس کے پٹھوں (وغیرہ) سے۔

۷۲۶: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ قَالَ قَرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَارِضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِهَا بَابٍ وَلَا عَصَبٍ۔

بغیر دباغت کھال استعمال کرنا:

مفہوم حدیث یہ ہے کہ مردار کی کھال بغیر دباغت کے استعمال نہ کرو البتہ دباغت کے بعد استعمال کرنا درست ہے۔

۷۲۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى يَسَى ۷۲۷: محمد بن اسماعیل ہاشم، ثقفی، خالد، حکم بن عیینہ سے روایت ہے کہ

وہ چند حضرات کے ساتھ عبداللہ بن عکیم کے پاس گئے جو کہ قبیلہ جہینہ کے ایک شخص تھے۔ تو حکم کہتے ہیں کہ میں دروازہ پر بیٹھا رہا اور وہ حضرات (گھر کے) اندر داخل ہوئے جب وہ حضرات باہر آئے تو مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن عکیم نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے جہینہ کے لوگوں کو تحریر کیا کہ مرے ہوئے جانوروں کی کھال اور پٹھوں سے فائدہ حاصل نہ کریں۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ نظر بن شمیل نے فرمایا اہاب دباغت دینے سے قبل والی کھال کو کہا جاتا ہے اور جب اس کھال کی دباغت دے دی جاتی ہے تو اس کو اہاب نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ثن یا قرہ کہا جاتا ہے۔

باب: چیتوں کی کھال کے بارے میں

۲۸: ہناد و کعب، ابی معمر، ابن سیرین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا نہ سوار ہوا کرو خالص ریشی زینوں پر اور نہ چیتوں کی کھال پر۔ علامہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ حدیث رسول کو بیان کرنے کے سلسلے میں تہمت زدہ نہیں تھے۔

۲۹: محمد بن بشار، ابوداؤد، عمران، قتادہ، زرارة، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں چلتے جن لوگوں کے پاس چیتے کی کھال ہوتی ہے (وہ لوگ تکبر کی بنا پر وہ کھالیں اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں)۔

۳۰: عمرو بن عثمان، بقیہ، یحییٰ، حضرت خالد سے روایت ہے کہ مقدم بن معدی کرب اور عمرو بن الاسود اور قبیلہ بنی اسد میں سے ایک شخص جو (مقام) قسریں کا باشندہ تھا معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقدم سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت مقدم نے کہا: اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِمَا رَاَيْتُمْ رَاَيْتُمْ پڑھا اس پر اس شخص نے کہا کیا آپ اس واقعہ کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ مقدم نے کہا میں اس واقعہ کو کس طرح

مَا سَمِعْنَا حَدَّثَنَا الْفَقِيْهُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُبَيْدَةَ اَنَّهُ اَنْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَكِيْمٍ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ لَدْخَلُوْا وَقَعَدْتُ عَلٰى الْبَابِ فَخَرَبُوْا اِلَيّْٖ فَاَخْبَرُوْنِيْ اَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَكِيْمٍ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ اَنْ لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ يَاهَابٍ وَلَا عَصَبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شَمِيْلِ يُسَمَّى يَاهَابًا مَا لَمْ يَدْْبَغْ لِاِذَا دَبِغَ لَا يُقَالُ لَهُ يَاهَابٌ اِنَّمَا يُسَمَّى شَنَا وَرَقْرَبَةً۔

باب فی جلود النُّمُوْرَا

۲۸: حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيْهِ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سَيْرِيْنَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَكِبُوْا الْخَزَّ وَلَا الْيَمَارَ قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يَتَّهَمُ فِي الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ۔

۲۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمْرٍ۔

۳۰: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ الْجَمِصِيِّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَحِيْرِ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَقَدْ اِمْقَدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْاَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي اَسَدٍ مِنْ اَهْلِ قَسْرِيْنَ اِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ اَعْلِمْتَ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تَوَلَّى فَرَجَعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَتَرَاهَا مُصِيْبَةً

مصیبت نہ سمجھوں کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا یہ بچہ ہے اور حضرت حسینؑ حضرت علی رضی اللہ عنہما سے ہیں۔ یہ بات سن کر قبیلہ اسد کے شخص نے کہا اللہ کی پناہ کہ وہ ایک آنکارہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت مقدم نے کہا لیکن میں آج کے دن تمہیں غصہ دلانے بغیر نہیں رہوں گا اور تمہیں ایسی بات سناؤں گا جو تمہیں ناگوار گزرے گی۔ پھر اس نے کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو تم مجھ کو سچا کہنا اور اگر جھوٹ بولو تو مجھے جھوٹا قرار دے دینا۔ معاویہ نے کہا میں اسی طرح کروں گا۔ مقدم نے کہا اللہ کی قسم تم نے نبیؐ سے سنا ہے آپ سونا پینے سے منع فرماتے تھے۔ معاویہ نے فرمایا جی ہاں سنا ہے۔ پھر مقدم نے کہا اللہ کی قسم تم واقف ہو کہ نبیؐ نے خالص ریشمی کپڑا پینے سے منع فرمایا ہے؟ معاویہ نے فرمایا: ہاں۔ مقدم نے کہا اللہ کی قسم تم واقف ہو کہ آنحضرت ﷺ نے درندوں کی کھالیں پینے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔ معاویہ نے کہا جی ہاں۔ حضرت مقدم نے کہا اللہ میں تو تمہارے گھر میں یہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہوں حضرت معاویہ نے فرمایا: اے مقدم! میں واقف ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ خالد کہتے ہیں کہ پھر معاویہ نے مقدم کو اس قدر مال دینے کا حکم فرمایا جس قدر اسکے دو رفیقوں کو عنایت نہیں فرمایا۔ اور آپ نے ان کے صاحبزادے کا حصہ دو سو والوں میں مقرر کیا۔ حضرت مقدم نے وہ مال اپنے رفقاء میں تقسیم کر دیا اور قبیلہ بنو اسد کے شخص نے اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہ دیا جب یہ اطلاع حضرت معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت مقدم ایک سخی شخص ہیں کہ جن کا ہاتھ کشادہ ہے اور جہاں تک اسدی کا تعلق ہے تو وہ اپنی چیز کو اچھی طرح روک کر رکھنے والا شخص ہے۔

قَالَ لَهُ وَلَمْ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَصَّعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَقَالَ هَذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنِّي عَلِيُّ فَقَالَ الْأَسَدِيُّ جَمْرَةٌ أَطْفَأَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ الْمَقْدَامُ أَمَا أَنَا فَلَا أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغَيِّظَكَ وَأَسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ إِنَّ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدَّقْتَنِي وَإِنِّي أَنَا كَذَبْتُ فَكَذَّبْتَنِي قَالَ أَفَعَلُ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُو مِنْكَ يَا مُقْدَامُ قَالَ خَالِدٌ فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ لِصَاحِبِيهِ وَقَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمَائِتِينَ فَفَرَّقَهَا الْمَقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ قَالَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَمَا الْمَقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ وَأَمَا الْأَسَدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْئِهِ -

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد:

مذکورہ حدیث میں آپ ﷺ کے ارشاد کہ حسن مجھ سے ہے مفہوم یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کے بہت مشابہ تھے اور آپ ﷺ ان سے غیر معمولی شفقت فرماتے اور ان کو گود میں بٹھا لیتے تھے اور بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اور قبیلہ بنی اسد کے شخص کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنکارے کا جو لفظ استعمال کیا اس سے اس شخص کا مقصد حضرت معاویہ

رضی اللہ عنہ کو خوش کرتا تھا اس لئے اس نے مذکورہ بات کہی۔ تاہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے حق میں اپنے ردِ عمل کا اظہار نہیں فرمایا اور حضرت مقدم کی بات کو بھی بڑے تحمل سے سنا بلکہ انہیں کثیر مال بھی دیا۔ اور یہ مسئلہ اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق ہے جس کی مکمل تفصیل علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی تالیف ”حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ“ اور دیگر کتب تاریخ میں ملاحظہ فرمائیں یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں۔

۷۳۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ.

۷۳۱: مسدّد اسماعیل یحییٰ سعید قتادہ حضرت ابوالملیح نے حضرت اُسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔

باب: جوتے پہننے کے بارے میں

باب فی الاتّعال

۷۳۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبُرَّازُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَكْفِرُوا مِنَ النَّعَالِ لِإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا اتَّعَلَ.

۷۳۲: محمد بن صباح ابن ابی الزناد موسی بن عقبہ ابو زبیر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کثرت سے جوتے پہنا کر واسلئے کہ انسان جس وقت تک جوتے پہنا رہتا ہے تو گویا وہ ہمیشہ سوار رہتا ہے (یعنی اس کا پیر تکالیف سے محفوظ رہتا ہے)

۷۳۳: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قَبْلَانِ.

۷۳۳: مسلم بن ابراہیم ہمام قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں دو تسمے لگے ہوئے تھے۔

۷۳۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

۷۳۴: محمد بن عبد الرحیم ابو احمد ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع فرمایا ہے۔

کھڑے ہو کر جوتا پہننا:

یہ حکم اس صورت میں ہے آدمی کو کھڑے ہو کر جوتے پہننے میں تکلیف ہو اور جوتا باندھتے وقت جھکتا پڑے لیکن جیسے عام طور پر آج کے دور میں کھلے جوتے چپل پہنے جاتے ہیں تو ان کو کھڑے ہو کر پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۷۳۵: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ ابْنَ الزِّنَادِ أَعْرَجَ، فَحَضَرَتْهُ ابْنَةُ رِيحٍ رَضِيَ

۴۳۵: سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے پھرے بلکہ دونوں جوتے پہنا کرے یا دونوں جوتوں کو اتار کر رکھ لیا کرے (ایسا نہ ہو کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو اور دوسرے میں نہ ہو کیونکہ یہ وقار کے منافی ہے)۔

۴۳۶: ابو ولید زہیر ابو الزبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک ہی جوتا پہن کر نہ چلے جب تک اس کا تسمہ ٹھیک نہ کر لے اور نہ ایک موزہ پہن کر چلے اور نہ (بلا عذر شرعی) بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔

۴۳۷: قتیبہ بن سعید صفوان بن عیسیٰ عبد اللہ بن ہارون زیاد بن سعد ابو نہیک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسنون یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیٹھے تو اپنے جوتے اتار کر پہلو میں رکھ لے (یا کسی جگہ رکھ دے)۔

۴۳۸: عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابو الزناد اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص جوتا پہنے تو اس کو چاہئے کہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب جوتا اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا جوتا اتارے تو دایاں پاؤں (جوتا) پہنتے وقت شروع میں رہے اور اتارتے وقت اخیر میں رہے۔

۴۳۹: حفص بن عمر مسلم بن ابراہیم شعبہ اشعث ان کے والد مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کو حتی الامکان اپنے جملہ امور دائیں جانب سے شروع کرنے بہت پسندیدہ تھے (یہاں تک کہ وضو کرنے کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں (بھی) اور مسلم شریف کی روایت میں اس قدر اضافہ ہے اور مسواک کرنے میں اور امام مسلم نے فی شانہ کلمہ کے الفاظ ذکر نہیں کئے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو معاذ نے شعبہ سے روایت کیا لیکن مسواک کرنے کا تذکرہ نہیں کیا۔

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْسِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَنْتَعِلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعَهُمَا جَمِيعًا۔

۴۳۶: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّلَيْسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْقَطَعَ شِئْءٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْسِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يَصْلِحَ شِئْءُهُ وَلَا يَمْسِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ۔

۴۳۷: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي نَهَيْكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعُهُمَا بِيَنْبِهِ۔

۴۳۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيَتَكُنَّ الْيَمِينُ أَوْ لَهَا مَاتَعَلُّ وَآخِرُهُمَا يَنْزَعُ۔

۴۳۹: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طَهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكَهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ۔

۷۴۰: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدُوا بِأَيِّمِنِكُمْ۔

۷۴۰: نَفِيلِيُّ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ أَبُو صَالِحٍ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم لباس تبدیل کرو یا وضو کرو تو تم اپنے دائیں جانب سے آغاز کرو۔

خلاصۃ الباب: مذکورہ مسئلہ میں اصل ضابطہ یہ ہے کہ جو عمل فضیلت و شان رکھتا ہو اس میں دائیں سے ابتداء کرنا مستحب ہے اور جو عمل ایسا نہ ہو اس میں بائیں سے ابتداء ہونی چاہئے چنانچہ جو تا پہننا چونکہ مسجد میں جانے اور دوسرے اعمال خیر کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لئے جو تا پہننے وقت دائیں پیر سے ابتداء کرنا مستحب ہے اس ضابطہ کی روشنی میں یہ بھی مستحب ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دائیں پیر رکھنا چاہئے اور وہاں سے نکلنے وقت پہلے بائیں پیر نکالنا چاہئے اس کے برخلاف بیت الخلاء جاتے وقت پہلے بائیں پیر اندر رکھنا چاہئے اور وہاں سے نکلنے وقت پہلے دایاں پیر نکالنا چاہئے۔ یہ تو ضابطہ کی بات تھی اس کے علاوہ اس حقیقت پر بھی نظر دینی چاہئے کہ بائیں پیر کے مقابلہ میں دائیں پیر کو فضیلت اور برتری کا درجہ حاصل ہے لہذا اس کی تکریم کو ملحوظ رکھنا چاہئے اور اس کی تکریم یہی ہے کہ جب جو تا پہننا جائے تو پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالا جائے اور جب جو تا اتارا جائے تو پہلے بائیں پیر کا جو تا نکالا جائے تاکہ دایاں پیر بائیں پیر کی بہ نسبت جوتے میں زیادہ دیر تک رہے یہ گویا دائیں پیر کے اعزاز و احترام کا ذریعہ ہے اسی پر مسجد وغیرہ میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

باب: بستر کا بیان

باب فی الفراش

۷۴۱: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي هَانِيءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُشَ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلصَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ۔

۷۴۱: يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بستر کے بارے میں تذکرہ ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا انسان کو ایک بستر اپنے لئے رکھنا چاہئے اور دوسرا بستر اپنی اہلیہ کے لئے اور ایک بستر مہمان کے لئے اور چوتھا بستر شیطان کے لئے ہوتا ہے۔

ضرورۃ بستر رکھنا:

مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے پاس تین بستر ہونے چاہئیں جن کی تفصیل اوپر مذکور ہے اور شیطان کے لئے جو چوتھا بستر فرمایا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تین سے زائد بستر اگر وہ بچوں یا مہمانوں سے زیادہ ہوں تو وہ فضول خرچی ہے جیسا کہ اکثر اہل دُنیا کے یہاں بلا ضرورت بستر اور قالین وغیرہ فاضل پڑے رہتے ہیں یہ غرور کی علامت ہوتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں میاں بیوی ہوں اور وہ استطاعت رکھتے ہوں تو ان کو اپنے یہاں تین بستر رکھنے چاہئیں ایک تو میاں کے لئے دوسرا بیوی کے لئے کہ شاید کسی وقت بیماری وغیرہ کی وجہ سے وہ تنہا سونا چاہے ورنہ میاں بیوی کو ایک بستر پر سونا اولیٰ ہے اور سنت کے مطابق ہے۔

- ۴۳۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح
و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ
إِسْرَائِيلَ عَنْ يَسْمَاقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
بَيْتِهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَكِنًا عَلَيَّ وَسَادَةٌ زَادَ ابْنُ الْجَرَّاحِ
عَلَى يَسَارِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْحَقُ بْنُ
مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ أَيْضًا عَلَى يَسَارِهِ۔
- ۴۳۳: حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ
إِسْحَقَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ رَأَى رُقُقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ
رَحَالَهُمُ الْآدَمُ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ
أَشْبِهَ رُقُقَةً كَانُوا بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ هَؤُلَاءِ۔
- ۴۳۴: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
ابْنِ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ أَتَخَذْتُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنْتَى لَنَا الْأَنْمَاطُ قَالَ
أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ۔
- ۴۳۵: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ
مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وَسَادَةٌ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ أَلْتِي يَنَامُ عَلَيْهَا
بِاللَّيْلِ ثُمَّ اتَّفَقَا مِنْ آدَمَ حَشَوْهَا لَيْفٌ۔
- ۴۳۶: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي
ابْنَ حَيَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَتْ ضِجَعَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ آدَمَ حَشَوْهَا لَيْفٌ۔
- ۴۳۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
- ۴۳۲: احمد بن حنبل وکعی (دوسری سند) عبد اللہ وکعی، اسرائیل، سماک
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت ﷺ
کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے آپ ﷺ کو تکیہ پر سہارا لگائے ہوئے
دیکھا تو ابن جراح نے اضافہ کیا کہ آپ ﷺ بائیں طرف کو سہارا لگا
ہوئے (تشریف فرما) تھے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو
اسحق نے اسرائیل سے روایت کیا ہے اور اس میں بھی لفظ علی یسارہ
موجود ہے (یعنی بائیں طرف آپ ﷺ سہارا لگائے ہوئے تھے)۔
- ۴۳۳: ہناد وکعی، اسحق بن سعید ان کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے چند ساتھیوں کو دیکھا جو کہ
یمن کے باشندہ تھے ان لوگوں کے بسترے کھالوں کے بنے ہوئے
تھے تو انہوں نے فرمایا جس شخص کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
سے بہت مشابہت والے ساتھیوں کو دیکھنا پسند ہو تو وہ ان حضرات کو
دیکھ لے۔
- ۴۳۴: ابن سرح، سفیان ابن المنکدر، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا تم نے تو تھکیں (چادریں)
بنائیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگوں کے پاس تو تھکیں کہاں؟
آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا عنقریب تم لوگوں کو تو تھکیں ملیں گی۔
- ۴۳۵: عثمان، احمد بن منیع، ابو معاویہ، ہشام ان کے والد حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا تکیہ مبارک کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تکیہ لگا کر
سویا کرتے تھے وہ دباغت شدہ کھال کا تھا اور کھجور کے پوست سے
بھرا ہوا تھا۔
- ۴۳۶: ابوتوبہ، سلیمان ابن حبان، ہشام ان کے والد حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کا گدا دباغت
شدہ کھال کا بنا ہوا تھا اور اس گدے کا بھراؤ کھجور کے پوست کا تھا۔
(واضح رہے کہ کھال چمڑے کا تکیہ بستر گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا رہتا ہے)
- ۴۳۷: مسدد، یزید بن زریع، خالد حذاء، ابوقلابہ، حضرت زینب، حضرت

حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا حِيَالِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
 اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ان کا بستر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کے سامنے تھا۔

باب فِي اتِّخَاذِ السُّتُورِ

باب: پردہ لٹکانا

۷۳۸: عثمان بن ابی شیبہ، ابن نمیر، فضیل، نافع، عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبیؐ فاطمہؑ کے گھر پر تشریف لائے تو انکے گھر کے دروازہ پر ایک پردہ لٹکتا ہوا دیکھا۔ آپؐ گھر میں تشریف نہ لے گئے بلکہ باہر سے ہی واپس تشریف لے آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپؐ بہت کم ایسا کرتے تھے کہ گھر میں تشریف لے جائیں اور فاطمہ زہراؑ سے بات چیت نہ فرما لیں۔ جب علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو انہوں نے فاطمہ زہراؑ کو دیکھا کہ وہ غمگین بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے فاطمہ! کیا بات ہے؟ فاطمہ نے کہا کہ میری طرف نبیؐ تشریف لائے تھے لیکن آپؐ اندر تشریف نہیں لائے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات سن کر خدمت نبویؐ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فاطمہؑ کو آپؐ کی تشریف لانا اور (اندر مکان میں) ان کے پاس تشریف نہ لے جانا بہت گراں محسوس ہوا ہے۔ آپؐ نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا تعلق، میرا اور نقوش و نگار کا کیا تعلق۔ یہ بات سن کر علیؑ فاطمہؑ کے پاس تشریف لے گئے اور نبیؐ کے فرمان کے بارے میں بتایا۔ فاطمہؑ نے فرمایا تو اب آپؐ نبیؐ سے دریافت کریں کہ میں اس پردہ کا کیا کروں؟ آپؐ نے فرمایا فاطمہ سے کہہ دیں کہ (تم وہ پردہ) فلاں لوگوں کے پاس بھیج دو۔

حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى فاطمة فوجد على بابها ستراً فلم يدخل قال وقلما كان يدخل إلا بدأ بها فجاء علياً فراها مهتمة فقال ما لك قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل فاتاه علي فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جنتها فلم تدخل عليها قال وما أنا والذنيا وما أنا والرقم فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به قال قل لها فلتُرسل به إلى بني فلان -

۷۳۹: واصل بن عبد اللہ، ابن فضیل نے اپنے والد فضیل سے یہی روایت بیان کی گئی ہے البتہ اس روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ وہ پردہ منتقل تھا۔

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ سِتْرًا مَوْشِيًّا -

زینت کے لئے پردے لٹکانا:

ایسے پردہ لٹکانا کہ جس میں تصاویر نہ ہوں اور نقوش پھول بوٹے بنے ہوں اگرچہ درست ہے لیکن آنحضرت ﷺ نے اپنے اہل و عیال کے لئے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔
 بظاہر یہ حدیث اس حدیث کے منافی ہے جو اس سے پہلے گزری ہے کیونکہ پہلی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکلیف پر مبنی ہوئی

تصویریں گھر میں ملائکہ کو داخل ہونے سے روکتی ہیں، اگرچہ ایسی تصویروں کا گھر میں رہنے دینا حرام نہ ہو، اس صورت میں وہ دونوں تکیے جن پر تصویریں تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کیسے رکھے ہوئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان تکیوں پر جو تصویریں تھیں وہ کسی جاندار کی نہیں تھیں جن کا بنانا اور رکھنا حرام ہے اور آپ ﷺ نے جو اس پردہ کو پھاڑ ڈالا تھا تو اس کی وجہ بھی اس پردے پر تصویروں کی موجودگی نہیں تھی بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ درود یوار پر بلا ضرورت پردے لٹکانا منشاء خداوندی کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ پتھر اور مٹی کو کپڑے پہنائے جائیں جیسا کہ آگے آنے والی حدیث سے معلوم ہوگا اور اگر بالفرض وہ تصویریں کسی جاندار ہی کی تھیں تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ جب تکیہ بنانے کے لئے اس پردہ کی کانٹ چھانٹ ہوئی تو اس پر جو تصویریں تھیں ان کے سر کٹ گئے تھے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”هتك“ (کہ جس کا ترجمہ پھاڑ ڈالنا کیا گیا ہے) کے معنی ان تصویروں کو کاٹنا اور مٹا دینا ہیں جو اس پردہ پر تھیں۔

باب: جس کپڑے پر صلیب کی تصویر بنی ہوئی ہو

باب فی الصلیب فی الثوب

۷۵۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ۔

۷۵۰: موسیٰ بن اسماعیل ابان، یحییٰ، عمران، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ اپنے گھر میں ایسی چیز کو جس میں صلیب کی تصویر بنی ہوئی ہو بغیر توڑے نہیں چھوڑتے تھے۔

تصویروالی چیز مٹانے کا حکم:

مطلب یہ ہے کہ برتن، کپڑا وغیرہ کسی بھی باتصویر چیز کو آپ ﷺ کے لئے بغیر نہ چھوڑتے۔ تفصیل کے لئے حضرت مفتی اعظم پاکستان کی کتاب التصویر الاحکام التصویر ملاحظہ فرمائیں۔

باب: تصاویر کا بیان

باب فی الصور

۷۵۱: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَجِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ۔

۷۵۱: حفص بن عمر، شعبہ، علی بن مدرک، ابو زرعہ، عبد اللہ بن یحییٰ، ان کے والد، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر میں ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتے کہ جس میں ذی روح کی تصویر یا کتاب یا جنبی شخص ہو۔

تصویروالے مکان میں ملائکہ داخل نہیں ہوتے:

کرانا کاتبین اور انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے تو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں البتہ ان کے علاوہ جو دوسرے فرشتے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس مکان میں داخل نہیں ہوتے کہ جس کے بارے میں مذکورہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

نوٹ: یوں تو ہر طرح کی تصویر اور صورت بنانا ناجائز ہے تاہم اکثر علماء نے لڑکیوں کے لئے لڑکیوں کو مستثنیٰ رکھا ہے یعنی ان

کے نزدیک لڑکیوں کے حق میں گڑیاں بنانا مباح ہے لیکن امام مالکؒ نے مردوں کو ان کا خریدنا مکروہ قرار دیا ہے اور بعض علماء نے مذکورہ اباحت کو منسوخ قرار دیا ہے۔

۷۵۲: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمْنَالُ وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ نَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقْنَا فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ سَأَحَدِكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قَوْلَهُ فَأَخَذْتُ نَمَطًا كَانَ لَنَا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْعَرَضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّنِي وَأَكْرَمَنِي فَنَظَرْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ النَّمَطَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا وَرَأَيْتُ الْكِرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَاتَى النَّمَطَ حَتَّى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقْنَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَاللَّبْنَ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وَسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لَيْفًا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ۔

۷۵۲: وہب بن بقیہ، سعید بن یسار، سہیل بن یعنای، خالد بن خالد، حضرت سہیل بن یعنای ابن ابی صالح عن سعید بن یسار الانصاری عن زید بن خالد الجہنی عن ابی طلحہ الانصاری قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا تمنال وقال انطلق بنا الی ام المؤمنین عائشہ نساءلہا عن ذلک فانطلقنا فقلنا یا ام المؤمنین ان ابا طلحہ حدثننا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بكذا وكذا فهل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ذلک قالت لا ولكن ساعدکم بما رأیتہ فعل خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ وکنت اتحین قوالہ فأخذت نمطا کان لنا فسترتہ علی العرض فلما جاء استقبلتہ فقلت السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی اعزنی واکرمنی فنظرت الی البیت فرأیت النمط فلم یرد علی شیئا ورأیت الکراہیۃ فی وجہہ فاتی النمط حتی ہتکہ ثم قال ان اللہ لم یأمرنا فیما رزقنا ان نکسو الحجارة واللبن قالت ففقطعتہ وجعلتہ وسادتین وحشوتہما لیفا فلم ینکر ذلک علی۔

آپ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں فرمایا کہ ہم لوگ اس کے رزق میں سے اینٹ، پتھر کو کپڑا (لباس) پہنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پھر میں نے اس پردہ کو کاٹ کر اس کے دو ٹکے بنا لئے اور میں نے ان میں کھجور کے پوست بھر لئے۔ اس بات کا آپ ﷺ نے برائہ مانا۔

۷۵۳: عثمان بن ابی شیبہ، جریر، سہیل سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت ہے انہوں نے بیان فرمایا پس میں نے کہا اماں جان! انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا سعید بن یسار بنی النجار۔

۷۵۴: قتیبہ بن سعید، لیس، بکیر بن بسر بن سعید، زید بن خالد ابوطحہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ملائکہ رحمت اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں ذی روح کی تصویر ہو۔ بسر نے بیان کیا اس حدیث کے راوی زید بن خالد بیمار پڑ گئے پھر ہم لوگوں نے ان کی مزاج پڑسی اور عیادت کی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے جس میں تصویر بنی ہوئی ہے تو میں نے عبید اللہ خولانی سے جو ام المؤمنین میمونہ کے پردہ رکھتے تھے کہا کہ زید نے ہمیں تصویر کی ممانعت سے متعلق روایت نہیں سنائی تھی؟ پھر (یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے اپنے دروازے پر تصویر لگا رکھی ہے؟) عبید اللہ نے کہا تم نے ان سے نہیں سنا وہ یہ بھی تو فرماتے تھے ”مگر کپڑے پر جو پھول بونے ہوں“ (مطلب یہ ہے کہ صرف نقش و نگار اور پھول بونے ہیں اور یہ ممنوع نہیں ہیں)۔

۷۵۵: حسن بن صباح، اسماعیل، ابراہیم، ان کے والد وہب بن منبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور آپ ﷺ بطحا میں تھے تو آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں جائیں اور وہاں جس قدر تصاویر ہوں ان کو مٹادیں۔ پھر آنحضرت ﷺ بیت اللہ شریف میں تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ وہاں کی تمام تصاویر مٹائیں دی گئیں۔

۷۵۶: احمد بن صالح، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابن سباق، ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے میمونہ نے بتایا کہ نبی نے ارشاد فرمایا بے شک جبرائیل نے آج کی رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا مگر انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ پھر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ ہے۔ آپ نے اس کو باہر نکالنے کا حکم فرمایا پھر

۷۵۳: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّةَ إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَقَالَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ۔

۷۵۴: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ بَسْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ نَمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعَدَّنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ بَسْرٌ فِيهِ صُورَةٌ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعَهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ۔

۷۵۵: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مَنْبِهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَحَيْتَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا۔

۷۵۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ سَبَّاقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ

آپ نے اپنے دست مبارک سے پانی لے کر وہاں پر چھڑک دیا۔ پھر جبرئیل علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرئیل نے آپ سے فرمایا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتاب یا تصویر ہوں۔ پھر آپ نے صبح کے وقت کتوں کو مار دینے کا حکم فرمایا اور یہاں تک کہ آپ نے چھوٹے باغ کے حفاظت کرنے والے کتوں کو مار دینے کا حکم فرمایا اور بڑے باغ کے کتوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا (اس لئے کہ بڑے باغ کی حفاظت کے لئے کتے کی ضرورت ہوتی ہے)۔
(واضح رہے کہ کتے کو قتل کرنے کی روایت حکم کے اعتبار سے منسوخ ہے)۔

۷۵۷: ابوصالح، ابواسحق، یونس بن ابی اسحق، مجاہد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے تو مجھ سے کہا کہ میں گزشتہ رات میں بھی آپ ﷺ کے پاس آیا تھا مگر دروازے پر موجود تصویر نے مجھے اندر آنے سے روک دیا اور گھر میں رنگ دار تصاویر سے نقش کیا ہوا کپڑا تھا اور گھر میں کتاب بھی موجود تھا۔ لہذا آپ ﷺ تصاویر کے سر قلم کر دینے کا حکم فرمادیجئے جو تصاویر مکان میں ہیں کیونکہ پھر وہ درخت کی صورت ہو جائیں گے اور آپ ﷺ پھردے کے چاک کرنے کا حکم فرمادیجئے اس میں نشست کے لئے دو قالین بنائے جائیں تاکہ وہ پاؤں سے روندے جائیں اور آپ ﷺ کتے کے باہر نکالنے کا حکم فرمائیے چنانچہ آپ ﷺ نے اسی طرح کیا۔ کتاب شاید حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا تھا جو ان کے تخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے حکم فرمایا اور وہ نکال دیا گیا۔

وَعَدَنِي أَنْ يُلْقِيَنِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يُلْقِنِي ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرُّوْ كَلْبٍ تَحْتَ بَسَاطِ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَضَخَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ -

۷۵۷: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا نِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَائِيلٌ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سَبُرَ فِيهِ تَمَائِيلٌ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمَرُّ بِرَأْسِ التَّمَائِيلِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقَطِّعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرُّ بِالسَّبُرِ فَيُقَطِّعُ فَلْيَجْعَلْ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ مَبْرُودَتَيْنِ تُوَطَّانَ وَمُرُّ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرِجْ فَقَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنِ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَصْدِ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ -

أَوَّلُ كِتَابِ التَّرْجُلِ

بالوں میں کنگھی کرنے کا بیان

لُغَوِي تَشْرِيحٌ: "ترجل" عربی زبان میں کنگھی کرنے کو کہتے ہیں، خواہ اس کا تعلق سر میں کنگھی کرنے کا ہو یا داڑھی میں لیکن عام طور پر "ترجل" کا استعمال سر میں کنگھی کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اور داڑھی میں کنگھی کرنے کو "تسريح" کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔

۷۵۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرْجُلِ إِلَّا غَبًا۔
 ۷۵۸: مسدّد یحییٰ ہشام بن حسان حسن حضرت عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے روزانہ کنگھا کرنے سے منع فرمایا علاوہ ایک روز چھوڑ کر کیا جائے۔

روزانہ کنگھا کرنا:

حاصل یہ ہے کہ روزانہ کنگھانہ کرے بلکہ ایک دن ناغہ کر کے کرے کیونکہ روزانہ تیل کنگھا کرنا خواتین کے لئے مناسب ہے مردوں کو ایک دن چھوڑ کر یا ناغہ کر کے کرنا چاہئے۔

حَلَاصَةُ الْجَابِبِ: ”غب“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایک دن کیا جائے اور ایک دن ترک کیا جائے لہذا حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ کنگھی ہر روز نہ کی جائے بلکہ ایک دن کا ناغہ کر کے کی جائے، لیکن یہ ممانعت محض نہی تنزیہی کے طور پر ہے اور اس سے ضرورت و بے ضرورت ہر روز کنگھی کرنے کا اہتمام کرنے اور اس کو بطور عادت اختیار کر لینے کی ممانعت مراد ہے کیونکہ یہ زینت و آرائش میں مبالغہ اور بے جا تکلف و اہتمام کرنے کی صورت ہے۔

واضح رہے کہ لفظ ”غب“ جب ملاقات کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا زغباً تر دو جباً تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ ملاقات کی جائے اور جب یہ لفظ بخار کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس سے ایک دن کا ناغہ دے کر یعنی تیسرے دن کا بخار مفہوم ہوتا ہے اسی طرح مریض کی عیادت کرنے اور گوشت کھانے کے سیاق میں بھی اس سے مراد ایک دن کا ناغہ ہوتا ہے۔

ہر روز کنگھی کرنے کی ممانعت میں سر کے بالوں اور داڑھی دونوں میں کنگھی کرنا شامل ہے لہذا جو لوگ ہر وضو کے بعد کنگھی کرتے ہیں اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح احياء العلوم میں جو یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ ہر روز دو مرتبہ داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے تو اس حدیث کا بھی کوئی ثبوت نہیں پایا گیا ہے اور احياء العلوم میں امام غزالیؒ کے علاوہ کسی نے بھی اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے بلکہ شیخ ولی الدین العراقيؒ کے قول کے مطابق امام غزالیؒ نے احياء العلوم میں اس حدیث کے علاوہ بھی بعض ایسی احادیث نقل کی ہیں جن کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے۔

رہی یہ بات کہ روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت صرف مردوں کے لئے ہے یا مرد و عورت دونوں کے لئے؟ تو بظاہر یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ ممانعت صرف مردوں کے حق میں ہے کیونکہ عورتوں کے لئے زینت و آرائش کرنا مکروہ نہیں ہے تاہم بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس ممانعت کا تعلق مرد و عورت دونوں سے ہے لیکن وہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حق میں یہ ممانعت ہلکے درجے کی ہے کیونکہ ان کے لئے زینت و آرائش کا دائرہ مردوں کی بہ نسبت بہت وسیع ہے۔

۷۵۹: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ إِلَى فِصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ
 ۷۵۹: حسن بن علی یزید مازنی جریری حضرت عبد اللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ نبیؐ کے ایک صحابی نے فضالہ بن عبید کی طرف جانے کے لئے رخت سفر باندھا جو مصر میں تھے وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے ملنے کے لئے نہیں آیا لیکن تم نے اور میں نے مل کر نبیؐ

سے ایک حدیث سنی تھی ہو سکتا ہے وہ حدیث تم کو مجھ سے زیادہ محفوظ ہو۔ حضرت فضالہ نے دریافت کیا وہ کونسی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں حدیث اس صحابی نے فضالہ سے کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے بال بکھرے ہوئے دیکھتا ہوں حالانکہ تم سلطنت کے امیر ہو (یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جس وقت فضالہ بن عبید مصر کے گورنر تھے) انہوں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ ہمیں کثرت ارفاء (یعنی عیش و عشرت کی زیادتی) سے منع فرماتے تھے۔ پھر انہوں نے فضالہ سے کہا کہ تمہارے پاؤں میں جوتے کیوں نہیں۔ فضالہ نے کہا حضرت رسول کریم ﷺ نے کبھی کبھی برہنہ پاؤں رہنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔

۷۶۰: نفیلی، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاق، عبد اللہ بن ابی امامہ، عبد اللہ بن کعب، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں سنتے کہ سادہ وضع اختیار کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ سادہ وضع میں رہنا ایمان کی دلیل ہے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ابوامامہ بن ثعلبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (مراد ہے)۔

بِمَصْرٍ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الْأَرْضِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاءِ قَالَ فَمَا لِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا۔

۷۶۰: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ الْبِدَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ إِنَّ الْبِدَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ يَعْنِي التَّقْوَلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ۔

باب: خوشبو استعمال کرنا آپ ﷺ کی سنت ہے

۷۶۱: نصر بن علی، ابواحمد، شیبان، عبد اللہ بن مختار، موسیٰ بن انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ (یعنی مرکب خوشبو) تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔

باب ما جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ

۷۶۱: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا۔

باب: بالوں کو ٹھیک رکھنے کا بیان

۷۶۲: سلیمان بن داؤد، ابن وہب، ابن ابی الزناد، سمیل بن ابی صالح، ان کے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے بال ہوں اس کو چاہئے کہ وہ بالوں کو ٹھیک طریقہ سے رکھے (یعنی تیل، کنگھا کرتا رہے)۔

باب فِي إِصْلَاحِ الشَّعْرِ

۷۶۲: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ۔

باب: خواتین کے لئے مہندی لگانے کا بیان

۷۶۳: عبید اللہ بن عمر یحییٰ بن سعید علی بن مبارک حضرت کریمہ بنت ہمام سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مہندی کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں اس کو اس بناء پر مذموم سمجھتی ہوں کہ میرے رفیق حضرت رسول کریم ﷺ اس کی بو کو برا خیال فرماتے تھے۔

۷۶۴: مسلم بن ابراہیم غبط بنت عمرو ان کی پھوپھی اُم الحسن ان کی دادی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھ کو بیعت فرمائیجئے تو آپ ﷺ نے فرمایا جس وقت تک تم اپنے ہاتھوں کے رنگ تبدیل نہ کر لو گی تو میں تم کو بیعت نہ کروں گا۔ تمہاری دونوں ہتھیلیاں گویا کہ درندوں کی ہتھیلیوں جیسی ہے۔

باب فی الخضاب للنساء

۷۶۳: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْيَاحْنَاءِ فَقَالَتْ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ رِيحَهُ.

۷۶۴: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنِي غِبْطَةُ بِنْتُ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةُ قَالَتْ حَدَّثَنِي عَمَّتِي أُمُّ الْحَسَنِ عَنْ حَدِيثِهَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتُ عَتَبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايَعَنِي قَالَ لَا أَبَايَعُكَ حَتَّى تَغَيِّرِي كَفَيْكَ كَأَنَّهُمَا كَفَا سَجِيحًا.

خواتین سے بیعت:

رسول اللہ ﷺ خواتین سے بھی بیعت لیتے تھے لیکن ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں نہیں لیتے تھے بلکہ صرف زبان سے الفاظ کہلاتے تھے۔ اس حدیث میں خواتین کے لئے اپنے ہاتھوں کو مہندی لگانے کی ترغیب ہے۔

۷۶۳: ہندہ عتبہ کی بیٹی ابوسفیان کی بیوی اور معاویہ کی ماں تھیں انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بالا میں جس بیعت کا ذکر کیا گیا ہے وہ فتح مکہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن کا واقعہ ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے اور اس کو ترک کرنا مکروہ ہے اور یہ کراہت مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔

۷۶۵: محمد بن محمد خالد بن عبد الرحمن مطیع بن میمون صفیہ بنت عصمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے پردہ کی آڑ سے اشارہ کیا اور اس خاتون کے ہاتھ میں حضرت رسول کریم ﷺ کے نام خط تھا تو آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک کھینچ لیا اور فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟ فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو مہندی سے رنگتی (یعنی ہاتھوں کو مہندی لگانی چاہئے تھی) خواہ ناخن ہی پر مہندی لگالیتی۔

۷۶۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوَمْتُ امْرَأَةً مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ بَيْدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَبَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ امْرَأَةٌ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ بِعِنِي بِالْحِجَاءِ.

حَاضَةُ النَّبَاتِ: یہ حدیث عورتوں کے ہاتھوں پر مہندی لگانے کے استحباب کو اور رہن سہن کے طور طریقوں نیز آداب معاشرت کی تلقین کو بڑا زور انداز میں واضح کرتی ہے۔

باب فِي صِلَةِ الشَّعْرِ

۷۶۶: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ
سَمِعَ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجِّ وَهُوَ عَلَى
الْمِنْبَرِ وَتَنَاولَ قِصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ
حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيُّنَ عُلَمَائِكُمْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو
إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاءَهُمْ۔

۷۶۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْشِمَةَ
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ۔

۷۶۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَعُثْمَانُ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ
اللَّهُ الْوَأْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ
وَالْوَأْصِلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَمِّصَاتِ ثُمَّ
اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسَيْنِ الْمُغْفِرَاتِ خَلَقَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ
يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ
الْقُرْآنَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَاتُّهُ فَقَالَتْ بَلَّغْنِي عَنْكَ أَنَّكَ
لَعَنْتَ الْوَأْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ قَالَ مُحَمَّدٌ
وَالْوَأْصِلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَمِّصَاتِ ثُمَّ

باب: دوسرے کے بال اپنے بالوں میں ملانا

۷۶۶: عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب حضرت حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے اس سال سنا جب انہوں نے حج کیا اور وہ منبر پر تھے اور دربان کے ہاتھ سے بالوں کا ایک گچھا لیا اور فرمایا اے اہل مدینہ! تم لوگوں کے علماء کہاں ہیں؟ میں نے حضرت رسول کریم ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ اس سے منع فرماتے تھے اور آپ ﷺ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل تباہ ہوئے جب ان کی مستورات یہ کام کرنے لگیں۔

۷۶۷: احمد بن حنبل، مسدد، یحییٰ، عبید اللہ، نافع، عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی نے اس عورت پر لعنت فرمائی جو کہ دوسری عورت کے بال میں بال جوڑے اور اس عورت پر (لعنت فرمائی) جو کہ اپنے بالوں سے دوسرے (کے) بال جوڑے اور (لعنت فرمائی) جو دوسری عورت کا جسم گوندے اور نیل بھرے اور اس عورت پر (لعنت فرمائی) جو اپنا جسم گندوائے۔

۷۶۸: محمد بن عیسیٰ، عثمان بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابراہیم، حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو (جسم) نیلا گوندیں اور نیلا گندوائیں اور محمد بن عیسیٰ نے اپنی روایت میں یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو بالوں میں جوڑ لگائیں عثمان نے فرمایا اور اپنے بال اکھاڑیں اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے دانتوں میں حسن و جمال کے لئے کشادگی کریں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت شکل بدلنے کے لئے راوی کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا اس کو یہ اطلاع ہوئی وہ عورت قرآن کریم پڑھتی تھی وہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی کہ تم نے گوندنا لگانے والی

اتَّفَقَا وَالتَّمْتَلِحَاتِ قَالَ عُمَانُ لِلْحُسَيْنِ
 الْمُغَيْرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ وَمَا بِي لَا الْعَنُ
 مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
 فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ
 لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ
 كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا آتَاكُمْ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ
 إِنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا عَلَى أُمَّرَاتِكَ قَالَ فَادْخُلِي
 فَانظُرِي فَدَخَلْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ فَقَالَ مَا رَأَيْتِ وَ
 قَالَ عُمَانُ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتِ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ
 مَا كَانَتْ مَعَنَا۔

عورت پر لعنت کی ہے اور جس کے گوندنا لگایا جائے (یعنی جس کا جسم
 گوندا جائے) اور محمد بن عیسیٰ نے یہ بھی کہا بالوں میں جوڑ لگانے والی پر
 اور عثمان نے کہا روئیں اُکھاڑنے والی پر (اور لعنت فرمائی) دانتوں
 میں کشادگی کرنے والی پر عثمان نے کہا جو کہ حسن و جمال کے لئے اللہ
 تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل تبدیل کرے تو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا میں کیوں لعنت نہ بھیجوں اس شخص پر جس پر نبیؐ نے لعنت بھیجی
 ہو اور وہ کتاب اللہ کے اعتبار سے مستحق لعنت ہے۔ اس عورت نے کہا
 اللہ کہ میں نے دونوں گتوں کے درمیان قرآن پڑھا ہے لیکن مجھے یہ
 بات کہیں نہیں ملی۔ عبد اللہ نے کہا واللہ اگر تم کتاب اللہ کو غور و فکر کے
 ساتھ تلاوت کرتیں تو لازمی طور پر تمہیں یہ حکم مل جاتا۔ پھر انہوں نے
 آیت کریمہ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾ تلاوت کی۔ اس نے کہا

میں نے تمہاری بیوی کو اس میں سے بعض کام کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا بہت بہتر تم اندر جاؤ اور دیکھو وہ اندر گئی پھر باہر آئی
 اور کہا (وہاں) کچھ نہیں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ عورت اس قسم کی باتیں کرتی ہوتی تو ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔

۷۶۹: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
 أُسَامَةَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتِ الْوَأِصِلَةُ
 وَالْمُسْتَوِصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ
 وَالْوَأِشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ ذَا قَالَ أَبُو
 دَاوُدَ وَتَفْسِيرُ الْوَأِصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ
 بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوِصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا
 وَالنَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرْفَهُ
 وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالْوَأِشِمَةُ الَّتِي
 تَجْعَلُ الْخَيْلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلِ أَوْ مِدَادٍ
 وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ
 أَحْمَدُ يَقُولُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ۔

۷۶۹: ابن سرح، ابن وہب، اسامہ، ابان، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی
 اللہ عنہما نے فرمایا بالوں کے جوڑ لگانے والی اور لگوانے والی اور پیشانی
 کے بال اُکھاڑنے اور اُکھڑوانے والی اور گوندنے والی اور بلا عذر
 شرعی گندوانے والی پر لعنت کی گئی ہے۔ امام ابوداؤد نے فرمایا واصلہ اس
 کو کہتے ہیں جو کہ خواتین کے بالوں میں بال شامل کرے اور مستوصلہ
 اس کو کہتے ہیں جو بال شامل کرائے (یعنی بال طوائے) اور نامصہ اس
 کو کہتے ہیں جو کہ بھنوں کو برابر کرنے اور باریک کرنے کے لئے
 بھنوں کے بال اُکھیڑے اور متمصہ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ یہ
 کام کیا جائے اور واشمہ اس کو کہا جاتا ہے جو منہ پر سرمہ یا سیاہی سے تل
 بنائے اور مستوشمہ اس کو کہتے ہیں جو یہ فعل کرائے۔ امام ابوداؤد نے
 فرمایا احمد نے بیان کیا کہ کسی شے سے بالوں کو باندھنے میں کوئی حرج
 نہیں ہے۔

باب: خوشبو واپس کر دینے کا بیان

۷۷۰: حسن بن علی، ہارون بن عبد اللہ، عبد الرحمن، سعید، عبید اللہ، اعرج

باب فی ردِّ الطَّيِّبِ

۷۷۰: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو خوشبودی جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اسے واپس نہ کرے کیونکہ اس کی خوشبو عمدہ ہے اور کم وزن ہے۔

اللَّهُ الْمَعْنَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفْرَاءَ حَدَّثَهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ طِيبٌ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ -

باب: کوئی خاتون اگر گھر سے نکلنے کے لئے خوشبو

باب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَتَطَيَّبُ

استعمال کرے؟

لِلخُرُوجِ

۷۷۱: مسدّد یحییٰ، ثابت بن عمارہ، غنیم بن قیس، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی خاتون عطر لگائے اور پھر وہ مردوں کے درمیان جائے تاکہ وہ مرد اس کی خوشبو سونگھیں تو وہ خاتون ایسی ہے ایسی ہے یعنی آپ ﷺ نے ایسی خاتون کو شدید برا کہا۔

۷۷۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنِي غَنِيمُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَعَطَّرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَّابَةٌ وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا -

۷۷۲: محمد بن کثیر، سفیان، عاصم بن عبید اللہ، عبید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک خاتون ملی جس کے جسم سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی اور اس کا دامن ہوا میں اڑ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا اے جبار کی باندی! تم مسجد سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا تم نے خوشبو لگا لی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے جو میرے محبوب تھے آپ ﷺ فرماتے تھے جو خاتون خوشبو لگائے ہوئے مسجد میں داخل ہو اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس گھر پہنچ کر غسل جنابت جیسا غسل نہ کر لے۔

۷۷۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيْتُهُ امْرَأَةً وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطَّيْبِ يَنْفُحُ وَلَدَيْهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ جَنَّتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ جَبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ -

۷۷۳: نفیلی، سعید بن منصور، عبد اللہ بن محمد، یزید، بسر بن سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتون خوشبو کی دھونی حاصل کرے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء میں شامل نہ ہو (بلکہ گھر ہی میں پڑھے)۔

۷۷۳: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ قَالَ ابْنُ نَفِيلٍ عِشَاءَ الْآخِرَةِ -

باب: مردوں کے لئے خلوک لگانے کا بیان

۷۷۴: موسیٰ بن اسماعیل، حماد عطا خراسانی، یحییٰ بن یحییٰ، عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ میں رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور میرے دونوں ہاتھ (سردی وغیرہ کی وجہ سے) پھٹ گئے تھے تو میرے گھر کے لوگوں نے مجھے زعفران کا خلوک لگا دیا (خلوق ایک قسم کی مرکب خوشبو ہوتی ہے) پھر صبح کے وقت میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور نہ (حسب عادت) مرحبا فرمایا اور فرمایا تم جا کر اس کو (پانی سے) دھولو۔ چنانچہ میں چلا گیا اور اس کو دھو کر پھر خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس کا ایک نشان میرے اوپر باقی رہ گیا تھا میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا اور نہ مرحبا فرمایا اور فرمایا تم جا کر اسکو دھو لو میں چلا گیا اور اس کو دھو کر پھر حاضر ہوا اور سلام عرض کیا تو آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور مرحبا فرمایا اس کے بعد فرمایا ملائکہ کافر کے جنازے پر خیر لے کر نہیں آتے اور نہ ہی اس شخص کے پاس جو زعفران میں تھمڑا ہوا ہو اور نہ ہی ناپاک شخص کے پاس آتے ہیں لیکن آپ نے ناپاک شخص کو اجازت دی کہ جب وہ کھائے پئے تو (اگر غسل نہ کر سکے تو کم از کم ناپاک کی زائل کر کے) وضو کرے۔

۷۷۵: نصر بن علی، محمد بن بکر، ابن جریج، عمر بن عطاء بن ابی الحواری یحییٰ بن یحییٰ، ایک شخص، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت ہے لیکن روایت اول مکمل ہے اس میں غسل کا تذکرہ ہے۔ ابن جریج نے بیان کیا میں نے عمر بن یحییٰ سے کہا کیا لوگ اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا: نہیں بلکہ تمام لوگ اپنے گھروں میں مقیم تھے۔

۷۷۶: زہیر بن حرب، ابو جعفر، حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ اپنے دادا اور نانا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز قبول نہیں

باب فی الخلوک للرجال

۷۷۴: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَقُونِي بِزَعْفَرَانَ فَعَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ فَذَهَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَرَحَّبْ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَلَا الْمُتَضَمِّعِ بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنْبِ قَالَ وَرَخَّصَ لِلْجُنْبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ۔

۷۷۵: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي الْخَوَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ زَعَمَ عَمْرٌ أَنَّ يَحْيَى سَمِيَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَسَمِيَ عَمْرَ اسْمَهُ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ تَخَلَّقْتُ بِهِدِهِ الْقِصَّةَ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ بِكَيْفٍ فِيهِ ذِكْرُ الْغُسْلِ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍ وَهُمْ حُرْمٌ قَالَ لَا الْقَوْمُ مُقِيمُونَ۔

۷۷۶: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ الْآسَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْآسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ

جَدَّيْهِ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقٍ قَالِ أَبُو دَاوُدَ جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزَيْدَاٌ۔

فرماتے جس شخص کے جسم میں تھوڑا سا بھی خلوق لگا ہوا ہو۔ امام ابوداؤد نے فرمایا کہ ان کے دادا اور نانا کا نام زید اور زیاد ہیں۔ (خلوق ایک قسم کی مرکب خوشبو ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس احادیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مردوں کو جسم اور لباس پر زعفران ملنا ممنوع ہے)۔

خلاصة الباب: "خلوق" ایک قسم کی خوشبو کو کہتے ہیں جو زعفران وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، خلوق استعمال کرنے کی یہ ممانعت صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کو اس کا لگانا درست ہے اگرچہ ایسی احادیث بھی منقول ہیں جن سے مردوں کے لئے بھی خلوق کے استعمال کی اباحت ثابت ہوتی ہے لیکن ایسی احادیث زیادہ منقول ہیں جن سے ممانعت ثابت ہوتی ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اباحت کی حدیثیں منسوخ ہیں۔ مردوں کے لئے خلوق کا استعمال اس لئے ممنوع ہے کہ وہ خاص طور پر عورتوں کی خوشبو ہے۔

رہی یہ بات کہ بعض صحابہؓ کے بارے میں جو یہ منقول ہے کہ انہوں نے خلوق کا استعمال کیا جو زعفران سے بنائی جانے والی ایک خوشبو ہے تو وہ اس ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔

۷۷۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ حَمَادَ بْنَ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَانَاهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَعْفْرِ لِلرِّجَالِ وَقَالَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ يَتْرَعْفَرَ الرَّجُلُ۔

۷۷۷: مسدّد، حماد، اسماعیل، عبدالعزیز بن صہیب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفران ملنے سے منع فرمایا ہے اور راوی اسماعیل سے اُن یَتْرَعْفَرَ الرَّجُلُ (یعنی مرد زعفران لگائے) کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔

۷۷۸: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْبَسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَيْفَةُ الْكَاْفِرِ وَالْمُتَضَيِّعُ بِالْخَلْقِ وَالْحَنْبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ۔

۷۷۸: ہارون بن عبداللہ، عبدالعزیز بن عبداللہ، ابویسیٰ، حدیثنا سلیمان بن بلال، عن ثور بن زید، عن الحسن بن ابی الحسن، عن عمار بن یاسر، ان رسول اللہ ﷺ قال ثلاثه لا تقرّبهم الملائكة حيفة الكافر والمتضيع بالخلق والحنب الا ان يتوضأ۔

۷۷۹: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقَبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِيَابِهِمْ

۷۷۹: ایوب بن محمد، الرقی، حدیثنا عمرو بن ایوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحججاج، عن عبد اللہ الہمدانی، عن الولید بن عقبہ، قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصيَابِهِمْ

بھی آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر کیا گیا لیکن میں (اس وقت) خلوق ملے ہوئے تھا اس لئے آپ ﷺ نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔

۷۸۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ اَبْرٌ صُفْرَةٌ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَلَمًا يُوَاجَهُ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بَشِيءٌ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ۔

۷۸۰: عبید اللہ بن عمر، حماد بن زید، سلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس پر (زعفران کی) زردی کا دھبہ تھا اور آپ ﷺ کسی کے سامنے بہت کم اس بات کو ذکر فرماتے جس کو آپ ﷺ ناگوار خیال فرماتے (تاکہ اس کی سبکی نہ ہو) جب وہ شخص باہر نکلا تو آپ ﷺ نے فرمایا کاش تم اس سے کہہ دیتے کہ وہ اس زردی کو دھو ڈالے۔

حلاصۃ الباب: یہ ممانعت اس لئے ہے کہ کپڑے یا بدن پر زعفران ملنا عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ رہی یہ بات کہ بعض صحابہ کے بارے میں جو یہ منقول ہے کہ انہوں نے خلوق کا استعمال کیا جو زعفران سے بنائی جانے والی ایک خوشبو ہے تو ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے جیسا کہ گزشتہ صفحات کے ذیل میں لکھ آیا ہوں۔

حدیث ۷۷۸ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے علم میں وہ عذر نہیں آیا ہوگا جس کی بناء پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس خوشبو کا استعمال کیا تھا چنانچہ آپ ﷺ نے ان کے سلام کا جواب نہ دے کر اپنی خشکی کا اظہار فرمایا یا یہ کہ آنحضرت ﷺ کو عمار کا اپنے ہاتھوں پر خوشبو لگائے ہوئے باہر نکلنا پسند نہیں آیا۔

باب: بال رکھنے کا بیان

۷۸۱: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَكَعْبُ سَفِيَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ، حَضْرَتُ بَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَے رَوَايَتُ هِيَ كَه فِي مَن فِي كَسَى كَو جَو كَه كَان سَے نِيچے بَال رَكھتا ہو لال رنگ کا جوڑا (کپڑے) پہنے ہوئے ہو آنحضرت ﷺ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ محمد بن سلیمان نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ آپ ﷺ کے (سر کے بال) مونڈھوں تک لگتے تھے۔ امام ابوداؤد نے فرمایا اسرائیل نے ابواسحق سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بال مونڈھوں تک لگتے تھے اور شعبہ نے بیان کیا کہ آپ ﷺ کے بال مبارک کانوں کی لوتک (لگتے تھے)

۷۸۲: مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرُ ثَابِتٌ، حَضْرَتُ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَے رَوَايَتُ هِيَ كَه آنحضرت ﷺ کے بال (مبارک) کانوں کی لوتک (لگتے تھے)۔

باب مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

۷۸۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْإِبْرَائِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سَفِيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ وَ قَالَ شُعْبَةُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ۔

۷۸۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ۔

۷۸۳: مسدؤ اسماعیل، حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بال کانوں کے آدھے حصہ تک تھے۔

۷۸۴: ابن نفیل، عبدالرحمن ہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال (مبارک) دفرہ سے زیادہ اور جمد سے کم تھے۔

۷۸۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ۔

۷۸۴: حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوُفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ۔

دفرہ اور جمد:

دفرہ ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کانوں کی لو تک ہوں اور جمد وہ بال کہے جاتے ہیں جو کہ مونڈھوں تک ہوں۔ شمال ترمذی میں آپ ﷺ کے بالوں کی مکمل تفصیل مذکور ہے۔

۷۸۵: حفص بن عمر، شعبہ، ابو اسحق، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے (سر کے) بال مبارک کان کی لو تک تھے۔

۷۸۵: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ۔

خلاصۃ الباب: سر کے بالوں کو عربی میں تین ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک تو جمد، دوسرے دفرہ اور تیسرے لہہ چنانچہ اگر کسی شخص کے سر پر اتنے لمبے بال ہوں جو کانوں تک پہنچ جائیں تو ان بالوں کو جمد کہتے ہیں اور اگر کان کے لوؤں تک بال ہوں تو ان کو دفرہ کہتے ہیں اور جو بال کان کی لو اور کاندھے کے بین بین ہوتے ہیں یعنی کان کی لو سے تو نیچے ہوں لیکن کاندھوں سے اوپر ہوں تو ان کو لہہ کہتے ہیں۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جمد مطلق بالوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ شمال ترمذی میں یہ منقول ہے کہ: وکانت جمۃ تضرب شحمة اذنیہ۔

باب: (سر میں) مانگ نکالنے کا بیان

باب مَا جَاءَ فِي الْفُرْقِ

۷۸۶: موسیٰ بن اسماعیل، ابراہیم، ابن شہاب، عبید اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) اپنے سر کے بالوں کو اسی طرح لمبے چھوڑ دیتے تھے اور مشرکین اپنے سروں میں مانگ نکالتے تھے اور آنحضرت ﷺ اس کام میں اہل کتاب سے مطابقت کو پسند فرماتے تھے جس میں آپ ﷺ کو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) حکم نہ ہوتا اس وجہ سے آپ ﷺ نے اپنے ماتھے کے بال (نیچے) لٹکا دیئے پھر آپ ﷺ اپنے سر (مبارک)

۷۸۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَعْنِي يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجُّبُهُ مَوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ لَمْ فَارْقَ بَعْدُ - میں مانگ نکالنے لگے۔

۷۸۷: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدَعْتُ الْفُرْقَ مِنْ يَافُوخِهِ وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔

۷۸۷: یحییٰ بن خلف، عبد الاعلیٰ، محمد بن اسحاق، محمد بن جعفر، عروہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں جب آپ ﷺ کے (مبارک) بالوں کی مانگ نکالنے کا ارادہ کرتی تو آپ ﷺ کے سر مبارک کے درمیان میں سے مانگ نکالتی اور آپ ﷺ کے مبارک ماتھے کے بالوں کو دونوں آنکھوں کے درمیان میں لٹکا دیتی (یعنی آپ ﷺ کی پیشانی کے بال آدھے اس طرف آدھے اُس طرف لٹکا دیتی)۔

خلاصۃً للباب: ”سدل“ کے معنی ہیں سر کے بالوں کو چاروں طرف یونہی چھوڑے اور لٹکائے رکھنا اور مانگ نکالنے کے لئے دونوں طرف کے بالوں کو اکٹھا نہ کرنا اور فرق کا مطلب ہے سر کے آدھے بالوں کو ایک طرف اور آدھے بالوں کو دوسری طرف اکٹھا کر لینا۔ نیز قاموس میں لکھا ہے کہ ”فرق“ بالوں کے درمیان پیدا کی جانے والی راہ یعنی مانگ کو کہتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ابتداء میں اہل کتاب کی موافقت میں پیشانی کے بالوں کو سدل کرتے تھے یعنی یوں ہی بے ترتیب چھوڑے رکھتے، کیونکہ اہل کتاب کا طریقہ سدل ہی کا تھا۔ واضح رہے کہ ”سدل“ کا مطلب اگرچہ بالوں کے سر کے چاروں طرف یونہی رکھنا ہے اور اس میں پیشانی کے بالوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن سدل اور فرق کے درمیان امتیاز چونکہ پیشانی کے اوپر کے بالوں ہی سے ظاہر ہوتا ہے اس سبب سے خاص طور پر پیشانی کے بالوں کو ذکر کیا گیا ہے اگرچہ طیبی نے کہا ہے کہ یہاں ”سدل“ سے مراد محض پیشانی کے بالوں کو چھوڑے رکھنا ہے۔

حدیث سے معلوم ہوا کہ شروع میں تو آنحضرت ﷺ کا معمول سدل ہی کا تھا لیکن بعد میں فرق یعنی مانگ نکالنا آخر عمل پایا، لہذا اس بنا پر بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سدل یعنی بالوں کو یونہی چھوڑے رکھنا منسوخ ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ کو چھوڑ کر فرق کو اختیار کرنا حکم الہی (وحی) کے سبب تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو یہ اجازت تھی کہ جس معاملہ میں ابھی کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا ہے اس میں اہل کتاب کے دستور کے مطابق عمل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جب بالوں کے بارے میں آپ ﷺ کو بذریعہ وحی فرق یعنی مانگ نکالنے کا حکم دیا گیا تو یہ اس بات کی علامت قرار پایا کہ بالوں کے سلسلے میں عارضی طور پر اہل کتاب کے دستور کے مطابق عمل کرنے کی اجازت تھی اس سے خود بخود یہ واضح ہو گیا کہ فرق کا حکم آخری وحی ہے اس لئے اس بارے میں اہل کتاب کی مخالفت یعنی سدل کو ترک کرنا بھی حتمی طور پر ہونا چاہئے۔

اس حدیث سے بعض حضرات نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی شریعت ہمارے لئے قابل اتباع ہے جب تک کہ ہمیں اس کے برخلاف عمل کرنے کا حکم نہ دیا جائے، لیکن یہ اتباع انہیں چیزوں میں ہوگا جن کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ جوں کے توں وہی احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعت میں نازل کئے تھے۔

روایت کے ان الفاظ کہ (آپ ﷺ اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے) سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان معاملات میں بھی اہل کتاب کی موافقت کرنے کو آنحضرت ﷺ کے محض اختیار پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ اگر آپ ﷺ پسند کریں تو اہل کتاب کے مطابق

عمل کریں اور اگر پسند نہ کریں تو عمل نہ کریں اگر یہ (یعنی موافقت کرنے کا حکم) اسی درجہ کا ہوتا جس درجہ کا کوئی شرعی حکم ہوتا ہے تو اس میں آنحضرت ﷺ کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک واجب اور لازم امر ہوتا۔

بعض احادیث میں یہ بھی منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ معمول تھا کہ اگر آپ ﷺ کے بال بے ترتیب اور بکھرے ہوئے ہوتے تو ان کو اکٹھا کر کے مانگ نکال لیتے تھے ورنہ ان کی حالت پر چھوڑے رکھتے تھے۔ گویا عام حالات میں (جب کہ بال بکھرے ہوئے نہ ہوتے) آپ ﷺ سدل یا دونوں میں سے کسی کا بھی اہتمام و تکلف نہیں فرماتے تھے بلکہ ان بالوں کو ان کی حالت پر رہنے دیتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ سدل اور فرق دونوں جائز ہیں لیکن فرق افضل ہے۔

باب: سر کے بال لمبار کھنے کا بیان

۷۸۸: محمد بن علاء معاویہ سفیان، حمید سفیان، ثوری، عاصم ان کے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا میرے سر کے بال لمبے لمبے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا (سر کے بالوں کو اس قدر لمبار کھنا) نحوست ہے نحوست ہے۔ میں یہ بات سن کر واپس ہو گیا اور اگلے روز بالوں کو کم کر کے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ بدخواہی نہیں کی تھی۔ یہ بہتر ہے (یعنی اب تمہارے بال ٹھیک ہو گئے ہیں)۔

باب: مرد کے سر کے بالوں کو گوندھنے کا بیان

۷۸۹: نفیلی، ابن ابی نوح، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معظمہ میں تشریف لائے (یعنی جس روز تمہارے معظمہ فتح ہوا) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (سر کے بالوں) کی چارٹیں گوندھی ہوئی تھیں۔

باب: سر منڈانے کا بیان

۷۹۰: عقبہ ابن ثنی، وہب بن جریر ان کے والد محمد، حسن، عبد اللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جعفر کے اہل و عیال کو تین یوم کی مہلت عطا فرمائی (یعنی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے سوگ کیلئے آپ نے تین دن کی مہلت دی) پھر آپ ﷺ ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج کے دن کے بعد تم ہمارے بھائی پر نہ رونا۔

باب فی تطویل الجُمَّةِ

۷۸۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ السُّوَائِيُّ هُوَ أَخُو قَيْصَةَ وَحَمِيدُ بْنُ خُوَارِظٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذُبَابٌ ذُبَابٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَعَزَزْتُهُ ثُمَّ آتَيْتُهُ مِنَ الْعِيدِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَغْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ۔

باب فی الرَّجُلِ يَعْصِ شَعْرَهُ

۷۸۹: حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ عَدَائِرٍ تَعْنِي عَقَائِصَ۔

باب فی حَلْقِ الرَّأْسِ

۷۹۰: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَبْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ

پھر فرمایا تم میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ تو ہمیں آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں لایا گیا اور چڑیا کے بچوں کی طرح ہمارے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حجام کو میرے پاس بلاؤ پھر آپ ﷺ نے اس کو حکم فرمایا تو اس نے ہمارے سر کو مونڈ دیا۔

يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ آتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَيَّ أُخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أُخِي فَجِئَءَ بِنَا كَانُوا أَفْرُخَ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلَاقِ قَامَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا۔

باب: لڑکوں کی زلفیں رکھنے کا بیان

۷۹۱: احمد بن حنبل، عثمان، احمد، عمر بن نافع، ان کے والد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزح کی ممانعت (بیان) فرمائی اور قزح اس کو کہا جاتا ہے کہ (کوئی شخص) بچے کے سر کا کچھ حصہ مونڈے اور کچھ باقی چھوڑ دے۔

باب فِي الصَّبِيِّ لَهُ ذُوَابَةٌ

۷۹۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَانَ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزْعِ وَالْقَزْعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ۔

۷۹۲: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قزح سے ممانعت فرمائی اور قزح یہ ہے کہ بچے کا سر مونڈا جائے اور اس کی زلفیں باقی چھوڑ دے۔

۷۹۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزْعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ لَهُ ذُوَابَةٌ۔

۷۹۳: احمد بن حنبل، عبدالرزاق، معمر، ایوب، نافع، ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کا کچھ سر منڈا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کو اس بات کی ممانعت فرمائی (یعنی اس لڑکے کے اولیاء کو منع فرمایا) اور فرمایا (یا تو) اس لڑکے کا پورا سر مونڈ دو یا پورا سر چھوڑ دو (نہ مونڈو)۔ (اس حدیث سے واضح ہے کہ بچوں کے سر پر چوٹی رکھنا یا اپنی باندھنا وغیرہ مناسب نہیں)۔

۷۹۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ۔

باب: بچوں کو زلفیں رکھنے کی اجازت کا بیان

۷۹۴: محمد بن علاء، زید بن حباب، میمون، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے سر پر زلفیں تھیں مجھ سے میری والدہ نے کہا کہ میں ان کو نہیں کاٹوں گی کیونکہ آنحضرت ﷺ اس چوٹی کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور کبھی آپ ﷺ (شفقت و محبت میں) ویسے ہی پکڑ لیا کرتے تھے۔

باب مَا جَاءَ فِي الرُّحْصَةِ

۷۹۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِي ذُوَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا أَجْزُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا۔

۷۹۵: حسن بن علی، یزید بن ہارون، حضرت حجاج بن حبان سے روایت

۷۹۵: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

ہے کہ ہم لوگ انس بن مالکؓ کی خدمت میں گئے تو مجھ سے میری ہمیشہ مغیرہ نے بیان کیا کہ تم اس وقت لڑکے تھے اور تمہارے سر پر دو زلفیں یا دولٹ (لنگی) ہوئی تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا ان زلفوں کو موٹا دویا کاٹ دو کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔

هَارُونَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثْتَنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةَ قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غَلَامٌ وَلَكَ قُرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيَّ الْيَهُودِ۔

باب: مونچھیں کترنا

۷۹۶: مسدّد سفیان زہری سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فطرت پانچ چیزوں میں ہے یا فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں: (۱) ختنہ کرنا، (۲) زیر ناف کے بال موٹا (۳) بغلوں کے بال اکھاڑنا، (۴) ناخن کاٹنا (۵) مونچھیں کترانا۔

باب فی أخذ الشارب

۷۹۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةَ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ۔

انبیاء ﷺ کی سنتیں:

مذکورہ پانچ اشیاء سنت ہیں فطرت میں شامل ہیں اور ان میں بڑی حکمتیں ہیں مثلاً پہلی سنت ختنہ ہے اس کے متعدد طبی اور جسمانی فوائد ہیں۔ ختنہ کرانے سے مرد کی شرمگاہ میں میل نہیں جمع ہوتا، جلد صاف ستھری رہتی ہے اور صحبت میں بھی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے اور شہوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بغلوں کے بال صاف کرنے سے بھی بغل صاف رہتی ہے گندگی رفع ہوتی ہے اور ناخن کاٹنے سے بھی ناخن کا میل اور گندگی جاتی رہتی ہے اور مونچھیں کترنے سے بھی بہت فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ کہ غیر مسلموں سے مشابہت نہیں رہتی مونچھ بڑی رکھنے میں کھانے پینے کی چیز آکتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں دس اشیاء فطرت شمار کی ہیں ان میں مذکورہ بالا پانچ سنت کے علاوہ مزید پانچ مندرجہ ذیل سنتوں کا اضافہ فرمایا گیا ہے (۶) سر میں مانگ نکالنا، (۷) کلی کرنا، (۸) ناک صاف کرنا، (۹) مسواک کرنا، (۱۰) پانی سے استنجا کرنا، مزید تفصیل کے لئے مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری کی کتاب ”داڑھی اور انبیاء ﷺ کی سنتیں“ نامی کتاب ملاحظہ فرمائیں۔

۷۹۷: عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابو بکر بن نافع ان کے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مونچھوں کو اچھی طرح سے کتروانے کا یا منڈوانے کا حکم فرمایا اور آپ ﷺ نے داڑھی کو چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔

۷۹۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْقَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْقَاءِ اللَّحْيَةِ۔

ریش بچہ کا حکم:

مذکورہ حدیث میں وہ بال کتروانے مراد ہیں جو کہ ہونٹوں سے متصل ہیں جس کو ریش بچہ کہا جاتا ہے اس سلسلہ میں اختلاف ہے بعض علماء نے اسکو کترانا افضل فرمایا ہے اور بعض نے منڈانا، اس مسئلہ کی تفصیل کیلئے رسالہ ”الحفاء اللحية“ ملاحظہ فرمائیں۔

۷۹۸: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ وَقَتْنَا لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ الْعَانِيَةَ وَتَقْلِيمَ الْاَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَنَفَّ الْاَبِيطُ اَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ عَنْ اَنْسِ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَتْنَا

۷۹۸: مسلم بن ابراہیم صدقہ ابو عمران جونی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ہمارے لئے زیر ناف بال منڈوانے، ناخن تراشنے، مونچھوں کے کتروانے، بظلوں کے بال ڈور کرنے کی چالیس دن حد مقرر فرمائی۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو جعفر نے ابو عمران کے واسطے سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے لیکن حضرت رسول کریم ﷺ کا تذکرہ نہیں کیا اور روایت کے الفاظ ہیں وَقَتْنَا لَنَا یعنی ہمارے لئے وقت مقرر کیا گیا۔

زیر ناف بال وغیرہ کاٹنے کی مدت:

مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک زیر ناف کے بال بظلوں کے بال وغیرہ چھوڑ سکتے ہیں اس سے زیادہ دیر کرنا درست نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ ایک ہفتہ میں ایک مرتبہ مذکورہ بالا سنتوں پر عمل ہو جانا چاہئے جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناخن اور مونچھیں ہر ہفتہ کترواتے تھے اور ناف کے نیچے کے بال بیس روز میں ایک مرتبہ مونڈتے تھے۔

۷۹۹: حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَرَأْتُ عَلَيَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَيَّ أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْفِي السِّبَالِ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اِلَّا سِتْحَادًا حَلَقَ الْعَانِيَةَ

۷۹۹: ابن نفیل، زہیر، قرأت علی عبد الملک بن ابی سلیمان، قرأہ عبد الملک علی ابی الزبیر، رواہ ابو الزبیر عن جابر قال کنا نعفی السبالی الا فی حج او عمرہ قال ابو داؤد الا ستحادا حلق العانیۃ

۷۹۹: ابن نفیل، زہیر، عبد الملک بن سلیمان، عبد الملک، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حج اور عمرہ کے سوا ہمیشہ داڑھیوں کو لٹکا رہنے دیتے تھے۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استحداد کے معنی زیر ناف بال مونڈنے کے ہیں۔

باب: (داڑھی یا سر کے) سفید بال اکھاڑنے کا بیان

۸۰۰: مسدؤ یحییٰ (دوسری سند) مسدؤ سفیان، ابن عجلان، حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (سر اور داڑھی سے) سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اسلام کی حالت میں بال سفید ہوتے ہوں مگر وہ بال اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوں گے یحییٰ کی روایت میں ہے اس شخص کے لئے ہر ایک سفید بال کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کی ایک برائی معاف کی جائے گی۔

باب فی تَنَفِّ الشَّيْبِ

۸۰۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّجَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْاِسْلَامِ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ اِلَّا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهَا بِهَا خَطِيئَةٌ

سفید بال اکھیرنا:

اس حدیث بالا سے واضح ہے کہ سفید بال ہو جانا رحمت الہی کا باعث ہے بلا ضرورت شرعی سفید بال اکھاڑنا یا اس پر کالا خضاب لگانا درست نہیں۔

بال اکھاڑنے سے منع فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آرائش و زینت کی خاطر داڑھی اور سر کے سفید بال چننا ممنوع ہے یا یہ کہ عورتوں کا اپنے چہرہ یعنی پیشانی کے بال چننا ممنوع ہے۔ ان چیزوں کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اول تو ان سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کرنا لازم آتا ہے دوسرے یہ چیزیں آرائش و زینت کے لئے بے جا اور برے قسم کے تکلفات کا مرتکب ہونے کا باعث ہیں اگرچہ زیب و زینت اختیار کرنا عورتوں کے لئے جائز ہے مگر اس طرح کے مذموم تکلفات ان کے لئے بھی ممنوع ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں ”بال اکھاڑنے“ سے مراد یہ ہے کہ کسی حادثہ و مصیبت کے وقت شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے سر اور داڑھی کے بال نوچنا ممنوع ہے۔

بڑھاپے کو تبدیل کرنا خواہ سفید بالوں کو چننے کی صورت میں ہو یا سیاہ خضاب لگانے کے ذریعہ ہو یہ بہر صورت ممنوع ہے البتہ مہندی کا خضاب مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کے جواز میں احادیث کے منقول ہونے کی بناء پر وہ بالاتفاق درست ہے سفید بالوں کو اکھاڑنے اور چننے کے بارے میں حنفیہ کا مختار قول حرمت و کراہت کا ہے۔

باب فی الخضاب

باب: خضاب کا بیان

۸۰۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْفُونَ لَخَالِفُوهُمْ۔
۸۰۱: مسدد بن سفیان زہری ابو سلمہ سلیمان بن یسار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا یہودی اور نصرانی لوگ اپنے بال نہیں رنگتے تو تم لوگ ان کی مخالفت کرو (یعنی داڑھیاں رنگو)

زرد رنگ سے داڑھی رنگنا:

اچھا یہ ہے کہ ضرورت ہو تو داڑھی زرد رنگ سے رنگ لے ورنہ مہندی کا خضاب لگائے لیکن بالکل سیاہ خضاب نہ لگائے کہ یہ جائز نہیں ہے۔

خلاصۃ الباب: ”زرد خضاب“ سے مراد دوس کے ذریعہ خضاب کرنا ہے جو ایک گھاس ہوتی ہے اور زعفران کے مشابہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات درس کے ساتھ زعفران کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ چند احادیث قبل یصبر ہوا سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی ریش مبارک پر زرد خضاب کرتے تھے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ بالوں کو رنگنا مراد ہے اور بعض حضرات کے قول کے مطابق کپڑوں کو رنگنا مراد ہے۔ نیز سیوطی نے کہا ہے کہ یہی قول اشد یعنی صحیح ہے کہ آنحضرت ﷺ کا بالوں کو رنگنا منقول نہیں ہے لیکن ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جب یہ بات درجہ صحت کو پہنچ چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کم کے رنگے ہوئے اور زعفرانی کپڑے پہننے سے منع کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مذکورہ جملہ کپڑوں کے زرد رنگنے پر محمول کیا جائے لہذا زیادہ صحیح بات وہی ہے جو صاحب نہا یہ نے نقل کی ہے

کہ مختار قول یہ ہے کہ کبھی تو آپ ﷺ نے بالوں کو رنگا اور اکثر نہیں رنگا لہذا رادیوں میں سے ہر ایک نے اسی چیز کو بیان کیا جس کو اس نے دیکھا ہے اس اعتبار سے ہر راوی اپنے بیان میں سچا ہے۔

۸۰۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبِي فَحَافَةَ يَوْمَ فَحَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالْفَعَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ۔

۸۰۲: احمد بن عمرو بن سرح، احمد بن سعيد ابن وهب ابن جریج ابو زبیر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کی فتح کے دن حضرت ابو حافہ آئے ان کا سر اور داڑھی ثغامہ کی طرح سفید تھی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس داڑھی کی سفیدی کو کسی شے کے رنگ سے تبدیل کرو اور سیاہی سے بچو۔

خلاصۃ الباب: ”ثغامہ“ ایک قسم کی گھاس کو کہتے ہیں جس کے ٹھکونے اور پھل سفید ہوتے ہیں اس گھاس کو فارسی میں ورمغہ کہا جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب مکروہ حرام ہے اور مطالب المؤمنین میں علماء کا یہ قول لکھا ہے کہ اگر کوئی غازی و مجاہد دشمنان دین کی نظر میں اپنی ہیبت قائم کرنے کے لئے سیاہ خضاب کرے تو جائز ہے اور جو شخص اپنے نفس کو خوش کرنے کے لئے زینت و آرائش کی خاطر اور عورت کی نظر میں دل کش بننے کے لئے سیاہ خضاب کرے تو یہ اکثر علماء کے نزدیک ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مہندی اور وسہ (نیل کے پتے) کا خضاب کرتے تھے اور اسی خضاب کی وجہ سے ان کے بالوں کا رنگ سیاہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ سرخ مائل بہ سیاہی ہوتا تھا اسی طرح اس سلسلے میں بعض دوسرے صحابہ کے متعلق جو روایات نقل کی جاتی ہیں وہ بھی اسی پر محمول ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ مہندی کا خضاب بالالاقاق جائز ہے اور سیاہ خضاب میں حرمت و کراہت ہے بلکہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے سیاہ خضاب اور دوسرے خضاب لگانے کے بارے میں شرعی احکام حضرت مفتی محمد شفیع کی تالیف جو اہر الفقہ حصہ دوم میں خضاب کی بحث کے تحت مذکور ہے۔

۸۰۳: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْيَحْنَاءُ وَالْكُتْمَ۔

۸۰۳: حسن بن علی، عبدالرزاق، معمر، سعید، عبداللہ، ابوالاسود، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بہترین چیز جس سے اس سفیدی کو تبدیل کیا جائے مہندی اور کتم ہے۔

خلاصۃ الباب: کتم اور بعض حضرات کے قول کے مطابق کتم ایک گھاس کا نام ہے جو وسہ کے ساتھ ملا کر بالوں پر خضاب کرنے کے کام میں لائی جاتی ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کتم اصل میں وسہ ہی کو کہتے ہیں۔

بہر حال حدیث کے مفہوم کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ مراد ہے کہ مہندی اور وسہ دونوں کو ملا کر خضاب کیا جائے یا مراد یہ ہے کہ صرف مہندی یا صرف وسہ کا خضاب کیا جائے؟ چنانچہ نہایت ہی کے قول کے مطابق بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں

صرف کتم یا صرف مہندی کا خضاب کرنا مراد ہے کیونکہ اگر کتم کو مہندی کے ساتھ ملا یا جائے تو اس سے خضاب سیاہ ہو جاتا ہے اور صحیح روایات میں سیاہ خضاب کی ممانعت مذکور ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ جملہ اصل میں ”بالحناء والکتم“ ہے (یعنی حرف واؤ کے بجائے او ہے) جس کا مطلب یہ ہے کہ خضاب کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے مہندی کا خضاب کرے اور چاہے کتم کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت متعدد طریق و اسانید سے منقول ہے اور سب نے بالحناء والکتم ہی نقل کیا ہے اگرچہ اس سے مذکورہ مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ حرف ”و“ مفہوم کے اعتبار سے حرف او کے معنی میں ہو سکتا ہے بعض حواشی میں یہ لکھا ہے کہ صرف مہندی کا خضاب سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور صرف کتم کا خضاب سبز رنگ کا ہوتا ہے۔

بعض حضرات کے قول سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ خالص کتم کا خضاب سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور اگر کتم کو مہندی کے ساتھ ملا کر خضاب کیا جائے تو سرخ مائل بہ سیاہی رنگت پیدا ہو جاتی ہے اس صورت میں اگر یہ کہا جائے کہ حدیث میں کتم اور مہندی دونوں کا مرکب خضاب مراد ہے تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا چنانچہ آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت آرہی ہے اس سے یہ بات بصراحت معلوم ہوتی ہے۔

ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کتم اور مہندی کے مرکب خضاب کی مختلف نوعیت ہوتی ہے اگر کتم کا جزء غالب ہو یا کتم اور مہندی دونوں برابر ہوں تو خضاب سیاہ ہوتا ہے اور اگر مہندی کا حصہ غالب ہو تو خضاب سرخ ہوتا ہے۔

۸۰۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعٌ حِنَاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٌ أَخْضَرَانِ۔

۸۰۴: احمد بن یونس عبید اللہ بن ایاد حضرت ابورمثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کانوں کی لوٹک ہال ہیں اور ان بالوں پر مہندی کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور آپ ﷺ نے ہرے رنگ کی دو چادریں پہنی ہوئی ہیں۔

۸۰۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ فِي هَذَا الْجَعْرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَرِنِي هَذَا الَّذِي بظَهْرِكَ فَإِنِّي رَجُلٌ طَيِّبٌ قَالَ اللَّهُ الطَّيِّبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَيِّبٌهَا الَّذِي خَلَقَهَا۔

۸۰۵: محمد بن علاء ابن ادريس ابن ابجر ایاد بن لقیط حضرت ابورمثہ رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث میں روایت ہے کہ میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنی کمر دکھائیں کیونکہ میں ایک طیب ہوں آپ ﷺ نے فرمایا طیب تو اللہ تعالیٰ ہے البتہ تم ایک رفیق ہو (یعنی پیار شخص پر نرمی کرنے والے اور سکون پہنچانے والے ہو) باقی طیب (یعنی حکیم) وہی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔

۸۰۶: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي فَقَالَ لِرَجُلٍ أَوْ لِأَبِيهِ مِنْ هَذَا قَالَ ابْنِي

۸۰۶: ابن بشار عبدالرحمن سفیان ایاد بن لقیط ابورمثہ سے اسی حدیث میں روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے کسی شخص سے یا میرے والد سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ

قیامت کے دن تمہارا وزن نہیں اٹھائے گا تمہارے اعمال کی باز پرس تم سے ہوگی اور نبیؐ نے اپنی داڑھی مبارک مہندی سے لتھڑی ہوئی تھی۔

۸۰۷: محمد بن عبید حماد ثابت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا آپ ﷺ نے خضاب نہیں استعمال فرمایا البتہ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے خضاب استعمال کیا ہے۔

باب: زرد رنگ کا خضاب استعمال کرنے کا بیان

۸۰۸: عبدالرحیم بن مطرف ابوسفیان عمرو بن محمد ابن ابی رواد نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ دباغت دیئے ہوئے چمڑے کے جوتے استعمال فرماتے اور اپنی داڑھی مبارک کو درس (نامی ایک قسم کی زرد رنگ کی گھاس) سے اور زعفران سے زرد کرتے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔

۸۰۹: عثمان بن ابی شیبہ اسحاق بن منصور محمد بن طلحہ حمید ابن طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا جس نے مہندی سے خضاب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمدہ ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص جس نے مہندی اور کسم (ایک گھاس کا نام ہے) دونوں چیزوں سے خضاب لگایا ہوا تھا گزرا پھر ایک تیسرا شخص جس نے زرد رنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا یہ شخص (یعنی تیسرا آدمی) سب سے (یعنی ان دونوں مذکورہ اشخاص سے بہتر ہے)

باب: کالے رنگ سے خضاب کرنا

۸۱۰: ابویوسف عبید اللہ عبدالکریم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا خیر زمانہ میں ایک قوم (ایسی ہوگی) جو کبوتر کے سینے جیسا کالے رنگ کا خضاب کرے گی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی (یعنی جنت میں داخل نہ ہوں گے)۔

قَالَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ۔

۸۰۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ وَلَكِنْ قَدْ خَضَّبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ۔

باب ما جاء في خضاب الصفرة

۸۰۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِفٍ أَبُو سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ الْبَعَالَ السَّيِّئَةَ وَيُصْفِرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ۔

۸۰۹: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حَمِيدِ بْنِ وَهَبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا قَالَ فَمَرَّ آخَرَ قَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُثْمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا قَالَ فَمَرَّ آخَرَ قَدْ خَضَّبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كَلِمَةً۔

باب ما جاء في خضاب السواد

۸۱۰: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ۔

باب: ہاتھی کے دانت استعمال کرنے کا بیان

۸۱۱: مسدّد عبد الوارث بن سعید، محمد بن مجاہد، حمید سلیمان، حضرت ثوبان آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ حضور ﷺ جب کسی جگہ کے سفر کا ارادہ کرتے تو گھر کے تمام افراد میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کی آخری گفتگو ہوتی اور جب آپ ﷺ سفر سے (واپس) تشریف لاتے تو آپ ﷺ سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات فرماتے (ایک مرتبہ) آپ ﷺ ایک جہاد سے تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دروازے پر پردہ یا ناٹ لٹکا رکھا تھا اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو چاندی کے دو کنگن پہنا رکھے تھے۔ آپ ﷺ تشریف لائے لیکن (خلاف عادت) گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گمان ہوا کہ آپ ﷺ کو گھر میں تشریف لانے سے ان اشیاء نے روکا جنہیں آپ ﷺ نے دیکھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے پردہ پھاڑ ڈالا اور بیٹوں سے کنگن اتار لئے اور ان کو کاٹ کر ان کے سامنے ڈال دیا۔ وہ دونوں آپ ﷺ کی خدمت میں روتے ہوئے گئے آپ ﷺ نے ان سے وہ کئے ہوئے ٹکڑے لے کر فرمایا اے ثوبان یہ ٹکڑے جا کر فلاں مکان کے لوگوں کو دے کر آؤ جو مدینہ منورہ میں تھے پھر فرمایا یہ لوگ (یعنی حضرت فاطمہ اور حضرات حسین رضی اللہ عنہم) میرے اہل بیت ہیں۔ مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا میں حاصل کر لیں۔ اے ثوبان فاطمہ کے لئے موتیوں کا ہار اور ہاتھی دانت کے دو کنگن خرید لو۔ آخر روایت میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے ہار بنائے جانے کا حکم ہے جس کے لئے لفظ قِلَادَةٌ مِنْ عَضْبِ اسْتَعَالَ ہوا ہے اس کے مختلف معنی ہیں۔ ہم نے حاشیہ ابوداؤد سے اس کے معنی بڑی کے ہار کے لئے ہیں اس کے معنی دوسرے بھی ہیں۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتِمِ

انگوشی کا بیان

باب: انگوشی بنانے کا بیان

۸۱۲: عبد الرحیم، عیسیٰ، سعید قتادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

باب مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِفَاعِ بِالْعَاجِ

۸۱۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ الشَّامِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُنْبَهِيِّ عَنْ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى فَهَتَكَ السِتْرَ وَكَفَّتِ الْقَلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيِّينَ وَقَطَعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَمَّا يَبْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ يَا ثُوبَانُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى آلِ فُلَانٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمْ الدُّنْيَا يَا ثُوبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَضْبٍ وَسِوَارِينَ مِنْ عَاجٍ -

باب مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ الْخَاتِمِ

۸۱۲: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرَّوَّاسِيُّ

سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے عجم کے بعض بادشاہوں کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ لوگ منہر کے بغیر خط کو پڑھتے تک نہیں تو حضرت رسول کریم ﷺ نے چاندی کی ایک انگوٹھی منہر والی بنوائی اور اس میں آپ ﷺ نے محمد رسول اللہ کذبہ کرایا۔

۸۱۳: وہب بن بقیہ خالد سعید قنَادَةَ اَنَسٌ سے یہی روایت ہے اور اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر وہ انگوٹھی نبی کے دست مبارک میں رہی یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا۔ اسکے بعد صدیق اکبر کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ انکی بھی وفات ہوگئی۔ پھر (وہ انگوٹھی) عمر فاروق کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ انکی بھی وفات ہوگئی۔ پھر عثمان غنی کے ہاتھ میں رہی وہ ایک کنویں پر تشریف فرما تھے کہ (وہ) انگوٹھی ان کی انگلی سے نکل کر کنویں میں گر گئی۔ انہوں نے حکم فرمایا اس کنویں کا پورا پانی نکلوایا گیا لیکن وہ انگوٹھی نکل سکی۔

۸۱۴: قتیبہ بن سعید احمد بن صالح ابن وہب یونس ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی (مبارک) انگوٹھی چاندی کی (بنی ہوئی) تھی اور اس انگوٹھی کا گنیزہ جیش عقیق کا (جزا) ہوا تھا۔

حَدَّثَنَا عَيْسَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الْأَعَاجِمِ فَبَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَفَسَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ -

۸۱۳: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَعْنَى حَدِيثِ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ زَادَ فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بَنِي إِذْ سَقَطَ فِي الْبَيْتِ فَأَمَرَ بِهَا فَنَزَحَتْ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ -

۸۱۴: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَرِقٍ فَضَّهُ حَبَشِيٌّ -

آپ ﷺ کی انگوٹھی:

دوسری روایت میں فرمایا گیا ہے کہ اس انگوٹھی کا گنیزہ بھی چاندی کا تھا۔ لیکن ان روایات میں تعارض نہیں۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ کے پاس ایک سے زیادہ منہر میں ہوں اور یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس منہر کا بنانے والا ملک حبش کا تھا۔ واللہ اعلم۔ سرور المخر ان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تحقیقی بحث فرمائی ہے۔

۸۱۵: احمد بن یونس زہیر حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کی (مبارک) انگوٹھی بالکل چاندی کی ہی تھی اس کا گنیزہ بھی چاندی کا (جزا ہوا) تھا۔

۸۱۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَضُّهُ مِنْهُ -

۸۱۶: نصیر بن الفرج ابواسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے (ایک) انگوٹھی تیار کرائی اور اس کے گنیزہ کو اپنی پھٹیل کے باطنی حصہ کی جانب رکھا اور اس کے گنیزہ میں

۸۱۶: حَدَّثَنَا نَصِيرُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ

محمد رسول اللہ کندہ کرایا تو لوگوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) نے بھی سونے کی انگوٹھیاں تیار کرائیں پھر جب آپ ﷺ نے لوگوں کو سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے دیکھا تو آپ ﷺ نے اس کو پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اب اس کو کبھی نہیں پہنوں گا پھر اس کے بعد آپ نے چاندی کی انگوٹھی تیار کرائی آپ کے وصال کے بعد اسکو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہنا پھر ان کے وصال کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی پھر وہ انگوٹھی ان کے پاس سے پیر اریس (ایک کنویں کا نام ہے جو کہ ایک باغ میں ہے اس) میں گر گئی۔

۸۱۷: عثمان بن ابی شیبہ سفیان، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی حدیث روایت ہے (البتہ) اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (انگوٹھی) میں محمد رسول اللہ کندہ کرایا اور ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اسی طرح نقش نہ بنائے جیسا کہ میری انگوٹھی پر نقش (کندہ) ہے۔

ذَهَبٌ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَتِفِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمُ الذَّهَبَ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَدْ اتَّخَذُواهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ لَبَسَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ لَبَسَهُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ ثُمَّ لَبَسَهُ بَعْدَهُ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ فِي بَنِي أَرِيْسٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدِهِ۔

۸۱۷: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَشَّ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَيَّ نَقْشَ خَاتَمِي هَذَا ثُمَّ سَأَقِ الْحَدِيثَ

آپ ﷺ کی مہر (Stamp):

۶ ہجری میں آنحضرت ﷺ نے سربراہان مملکت کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تاکہ ان کو دین کی دعوت دے سکیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ سربراہان حکومت بغیر مہر کے خطوط اور تحریرات کو مستند نہیں سمجھتے آپ ﷺ نے اس ضرورت کے پیش نظر چاندی کی ایک مہر بنوائی اس مہر کی پہلی سطر میں محمد دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں اللہ کندہ تھا۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی پھر ایک روز اتفاقاً وہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی اور کافی تلاش کے باوجود نہیں مل سکی۔ آنحضرت ﷺ نے دوسرے لوگوں کو منع فرمایا کہ جس طرح میری انگوٹھی میں محمد رسول اللہ کندہاں ہے کوئی شخص اس نام کی انگوٹھی نہ بنوائے تاکہ لوگوں کو اشتباہ نہ ہو۔ سابقہ حدیث ۸۱۷ سے اگلی ۸۱۸ تک احادیث کا یہی خلاصہ ہے۔

۸۱۸: محمد بن یحییٰ، ابوعاصم، مغیرہ بن زیاد، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی حدیث روایت ہے اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس انگوٹھی کو بہت تلاش کیا لیکن اس انگوٹھی کا پتہ نہ چل سکا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک انگوٹھی تیار کرائی اور

۸۱۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَاتَّخَذَ

عُثْمَانُ خَاتَمًا وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اس انگوٹھی میں محمد رسول اللہ کندہ کرایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس
قَالَ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ أَوْ يَخْتَمُ بِهِ۔
انگوٹھی کو پہنتے یا فرمایا کہ مہر لگایا کرتے تھے۔

خَاتَمَةُ النَّبِيِّ: یہاں انگوٹھی کے ضمن میں صرف اس کے حلقہ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے اس کے نگینہ کے بارے میں ذکر
نہیں کیا گیا کیونکہ انکی میں حلقہ ہی پہنا جاتا ہے اور وہی محل استبعاد بھی ہے اس لئے بیان جواز کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا تاہم دوسری
احادیث میں نگینہ کا بھی ذکر ہے چنانچہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ ﷺ کی انگوٹھی کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا اور ایک روایت
میں یہ ہے کہ اس کا نگینہ جشی یعنی عقیق کا تھا چنانچہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

مہر نبوی ﷺ میں جو الفاظ کندہ تھے ان کی بیعت وہی بیان کی گئی ہے جو اوپر ذکر کی گئی، یعنی اوپر کی سطر میں ”اللہ“ سچ کی سطر میں
”رسول“ اور نیچے کی سطر میں ”محمد“ کا لفظ تھا، گویا اس مہر کی یہ صورت تھی کہ محمد رسول اللہ ﷺ اور بعض حضرات نے اس مہر کی یہ
صورت بیان کی ہے محمد رسول اللہ واللہ اعلم۔

آنحضرت ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی ان کے بعد حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت
کے آخری دور میں وہ انگوٹھی ایک دن معقیب کے ہاتھ سے جو حضرت عثمانؓ کے خادم تھے اریس کنویں میں گر پڑی اور پھر اس کو
بہت زیادہ تلاش کیا گیا مگر نہیں ملی!

علماء لکھتے ہیں کہ اس کا باعث وہ فتنہ و فساد اور اختلاف و انتشار جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور خلافت میں اور پھر
ان کے بعد اسلامی مملکت میں پیدا ہوا اس کا باعث اس مبارک انگوٹھی کا گم ہونا تھا کیونکہ اس انگوٹھی میں حق تعالیٰ نے ایسی برکت
عطا فرمائی تھی جو حکومت و مملکت کے انتظام و انصرام کا ایک مؤثر ذریعہ تھی جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر والی انگوٹھی کی
خاصیت تھی۔

باب: انگوٹھی نہ پہننے کا بیان

۸۱۹: محمد بن سلیمان ابراہیم بن سعد ابن شہاب، انس بن مالک رضی اللہ
عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے دست مبارک
میں ایک چاندی کی انگوٹھی دیکھی صرف ایک دن لوگوں نے یہ بات دیکھ
کر انگوٹھیاں بنوا کر پہنیں اس کے بعد آپ ﷺ نے وہ انگوٹھی پھینک
دی لوگوں نے بھی (اپنی اپنی انگوٹھیاں) نکال ڈالیں۔ ابوداؤد فرماتے
ہیں کہ اس روایت کو زہری سے زیادہ شعیب اور ابن مسافر نے بیان
کرتے ہوئے لفظ من و ردی نقل کیا ہے۔

باب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْخَاتَمِ

۸۱۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَوْيْنٌ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرْدٍ
يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعَ النَّاسُ فَلَبَسُوا وَطَرَخَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَرَخَ النَّاسُ قَالَ أَبُو
دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَشُعَيْبٌ
وَإِبْنُ مَسْفَرٍ كُلُّهُمْ قَالَ مِنْ وَرْدٍ۔

بلا ضرورت انگوٹھی پہننا:

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت انگوٹھی پہننا بہتر نہیں ہے البتہ ضرورت کے وقت پہن سکتا ہے جس طرح بادشاہ

حاکم یا قاضی انگوٹھی پہنتے ہیں اور سونے کی انگوٹھی کسی مرد کے لئے جائز نہیں ہے چاندی کی انگوٹھی شرعی مقررہ مقدار کی پہن سکتا ہے۔

باب مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ

باب: مرد کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننے کا بیان
۸۲۰: مسدؤ معتمر، رکیبن، قاسم، عبدالرحمن، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کو دس عادتیں بری لگتی تھیں: (۱) زردی یعنی خلوق، (۲) سفید بالوں کو تبدیل کرنا (مراد سفید بالوں کو نوچنا یا ان کو کالا کرنا)، (۳) تہبند لگانا، (۴) سونے کی انگوٹھی پہننا، (۵) خواتین کا حرام جگہ پر ریا کاری کے لئے بناؤ سنگھار کرنا، (۶) گوٹیوں سے کھیلنا، (۷) معوذتین کے علاوہ اور کوئی منتر (یعنی عمل) پھونکنا، (۸) گنڈے لگانا، (۹) حرام جگہ منی خارج کرنا، (۱۰) اور (ایام رضاعت میں بیوی سے صحبت کر کے) بچے کی صورت برباد کر دینا۔ لیکن آپ ﷺ نے اس کو حرام نہیں فرمایا وغیرہ وغیرہ

۸۲۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرَّكَّيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرًا خِلَالَ الصُّفْرَةِ يَعْنِي الْخُلُوقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْأَزَّارِ وَالتَّخْتَمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبْرُجَ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكَعَابِ وَالرُّقْيَ إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزَلَ الْمَاءَ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ وَقَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرِ مُحَرَّمِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنْفَرَدَ بِإِسْنَادٍ هَذَا الْحَدِيثِ أَهْلُ الْبُصْرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

معوذتین اور خلوق:

معوذتین سے مراد ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ہے اور خلوق سے مراد عرب کے ایک رواج کی طرف اشارہ ہے اور حدیث کے آخری جملہ لڑکوں کے فساد کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کی یعنی بیوی سے دودھ پلانے کے دنوں میں جماع کرنا جس کی وجہ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی صحت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔

خِلَالَ الصُّفْرَةِ الْجَانِبِ: ”رقی“ رقیہ کی جمع ہے جس کے معنی منتر پڑھ کر پھونکنے کے ہیں اور ”معوذات“ سے مراد قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو استعاذہ کے معنی پر مشتمل ہیں، خواہ وہ یہ دونوں سورتیں ہوں یا ان کے علاوہ دوسری آیات۔ حاصل یہ کہ قرآن کی آیات، احادیث میں منقول دعاؤں اور اسماء الہی کے ذریعہ جھاڑ پھونک جائز ہے ان کے علاوہ کے ذریعہ حرام ہے، خاص طور پر ایسے الفاظ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنا جن کے معنی معلوم نہ ہوں نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر کی حد میں داخل ہو جانے کے خوف کا بھی محتمل ہے۔

باب مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْحَدِيدِ

باب: لوہے کی انگوٹھی پہننے کا بیان
۸۲۱: حسن بن علی، محمد بن عبدالعزیز، زید بن حباب، عبداللہ بن مسلم، عبد اللہ بن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہن کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے اس

۸۲۱: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَعْنَى أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَبَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ السُّلَمِيِّ

فخص من فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے تم سے بتوں کی بدبو آ رہی ہے تو (یہ سن کر) اس شخص نے انگوٹھی پھینک دی اور پھر وہ شخص لوہے کی (ایک) انگوٹھی پہنے ہوئے آیا تو پھر آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم کو جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو (یہ بات سن کر) اس شخص نے اپنی انگوٹھی پھر پھینک ڈالی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں کس شے کی انگوٹھی تیار کراؤں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا (ایسی انگوٹھی بنواؤ جو کہ) چاندی کی (ایسی) انگوٹھی بنواؤ جو کہ مشقال سے کم ہو۔

خلاصۃ الباب: ”مشقال سے کم ہو“ یہ ممانعت اصل میں احتیاط و تقویٰ اور اولویت کے لئے ہے، یعنی اولیٰ یہ ہے کہ انگوٹھی ایک مشقال (۲۳/۱۱۱۷) سے کم چاندی کی ہو ورنہ جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو پورے ایک مشقال بھی جائز ہے) اور یہ اولویت بھی اس بنا پر ہے کہ سونا اور چاندی اصل کے اعتبار سے ”غیر پسندیدہ“ ہیں لہذا ان کا استعمال بس اسی قدر ہونا چاہئے جو ضرورت کے مطابق ہو اس لئے دو یا اس سے زائد انگوٹھیاں پہننا مکروہ ہے تاہم متعدد انگوٹھیاں بنانا مکروہ نہیں ہے بشرطیکہ ان کو ایک ساتھ نہ پہنا جائے بلکہ نوبت نوبت پہنا جائے۔

فداوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ لوہے اور پیتل کی انگوٹھی وغیرہ پہننا مکروہ ہے اور مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔

مشقال عرب کا ایک وزن ہے جو کہ ہمارے حساب سے ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے اور عربی اوزان کی مکمل تشریح اوزان شرعیہ از حضرت مفتی پاکستان اور رسالہ امداد اوزان میں مذکور ہے۔

۸۲۲: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعْتَقِيبِ وَجَدَّهُ مِنْ قَبْلِ أُمِّهِ أَبُو ذُبَابٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيدٍ مَلُوجِيٍّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ فَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِهِ قَالَ وَكَانَ الْمُعْتَقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ۔

۸۲۲: ابن ثنی، زیاد حسن، سہیل، ابومکین، ایاس، حضرت ابو ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ ایاس بن حارث کے نانا تھے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی لوہے کی (بنی ہوئی) تھی لیکن اس انگوٹھی پر چاندی کا ملح تھا وہ انگوٹھی کبھی میرے ہاتھ میں رہتی اور وہ انگوٹھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معقیب کی سپردگی (قبضہ) میں رہتی۔

قابل استدلال حدیث بابت انگوٹھی:

بعض حضرات نے مذکورہ حدیث کو حدیث ۸۲۱ سے زیادہ قوی اور قابل استدلال فرمایا ہے کیونکہ مذکورہ بالا حدیث کی سند میں عبد اللہ بن مسلم مردوی ہے جس کی روایت زیادہ قابل استدلال نہیں سمجھی جاتی بعض حضرات نے اس کی یہ تاویل فرمائی ہے کہ

مذکورہ بالا لوہے کی انگوٹھی پر چاندی چڑھی گئی ہوگی اور جب لوہے پر چاندی کا ملمع ہو تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔

۸۲۳: مسدؤ بشر عاصم بن کلیب ابو بردہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبیؐ نے ارشاد فرمایا (تم) یہ دُعا مانگا کرو: اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ۔ اے اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت عطا فرما اور مجھے سیدھا رکھ۔ ہدایت کی دُعا کے وقت راستے پر سیدھا چلنے کو یاد رکھو اور سدا کی دُعا پر اپنے تیر کو سیدھا رکھنے کو یاد رکھو اور آپؐ نے مجھ کو اس اُنکلی یا اس اُنکلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا اور آپؐ نے شہادت کی یاد دہانگی کی جانب اشارہ فرمایا۔ عاصم کو شک ہے کہ کوئی اُنکلی تھی اور آپؐ نے مجھے قسیہ اور میسرہ سے منع فرمایا۔ ابو بردہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قسیہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا قسیہ ایک قسم کے کپڑے ہیں جو کہ ملک شام یا مصر سے درآمد ہوتے ہیں اور ان کپڑوں کی دھاریوں میں ترنج کی صورت بنی ہوتی ہیں اور میسرہ وہ شے ہے جو خواتین اپنے شوہروں کے لئے تیار کرتی تھیں۔

باب: انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننے یا بائیں میں؟

۸۲۴: احمد بن صالح ابن وہب سلیمان بن بلال شریک ابو نمر ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ شریک کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی ہے۔ کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔

۸۲۵: نصر بن علی ان کے والد عبد العزیز نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ اپنے بائیں (مبارک) ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور اس انگوٹھی کا گھینڈھیلی کی جانب ہوتا تھا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں ابن اسحاق نے بیان کیا اور اسامہ یعنی ابن زید نے نافع سے اس سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔

۸۲۶: ہناد عبدة عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

۸۲۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ وَادْكُرْ بِالْهَدْيَاةِ هَدْيَاةَ الطَّرِيْقِ وَادْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيْدَكَ السَّهْمَ قَالَ وَنَهَانِيْ أَنْ أَصْعَ الْخَاتَمَ فِيْ هَذِهِ أَوْ فِيْ هَذِهِ لِلْسَّبَاةِ وَالْوُسْطَى شَكَ عَاصِمٌ وَنَهَانِيْ عَنِ الْقَسِيَّةِ وَالْمِيْرَةِ قَالَ أَبُو بَرْدَةَ لَقُلْنَا لِعَلِيٍّ مَا الْقَسِيَّةُ قَالَ يَا بَنِيَّ مِنْ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضْلَعَةٌ فِيْهَا أَمْعَالُ الْأَمْرُجِ قَالَ وَالْمِيْرَةُ شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبَعُولِيَّتِهِنَّ۔

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّخْتَمِ فِي الْيَمِيْنِ أَو الْبَسَارِ ۸۲۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيْكَ بْنِ أَبِي نَمْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَرِيْكَ وَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِيْنِهِ۔

۸۲۵: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي رَوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي بَسَارِهِ وَكَانَ قَصْفُهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأَسْكَمَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ فِي يَمِيْنِهِ۔

۸۲۶: حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ

روایت ہے کہ وہ اپنی انگشتری بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔

۸۲۷: عبد اللہ یونس محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے صلت بن عبد اللہ بن نوفل بن عبد المطلب کے دائیں ہاتھ کی چھنگلیا (چھوٹی انگلی) میں انگوٹھی دیکھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اس طریقہ سے انگوٹھی پہنتے ہوئے نہیں دیکھا اور انہوں نے انگوٹھی کے گیند کو تھیلی کی پشت کی جانب اوپر کر دیا اور یہ کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ذکر کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ بھی اسی طریقہ سے انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔

باب: گھونگرو پہننے کا بیان

۸۲۸: علی بن سہل ابراہیم حجاج ابن جریج، عمر بن حفص، حضرت عامر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی بن سہل بن زبیر نے انہیں بتایا کہ ان کی ایک آزاد کردہ باندی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور اس کے پاؤں میں گھونگرو تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان گھونگرو کو کاٹ ڈالا اور فرمایا میں نے حضرت رسول کریم ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے کہ ہر ایک گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے (اور گھونگرو کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے بھی (ساز جیسی) آواز نکلتی ہے)

۸۲۹: محمد بن عبد الرحیم روح ابن جریج، حضرت بنانہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عبد الرحمن بن حسان انصاری کی آزاد کردہ باندی تھیں وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی کہ ایک لڑکی ان کے ہاں آئی جس کے پیروں میں آواز والے گھونگرو تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میرے پاس اس کو گھونگرو کاٹنے بغیر نہ لانا۔ اس لئے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے جس گھر میں گھنٹہ (یا باجہ) ہوتا ہے اس مکان میں (رحمت کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

باب: سونے سے دانت بندھوانے کا بیان

۸۲۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيَّ الصَّلْتِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَاتَمًا فِي خِنْصِرِهِ الْيَمْنَى فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ هَكَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ وَلَا يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا قَدْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ لَخَاتَمَهُ كَذَلِكَ۔

باب ما جاء في الجلاجل

۸۲۸: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ وَابْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ بْنُ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلَاهُ لَهُمْ ذَهَبَتْ بَابِنَةَ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رَجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا۔

۸۲۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ بَنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهَا إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا بَجَارِيَةٌ وَعَلَيْهَا جَلَّاجِلٌ يَصُوتُنَّ فَقَالَتْ لَا تَدْخِلْنَهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تَقْطَعُوا جَلَّاجِلَهَا وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ۔

باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب

۸۳۰: موسیٰ بن اسماعیل، محمد بن عبداللہ، ابوشہب، عبدالرحمن بن طرفہ سے روایت ہے کہ انکے دادا حضرت عرفجہ بن اسعد کی کلاب (جنگ) کے دن ناک کاٹی گئی تو انہوں نے اپنی ناک چاندی کی بنوائی تو اس میں بدبو پیدا ہوگئی تو نبیؐ نے ان کو سونے کی ناک لگوانے کا حکم فرمایا تو انہوں نے سونے کی ناک بنوائی (کیونکہ سونے میں بدبو نہیں ہوتی اور عرصہ تک لگنے کے باوجود اس میں کسی قسم کا تعفن پیدا نہیں ہوتا)۔

۸۳۱: حسن بن علی، یزید بن ہارون، ابو عاصم، ابوالاشہب، حضرت عبدالرحمن عرفجہ بن اسعد سے دوسری روایت میں اسی طرح ہے یزید کہتے ہیں کہ میں نے ابوالاشہب سے معلوم کیا کہ عبدالرحمن کی ملاقات عرفجہ سے ثابت ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں (ثابت ہے)۔

۸۳۲: مؤمل بن ہشام، اسماعیل، ابوالاشہب، عبدالرحمن بن طرفہ، حضرت عرفجہ بن اسعد سے اسی طرح روایت ہے۔

۸۳۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرَفَجَةَ بْنَ أَسْعَدٍ قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

۸۳۱: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابُو عَاصِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَرَفَجَةَ بْنِ أَسْعَدٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِأَبِي الْأَشْهَبِ أَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرْفَةَ جَدَّهُ عَرَفَجَةَ قَالَ نَعَمْ۔

۸۳۲: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَرَفَجَةَ بْنِ أَسْعَدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَرَفَجَةَ بِمَعْنَاهُ۔

سونے کی ناک اور دانت لگوانا:

اس حدیث میں ضرورت کی بنا پر سونے کی ناک لگوانے کی اجازت مذکور ہے بہر حال ناک پر قیاس کرتے ہوئے ضرورت کی بنا پر سونے کے دانت لگوانے کی بھی اجازت ہے اسی لئے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا عنوان ”سونے کے دانت لگائے جانے کا بیان“ سے قائم فرمایا ہے۔

خلاصۃ البیان: حدیث ۸۳۰ میں ذکر کردہ لفظ ”کلاب“ ایک جگہ کا نام ہے وہاں لڑائی ہوئی جس میں حضرت عرفجہ بھی شریک تھے اسی لڑائی کے دوران ان کی ناک کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو چاندی کی ناک بنا کر چہرے پر لگانا پڑی، لیکن اس میں بدبو پیدا ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے اس کو سونے کی ناک بنوانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس حدیث کی بناء پر علماء نے سونے کی ناک بنوانے کو اور اسی طرح دانتوں میں چاندی کا تار باندھنے کو مباح قرار دیا ہے لیکن حضرت امام محمدؒ نے سونے کا تار باندھنے کو بھی جائز کہا ہے۔

باب: خواتین کو سونا پہننا؟

۸۳۳: ابن نفیل، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاق، یحییٰ، ان کے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں زیور آیا جو کہ جس کے بادشاہ نے آپ ﷺ کو ہدیہ پیش

باب ما جاء في الذهب للنساء

۸۳۳: حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ

کیا تھا۔ اس زیور میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی جس میں (ملک) یمن کا ٹکینہ لگا ہوا تھا آپ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے اس کو ایک کلڑی سے چھوا لیکن آپ ﷺ نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی اس کے بعد آپ ﷺ نے حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا جو کہ آپ ﷺ کی نواسی تھی کو طلب فرمایا اور فرمایا بیٹی! یہ انگوٹھی تم پہن لو۔

۸۳۳: عبد اللہ بن مسلمہ، عبد العزیز بن محمد، اسید بن ابی اسید، نافع بن عیاش، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے محبوب کو سونے کا حلقہ پہنانا چاہے تو اس شخص کو سونے کا حلقہ پہنا دے اور جو شخص اپنے محبوب کو آگ کی ہنسی پہنانا چاہے تو اس کو سونے کی ہنسی پہنا دے اور جو شخص اپنے محبوب کو آگ کا ٹکٹن پہنانا چاہے تو اس کو سونے کا ٹکٹن پہنا دے لیکن تم لوگوں کے لئے چاندی (کا زیور) استعمال کرنا درست ہے تو چاندی سے کھیلو (یعنی چاندی کا زیور پہنو)۔

قَالَتْ لَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِيَّةً مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ لَفْظٌ حَبَشِيٌّ قَالَتْ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مُعْرَضًا عَنْهُ أَوْ بِيَعُضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أَمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ تَحَلِّي بِهَذَا يَا بِنْتِ.

۸۳۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَادِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيَّةً حَلَقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوَّقَ حَبِيَّةً طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيَطَوَّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيَّةً سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا.

چاندی کی انگوٹھی کا استعمال:

اس حدیث میں محبوب سے مراد آدمی ہے بیوی مراد نہیں ہے اور مردوں اور لڑکوں کے لئے چاندی کی انگوٹھی پہننا درست ہے کتب فقہ میں مردوں کے لئے چاندی کی انگوٹھی کی مقدار کی بحث مفصل طور سے مذکور ہے اور چاندی سونے کے برتن میں مرد و عورت کے لئے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ احادیث میں اس کی سخت ممانعت فرمائی گئی ہے۔

اکثر فتاویٰ میں لکھا ہوا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا اس شخص کے حق میں مباح ہے جس کے لئے مہر رکھنا ایک ضرورت کے درجہ کی چیز ہو جیسے قاضی وغیرہ اور جو شخص مہر رکھے کا ضرورت مند نہ ہو اس کے حق میں افضل یہی ہے کہ چاندی کی انگوٹھی کا بھی استعمال نہ کرے نیز جو شخص انگوٹھی پہنے اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنے اور اس کا ٹکینہ ہتھیلی کی طرف رکھے۔

۸۳۵: مسد ابوعوانہ، منصور زبیری، ان کی اہلیہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اے خواتین کی جماعت! کیا تم کو زیور تیار کرنے (اور پہننے) کے لئے چاندی کا ٹکٹن نہیں ہے! باخبر رہو تمہارے میں سے کوئی ایسی خاتون نہیں کہ وہ سونے کے زیور پہنے اور وہ اس سے زینت ظاہر کرے مگر اسی ٹکٹن

۸۳۵: حَدَّثَنَا مُسَدُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ رَبِيعٍ بْنِ جِرَّاشٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ أُخْتِ لِحْدَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلِّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلِّي

ذَهَابًا تَظْهَرُهَا إِلَّا عُدَّتْ بِهِ۔ سے اس پر (قیامت میں) عذاب دیا جائے گا۔

خواتین کے لئے سونے کے استعمال کی ممانعت منسوخ ہے:

مذکورہ حدیث کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث منسوخ ہیں اور خواتین کے لئے بہر حال سونے کا استعمال جائز ہے۔

۸۳۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قَلَّدَتْ فِي عَنَقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

۸۳۶: موسیٰ بن اسماعیل ابان بن یزید یحییٰ بن محمود بن عمرو انصاری حدیث کرتے ہیں کہ اسماء بنت یزید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس خاتون نے اپنی گردن میں سونے کا ہار لٹکایا تو اس کی گردن میں قیامت کے روز اسی جیسا ہار پہنایا جائے گا اور جس خاتون نے سونے کی بالی اپنے کان میں پہنی تو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اس کے کان میں اسی جیسی بالی ڈلوائے گا۔

۸۳۷: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مِمُّونَ الْقِنَادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْبِمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مَقَطًّا۔

۸۳۷: حمید بن مسعدہ اسماعیل حدیث کرتے ہیں کہ خالد بن مہمون القناد نے کہا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے چھتوں کی کھال پر سواری کرنے اور سونے کے پہننے سے لیکن تھوڑا سا (یعنی دانت وغیرہ ہو سکتا ہے)۔

خلاصۃ الباب: چیتے کی کھال کی زین پر سوار ہونے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں متکبرین کی مشابہت ہے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ چوپایوں اور درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے ان چوپایوں و درندوں کی خاصیتیں جیسے وحشت و درندگی وغیرہ مریت کر جاتی ہے۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْفِتَنِ

فتنوں کا بیان

لغوی تشریح: ”فتن“ اصل میں فتنۃ کی جمع ہے جیسا کہ مِمْنٌ، مِمْنَةٌ کی جمع آتی ہے فتنۃ کے مختلف معنی ہیں مثلاً آزمائش و امتحان، اختلاؤ گناہ، مفسدیت، عذاب، مال و دولت، اولاد، بیماری، جنون، محنت، عبرت، گمراہ کرنا، گمراہ ہونا اور کسی چیز کو پسند کرنا اور اس پر فریفتہ ہونا نیز لوگوں کی رائے میں اختلاف پر بھی فتنۃ کا اطلاق ہوتا ہے۔

باب ذِکْرِ الْفِتَنِ وَدَلَائِلِهَا

آنحضرت ﷺ نے جن فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی

۸۳۸: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

۸۳۸: عثمان بن ابی شیبہ جریر، عمش ابووائل، حذیفہ سے روایت ہے

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَامَ
فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَامَا
فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ
السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَهُ حِفْظُهُ مِنْ حِفْظِهِ وَنَسِيَهُ مَنْ
نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابُهُ هُوَ لَاءٍ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ
الشَّيْءُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ
إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَأَاهُ عَرَفَهُ۔

کہ نبی ہم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے کوئی (ایسی) شے بیان فرمانے سے نہیں چھوڑی جو قیامت تک پیش آنے والی ہو پھر جس شخص نے (آپ کی) اس بات کو محفوظ رکھا اس نے محفوظ رکھا اور جس شخص نے اس کو فراموش کر دیا اس نے فراموش کر دیا اور بے شک میرے ان اصحاب نے اسے جانا پہچانا ہے اور جب ان کی چیزوں میں سے جو آپ نے بیان فرمائیں کوئی چیز پیش آتی ہے تو مجھے اس طرح یاد آ جاتا ہے جس طرح کوئی شخص کسی شخص کے چہرہ کی شناخت کرتا ہو اور وہ شخص غائب ہو جائے پھر (اس) کو دیکھے تو اس کی شناخت کر لیتا ہے۔

۸۳۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ
بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَقَيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ قَالَ حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي
أَنْبَسَى أَصْحَابِي أَمْ تَنَاسَوْا وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مِنْ قَائِدٍ فَتَنَيْتُ إِلَى أَنْ تَنْقُضِيَ الدُّنْيَا
يَبْلُغُ مِنْ مَعَهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ
لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ۔

۸۳۹: محمد بن یحییٰ ابن ابی مریم ابن فروخ، اسامہ بن زید حضرت ابن قبیصہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ مجھ کو علم نہیں میرے دوستوں نے فراموش کر دیا یا قصد اہملا بیٹھے واللہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ختم ہونے تک آنے والے فتنوں (فتنہ پردازوں) کا کہ جن میں تین سو یا اس سے زیادہ افراد ہوں اس کے قائد کا نام لے کر بیان فرمایا بلکہ اس کے باپ اور اس کے قبیلے کا نام بھی بتایا۔

خلاصۃ الباب: ”فتنہ پردازوں سے مراد وہ شخص ہے جو فتنہ و فساد اور تباہی و خرابی کا باعث ہو، جیسے وہ عالم جو دین میں بدعت پیدا کرے دین کے نام پر مسلمانوں کو آپس میں لڑائے امت میں افتراق و انتشار پیدا کرے اسلام کی شوکت کو مجروح کرے اور جیسے وہ ظالم بادشاہ و امیر جو مسلمانوں کے باہمی قتل و قتال کا باعث ہو۔

”تین سو“ کے عدد کی قید بظاہر اس لئے لگائی گئی ہے کہ کم سے کم اتنی تعداد میں آدمیوں کا کسی فتنہ پرداز کے گرد جمع ہو جانا اس فتنہ پرداز کی فتنہ پردازوں کو پھیلانے فتنہ و فساد کی کارروائیوں کو اثر انداز ہو جانے اور دین و ملت کو نقصان پہنچ جانے کے لئے عام طور پر کافی ہو جاتا ہے اگر کسی فتنہ پرداز کے تابعداروں کی تعداد اس سے کم ہوتی ہے تو گو وہ انفرادی اور جزوی طور پر فتنہ پردازی میں کامیاب ہو جائے مگر اجتماعی طور پر اثر انداز ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔

۸۴۰: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو
دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُمَانَ عَنْ عَامِرٍ
عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتْنٍ

۸۴۰: ہارون بن عبد اللہ ابوداؤد بدر بن عثمان عامر ایک شخص حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں (بڑے بڑے) چار فتنے پیدا ہوں گے پھر ان کے بعد فنا ہے (یعنی اس کے بعد قیامت آجائے گی اور سب کچھ فنا

ہو جائے گا۔ کچھ باقی نہ رہے گا)

فِي آخِرِهَا الْفَنَاءُ۔

۸۴۱: یحییٰ بن عثمان ابومغیرہ عبد اللہ بن سالم علاء بن عبیدہ عمیر بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمرؓ سے سنا وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ نبیؐ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپؐ نے فتنوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا اور بڑی تفصیل سے فرمایا۔ یہاں تک کہ آپؐ نے بیان میں احلاس کے فتنے کا تذکرہ فرمایا تو اس سلسلہ میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا وہ تو فرار ہونا اور لوٹ مار کرنا ہے۔ پھر سراء کا فتنہ ہے جس کا دھواں ایسے شخص کے پاؤں کے نیچے سے نکلے گا جو کہ میرے اہل خانہ سے ہونے کا گمان کرے گا حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے اہل خانہ سے نہیں ہوگا کیونکہ میرے اولیاء وہ لوگ ہیں جو کہ پرہیزگار ہیں پھر لوگ ایسے شخص پر اتفاق کر لیں گے (یعنی ایسے شخص کو متفقہ طور پر امیر بنا لیں گے) جیسے کہ سرین، ایک پہلی پر (جو کسی طریقہ سے نہیں ملتا) اس کے بعد ذہیماء کا فتنہ ہوگا وہ اس امت میں کسی شخص کو بغیر طمانچہ مارے ہوئے نہیں چھوڑے گا پھر جب لوگ بولیں گے اب فساد جاتا رہا تو پھر صبح کے وقت وہ (فتنہ) اور بڑھ جائے گا جس میں (ایسا حال ہو جائے گا کہ) انسان صبح کے وقت مؤمن ہوگا تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگ دو خیموں کی طرف اکٹھا ہوں گے ایک خیمہ اہل ایمان کا ہوگا جس میں کوئی

۸۴۱: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْخُمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبِيدَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانَءِ الْعَنْسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْفِتْنََ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَلَهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَايَ الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوْرِكَ عَلَى ضَلَعِ ثُمَّ فِتْنَةُ الذَّهِيمَاءِ لَا تَدْعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتَهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يَصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيْمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيْمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ۔

منافق شخص نہیں ہوگا اور دوسرا خیمہ منافق لوگوں کا ہوگا جس میں کوئی ایماندار شخص نہ ہوگا تو جب اس قسم کا فتنہ (پیدا) ہو تو اسی دن یا اسکے دوسرے دن سے دجال کے منتظر رہو۔

خلاصہ الباب: اس حدیث میں سرین، ایک پہلی پرانچ سے جو مثال دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایسے شخص پر اتفاق کر لیں گے جس کی رائے میں استقامت نہ ہوگا جس طرح ”سرین“ پہلی کی ہڈی پر سیدھا نہیں ہوتا اس طرح اس شخص کا حال ہوگا کہ وہ شخص ذی رائے اور صاحب بصیرت نہ ہوگا۔ آگے احادیث میں جن فتنوں کی تکرار ہے یہاں پر انکی بابت مفصلاً کچھ عرض کئے دیتا ہوں۔

فتنہ احلاس کا بیان:

”فتنہ احلاس“ سے مراد یہ ہے کہ وہ فتنہ عرصہ دراز تک قائم رہے گا اور اس کے اثرات امت کے لوگوں کو بہت طویل عرصے تک مختلف آفات اور پریشانیوں میں مبتلا رکھیں گے۔ واضح رہے کہ احلاس اصل میں جلس کی جمع ہے اور جلس اس ناٹ کو کہتے ہیں جو کسی عمدہ فرش جیسے قالین وغیرہ کے نیچے زمین پر بچھا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنی جگہ پر پڑا رہتا ہے۔ یا جلس اس کلمی کو کہتے ہیں جو پالان کے نیچے اونٹ کی پیٹھ پر ڈالی جاتی ہے! یا اس فتنہ کو فتنہ احلاس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کسی اچھے فرش کے نیچے کا ناٹ

”مستقل طور پر اپنی جگہ پڑا رہتا ہے وہاں سے اٹھایا نہیں جاتا، اسی طرح وہ فتنہ بھی لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں، بلکہ برابر قائم رہیگا اور دی گئی ہے اور یا یہ کہ اس فتنہ کو فتنہ احلاس فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح ناٹ ہمیشہ بچھا رہتا ہے اور اسکو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جاتا اسی طرح لوگوں کو بھی چاہئے کہ اس فتنہ کے دوران اپنے گھروں میں پڑے رہنے کو لازم کر لیں اور گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔

لفظ ”فتنة السراء“ رفع کے ساتھ ہے اور اس اعتبار سے یہ لفظ ”ہرب“ پر عطف ہے یعنی جب کسی نے آپ ﷺ سے یہ پوچھا کہ فتنہ احلاس کی نوعیت و صورت کیا ہوگی تو آپ ﷺ نے گویا یہ فرمایا کہ وہ فتنہ ہرب و حرب اور سراء کی صورت میں ہوگا ہرب اور حرب کے معنی تو اوپر ترجمے میں واضح کئے جا چکے ہیں، یعنی باہمی عداوت و دشمنی اور بغض و نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھاگنا اور کسی کا مال لوٹ لینا اور سراء کے معنی یہ ہیں کہ وہ فتنہ اندر ہی اندر اسلام کی بیخ کنی کرے گا، یعنی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو ظاہر میں اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردی کا دعویٰ کریں گے مگر باطن میں اسلام اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی چاہیں گے اور اپنی اس ناپاک خواہش کی تکمیل کے لئے طرح طرح کی سازشوں کے جال پھیلا کر مسلمانوں کو فتنہ و فساد میں مبتلا کریں گے! نہایہ میں لکھا ہے کہ سراء سے کنکر یلا پتھر یلا میدان مراد ہے، اس صورت میں فتنہ سراء سے واقعہ حرا کی طرف اشارہ مراد ہوگا جو بیزید کی حکومت میں ہوا اور اس کی وجہ سے اہل مدینہ کا قتل عام ہوا، سینکڑوں صحابہ اور تابعین کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور حرم محترم کی سخت بربادی ہوئی! یہ معنی اس صورت میں ہو گئے جبکہ سراء کو پوشیدہ کے مفہوم میں لیا جائے! اگر یہ لفظ سرور و شادمانی کے مفہوم میں ہو تو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ وہ فتنہ ایسے حالات پیدا کر دے گا جس میں عیش و عشرت کی چیزوں کی فروانی ہو جائے گی اور لوگ اسراف و تمعم کے ذریعے راحت و آرام اور سرور و شادمانی کی زندگی میں پڑ کر خدا اور آخرت کے خوف سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یا یہ کہ اس فتنہ کی وجہ سے چونکہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت کو دھچکا لگے گا اور ملت اسلامیہ بہت زیادہ نقصان و تباہی میں مبتلا ہو جائے گی لہذا یہ صورت حال اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لئے خوشی و شادمانی کا باعث بنے گی اور ایک نسخے میں ”فتنة السراء“ کا لفظ نصب کے ساتھ ہے اس صورت میں اس کا عطف فتنہ الاحلاس پر ہوگا اور معنی یہ ہوں گے کہ آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فتنہ سراء کا ذکر کیا۔

”مگر وہ میرے اپنوں میں سے نہیں ہوگا“ کا مطلب یہ ہے کہ خواہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہونے کا کتنا ہی گمان رکھے اور اگر چہ نسب اور خاندان کے اعتبار سے وہ واقعتاً میرے اہل بیت میں سے کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے طور طریقوں اور اپنے فعل و کردار کے لحاظ سے میرے اپنوں میں سے یقیناً نہیں ہوگا کیونکہ وہ میرے اپنوں میں سے ہوتا تو روئے زمین پر فتنہ و فساد کے ذریعے میری امت کو نقصان و ضرر میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس ارشاد گرامی کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ: **اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ** (یقیناً وہ تمہارے اپنوں میں سے نہیں ہے) یا یہ کہ اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص خواہ نسب کے اعتبار سے میرے خاندان سے کوئی تعلق کیوں نہ رکھے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ میرے محبوب اور دوستوں میں سے نہیں ہوگا کیونکہ میرا محبوب اور دوست صرف وہی مسلمان ہو سکتا ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے اور کبھی بھی ایسے قول و فعل کا ارتکاب نہ کرے جس سے اسلام اور مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچ سکتا ہو۔ اس کی تائید حدیث کے اگلے جملے سے بھی ہوتی ہے۔

”جو پہلی کے اوپر کو لہے کی مانند ہوگا“ اس جملے کے ذریعے گویا اس شخص کو ذہنی و عملی کج روی اور غیر پائیداری کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح اگر کو لہے کی ہڈی کو پہلی کی ہڈی پر چڑھا دیا جائے تو وہ کو لہا اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا اور پہلی کی ہڈی کے

ساتھ اس کا جوڑ نہیں بیٹھ سکتا اسی طرح اگرچہ لوگ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا امیر و حکمراں تسلیم کر لیں گے لیکن حقیقت میں وہ امارت و سرداری کے لائق نہیں ہوگا کیونکہ وہ علم و دانائی سے محروم ہوگا۔ آئین حکمرانی سے بے بہرہ ہوگا، قوت فیصلہ کی کمی اور رائے کی کمزوری میں مبتلا ہوگا اس کا کوئی حکم اور کوئی فیصلہ، محل، موقع کے مطابق نہیں ہوگا اور جب یہ صورت حال ہوگی تو سلطنت و مملکت کا سارا نظام انتشار و بد امنی اور سستی و کمزوری کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔

”پھر دہیما کا فتنہ ظاہر ہوگا“ کے سلسلے میں پہلے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس طرح فتنۃ الاحلاس کے دونوں اعراب یعنی رفع اور نصب ذکر کئے گئے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے مطابق معنی بیان کئے گئے تھے، اسی طرح فتنۃ الدہیما میں بھی فتنہ کے لفظ کے دونوں اعراب یعنی رفع اور نصب میں دہیما (دال کے پیش اور ہا کے زیر کے ساتھ) اصل میں لفظ دہماء کی تغیر ہے جس کے معنی سیاہی اور تاریکی کے ہیں اور یہاں تغیر کا اظہار مذمت و برائی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حاصل یہ کہ فتنۃ احلاس کے بعد جو فتنہ ظاہر ہوگا وہ اپنے اثرات کی ظلمت کی اور قتل و غارت گری کی شدت کے اعتبار سے ایک سیاہ اور تاریک شب کی مانند ہوگا اور جس کی سیاہ رات کی تاریکی ہر شخص کو اندھیرے میں مبتلا کر دیتی ہے اس طرح اس فتنہ کی ظلمت ہر شخص کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوگی اور ہر ایک کے قوائے فکر و عمل پر تاریک سایہ بن کر چھا جائے گی۔

”تا آنکہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے“ کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک گروہ تو خالص ایمان والوں کا ہوگا کہ جن میں کفر اور نفاق کا نام نہ ہوگا اور ایک گروہ خالص کفر والوں کا ہوگا اور ان میں ایمان و اخلاص کا نام نہ ہوگا اور بعض حضرات نے یہاں فسطاط کا ترجمہ ”خیمہ“ کے بجائے ”شہر“ کیا ہے یعنی اس زمانے کے لوگ دو شہر یا دو ملکوں میں تقسیم ہو جائیں گے کہ ایک شہر یا ایک ملک میں صرف خالص مسلمان و اہل ایمان ہوں گے اور ایک شہر یا ملک میں خالص کافر ہوں گے، واضح رہے کہ ”فسطاط“ اصل میں تو خیمے کو کہتے ہیں لیکن ”شہر“ پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور حدیث میں اس لفظ کا استعمال گویا اس اسلوب کے طور پر ہے کہ ذکر تو محل (رہنے کی جگہ) کا ہو، لیکن مراد حال (یعنی رہنے والوں کی حالت و کیفیت) ہو پس ”لوگ دو خیموں یا دو شہروں میں تقسیم ہو جائیں گے“ کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے لوگ واضح طور پر دو طبقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طبقہ اہل ایمان کا ہوگا اور ایک طبقہ اہل کفر کا ہوگا اور ان دونوں طبقوں کے لوگ خواہ دنیا کے کسی حصے اور شہر میں سکونت پذیر ہوں اس موقع پر ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک خیمہ نفاق کا ہوگا کہ اس میں ایمان نہیں ہوگا تو اس خیمہ (یا اس طبقہ) کے لوگوں میں سے ایمان کی نفی یا تو اصل کے اعتبار سے ہے یعنی اس خیمہ کے لوگوں میں سرے سے ایمان نہیں ہوگا یا کمال ایمان کی نفی بھی مراد ہے یعنی اس خیمہ (یا اس طبقہ میں) ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ظاہر کے اعتبار سے ایمان رکھتے ہو، مگر اہل نفاق کے سے اعمال اختیار کرنے، یعنی جھوٹ بولنے، خیانت کرنے اور عہد شکنی وغیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے مخلص اہل ایمان کے زمرے سے خارج ہوں گے۔ ”دجال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہنا“ کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنہ دہیما ظاہر ہو جائے تو سمجھنا کہ دجال کا ظہور ہوا ہی چاہتا ہے، چنانچہ اس فتنہ کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا، اس وقت حضرت مہدیؑ دمشق میں ہوں گے، دجال دمشق کے شہر کو گھیر لے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال ان کے مقابلے پر اس طرح کھل جائے گا۔ جس طرح پانی میں نمک کھل جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے نیزے سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اس کی موت سے ان کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔

طیبی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ”فسطاط“ شہر یا خیمے کو کہتے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے اور رہتے ہیں! نیز حدیث کے اس آخری جزو سے (کہ جس میں فسطاط کا ذکر ہے) یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ فتنہ آ خر زمانے میں ظاہر ہوگا لیکن علماء نے پہلے ذکر کئے گئے فتنوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اور کہا ہے کہ یہ فتنے کب ظاہر ہوں گے اور کون سے واقعات ان کا مصداق ہیں خصوصاً فتنہ سراء کے بارے میں تو مکمل سکوت اختیار کیا گیا ہے اور اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے کہ اہل بیت نبوی ﷺ میں سے کون شخص ہے جس کو اس فتنہ کا بانی کہا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کا سانحہ اور اس کی تفصیل:

یہ بات تو طیبی نے لکھی ہے لیکن بعد کے علماء میں سے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث میں مذکورہ فتنوں کے مصداق کا تعین کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ”فتنہ احلاس“ کے ذریعے جس فتنہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جب کہ وہ یزید بن معاویہ کی خلافت کے اعلان کے بعد اس کی بیعت سے گریز کر کے مع اہل و عیال مدینہ سے نکل گئے اور مکہ آ گئے تھے پھر جب ۶۲ھ میں یزید بن معاویہ نے اپنے خلاف اہل مدینہ کی تحریک کو کچلنے کے لئے مسلم بن عقبہ کی کمان میں شامیوں کی ایک بڑی فوج مدینہ کی طرف روانہ کی تو مسلم نے اس شہر مقدس میں پہنچ کر بڑی تباہی پھیلانی اور اہل مدینہ کا قتل عام کر لیا۔ یہ ”واقعہ حرہ“ کے نام سے مشہور ہے، مسلم نے شامیوں کی یہ فتح یاب فوج لے کر پھر مکہ کا رخ کیا، مسلم اگرچہ خود مکہ تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہ راستے ہی میں مر گیا تھا البتہ اس کی فوج حصین بن نمیر کی سرکردگی میں مکہ پہنچ گئی اور اس نے ایک دن کی جنگ کے بعد مکہ کا محاصرہ کر لیا، حصین بن نمیر نے کوہ ابن قیس پر بمخنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اس محاصرے اور سنگ باری کے دوران کہ جس کا سلسلہ ایک ماہ سے بھی زائد عرصے تک جاری رہا، اہل مکہ کو بڑی سخت تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اتفاق کی بات ہے کہ اسی اثناء میں دمشق میں یزید کا انتقال ہو گیا اور ابن نمیر نے اس خبر کو سن کر محاصرہ اٹھالیا اور اپنی فوج کو لے کر دمشق کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت نہ صرف پورے حجاز پر قائم ہو گئی بلکہ عراق اور مصر تک کے لوگوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا یہاں تک کہ یزید بن معاویہ کے جانشین معاویہ بن یزید کی تقریباً دو ماہ کی مختصر خلافت کے بعد (جب کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا) تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پورے عالم اسلام کے خلیفہ تسلیم کر لئے گئے لیکن پھر چھ سات ماہ کے بعد مروان بن حکم نے اپنی سازشوں اور کوششوں میں کامیاب ہو کر شام پر قبضہ جمالی اور دمشق میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ شام کے بعد مصر اور عراق بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت سے نکل گئے اسی دوران مروان بن حکم مر گیا اور اس کا بیٹا عبدالملک بن مروان اس کا جانشین ہوا، عبدالملک نے زبردست جنگی طاقت کے ذریعے تقریباً تمام ہی علاقوں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو ختم کر دیا اور آخر میں حجاج بن یوسف کی کمان میں ایک لشکر جرار مکہ کی طرف روانہ کیا اور ۶۷ھ کے ماہ رمضان میں حجاج نے شہر مکہ کا محاصرہ کر لیا اور کوہ ابونہیس پر بمخنیق لگا کر سنگ باری شروع کر دی، اور محاصرہ سنگ باری کا یہ سلسلہ ذی الحجہ تک جاری رہا، اس عرصہ میں اہل مکہ کو بڑی زبردست مصیبت و پریشانی اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا حج کے دنوں میں کچھ عرصے کے لئے سنگ باری بند ہو گئی اور حج ختم ہوتے ہی یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا جس کا نشانہ براہ راست خانہ کعبہ تھا جہاں حضرت عبداللہ

بن زبیر رضی اللہ عنہما محصور تھے اور آخری مرحلے پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے خانہ کعبہ سے نکل کر محض چند ساتھیوں کے ہمراہ شامیوں کے اس عظیم لشکر پر حملہ کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے جب وہ چند ساتھی بھی ایک ایک کر کے کام آگئے اور خود ان پر دشمنوں نے چاروں طرف سے پتھروں اور تیروں کی بارش شروع کر دیں تو دنیا کا یہ عظیم الشان بہادر و متقی انسان دادِ شجاعت دیتا ہوا بڑی مظلومیت کے ساتھ جمادی الثانی ۳ھ کی ایک خولِ آشام تاریخ میں اس طرح شہید ہوا کہ اس وقت میدان جنگ میں بہادری و شجاعت، زہد و عبادت اور ہمت و شرافت کے علاوہ کوئی انسان ان کی مبارک لاش پر کفِ افسوس ملنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کا واقعہ ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے فتنہ احلاس کا مصداق قرار دیا ہے۔

فتنہ مختار کی تفصیل:

”فتنہ سراء“ کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ فتنہ بھی مختار کے فتنہ و فساد کی صورت میں ظہور پذیر ہو چکا ہے مختار وہ شخص تھا جس نے پہلے تو مکہ و فریب کے ذریعے پھر باقاعدہ جنگ کر کے اہل عراق پر تسلط حاصل کر لیا تھا اور اپنی اس کارروائی کے لئے حضرت محمد بن الحنفیہ کی اجازت اور اہل بیت نبوی ﷺ کی تائید و نصرت کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اس کا واقعہ بھی تھوڑی سی تفصیل کا متقاضی ہے۔ اس شخص کا اصل نام مختار بن عبیدہ بن مسعود ثقفی تھا، کوفہ (عراق) میں رہتا تھا اور حبیان علی میں سے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی دعوت پر جب کوفہ جانا طے کر لیا اور پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا تا کہ وہ پوشیدہ طور پر کوفہ میں کام کر کے لوگوں سے ان کے نام کی بیعت لیں تو مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر اسی مختار بن عبیدہ کے مکان پر فروش ہوئے تھے پھر اس سلسلے میں جو کچھ پیش آیا اور حادثہ کر بلا واقع ہوا وہ سب مشہور واقعات ہیں! اگر بلا میں شہادت حسین کے سانحہ کے بعد کوفہ میں ایک جماعت ”توابعین“ کے نام سے معرض وجود میں آئی جس کا سردار سلیمان بن صرد تھا یہ جماعت کوفہ کے ان لوگوں پر مشتمل تھی جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں جام شہادت نوش کرنا پڑا اور ہم اپنے اس جرم کا اعتراف کرتے ہوئے تائب ہوتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اس جرم کی تلافی کے طور پر خون حسین کا انتقام لیں گے اور ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے جس نے قتل حسین میں ذرا بھی حصہ لیا ہے۔ مختار بن عبیدہ چونکہ پہلے ہی سے اپنی مختلف سازشوں کے ذریعے عراق پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس مقصد کے لئے قاتلان حسین کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکا کر انہیں اپنے گرد جمع کر رہا تھا اس لئے اس نے توابعین کی جماعت سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا اور جماعت کے لوگوں اور ان کے ہمنواؤں کو جمع کر کے کہا کہ تمہارا سردار سلیمان تو ایک پست ہمت آدمی ہے لڑنے سے جان چراتا ہے لہذا امام مہدی محمد بن الحنفیہ نے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں مجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو اور خون حسین کا بدلہ لینے کے لئے میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، چنانچہ کوفہ کے وہ تمام لوگ جو حبیان حسین کہلاتے تھے مختار کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے اس وقت عراق پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا قبضہ تھا اور کوفہ میں ان کی طرف سے عبداللہ بن یزید گورنر تھے۔ انہیں جب مختار کی سرگرمیوں اور اس کے حقیقی ارادوں کا علم ہوا تو انہوں نے مختار کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا، لیکن توابعین کی جماعت کا سردار سلیمان بن صرد بہر حال اپنی جنگلی تیاریوں میں پہلے ہی سے

مصروف تھا وہ سترہ ہزار مسلح افراد کا لشکر لے کر عبداللہ بن زیاد کے خلاف جنگ کرنے چلا جو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والی کارروائیوں کا تمام تر ذمہ دار تھا اور مروان بن حکم کی طرف سے موصل میں بحیثیت گورنر تعینات تھا پھر عین الورہ کے مقام پر عبداللہ بن زیاد کی فوجوں سے اس کا مقابلہ ہوا اور کئی دن کی جنگ کے بعد خود سلیمان بن صرد اور جماعت تو ابین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے فوج میں جو لوگ باقی بچے وہ وہاں سے بھاگ کر کوفہ واپس آ گئے کوفہ میں مختار نے جیل سے (جہاں وہ قید تھا) ان لوگوں کو ہمدردی کا پیغام بھیجا اور تسلی دلائی کہ تم لوگ غم نہ کرو اگر میں زندہ رہا تو خون حسین کے ساتھ تمہارے مقتولین کے خون کا بدلہ بھی ضرور لوں گا اس کے بعد اس نے کسی ذریعے سے جیل کے اندر ہی سے ایک خط حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے نام مدینہ بھیجا جس میں یہ درخواست کی کہ عبداللہ بن یزید گورنر کوفہ سے سفارش کر کے مجھے رہائی نصیب فرمائی چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے گورنر کوفہ کو سفارشی خط لکھ دیا اور گورنر نے ان کی سفارش کی تکریم میں مختار کو اس شرط پر جیل سے رہا کر دیا کہ وہ کوفہ میں کوئی شورش نہیں پھیلائے گا اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا۔ اس مکار نے جیل سے آنے کے بعد کوفہ والوں اور بالخصوص شیطان حسین پر یہ ظاہر کیا کہ یہ میری روحانی طاقت اور کرامت تھی جس نے جیل کے دروازے وا کر دیئے اور میں باہر آ گیا ادھر کسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن یزید کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن مطیع کو مقرر کر دیا مختار نے اس عزل و نصب کو بھی اپنی کرامت ظاہر کیا اور پرانے حاکم کے کوفہ سے چلے جانے کے بعد تمام پابندیوں کو توڑ کر آزادانہ طور پر اپنی سازشی کارروائیوں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مکہ و فریب اور عیار یوں کے ذریعے کوفہ والوں پر اپنی روحانی بزرگی و کرامت کا کچھ ایسا سکھ جمایا کہ لوگ دھڑا دھڑا اس کے مرید ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جماعت حیرت انگیز طور پر ترقی کر گئی۔ کو تو اہل شہر نے اس کی جماعت کی ترقی اور اس کی سازشی تحریک سے گورنر کو مطلع کیا اور دار الامارۃ (گورنر ہاؤس) سے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاری بھی ہوئی مگر وقت گزر چکا تھا اور مختار نہایت عیاری کے ساتھ حکم کے ہاتھ لگنے سے بچ گیا اور روپوش ہو کر اپنی جماعت کو ایک باضابطہ فوج میں تبدیل کر دیا اور کوفہ پر قبضہ کرنے کے منصوبے کی تکمیل میں مصروف ہو گیا ادھر اس نے محمد بن الحنفیہ کو پوری طرح ششے میں اتار ہی رکھا تھا چنانچہ جب مختار نے کوفہ کے بعض دوسرے با اثر حضرات کو قاتلان حسین کے خلاف بھڑکا کر اپنے ساتھ ملانا چاہا اور محمد بن الحنفیہ کی نیابت کا دعویٰ کیا اور ان لوگوں نے کچھ آدمیوں کو اس کے دعویٰ کی تصدیق کے لئے محمد بن الحنفیہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہاں! مختار کو خون حسین کا بدلہ لینے کی ہم نے اجازت دی ہے! اس تصدیق نے مختار کو بہت تقویت پہنچائی آخر کار ایک دن رات کے اندھیرے میں مختار نے اپنی جماعت کے مسلح افراد کے ساتھ خروج اختیار کیا اور کوفہ کے گلی کوچوں میں لڑائی چھڑ گئی اور پھر تین دن کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح دار الامارۃ سے چھپ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے مختار نے سرکاری دفاتر اور بیت المال پر قبضہ کر لیا اور کوفہ کے لوگوں سے محمد بن الحنفیہ کے نام پر بیعت لینے لگے اور پورے شہر پر اس کا تسلط قائم ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں دنوں کے بعد کوفہ کے لوگ مختار کے خلاف ہو گئے مگر مختار نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان پر بھی قابو پالیا اور پورے شہر میں اس طرح قتل عام کرایا کہ کوفہ کا کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس میں ایک سے ایک دو یا اس سے زائد آدمی قتل نہ کئے گئے ہوں اس نے قاتلان حسین سے بھی انتقام لیا اور جس جس نے میدان کربلا میں کوئی حصہ لیا تھا ان میں سے ہر ایک کا سرتن سے جدا کر دیا ایک طرف تو وہ کوفہ پر تسلط پانے کے بعد دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کارروائیوں میں مصروف رہا اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرسی کھڑا گ کھڑا کر کے لوگوں کو

اپنی غیر معمولی روحانی طاقتوں کا معتقد بنانے میں لگا رہا اور رفتہ رفتہ نبوت کے دعوؤں تک پہنچ گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا کہ مختار نہ صرف یہ کہ کوفہ میں لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے اور اہل کوفہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور دوسرے علاقوں کو بھی ہتھیانے کے منصوبے بنا رہا ہے بلکہ یہ مشہور کرنے لگا ہے کہ میرے پاس جبرئیل امین آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہیں اور میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں تو انہوں نے اس کے استیصال میں مزید تاخیر کرنا کسی طرح مناسب نہ سمجھا اور اپنے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما کو بصرہ کا گورنر مقرر کر کے مختار کے فتنے کی سرکوبی کی مہم ان کے سپرد کی چنانچہ حضرت مصعب اپنی فوج کو لے کر کوفہ کی طرف چلے ادھر جب مختار کو اس فوج کسی کا علم ہوا تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر کوفہ سے نکلا دونوں فوجوں کا مدارا نامی گاؤں کے قریب مقابلہ ہوا اور خوب زور و شور کی لڑائی ہوئی آخر کار مختار شکست کھا کر کوفہ بھاگا اور دارالامارہ میں قلعہ بند ہو گیا حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کوفہ پہنچ کر دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا مختار سامان رسد کی کمی سے مجبور ہو کر قلعہ کا دروازہ کھول کر باہر آیا اور آخری مرتبہ مقابلہ کیا لیکن جلد ہی موت کے گھاٹ اتر گیا اور اس طرح کوفہ کا یہ فتنہ ختم ہو گیا۔

مروان کا قصہ:

حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد لوگ ایک ایسے شخص کی بیعت پر اتفاق کر لیں گے جو پہلی کی ہڈی کے اوپر کولہے کی مانند ہوگا تو حضرت شاہ صاحب نے اس کا مصداق مروان بن حکم کو قرار دیا ہے۔ مروان بن حکم کی خلافت کا قصہ اگرچہ مختار کے فتنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور جس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی فوج نے اس کو کوفہ میں قتل کر کے اس فتنے کی سرکوبی کی اس وقت مروان بن حکم کا انتقال ہو چکا تھا اور بنو امیہ کی خلافت کا جائزین عبدالملک بن مروان مقرر ہو چکا تھا لیکن اگر اس لفظی تقدیم و تاخیر سے صرف نظر کر کے نفس حقیقت کو دیکھا جائے تو حضرت شاہ صاحب کے بیان کردہ اس مصداق کو صحیح ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ مروان بن حکم ہی تھا جس نے معاویہ بن یزید بن معاویہ کے انتقال کے بعد پورے عالم اسلام پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی قائم ہوجانے والی خلافت کو چیلنج کیا اور مختلف سازشوں کے ذریعے دمشق میں اپنی خلافت پر بیعت کرنے کے لئے لوگوں کو مجبور کر دیا۔ چنانچہ بنو امیہ کے علاوہ شام کے دیگر قبائل بنو کلب اور عنان و طے وغیرہ نے اس کی خلافت پر اتفاق کر لیا اور پھر اسی وقت سے افتراق و انتشار اور فتنہ و فساد کا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا اور ملی طاقت کو اس طرح منتشر کر دیا کہ کافی عرصے تک مسلمان آپس میں برسرس پیکار رہے اور جس قوت کو دشمنان دین کے خلاف استعمال ہونا چاہئے تھا وہ مختلف علاقوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانے کے لئے استعمال ہوتی رہی۔ مروان بن حکم عیار و چالاک ہونے کے باوجود قوت فیصلہ بصیرت و تدبیر اور رائے و مزاج کے استقلال و استحکام جیسے وہ اوصاف نہیں رکھتا تھا جو ملی نظم و نسق اور مملکت کے سیاسی استحکام کے لئے اشد ضروری تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جس زمانے میں معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد دمشق میں انتخاب خلیفہ کے متعلق اختلاف آراء اور شام میں بنو امیہ کے حامی مددگار و طاقتور اور مقتدر قبائل بنو کلب اور بنو قیس کے درمیان رقابتیں آشکارا ہونے لگیں تو مروان نے یہ دیکھ کر کہ نہ صرف عراق بلکہ شام کا بھی ایک بڑا حصہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو تسلیم کر چکا ہے۔ ارادہ کیا تھا کہ دمشق سے روانہ ہو کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خلافت کا وفادار ہو جائے بلکہ اس نے سفر کا سامان بھی

درست کر لیا تھا۔ لیکن اس دوران عبداللہ بن زیاد دمشق آ گیا جب اس کو مروان کے اس ارادے کا علم ہوا تو اس نے مروان کو باصر اس ارادے سے باز رکھا اور اس بات پر ہموار کر لیا کہ وہ خلافت کے امیدوار کی حیثیت سے بیعت لینا شروع کر دے۔ چنانچہ مروان کی خلافت دراصل عبداللہ بن زیاد کی کوششوں کا نتیجہ تھی اگر مروان میں مستقل مزاجی رائے کی پختگی اور تدبیر و دور اندیشی کا جوہر ہوتا تو وہ کسی قیمت پر ابن زیاد کی رائے کو نہ ماننا اور اپنے ارادے میں اٹل رہ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں چلا جاتا اور اس کی وجہ سے جو فتنے پیدا ہوئے اور پوری ملت کو جس نقصان و ضرر میں مبتلا ہونا پڑا شاید اس کی نوبت نہ آتی۔

فتنہ وہیما کا مصداق:

فتنہ وہیما کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے حضور ﷺ نے ترکوں (تاتاریوں) کے اس قبضہ و تسلط کی پیشین گوئی فرمائی جس نے اسلامی شہروں کو تاراج کیا اور مسلمانوں کو سخت ترین تباہی و بربادی سے دوچار کیا۔ چنانچہ اس وقت جس جس نے ترکوں کی حمایت کی اور ان کے معاون بنے وہ منافقین میں شمار کئے گئے۔ یہ ساتویں صدی ہجری کے وسط کا واقعہ ہے جب کہ خلافت عباسیہ کا آخری فرمانروا مستنصر باللہ بن مستنصر باللہ بغداد کے تخت خلافت پر متمکن تھا۔ یہ انتہائی کم ہمت بے حوصلہ اور غیر مدبر خلیفہ تھا اس نے اپنا وزیر مؤمن الدین علقمی کو بنا رکھا تھا جو نہایت متعصب اور بد باطن شیعہ تھا۔ علقمی نے عہد وزارت پر فائز ہوتے ہی اپنی عیاریوں اور چالاکیوں سے خلیفہ کو عضو معطل بنا کر خود سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا۔ اس کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ کسی طرح عباسیوں کا نام و نشان ختم کر کے بغداد میں علویوں کی خلافت قائم ہو جائے اس خواہش کی تکمیل کے لئے اس نے ایک غیر ملکی طاقت یعنی تاتاریوں سے ساز باز کر لی اور چنگیز خاں کے پوتے ہلاکو خاں کو دعوت دی کہ تم اپنی فوج لے کر بغداد پر حملہ کر دو۔ میں نہایت آسانی کے ساتھ تمہیں بغداد کی خلافت اور اس کے زیر تسلط دوسرے علاقوں اور ممالک پر قبضہ کرا دوں گا۔ ہلاکو خاں کو شروع میں تو اس کی دعوت قبول کرنے میں تامل ہوا کیونکہ وہ اہل بغداد کی شجاعت و بہادری اور خلافت کی ہیبت سے مرعوب تھا لیکن جب علقمی نے مختلف حیلوں اور سازشوں کے ذریعے بغداد کی فوج کا بڑا حصہ دور دراز کے علاقوں اور شہروں میں منتشر کرا دیا اور باقی ماندہ فوجیوں کے ذریعے شہر میں بعض اقدامات کرا کے لوٹ مار کا ہزار گرم کرا دیا جس سے سخت ابتری اور انتشار پھیل گیا اور ہلاکو خاں کو معلوم ہو گیا کہ خلافت کی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے اور خلیفہ کی فوج کسی بڑے حملے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی ہے تو ہلاکو خاں نے اس دعوت کو قبول کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کی۔ علقمی نے ایک چال اور اختیار کی اس نے بغداد کے شیعوں کی طرف سے ہلاکو خاں کو کثیر تعداد میں بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ کرا دیئے جن میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے بطور پیشین گوئی ہمیں خبر دی تھی کہ فلاں سن میں فلاں تاتاری سردار بغداد و عراق پر قبضہ کر لے گا اور ہمارا یقین ہے کہ وہ فاتح سردار آپ ہی ہیں اس بات سے ہلاکو خاں کے ارادے کو اور تحریک ملی۔ ادھر خود ہلاکو خاں کے دربار میں ایک شیعہ نصیر الدین طوسی پہلے سے موجود تھا اور علقمی کی طرح وہ بھی عباسیوں کی خلافت ختم کرانے کے درپے تھے۔ اس نے بھی مختلف ترغیبات اور لالچ کے ذریعے ہلاکو خاں کے ارادے کو بہت تقویت پہنچائی۔

چنانچہ ہلاکو خاں نے پہلے تو ایک زبردست فوج ہراول دستے کے طور پر بغداد کی طرف روانہ کی جس کا مقابلہ خلیفہ کی کمزور فوج سے ہوا اور شروع میں اس فوج نے کچھ کامیابی بھی حاصل کی مگر انجام کار شکست سے دوچار ہوئی اور تاتاریوں کا ہراول دستہ

کامیاب رہا۔ پھر ہلاکوخاں ایک بہت بڑی فوج لے کر بغداد کے اوپر چڑھا یا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر نے اس کا مقابلہ کیا اور پچاس روز تک تاتاریوں کو شہر میں گھسنے نہیں دیا۔ لیکن بغداد کے شیعوں نے صرف یہ کہ خفیہ طور پر ہلاکوخاں سے اپنے لئے امن و تحفظ کی ضمانت حاصل کر لی تھی بلکہ شہر کے حالات اور فوجی اطلاعات بھی ہلاکوخاں کو پہنچاتے رہے۔ پھر علقمی نے ایک اور سازش کی۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ میں نے آپ کے لئے امن و تحفظ کی ضمانت حاصل کر لی ہے آپ ہلاکوخاں کے پاس چلیں وہ آپ کے ساتھ اعزاز و تکریم سے پیش آئے گا اور مفاہمت کر کے آپ کو بغداد و عراق کا حکمران باقی رکھے گا! خلیفہ علقمی کے بہکاوے میں آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ شہر سے نکل کر ہلاکوخاں کے لشکر میں پہنچا۔ ہلاکوخاں نے خلیفہ کو دیکھ کر کہا آپ اپنے اراکین سلطنت اور شہر کے علماء و فقہاء کو بھی یہیں بلا لیجئے۔ چنانچہ خلیفہ نے ان سب کو حکم بھیج کر وہاں بلوایا۔ جب سب لوگ آ گئے تو ہلاکوخاں نے خلیفہ کے سامنے ہی ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کروا دیا اس کے بعد ہلاکوخاں نے خلیفہ سے کہا کہ تم شہر میں پیغام بھیج دو کہ اہل شہر ہتھیار پھینک کر شہر سے باہر آ جائیں۔ خلیفہ نے یہ پیغام بھی شہر میں بھیج دیا۔ اہل شہر باہر نکلے اور تاتاریوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا شہر کے تمام سوار پیادے اور شرفاء کھیرے گلڑی کی طرح کئی لاکھ کی تعداد میں کاٹ ڈالے گئے۔ شہر کی خندق ان کی لاشوں سے بھری گئی اور اس قدر خون بہا کہ اس کی کثرت سے دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا۔ تاتاری لوگ شہر میں گھس پڑے عورتیں اور بچے اپنے سروں پر قرآن شریف رکھ کر نکلے مگر تاتاریوں کی تلوار سے کوئی بھی نہ بچ سکا اور ان خالموں نے بغداد اور اس کے مضافات میں جن جن لوگوں کو قتل کیا۔ شہر بغداد میں صرف چند شخص جو کنویں اور دوسری پوشیدہ جگہوں میں چھپے ہوئے رہ گئے زندہ بچے۔ باقی کوئی تنفس زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ اگلے دن یعنی ۹ صفر ۶۵ھ کو ہلاکوخاں خلیفہ مستعصم کو ہمراہ لے کر بغداد میں داخل ہوا اور قصر خلافت میں پہنچ کر دربار کیا۔ خلیفہ سے تمام خزانوں کی کنجیاں لے لیں، جتنے دینے تھے سب حاصل کئے۔ پھر خلیفہ کو نظر بند کر دیا گیا اور بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اس کے بعد جب ہلاکوخاں نے خلیفہ مستعصم کے مستقبل کے بارے میں اپنے اراکین سے مشورہ کیا تو سب نے رائے دی کہ اس کو قتل کر دینا چاہئے لیکن بد بخت علقمی اور طوسی نے کہا کہ نہیں تلوار کو اس کے خون سے آلودہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ اس کو مندے میں لپیٹ کر لاتوں سے کچلوانا چاہئے، چنانچہ یہ کام علقمی ہی کے سپرد ہوا اور اس نے اپنے آقا مستعصم باللہ کو مندے میں لپیٹ کر اور ایک ستون سے باندھ کر اس قدر لٹائیں لگوائیں کہ خلیفہ کا دم نکل گیا۔ پھر اس کی لاش کو زمین پر ڈال کر تاتاری سپاہیوں کے پیروں سے روندوا کر پارہ پارہ اور ریزہ ریزہ کر دیا اور خود دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا کہ میں نے علویوں کا انتقام لے لیا۔ غرض یہ کہ بد نصیب خلیفہ کی لاش کو گور کفن بھی نصیب نہیں ہوا اور اس طرح خاندان عباسیہ کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد ہلاکوخاں نے شاہی کتب خانہ کو بھی نہیں بخشا، جس میں بے شمار کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ یہ تمام کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں جس سے دریا میں ایک بند سا بندھ گیا اور بتدریج پانی ان سب کو بہا لے گیا۔ دجلہ کا پانی جو بغداد و مضافات کے مقتولین کے خون سے سرخ ہو رہا تھا اب ان کتابوں کی روشنائی سے سیاہ ہو گیا اور عرصہ تک سیاہ رہا۔ تمام شاہی محلات کو لوٹ کر مسمار کر دیا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت ہلاکوخاں کی فوج کے ہاتھوں بغداد اور مضافات بغداد میں جو قتل عام ہوا اس کے نتیجے میں ایک کروڑ چھ لاکھ مسلمان مقتول ہوئے۔ غرض یہ کہ وہ ایسی عظیم الشان اور ہیبت ناک خون ریزی اور بربادی تھی جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی اور اسلام پر ایک ایسی مصیبت آئی تھی کہ لوگوں نے اس کو قیامت صغریٰ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اس سانحہ عظیمی کا سب سے زیادہ عبرت ناک پہلو یہ ہے کہ علقمی نے جس علوی خلافت کے قیام اور اپنی حکمرانی کی خواہش کے تحت

اتنی عظیم الشان تباہی و بربادی کے اسباب پیدا کئے اور پورے عالم اسلام کو زبردست نقصان پہنچانے کا باعث بنا اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ ہلاکو خاں نے کسی ہاشمی یا علوی کو خلیفہ و حکمران بنانے کے بجائے اپنے آدمیوں کو عراق میں حاکم بنا دیا۔ علقمی نے بہت چالیں چلیں ہلاکو خاں کے آگے رویا گڑ گڑایا اور لاکھ منت سماجت کی لیکن ہلاکو خاں نے اس کو اس طرح دھتکار دیا جس طرح کتے کو دھتکار دیتے ہیں کچھ دنوں تک تو علقمی غلاموں کی طرح تاتاریوں کے ساتھ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا پھرا۔ آخر اپنی منافقت و غداری کا عبرتناک حشر دیکھ کر نا کامی و مایوسی کے غم سے بہت جلد مر گیا اس سانحہ کے بعد بغداد دار الخلافہ بھی نہیں رہا اور خلیفہ مستعصم باللہ کے بعد تین سال کا ایسا عرصہ گزرا جس میں دنیا میں کوئی خلیفہ نہیں تھا۔

۸۳۲: مسدؤ ابو عوانہ، قتادہ، نصر بن عاصم، سبع بن خالد سے روایت ہے میں کوفہ میں اس زمانہ میں آیا کہ جس زمانہ میں تسز (نامی گاؤں) فتح ہوا تھا (میں) وہاں سے نخر لے کر آیا تھا تو میں مسجد میں گیا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ درمیانہ قد و قامت اور جشہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص (درمیان میں) بیٹھا ہوا ہے کہ جس کو دیکھنے سے تم پہچان لو کہ یہ شخص حجاز (عرب) کا باشندہ ہے۔ میں نے لوگوں سے معلوم کیا یہ کون شخص ہے؟ تو یہ بات معلوم کرنے سے وہ لوگ چڑ گئے اور (ناگواری سے) یہ کہنے لگے کیا تم ان کو نہیں جانتے یہ حذیفہ بن یمان ہیں آنحضرت ﷺ کے صحابی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا لوگ رسول کریم ﷺ سے خیر کی باتیں دریافت کرتے تھے (یعنی فرمانبرداری، عبادت اور بھلائی کی باتیں) اور میں شرکی باتیں دریافت کرتا تھا تو ان کی طرف لوگوں نے غور سے دیکھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں واقف ہوں کہ جس بنا پر تم ناگواری محسوس کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو خیر (یعنی بھلائی) اور بہتری عطا فرمائی ہے کیا اس کے بعد شر بھی ہوگا؟ جس طرح کہ پہلے تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا پھر اس شر سے محفوظ رہنے کی کیا صورت (تدبیر) ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تلوار (یعنی دین سے منحرف ہونے والوں اور بے دین لوگوں کو تلوار سے قتل کرنا) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ پھر کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی خلیفہ ہو پھر وہ شخص تمہاری کمر توڑ ڈالے اور تمہارا مال لوٹ لے گا تم جب بھی (یعنی اس حالت میں بھی) اس کی

۸۳۲: حَدَّثَنَا مُسَدُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سَبْعِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ آتَيْتُ الْكُوفَةَ فِي زَمَنِ فَتَحَتْ تَسْرُ أَجْلُبُ مِنْهَا بَغَالًا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رَجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا فَتَجَهَّمَنِي الْقَوْمُ وَقَالُوا أَمَا تَعْرِفُ هَذَا هَذَا حَذِيفَةَ بْنَ الْيَمَانِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَذِيفَةُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَأَحَدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ إِنِّي أَرَى الَّذِي تُنْكِرُونَ إِنِّي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْخَيْرَ الَّذِي أُعْطَانَا اللَّهُ أَيَكُونُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ السَّيْفُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَاذَا يَكُونُ قَالَ إِنْ كَانَ لِلَّهِ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطَعَهُ وَإِلَّا قَمْتُ وَأَنْتَ عَاصٍ بِجَذْلِ شَجَرَةٍ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحَطَّ وَزُرُّهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وَزُرُّهُ وَحَطَّ أَجْرُهُ قَالَ

فُلْتُ نَمَّ مَاذَا قَالَ قَالَ نَمَّ هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ -
 فرمانبرداری کرو اور اگر کوئی خلیفہ نہ ہو تو جنگل میں مرجاؤ (کسی) ایک
 درخت کی جڑ چبا کر میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ (یعنی کیا پیش آئے گا) آنحضرت ﷺ نے فرمایا پھر دجال نکلے گا اور
 اس کے ساتھ نہر بھی ہوگی اور آگ بھی اس کے ساتھ ہوگی جو شخص اس (دجال) کی آگ میں داخل ہوگا تو (عند اللہ) اس کا ثواب
 ثابت ہو گیا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے اور جو شخص (دجال کی فرمانبرداری کر کے) اس کی نہر میں داخل ہوا تو اس کا گناہ قائم ہو
 گیا اور اس کا ثواب ضائع ہو گیا۔ میں نے عرض کیا (یا رسول اللہ) پھر اسکے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر قیامت آئے گی۔
 جنگل میں مرنے کا مفہوم:

اس حدیث کے جملہ ”جنگل میں مرجانا بہتر ہے“ سے مراد تنگ دستی، ناداری، فاقہ منظور کرنا، لیکن بددین لوگوں کی صحبت اختیار
 نہ کرنا کیونکہ بے دین لوگوں کی صحبت دنیا اور آخرت کو تباہ کر دے گی۔

۸۴۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
 نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدِ الْيَشْكُرِيِّ
 بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ
 بَقِيَّةٌ عَلَى أَقْدَاءِ - وَهَذْنَةُ عَلَى ذَخْنِ نَمَّ
 سَأَقُ الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ قَتَادَةُ يَضَعُهُ عَلَى
 الرِّدَّةِ الَّتِي فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَقْدَاءِ يَقُولُ
 قَدْ بَقِيَ عَلَى ذَخْنِ عَلَى
 صَغَائِنَ -
 ۸۴۳: محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق، معمر، قتادہ، نصر بن عاصم، خالد بن خالد
 یشکری سے یہی حدیث روایت ہے اس روایت میں اس طرح ہے کہ
 حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر تلوار کے بعد کیا ہوگا؟ (یعنی کیا پیش
 آئے گا) آپ نے ارشاد فرمایا (نیا میں) انسان رہیں گے لیکن انکے قلوب
 میں (فتنہ) فساد ہوگا اور انکے ظاہر میں صلح ہوگی اسکے بعد آخر تک حدیث
 کو بیان فرمایا قتادہ اس تلوار کو اس فتنہ پر محمول فرماتے تھے کہ جو فتنہ صدیق
 اکبر کے دور میں پیش آیا کہ جب عرب کے کچھ قبیلے دین سے منحرف ہو
 گئے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا (تھا) پھر وہ لوگ
 تلوار سے تابعدار بنائے گئے (علیٰ اَقْدَاءِ سے مراد یہ ہے کہ گندگی پر
 رہیں گے۔ هَذْنَةُ سے مراد صلح ہے اور ذَخْنِ سے مراد کینہ ہے۔

۸۴۴: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ
 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغْبِرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ
 نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِي
 رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قُلْنَا بَنُو لَيْثٍ
 أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ حَذِيفَةَ فَذَكَرَ
 الْحَدِيثَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا
 الْخَيْرُ شَرٌّ قَالَ لَيْسَ وَشَرٌّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرُّ خَيْرٌ قَالَ يَا حَذِيفَةَ تَعْلَمُ
 كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ قُلْتُ يَا
 ۸۴۴: عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، سلیمان، حمید، حضرت نصر بن عاصم لیثی
 سے روایت ہے کہ ہم لوگ قبیلہ بنی لیتھ میں سے چند لوگوں کے ہمراہ
 یشکری کے پاس آئے۔ انہوں نے دریافت کیا کون لوگ ہیں؟ ہم
 لوگوں نے بتلایا کہ ہم بنی لیتھ ہیں ہم تم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ
 عنہ کی روایت معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ انہوں نے (شروع
 سے) حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے یہ بیان
 کیا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا
 یا رسول اللہ کیا اس شر کے بعد خیر بھی ہوگا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا
 فتنہ اور برائی ہوگی۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس شر کے

رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ هُدْنَةٌ عَلَى دَخْنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْدَاءٍ فِيهَا أَوْ فِيهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخْنِ مَا هِيَ قَالَ لَا تَرَجِعْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ عَلَى الذِّى كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ فَتَنَةٌ عَمِيَاءُ صَمَاءٌ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ تَمَّتْ يَا حُدَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاصٌ عَلَى جِدْلِ خَيْرٍ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ۔

عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا اس قسم کے خیر کے دور کے بعد پھر بھی شر ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اندھا اور بہرا فتنہ پیدا ہوگا کہ اس میں آگ کے دروازے پر بلانے والے ہوں گے تو اگر حذیفہ! تم مرد تو اس حالت میں مرنا کہ تم ایک درخت کی جڑ کو جنگل میں چبا چبا کر کھا لو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان لوگوں میں سے کسی کی تابعداری کرو (یعنی ان سے الگ رہو)

۸۳۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ صَخْرِ بْنِ بَدْرِ الْعَجَلِيِّ عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً فَاهْرُبْ حَتَّى تَمُوتَ فَإِنْ تَمَّتْ وَأَنْتَ عَاصٌ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَنَجَّ فَرَسًا لَمْ تَتَّنَجَّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ۔

۸۳۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ مَنْ بَاعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمْرَةً فَلْيَطْعُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يَبْزِئُ عَهْدَهُ فَاصْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخِرِ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ أَدْنَاهُ وَوَعَادَ قَلْبِي لَنْتُ هَذَا ابْنَ عَمِيكَ

۸۳۵: مسدّد عبد الوارث، ابو التیاح، صخر بن بدر، سبیع بن خالد حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر ان دونوں میں کوئی خلیفہ تمہیں ملے تو تم بھاگ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آجائے اگر تم درخت کو کاٹ کر کھا لو اور اس حالت میں تمہیں موت آجائے (تو یہ بہتر ہے) اس روایت کے اخیر میں یہ ہے میں نے عرض کیا پھر اسکے بعد کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی گھوڑی کا بچہ پیدا کرنا چاہے گا تو وہ گھوڑی بچہ پیدا نہ کر پائے گی کہ قیامت آجائے گی۔

۸۳۶: مسدّد عیسیٰ، عمش، زید عبد الرحمن، حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی امام سے (یا خلیفہ) سے بیعت کی پھر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اس (امام) سے قلبی اقرار کیا تو جہاں تک ہو سکے اس امام کی فرمانبرداری کرے اب اگر کوئی دوسرا شخص (اس کی جگہ) امام بن کر اس امام سے جھگڑا کرے تو اس کو قتل کر دو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ سے معلوم کیا کیا آپ نے نبی سے یہ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا بلاشبہ میرے دونوں کانوں نے اس کو سنا اور میرے قلب نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ

تمہارے چچا زاد بھائی معاویہ ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم فلان کام کریں اور فلان کام کریں (تو آپ کیا فرماتے ہیں) عبد اللہ نے کہا اس کام میں ان کی فرمانبرداری کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو اور اس کام میں ان کی فرمانبرداری نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔

۸۳۷: محمد بن یحییٰ، عبید اللہ، شیبان، اعمش، ابوصالح، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا خرابی اور بربادی ہے عرب پر اس فتنہ کی وجہ سے جو نزدیک آ گیا ہے۔ کامیاب ہوا جس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابن وہب کے واسطے سے مجھ کو یہ حدیث سنائی گئی کہ جریر بن حازم نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا کہ نبی نے ارشاد فرمایا وہ دور نزدیک ہے جبکہ مسلمانوں کا مدینہ منورہ میں محاصرہ کر لیا جائیگا یہاں تک کہ سب سے زیادہ فاصلہ جہاں تک انکا عمل دخل (مقام) سلاح ہوگا۔

مُعَاوِيَةُ يَا مُرَّةَا اَنْ نَفْعَلْ وَنَفْعَلْ قَالَ اَطَعُهُ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ وَاَعَصِيهِ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ۔

۸۳۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ قَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ الْفَلَحُ مَنْ كَفَّ يَدَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَاحِلِهِمْ سَلَا ح۔

قیامت کے قریب ہونے والا فتنہ:

اس حدیث میں جو پیشین گوئی فرمائی گئی ہے زمانہ دجال سے متعلق ہے یعنی قیامت سے پہلے مسلمان اس فتنہ میں مبتلا ہوں گے اور سلاح خیر کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے بس صرف اسی جگہ تک مسلمانوں کا عمل دخل رہے گا۔

۸۳۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَسَلَا ح قَرِيبٌ مِنْ خَيْرٍ۔

۸۳۹: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَىٰ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَبِّي زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مَلِكَ أُمَّتِي سَيَلِّغُ مَا زَوَى لِي مِنْهَا وَأَعْطَيْتُ الْكُنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةِ بَعَا مَةٍ وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى

۸۳۸: احمد بن صالح، عبسہ، یونس، زہری نے بیان کیا سلاح خیر کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔

۸۳۹: سلیمان بن حرب اور محمد بن عیسیٰ، حماد، ایوب، ابوقلابہ، ابواسماء، ثوبان سے مروی ہے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے زمین کو سمیٹ دیا تو مجھے مشرق و مغرب کے مقامات دکھلائے گئے اور بلاشبہ میری امت کی سلطنت اس جگہ تک پہنچے گی جہاں تک زمین میرے واسطے سمیٹ لی گئی اور مجھے دونوں (قسم کے) خزانے لال اور سفید عطا فرمائے گئے میں نے اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لئے یہ سوال کیا کہ وہ اسے عمومی قحط سالی سے ہلاک نہ کرے اور نہ ان پر انعام سے کوئی دشمن مسلط کرے جو ان کی بیخ کنی کر دے۔ میرے پروردگار نے مجھ

سے فرمایا اے محمد ﷺ میں کسی کام کا حکم کرتا ہوں وہ ٹل نہیں سکتا میں تمہاری امت کے لوگوں کو ایک عام قحط سے ہلاک نہ کروں گا اور (ان لوگوں پر) کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کروں گا جو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو انکی جزا ختم کر دے اگرچہ ان پر تمام زمین کے کفار حملہ آور ہوں لیکن تمہاری امت میں سے لوگ باہمی طور پر ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور گرفتار کریں گے اور میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ کنندہ حکام یا (دُنیا دار) علماء کا بہت اندیشہ ہے اور جب میری امت میں تلوار چلائی جائیگی تو ان لوگوں سے قیامت تک (وہ تلوار) نہیں اٹھائی جائے گی اور قیامت نہیں آئیگی یہاں تک کہ میری امت سے بعض گروہ مشرکین کے ساتھ جاملیں گے اور یہاں تک کہ میری امت کے گروہ بتوں کو پوجیں گے اور عنقریب میری امت میں تمیں جھوٹے انسان ہوں گے ان میں ہر شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں انبیاء کے سلسلہ کا ختم کرنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر رہے گی۔ ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ غالب رہے گی ان کی مخالفت کرنے والا شخص ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ حکم الہی آجائے (یعنی قیامت قائم ہو)

أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحُ بِيَضَّتِهِمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ وَلَا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةِ بَعَامَةٍ وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحُ بِيَضَّتِهِمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ بَعْضًا وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا وَإِنَّمَا أَحَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وَضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يَرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ظَاهِرِينَ ثُمَّ اتَّفَقَا لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى۔

سچی پیشین گوئی:

اس حدیث شریف میں جو پیشین گوئی فرمائی گئی ہے وہ بالکل درست ثابت ہوئی ابتداء اسلام سے آج تک اس دین برحق کو مٹانے اور اس کے ماننے والوں کو خلاف مختلف قسم کی سازشیں کی گئی ہیں لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کو ناکام و نامراد بنایا ان شاء اللہ آئندہ بھی دشمنان اسلام خائب و خاسر ہی رہیں گے۔ اسی طریقہ سے مسلمان آپس کی نا اتفاقی کا شکار ہوتے چلے آئے ہیں آج بھی باہمی اختلافات عروج پر ہیں کاش ہم سب آپس کے اختلافات ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔

۸۵۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمُّمٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ خِلَالَ أَنْ لَا يَدْعَوْ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا

۸۵۰: محمد بن عوف، محمد بن اسماعیل ان کے والد ضمضم، شریح، حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تین (قسم) کی آفات سے محفوظ کر لیا ہے۔ ایک تو اس سے کہ تم لوگوں کا نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تم لوگوں کے لئے بددعا کرے پھر تم سب اس بددعا کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ دوسرے یہ کہ اہل باطل اہل حق پر کبھی غالب نہیں آئیں

جَمِيعًا وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ۔

۸۵۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ تَدَوَّرَ رَحَى الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَقَلَّالَيْنِ أَوْ سِتٍّ وَقَلَّالَيْنِ أَوْ سَبْعٍ وَقَلَّالَيْنِ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ قُلْتُ أَمَّا بَقِيٌّ أَوْ مِمَّا مَضَى قَالَ مِمَّا مَضَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَنْ قَالَ حِرَاشٍ لَقَدْ أَخْطَأَ۔

۸۵۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عُنْبَسَةَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْتَقِرُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ وَيُلْقَى الشُّعْ وَيَكْفُرُ الْهَرَجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةٌ هُوَ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ۔

۸۵۱: محمد بن سلیمان، عبد الرحمن، سفیان، منصور، ربیع، حضرت براء، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی چکی پینتیس سال یا چھتیس یا سینتیس سال میں گھومے گی پھر اگر لوگ ہلاک ہو جائیں تو ان کا راستہ ان سے اگلے لوگوں جیسا راستہ ہے اور اگر ان لوگوں کے لئے ان کا دین قائم ہو گیا تو ان کے لئے ستر سال قائم رہے گا۔ راوی نے بیان کیا میں نے عرض کیا کیا اُس دور سے جو باقی رہ گیا ہے یا اس دور کی نسبت جو گزر گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانہ کے اعتبار سے جو گزر گیا۔

۸۵۲: احمد بن صالح، عنبسة، یونس، ابن شہاب، حمید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا (قیامت سے پہلے) زمانہ قریب ہو جائے گا، علم گھٹ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، لوگوں میں کجروی ڈال دی جائے گی اور ہرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرج سے کیا مراد ہے آپ ﷺ نے فرمایا قتل۔

قیامت سے قبل لوگوں کی حالت:

اس حدیث کا حاصل یہ ہے قیامت سے پہلے لوگوں میں صدقات واجبہ زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کی اہمیت نہیں رہے گی اور لوگ اللہ کے راستہ میں دینے سے انکار کریں گے اسی طرح قیامت سے پہلے قتل و غارت گری کا میدان خوب گرم ہوگا جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا جو عذاب ہے اور اس کے نقصانات وہ پورے معاشرے پر جس طرح مرتب ہوتے ہیں اس کی تفصیل مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند کی ”زکوٰۃ کی اہمیت“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

ہرج کیا ہے؟

”زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے“ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا زمانہ اور آخرت کا زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ اس صورت میں قیامت کا قریب ہونا مراد ہوگا یا اس جملہ سے مراد زمانہ والوں میں سے بعض کا بعض کے ساتھ برائی اور بدی کے تعلق سے قریب ہونا ہے۔ یعنی اس زمانہ میں جو بڑے اور بدکار لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے قریب و نزدیک آ جائیں گے یا یہ مطلب ہے کہ خود زمانہ کے اجزاء بدی و برائی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب اور مشابہ

ہوں گے یعنی ایک زمانہ برائی اور بدی کا ماحول لئے ہوئے آئے گا اور اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ بھی اسی طرح آئے گا یا یہ مطلب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حکومتیں دیر پائیں ہوں گی اور مختلف انقلابات اور عوامل بہت مختصر مختصر عرصہ میں حکومتوں کو بدلتے رہیں گے! اور بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا کہ آخر میں جو زمانہ آئے گا اس میں لوگوں کی عمریں بہت چھوٹی ہوں گی اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جملہ دراصل گناہوں کے سبب زمانہ سے برکت کے ختم ہو جانے سے کننا یہ ہو یعنی آخر زمانہ میں جب کہ گناہوں کے کثرت ہو جائے گی لوگ دین و شریعت کے تقاضوں اور خدا و آخرت کے خوف سے بے پرواہ ہو کر عیش و عشرت اور راحت و غفلت میں پڑ جائیں گے تو زمانہ میں سے برکت نکل جائے گی اور اس کے شب و روز کی گردش اتنی تیز اور دن و رات کی مدت اتنی مختصر محسوس ہونے لگے گی کہ سالوں پہلے گزرا ہوا کوئی واقعہ کل کی بات معلوم ہوگا اور ہر ”وقت کی کمی“ کا شکوہ سب نظر آئے گا۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ آخر زمانہ میں وقت اس طرح جلدی گزرے گا کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر اور ایک مہینہ ایک ہفتہ کے برابر اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر معلوم ہوگا۔

”علم اٹھایا جائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ میں مخلص باعمل اور حقیقی علم کے حامل علماء اٹھائے جائیں گے اور اس طرح حقیقی علم مفقود ہو جائے گا نیز مختلف علمی فنون کا اندھیرا اس طرح پھیل جائے گا کہ علماء سوء کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہوگا اور ہر طرف ایسا محسوس ہوگا جیسے علم کا چراغ گل ہو گیا ہے اور جہالت و نادانی کی تاریکی طاری ہو گئی ہے۔

”بخل ڈالا جائے گا“ مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں لوگوں میں بخل کی خصلت نہایت پختہ ہو جائے گی اور یہ چیز (یعنی بخل کی برائی) ایک عام وبا کی طرح پھیل جائے گی نیز لوگ اس بخل کے یہاں تک تابع ہو جائیں گے کہ صنعت و حرفت والے اپنی صنعتی اشیاء کو بنانے اور پیدا کرنے میں بخل و تنگی کرنے لگیں گے اور مال کی تجارت و لین دین کرنے والے لوگ اپنے مال کو چھپا کر بیٹھ جائیں گے یہاں تک کہ ضروری اشیاء کو بھی فراہم کرنے اور دینے سے انکار کرنے لگیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”بخل ڈالا جائے گا“ سے لوگوں میں اصل بخل کا پایا جانا مراد نہیں ہے کیونکہ اصل بخل تو انسان کی جبلت میں پڑا ہوا ہے اور اس اعتبار سے یہ بات پہلے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں بھی نہیں کی جاسکتی کہ ان میں سرے سے بخل کا وجود نہیں تھا! لیکن اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ نہیں کیا جاسکتا چونکہ اصل بخل انسان کی جبلت میں پڑا ہوا ہے اس لئے کوئی بھی شخص نہ پہلے زمانوں میں اس خصلت سے کلیتاً محفوظ رہ سکتا ہے اور جیسا کہ اس آیت: ﴿وَمَنْ يُؤَقِّ شَعْرَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الحشر: ۱۹ سے واضح ہوتا ہے ایسے پاک نفس انسان سے پہلے بھی گزرے ہیں اب بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے یہ اور بات ہے کہ زمانہ کے اثرات کی وجہ سے ایسے پاک نفسوں کی تعداد ہر آنے والے زمانہ میں پہلے زمانوں سے کم ہوتی جائے۔

”ہرج“ کے معنی ہیں فتنہ اور خرابی میں پڑنا! اور جیسا کہ قاموس میں لکھا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہرج الناس تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لوگ فتنے میں پڑ گئے اور قتل و اختلاط یعنی خونریزی اور کاموں کے خلط ملط ہو جانے کی وجہ سے اچھے برے کی تمیز نہ کر سکنے کی آفت میں مبتلا ہو گئے! پس اس ارشادِ گرامی ”ہرج“ سے مراد خاص طور پر وہ قتل و خونریزی ہے جو مسلمانوں کے باہمی افتراق و انتشار کے فتنہ کی صورت میں اور اچھے برے کاموں کی تمیز مفقود ہونے کی وجہ سے پھیل جائے۔

عنه سے سنا کہ نبیؐ نے مذکورہ بالا حدیث میں فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر (ایسے فتنے کے زمانہ میں) کوئی (مسلمان) شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے اور میرے قتل کے لئے ہاتھ اٹھائے تو مجھ کو کیا کرنا چاہئے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا کہ تم آدم کے دو بیٹوں میں بہتر بیٹے یعنی ہابیل جیسے ہو جاؤ اور یزید نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ﴿لَنْ يَسُطَّ إِلَيْكَ لِنُفْسِكَ لِنُفْسِكَ﴾

۸۵۵: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ وَابِصَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَابِصَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ فذَكَرَ بَعْضَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ فَغَلَّاهَا كُلَّهُمْ فِي النَّارِ قَالَ فِيهِ قُلْتُ مَتَى ذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ تِلْكَ أَيَّامُ الْهَرَجِ حَيْثُ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتَنِي ذَلِكَ الزَّمَانُ قَالَ تَكْفُفُ لِسَانَكَ وَيَدَكَ وَتَكُونُ جَلِيسًا مِنْ أَحْلَاسِ بَيْتِكَ فَلَمَّا قُتِلَ عُمَانُ طَارَ قَلْبِي مَطَارَهُ فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ دِمَشْقَ فَلَاقَيْتُ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ فَحَدَّثَنِي فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ۔

۸۵۵: عمرو بن عثمان ابوشہاب قاسم اسحاق سالم عمرو بن وابصہ ان کے والد وابصہ عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبیؐ سے سنا آپ فرماتے تھے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اس فتنہ میں جو لوگ قتل کئے جائیں گے وہ دوزخ میں داخل ہوں گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وابصہ نے روایت کیا یہ فتنہ کب برپا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں میں اس طرح قتل شروع ہوگا کہ کسی شخص کو اپنے دوست پر اعتماد نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر اس دور میں (بالفرض) میں موجود رہوں تو آپ ﷺ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم اپنی زبان اور ہاتھ روک لینا اور اپنے گھر میں پڑے ہوئے زین کے کپڑے کی طرح ہو جانا جب عثمان غنیؓ شہید کئے گئے تو اچانک میرے قلب میں خیال گزرا (ہو سکتا ہے یہ وہی فتنہ ہو جس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا) تو میں سوار ہو کر دمشق میں آیا اور میں نے وہاں خیرم بن فاتک سے ملاقات کی اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں کہ میں نے نبیؐ سے سنا جس طرح ابن مسعود نے مجھے حدیث سنائی تھی۔

مصالحت کرانے کی تاکید:

اس حدیث سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں تو کسی کا ساتھ نہ دینا چاہئے بلکہ غیر جانبدار رہنا چاہئے لیکن اس سلسلہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعامل اور توارث یہ ہے کہ جو طبقہ حق پر ہو اس کا ساتھ دینا چاہئے اور جو لوگ حق پر نہ ہوں ان کے خلاف لڑنا چاہئے۔ ان حضرات نے آیت کریمہ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ سے استدلال فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ جب اہل اسلام کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو حتی الامکان ان میں مصالحت کر دینا چاہئے اگر ان میں سے ایک گروہ زیادتی پر آمادہ رہے تو اس گروہ سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آجائے۔

۸۵۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُرَوَانَ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُعْظَمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَسِرُوا قَسِيكُمْ وَقَطَعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دَخَلَ يَعْنِي عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنِي آدَمَ۔

۸۵۶: مسدد عبد الوارث محمد بن جحاده عبد الرحمن ہزیل حضرت ابوموسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت سے قبل ایسے فتنے ہیں جس طرح تاریک شب کی گھڑیاں (جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک گھڑی تاریک ہوتی ہے) ان فتنوں میں انسان صبح کے وقت ایماندار ہوگا تو شام کو کافر ہوگا اور جو شخص شام کے وقت مومن ہوگا صبح کو وہ کافر ہوگا (وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں کھڑے ہونے والا شخص بیٹھنے والے شخص سے بہتر ہوگا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا تو تم لوگ ان فتنوں میں اپنی کمانون کو توڑ ڈالنا اور (اپنی) کمانون کی تانت کو بھی کاٹ دینا اور اپنی تلواروں کو پتھروں سے مار کر کند کر دینا پھر اگر اس پر بھی تم لوگوں میں سے کوئی شخص کسی شخص پر چڑھائی کر دے تو (حملہ آور ہو جائے) تو اس کو چاہئے کہ آدم کے صاحبزادوں میں بہتر بیٹے (ہاتیل) جیسا بن جائے۔

۸۵۷: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقِئَةَ بِنْتِ مِصْقَلَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَيَّ رَأْسٌ مَنْصُوبٌ فَقَالَ شَقِيَّ قَاتِلُ هَذَا فَلَمَّا مَضَى قَالَ وَمَا أَرَى هَذَا إِلَّا قَدْ شَقِيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرٍ أَوْ سُمَيْرِ بْنِ رَاهٍ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَقَالَ هُوَ فِي كِتَابِي ابْنُ سَبْرَةَ وَقَالُوا سَمُرَةَ وَقَالُوا

۸۵۷: ابو الوليد الطيالسی ابو عوانہ رقیہ بنت مصقلہ عن عون بن ابی جحیفہ عن عبد الرحمن یعنی ابن سمرہ قال كنت آخذًا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى عليَّ رأسٌ منصوبٌ فقال شقيَّ قاتِلُ هَذَا فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقيَّ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ مَنْ مشَى إلى رجلٍ من أمتي ليقْتلَهُ فلْيقلْ هكذا فالقاتِلُ في النارِ والمقتولُ في الجنة قال أبو داود رواه الثوري عن عون بن عبد الرحمن بن سميرٍ أو سمير بن رَاهٍ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَقَالَ هُوَ فِي كِتَابِي ابْنُ سَبْرَةَ وَقَالُوا سَمُرَةَ وَقَالُوا

سمیرہ بیان کیا ہے۔

سُمَيْرَةُ هَذَا كَلَامُ أَبِي الْوَلِيدِ۔

۸۵۸: مسدّد حماد بن زید، عمران مشعث، حضرت عبد اللہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابوذر! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں حاضر اور موجود ہوں آپ ﷺ کا حکم بجالانے کے لئے۔ پھر آپ ﷺ نے حدیث بیان فرمائی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے ابوذر! تمہاری اس زمانے میں کیا حالت ہوگی جب (مدینہ منورہ میں اس قدر لوگ رہیں گے کہ قبر ایک غلام کے عوض میسر آئے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اچھی طرح واقف ہیں یا جو حکم فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم صبر سے کام لینا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا اے ابوذر! میں نے عرض کیا آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر اور موجود ہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہاری کیسی حالت ہوگی جب تم (مدینہ منورہ میں واقع جگہ) أَحْجَارَ الزَّيْتِ کو خون آلود دیکھو گے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جو حکم فرمائیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم جس جگہ کے ہو وہیں چلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی تلوار نہ اٹھاؤں اور اسے کندھوں پر نہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا اس طرح تو تم ان کے شریک ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا پھر (میرے لئے) کیا ارشاد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم اپنے گھر میں بیٹھے رہنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہ میرے پاس میرے گھر میں پہنچ جائے تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا پھر تم تلواروں کی چکا چوند سے ڈر جاؤ

۸۵۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنِ الْمُشَعَثِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ قَالَ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيَّكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصْبِرُ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَيْتَكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ عَرَفْتَ بِالذَّمِّ قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيَّكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا آخِذٌ سَيْفِي وَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَنْ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ تَلْزَمُ بَيْتَكَ قُلْتُ فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي قَالَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شِعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ نَوْبَكَ عَلَيَّ وَجْهَكَ يَبُوءُ بِإِيْمَتِكَ وَإِيْمِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ الْمُشَعَثَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ۔

تو تم اپنا کپڑا اپنے چہرہ پر ڈال لینا (اور ان لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جانا) تو وہ قاتل تمہارا اور اپنا دونوں کا گناہ لے کر لوٹے گا امام ابوداؤد فرماتے ہیں اس حدیث پر حماد (راوی) کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے مشعث کو ذکر نہیں کیا۔

ایک تکلیف دہ زمانہ:

اس حدیث میں مکان غلام کے عوض ملنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قبر کی جگہ کے لئے ایک غلام دیں گے یا قبر کھودنے کے لئے لوگ اُجرت میں ایک غلام ادا کریں گے یا ایک غلام کی قیمت ادا کریں گے یا مکانات اس قدر خالی پڑے رہیں گے کہ ایک غلام کے عوض ایک مکان حاصل ہو جائے گا اور اس حدیث میں تاریخ اسلام کے مشہور واقعہ واقعہ حرہ کی اطلاع دی گئی ہے جس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اس واقعہ کی تفصیل تاریخ اسلام کی کتب میں مذکور ہے۔

۸۵۹: محمد بن یحییٰ، عقیان، عبد الواحد، عاصم، احوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے سامنے فتنے برپا ہونے والے ہیں (اس طرح) کہ جس طرح اندھیری رات کے اندھیرے ٹکڑے۔ ان فتنوں میں انسان صبح کو مؤمن ہوگا تو شام کو کافر اور شام کے وقت مؤمن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا اور اس (زمانہ) میں چلنے والے شخص سے بیٹھا ہو شخص بہتر ہوگا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا پھر آپ ﷺ ہم لوگوں کے لئے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا (یعنی چھپے رہنا)۔

۸۶۰: ابراہیم بن حسن، حجاج، لیث، معاویہ، عبد الرحمن، ان کے والد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم! میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خوش نصیب وہ شخص ہے جو کہ فتنہ و فساد سے دور رہا اور خوش قسمت وہی ہے جو فتنہ سے بچا رہا جو کہ فتنوں سے دور رہا (یعنی محفوظ رہا) اور جو شخص اس میں پھنس جائے اور صبر سے کام لے تو ایسے شخص کا کیا کہنا۔

۸۵۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَقِيَانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي كَبِيْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُضِيحُ الرَّجُلَ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا الْفَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ كُونُوا أَحْلَاسَ بِيوتِكُمْ۔

۸۶۰: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جَنَّبَ الْفِتْنََ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جَنَّبَ الْفِتْنََ لَمَنْ جَنَّبَ الْفِتْنََ وَلَمَنْ ابْتَلَىٰ فَصَبَرَ فَوَاهَا۔

باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

باب: فتنہ کے دور میں زبان کو روکنا بہت بہتر ہے

۸۶۱: عبد الملك بن شبيب بن ليث، ابن وهب، ليث، يحيى بن سعيد، خالد بن ابى عمران، عبد الرحمن بن بيلماني، عبد الرحمن بن هرم، حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عنقریب بہرہ گونگا، گونگا، اندھا فتنہ برپا ہوگا پھر جو شخص اس فتنہ کی طرف متوجہ ہوگا تو فتنہ و فساد بھی اس شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس فتنہ (کے دور) میں زبان زوری کرنا ایسا ہے جیسے تلوار چلانا (یعنی ایسے دور میں خاموش رہنا ہی بہتر ہوگا)۔

۸۶۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِلْمَانِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَاءٌ بِكُمَاءٍ عُمَاءٌ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السِّيفِ۔

۸۶۲: محمد بن عبید، حماد، لیث، طاؤس، زیاد، حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

۸۶۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ

عنقریب ایسا فتنہ (برپا) ہوگا جو کہ عرب کو گھیرے میں لے لے گا جو لوگ اس فتنہ میں قتل کئے جائیں گے وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اس (زمانہ) میں زبان چلانا، تلوار چلانے سے بھی زیادہ (خطرناک) ہوگا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں اس روایت کو ثوری نے لیث، طاؤس، عجم سے روایت کیا ہے۔

۸۶۳: محمد بن عیسیٰ عبد اللہ بن عبدالقدوس سے روایت ہے کہ زیاد مومنے کان والے تھے۔

باب: فتنہ کے زمانہ میں جنگل میں چلے جانے کی

اجازت

۸۶۳: عبید اللہ بن مسلمہ مالک، عبدالرحمن، ان کے والد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ مسلمان شخص کی عمدہ مال بکریاں ہوں گی کہ جن کے پیچھے انسان پہاڑ کی چوٹیوں اور پانی برسنے کی جگہوں پر پھرے گا (اور وہ شخص) فتنوں کی بنا پر اپنا دین لے کر بھاگ کھڑا ہوگا۔

باب: فتنہ کے زمانہ میں قتال کی ممانعت

۸۶۵: ابوبکر، حماد، ایوب، یونس، حسن، حضرت احنف بن قیس سے روایت ہے کہ میں جنگ کے قصد سے نکلا (چلا) راستہ میں میری ابوبکرہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا تم واپس ہو جاؤ میں نے نبی سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان شخص اپنی تلواریں (یا کسی اور طریقہ سے) ایک دوسرے کو قتل کرنے کیلئے اٹھیں تو قتل کرنے والا اور مقتول دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! قتل کرنے والا شخص تو دوزخ میں جائے گا لیکن جس کو قتل کیا گیا وہ کس وجہ سے دوزخ میں جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے ساتھی کو ہلاک کرنے کے لئے کھڑا ہوا تھا (لیکن وہ خود ہی ہلاک ہو گیا) (اور اس کو موقع نہ مل سکا)۔

زِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَفِعِ السَّيْفِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ۔

۸۶۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُوسِ قَالَ زِيَادٌ سَمِعْتُ كُوشَ۔

بَاب مَا يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ الْبَدَاوَةِ

فِي الْفِتْنَةِ

۸۶۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ عِنَّمْ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ۔

بَاب فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ

۸۶۵: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ يَعْنِي فِي الْقِتَالِ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ لِإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ۔

۸۶۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْحَسَنِ يَأْسِنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا۔

۸۶۶: محمد بن متوکل عسقلانی، عبدالرزاق، معمر، ایوب، حضرت حسن سے اسی طریقہ پر روایت ہے لیکن کچھ مختصر۔

باب: مؤمن کو قتل کرنے کی وعید

۸۶۷: مؤمل بن فضل، محمد بن شعیب، حضرت خالد بن وہبان سے مروی ہے کہ ہم لوگ قسطنطنیہ کی جنگ ذلقیہ میں تھے کہ اسی دوران ایک شخص جو فلسطین کے معرزمین میں سے تھا سامنے آیا۔ لوگ اس کے مقام سے واقف تھے۔ اسے ہانی بن کلثوم بن شریک الکتانی کہا جاتا ہے اس نے عبداللہ بن ابی زکریا کو سلام کیا اور وہ ان کے مقام و مرتبہ سے واقف تھا۔ خالد کہتے ہیں کہ پھر ہم سے عبداللہ بن ابی زکریا نے حدیث بیان کی کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتی تھیں کہ میں نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے ہر ایک گناہ کے متعلق توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے مگر جو شخص حالت شریک میں مرجائے یا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے۔ حضرت ہانی بن کلثوم نے بیان کیا میں نے محمود بن ربیع سے سنا انہوں نے حضرت عمادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے حضرت رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے جو شخص کسی مؤمن کو ناحق (یعنی ظلماً) مار ڈالے اور وہ شخص اس عمل پر راضی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ نہ تو فرض عمل اور نہ نفل پھر ابن ابی زکریا نے ام درداء کے حوالے سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت رسول کریم ﷺ سے روایت کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہمیشہ بے غم رہتا ہے اور نیک رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کا ناحق خون نہ کرے۔ جب وہ کسی کا ناحق خون کر دیتا ہے (قتل کر دیتا ہے) تو وہ گناہوں سے بوجھل اور سست ہو جاتا ہے۔

باب فی تعظیم قتل المؤمنین

۸۶۷: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّابِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِذُلْقِيَّةِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَلِسْطِينَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ يُعْرَفُونَ ذَلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ هَانَاءُ بْنُ كَلْفُومٍ بِنِ شَرِيكِ الْكِنَانِيِّ فَسَلَّمَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا وَكَانَ يُعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ قَالَ لَنَا خَالِدٌ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَقَالَ هَانَاءُ بْنُ كَلْفُومٍ سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَأَعْتَبَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا قَالَ لَنَا خَالِدٌ ثُمَّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَغَ وَحَدَّثَ هَانَاءُ بْنُ كَلْفُومٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً۔

مؤمن کے قاتل کی سزا:

جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنا شدید ترین گناہ ہے اور یہ گناہ شرک کے قریب ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی سخت ترین وعید و سزا مذکور ہے اور ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں اور حدیث کے آخری حصہ کا مفہوم یہ ہے کہ مؤمن کا قاتل نیکی اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے اس کی برائیوں اور گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا انجام شر پر ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے عذاب دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے۔

۸۶۸: عبد الرحمن بن محمد بن مبارک صدقہ بن خالد یا اور کوئی شخص حضرت خالد بن وہقان سے روایت ہے کہ میں نے یحییٰ بن یحییٰ اور بھلائی سے معلوم کیا کہ (مندرجہ بالا حدیث میں) اِعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ جو الفاظ ہیں اس کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فتنہ کے دور میں ایک دوسرے کو یہ سمجھ کر مار ڈالتے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پر ہیں پھر وہ اس قتل کے گناہ سے معافی بھی نہیں مانگتے (کیونکہ وہ اپنے خیال میں اس قتل کو درست اور شریعت کے مطابق سمجھتے ہیں)

۸۶۹: مسلم بن ابراہیم حماد بن عبد الرحمن بن اسحاق ابوالزناد مجاہد بن عوف حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی جگہ سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا﴾ اس آیت کریمہ سے چھ مہینے کے بعد نازل ہوئی ہے جو سورہ فرقان میں ہے یعنی: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ﴾

۸۶۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِيَارِكٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّائِيَّ عَنْ قَوْلِهِ اِعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ قَالَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ يَقْتُلُ أَحَدَهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ يَعْنِي مِنْ ذَلِكَ۔

۸۶۹: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مَجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا بَعْدَ النَّبِيِّ فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ۔

۸۷۰: یوسف بن موسیٰ جبریر منصور یا حکم سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا انہوں نے بیان کیا کہ سورہ فرقان کی آیت کریمہ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ﴾ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے کہا ہم لوگوں نے تو اس جان کو قتل کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور ہم نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو نبی پکارا ہے اور ہم لوگ برائیوں کے بھی مرتکب ہوئے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی:

۸۷۰: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَوْسَى حَدَّثَنَا جَبْرِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ أَوْ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَسْنَا نَزَلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ مُشْرِكُوا أَهْلَ مَكَّةَ قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ

مذمت اور شدت کو بیان فرمایا۔ ہم نے عرض کیا یا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! گروہِ قتنہ ہم لوگوں کے زمانہ میں ہو تو وہ ہم کو تباہ و برباد کر دے گا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا نہیں تمہارا قتل ہونا کافی ہو جائے گا۔ سعید نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ (جنگِ جمل و صفین وغیرہ میں) مار دیئے گئے۔

باعثِ مغفرتِ عمل:

مذکورہ حدیث میں کافی ہونے سے مراد یہ ہے تمہارا قتل ہو جانا مغفرت کا باعث ہو جائے گا اور اس صورت میں تمہاری مغفرت کی توقع ہے۔

۸۷۵: حَدَّثَنَا عَفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كَبِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ۔

۸۷۵: عثمان بن ابی شیبہ، کبیر، مسعودی، سعید، حضرت ابورده اپنے والد ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ امت مرحومہ ہے اس کو آخرت میں (ہمیشہ باقی رہنے والا) عذاب نہ ہوگا البتہ دنیا میں اس کو عذاب کے طور پر فتنوں، زلزلوں اور قتل سے دوچار ہونا پڑے گا۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْمَهْدِيِّ

حضرت مہدی کے بارے میں

۸۷۶: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَفْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلَامًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ أَفْهَمَهُ قُلْتُ لِأَبِي مَا يَقُولُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ۔

۸۷۶: عمرو بن عثمان، مروان بن معاویہ، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا جب تک کہ تم لوگوں پر بارہ خلیفہ ہوں گے ان میں سے ہر ایک خلیفہ پر امت اتفاق (قائم) کر لے گی پھر آپ ﷺ نے ایک بات فرمائی جس کو میں نہ سمجھ سکا تو میں نے اپنے والد سے دریافت کیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ تمام خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔

۸۷۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ دَاوُدَ عَامِرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ رَضِيَ

حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى النَّبِيِّ عَشْرَ خَلِيفَةٍ قَالَ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيفَةً قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ مَا قَالَ قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ۔

۸۷۸: حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَنَّهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا لِمَ يَكُونُ مَاذَا قَالَ لِمَ يَكُونُ الْهَرَجُ۔

۸۷۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَمْرَ بْنَ عَبِيدٍ حَدَّثَهُمْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَمِينِي ابْنُ عِيَّاشٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ فِطْرِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ اتَّفَقُوا حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي زَادٍ فِي حَدِيثِ فِطْرِ يَمَلُّ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلَّتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ لَا تَذْهَبُ أَوْ لَا تَنْقُضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَفِظَ عَمْرٌ وَأَبِي بَكْرٍ بِمَعْنَى سُفْيَانَ۔

اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے یہ دین بارہ خلفاء تک غالب رہے گا لوگوں نے یہ بات سن کر اللہ اکبر کہا اور چلائے۔ پھر آپ ﷺ نے آہستگی سے کچھ ارشاد فرمایا میں نے اپنے والد سے دریافت کیا آپ ﷺ نے کیا فرمایا تھا تو انہوں نے جواب دیا آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمام (خلفاء) قریش میں سے ہوں گے۔

۸۷۸: ابن نفیل زہیر زیاد بن حثیمہ اسود بن سعید حضرت جابر بن سمرہ سے یہی مروی ہے جو اوپر مذکور ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ ﷺ مگر کی طرف واپس ہوئے تو آپ ﷺ کی خدمت میں قبیلہ قریش کے لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کیا پیش آئے گا؟ آپ نے فرمایا پھر قتل و قتال ہوگا (یعنی ناحق خون بہے گا)

۸۷۹: مسدّد عمر بن عبید (دوسری سند) محمد بن علاء ابو بکر بن عیاش (تیسری سند) مسدّد یحییٰ سفیان (چوتھی سند) احمد بن ابراہیم عبد اللہ بن موسیٰ زائدہ (پانچویں سند) احمد بن ابراہیم عبید اللہ بن موسیٰ فطر عاصم زر حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دُنیا کا ایک دن بھی باقی بچا جائے گا حضرت زائدہ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو اس قدر طویل فرمائیں گے کہ اس (ایک دن) میں ایک شخص مجھ سے یا فرمایا میرے اہل بیت میں سے بھیجے گا کہ اس کا نام میرے نام جیسے ہوگا اور میرے والد کا نام اس کے والد کا نام جیسا ہوگا۔ (راوی) فطر کی روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ وہ شخص انصاف سے زمین بھردے گا (یعنی رُوئے زمین پر انصاف کا غلبہ ہوگا) جیسا کہ وہ زمین (ظلم اور زیادتی) سے بھر گئی تھی (راوی) سفیان کی ہدایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ دُنیا کی مدت پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ ملک عرب کا مالک میرے گھرنے کے لوگوں میں سے ایسا شخص ہوگا کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ امام ابوداؤد نے فرمایا کہ عمر اور بکر کے الفاظ سفیان جیسے ہیں۔

ثبوت مہدی:

مطلب یہ ہے کہ جو نام میرا نام ہے وہی اس شخص کا نام ہوگا مذکورہ حدیث سے حضرت مہدی کے قیامت سے قبل تشریف لانے کا ثبوت ملتا ہے اس موضوع پر اکابرین دیوبند نے مختلف تحقیقی رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں ان کا مطالعہ مفید ہوگا۔

۸۸۰: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَةَ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلُؤُهَا عَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ جُورًا۔

۸۸۰: عثمان بن ابی شیبہ، فضل، فطر، قاسم، ابوالطفیل، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر زمانہ (کی عمر) میں سے ایک دن بھی باقی بچ جائے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بھیجے گا کہ وہ زمین کو انصاف سے اس طرح بھر دے گا (انصاف قائم کرے گا) کہ وہ زمین جس طرح کہ وہ پہلے ظلم و زیادتی سے بھر گئی تھی۔

خلاصۃ الباب: ان احادیث سے مراد حضرت امام مہدیؑ ہیں جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوں گے۔ احادیث کا حاصل یہ ہے کہ ان کے نظام حکومت کی مالی حالت بہت زیادہ اچھی ہوگی، فتوحات اور مال غنیمت وغیرہ کی وجہ سے ان کی آمدنی کا کوئی حساب نہیں ہوگا، لیکن وہ اس مال و دولت کو اپنی شان و شوکت بڑھانے اور اپنی زندگی کو بہر عیش بنانے پر خرچ نہیں کریں گے یا جمع کر کے اپنے خزانوں میں بند کر کے نہیں رکھیں گے جیسا کہ ہمارے زمانہ کے حکمران اور بادشاہوں کا دستور ہے بلکہ وہ اس دولت کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی ضروریات میں خرچ کریں گے اور اپنی طبعی سخاوت کی وجہ سے دونوں ہاتھ بھر بھر کر یہ دولت لوگوں میں تقسیم کریں گے اور انصاف انتہائی سستا ہوگا اس کے لئے کوئی خاص تک و دو نہیں کرنا پڑے گی۔ یعنی وہ زمانہ صحیح طور پر ایک ”ویلفیئر سٹیٹ“ کا نمونہ پیش کر رہا ہوگا۔

۸۸۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّي حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زِيَادِ بْنِ يَمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمَهْدِيُّ مِنْ عَتَرَتِي مِنْ وَدِّدٍ فَاطِمَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَسَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُبْنِي عَلِيَّ بْنَ نَقِيلٍ وَيَذْكُرُ مِنْهُ صَلَاحًا۔

۸۸۱: احمد بن ابراہیم، عبد اللہ بن جعفر، ابوالمہدی، حسن بن عمر زیاد بن بیان، علی بن نقیل، سعید بن مسیب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے (حضرت مہدی میری نسل (حضرت) فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ عبد اللہ بن جعفر نے ابوالمہدی کو، علی بن نقیل کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے سنا۔

۸۸۲: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامٍ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجَلِي الْجَبْهَةِ

۸۸۲: سہل بن تمام، عمیران، قتادہ، ابو نصرہ، حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہیں (ان کا حلیہ اور ان کے اوصاف یہ ہوں گے) کشادہ پیشانی، کھڑی ناک والے زوئے زمین کو انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ

آفَى الْأَنْفِ يَمَلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا
 مُلِئْتُ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ۔
 ۸۸۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
 هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي
 الْخَلِيلِ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ
 خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا
 إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَخْرُجُونَهُ
 وَهُوَ كَارِهِ فَيَأْبَعُونَهُ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ
 وَيَبْعُثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيُخَسَفُ بِهِمْ
 بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَاذًا رَأَى النَّاسُ
 ذَلِكَ آتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَابُ أَهْلِ الْعِرَاقِ
 فَيَأْبَعُونَهُ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ
 قُرَيْشٍ أَمْوَالَهُ كُلَّهَا فَيَبْعُثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا
 فَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثٌ كَلْبٌ وَالْخَيْبَةُ
 لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَيْمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ
 وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجَرَانِهِ فِي الْأَرْضِ
 فَيَأْبُتُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَتَوَلَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ
 الْمُسْلِمُونَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ
 هِشَامٍ تَسْعَ سِنِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعَ سِنِينَ۔
 زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی اور وہ (زمین کے) سات سال
 تک مالک رہیں گے (یعنی سات سال تک حکومت کریں گے)
 ۸۸۳: محمد بن ثنی، معاذ بن ہشام، ان کے والد قناده، صالح، ان کے
 ساتھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول
 کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک خلیفہ کی وفات کے وقت (لوگوں میں)
 اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا اور اس کو امامت
 ہوا نکلے گا کہ اہل مکہ اس شخص کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت
 کرنے کے لئے نکالیں گے حالانکہ وہ شخص امامت کرنے کے لئے
 راضی نہیں ہوگا پھر لوگ اس شخص سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے
 درمیان بیعت کریں گے پھر اسی وقت شام سے ایک لشکر اس شخص کی
 طرف روانہ کیا جائے گا تو وہ لشکر مقام بیداء میں زمین کے اندر دھنسا دیا
 جائے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ پھر جس وقت لوگ اس
 حالت کو دیکھیں گے کہ ملک شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں اس
 شخص کے پاس آئیں گی اور اس شخص سے بیعت کریں گی اس کے بعد
 قبیلہ قریش میں سے ایک شخص پیدا ہوگا اس شخص کی نخیال قبیلہ بنی کلب
 میں سے ہوگی اور وہ شخص ان لوگوں کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا تو
 اس لشکر پر (امام) مہدی کے ماننے والے غالب آئیں گے اور یہی
 کلب کا لشکر ہے پھر اس شخص پر انوس ہے جو کہ قبیلہ کلب کی جنگ کا
 مال غنیمت نہ حاصل کرے اس کے بعد حضرت مہدی مال غنیمت تقسیم
 فرمائیں گے اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے اور
 دین اسلام کو اپنی گردن میں ڈال لیں گے (یعنی اسلام کے نظام کو قائم
 کریں گے) اس کے بعد وہ سات سال تک زندہ رہے کہ انتقال کر جائیں
 گے اور تمام مسلمان ان کی نماز (جنازہ) ادا کریں گے۔ امام ابوداؤد نے فرمایا بعض حضرات نے ہشام سے روایت کیا کہ وہ نو سال
 تک زندہ رہیں گے اور بعض حضرات نے کہا وہ سات سال تک زندہ رہیں گے۔

حضرت مہدی کی حکومت:

حضرت امام مہدی کے تشریف لانے کے وقت قبیلہ کلب کا لشکر امام مہدی کے ماننے والے لوگوں کے ہاتھوں مغلوب ہوگا
 اور امام مہدی کی حکومت کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں وہ سات سال تک رہے گی اور بعض نے کہا کہ نو سال تک۔

۸۸۳: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَنَادَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ تِسْعَ بَيِّنِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ قَالَ غَيْرُ مَعَاذٍ عَنْ هَشَامٍ تِسْعَ بَيِّنِينَ۔

۸۸۳: ہارون بن عبد اللہ، عبد الصمد، ہمام، حضرت قنادہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے نو سال کہا ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاذ کے علاوہ سب نے ہشام کے حوالے سے نو سال کہے ہیں۔

۸۸۵: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مَعَاذٍ أَمُّ۔

۸۸۵: ابن مثنیٰ، عمرو بن عاصم، ابوالعوام، قنادہ، ابوالخلیل، عبد اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ابیہ محترمہ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پوری ہے۔

۸۸۶: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفُبَيْطِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ جَيْشِ الْخَسْفِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بَمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ يُخَسَفُ بِهِمْ وَلَكِنْ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رِئَسِهِ۔ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي النَّظْرِ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشَبِّهُهُ فِي الْخَلْقِ وَلَا يُشَبِّهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمَلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مَطْرِفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ هَلَالِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَائِبٍ عَلَى مَقْدَمَتِهِ رَجُلٌ

۸۸۶: عثمان بن ابی شیبہ، جریر، عبد العزیز بن رفیع، عبد اللہ ابن الفبیطی، ام سلمہ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادہ (سیدنا) حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھا اور فرمایا میرا بیٹا سردار ہوگا جس طریقہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تجویز فرمایا اور عنقریب ان کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ وہ تمہارے نبی کے نام سے موسوم ہوگا (یعنی نبی کے ہم نام ہوگا) اور عادت و خصلت میں بھی ان کے مشابہ ہوگا لیکن شکل و صورت میں (حضرت نبی کے) مشابہ نہیں ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص روزے زمین کو عدل سے بھر دے گا کا تذکرہ فرمایا۔ عبد اللہ کی روایت میں ہارون نے عمرو بن قیس سے روایت کیا انہوں نے مطرف سے اور انہوں نے حسن سے روایت کیا انہوں نے ہلال بن عمرو سے روایت کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوطَّءُ أَوْ يُمَكِّنُ لِأَلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا مَكَّنْتَ قُرَيْشَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَبَّ
 عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ۔
 ارشاد فرمایا اور اہل انہر سے ایک شخص پیدا ہوگا اس شخص کا نام حارث بن
 حراث ہوگا اور اس شخص کے آگے ایک شخص ہوگا اس شخص کو لوگ منصور
 کہیں گے وہ شخص حضرت رسول کریم ﷺ کی آل اولاد کو اس طرح
 قبضہ یا جگہ عنایت کرے گا جس طرح قریش نے حضرت رسول کریم ﷺ کو جگہ (پناہ) دی تھی۔ ہر ایک مسلمان شخص کے ذمہ اس
 شخص کا تعاون کرنا ضروری ہے یا آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا اس شخص کی فرمانبرداری (ہر ایک شخص کے ذمہ لازم ہے)

أَوَّلُ كِتَابِ الْمَلَا حِمِ

جنگوں کا بیان

باب: ہر ایک صدی کا بیان

۸۸۷: سلیمان بن داؤد ابن وہب، سعید بن ابی ایوب، شراحیل بن
 یزید ابو علقمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے علم
 کے مطابق حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سو سال
 کے اخیر میں اس امت کی (رہنمائی) کے لئے ایک ایسا شخص پیدا
 فرمائے گا جو کہ دین کو از سر نو قوت دے گا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ
 عبدالرحمن نے ابن شریح کے واسطے سے (اس روایت کو) بیان کرتے
 ہوئے (راوی) شراحیل سے آگے نہیں بڑھے (یعنی شراحیل تک نام
 ذکر کیا ہے)۔

باب مَا يَذْكُرُ فِي قَرْنِ الْمِائَةِ

۸۸۷: حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا
 ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ
 شَرَّاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَاوِرِيِّ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
 عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ
 الْإِسْكَندَرِيُّ لَمْ يَجْزُ بِهِ شَرَّاحِيلُ۔

مجدد کے بارے میں:

مذکورہ بالا حدیث شریف صحیح حدیث ہے اور مجدد سے متعلق علماء نے مختلف تحقیقی مباحث تحریر کی ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ
 اللہ علیہ کی سوانح و تالیفات میں ”تجدید دین سے متعلق تفصیلی مباحث“ مذکور ہیں۔

باب: روم کے معرکوں کے بارے میں

۸۸۸: نفیلی، عیسیٰ بن یونس اوزاعی، حضرت حسان بن عطیہ، کھول اور
 ابن زکریا، خالد بن معدان کی طرف گئے میں بھی ان کے ہمراہ چل
 دیا۔ انہوں نے حضرت جبیر بن نفیر سے کے حوالے سے ہم سے حدیث
 بیان کی۔ انہوں نے بیان کیا تم ہم لوگوں کو صحابی رسول حضرت ذی نجر

باب مَا يَذْكُرُ مِنْ مَلَا حِمِ الرُّومِ

۸۸۸: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ
 حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ
 مَكْحُولٍ وَأَبْنُ أَبِي زَكْرِيَّا إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
 وَوَلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنِ

رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلو۔ ہم ان کی خدمت میں گئے حضرت جبیر نے ان سے صلح کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت رسول کریم ﷺ سے میں نے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ تم لوگ روم سے صلح کرو گے پھر تم لوگ اور وہ لوگ (مشترک طور پر) مل کر ایک پیچھے آنے والے دشمن سے جنگ کرو گے پھر فتح حاصل کرو گے اور (دشمن کا مال) لوٹ کر لاؤ گے اور تم خیریت سے لوٹو گے۔ یہاں تک کہ تم ایک میدان میں آؤ گے جو کہ ایک ٹیلہ ہوگا پھر ایک شخص نصرانیوں میں سے صلیب اٹھائے گا اور وہ کہے گا (اعلان کرے گا) کہ صلیب غالب آگئی۔ تو مسلمانوں میں سے ایک شخص غضبناک ہوگا اور وہ اس شخص کے ساتھ مار پیٹ کرے گا۔ اس وقت اہل روم معاہدہ توڑ ڈالیں گے اور لوگوں کو جنگ کرنے کے لئے اکٹھا کریں گے۔

۸۸۹: مؤمل بن فضل ولید ابو عمرو حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت بھی اسی طرح مذکور ہے اور اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ مسلمان جلدی سے اپنے اسلحہ کی جانب چلے جائیں گے اور جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس گروہ کو شہادت کے ذریعے بزرگی عنایت فرمائے گا لیکن (حضرت) ولید نے اس روایت کو جبیر سے بیان کیا انہوں نے ذی مخبر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت رسول کریم ﷺ سے روایت کیا ہے امام ابوداؤد فرماتے ہیں اس روایت کو روح یحییٰ بشر نے اوزاعی سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے کہ جس طریقہ سے عیسیٰ نے روایت کیا۔

باب: آپ کے بیان فرمودہ فتنوں اور جنگوں کی علامات

۸۹۰: عباس عنبری ہاشم عبد الرحمن ثوبان ان کے والد مکحول جبیر بن نفیر مالک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث بنے گی اور مدینہ منورہ کی خرابی فتنہ و فساد شروع ہونے کا باعث ہوگا اور فتنہ کا کلنا (شروع ہونا) قسطنطنیہ کی فتح کا باعث بنے گا اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا باعث بنے گا پھر

الْهُدْنَةَ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ انْطَلِقُ بِنَا اِلَى ذِي مَخْبَرٍ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا اِمِنًا فَتَغْزُونَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَّرَائِكُمْ فَتَنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي تَلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ النَّصْرَانِيَةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْفَعُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ۔

۸۸۹: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ وَيَنُورُ الْمُسْلِمُونَ اِلَى اَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتُلُونَ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ اِلَّا اَنَّ الْوَلِيدَ جَعَلَ الْحَدِيثَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ ذِي مَخْبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رُوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ كَمَا قَالَ عِيْسَى۔

باب في أمارات الملاحم

۸۹۰: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثُوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَحْيَا مِرَّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابٌ يَغْرِبُ وَخَرَابٌ يَثْرِبُ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ

آپ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ران یا شانے پر اپنا (مبارک) ہاتھ مارا۔ اس کے بعد فرمایا (یہ) یقینی بات ہے جس طرح تمہارا اس جگہ پر موجود ہنایا بیٹھنا یقینی ہے۔

هَاهُنَا أَوْ كَمَا أَنْتَ قَاعِدٌ يَعْنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ۔

باب: یکے بعد دیگرے معرکوں کا بیان

۸۹۱: عبد اللہ بن محمد عیسیٰ بن یونس ابو بکر بن ابی مریم و لید بن سفیان یزید بن قطیب ابو بحریہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑا فتنہ (و فساد) اور قسطنطنیہ کی فتح ہونا اور خروج دجال سات ماہ کے اندر اندر ہوگا۔

باب فی تَوَاتُرِ الْمَلْحَمِ

۸۹۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ الْقَسَايِنِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَيْبِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي بَحْرِيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ۔

۸۹۲: حيوة بن شريح بقیة بنیہ خالد ابن ابی بلال حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فتح شہر مدینہ اور بڑے فتنہ کے درمیان (کا وقفہ) چھ سال ہوگا اور دجال کا نکلنا ساتواں سال ہوگا امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث عیسیٰ کی ابن یونس کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

۸۹۲: حَدَّثَنَا حَيَوَةُ بْنُ شَرِيحِ الْجَمَّاسِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَجِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَيْسَى۔

باب: اہل اسلام پر اقوام عالم کا چڑھ دوڑنا

۸۹۳: عبد الرحمن بشر ابن جابر ابو عبد السلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا عنقریب تم لوگوں پر دوسری اقوام چڑھ دوڑیں گی جس طریقہ سے کھانے والے لوگ کنورے پر آتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا ہم لوگ اس دور میں تعداد میں کم ہوں گے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہم لوگ اس دور میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے لیکن تم لوگ ایسے ہو گے جس طرح کہ دریا کے پانی پر (کوڑے کرکٹ کا میل) ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا رعب اور دبدبہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ”وہن“ پیدا فرمادے گا۔ ایک شخص نے عرض:

باب فی تَدَاعِي الْأُمَمِ عَلَى الْإِسْلَامِ

۸۹۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ثُوبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قَلِيلٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلِكُنَّكُمْ غَنَاءٌ كَغَنَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ

فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكِرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔
کیا یا رسول اللہ وہن کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا دُنیا کی محبت اور موت کا ڈر (تمہارے اندر آجائے گا)

حالات حاضره اور فرمان رسول:

یہ حدیث شریف موجودہ دور کے حالات پر بالکل صادق آ رہی ہے کہ آج کا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مقابلہ کے لئے بہادر ہے لیکن غیروں کے مقابلہ کے لئے بزدل ہے۔ یہی وہ وہن ہے جس کو حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

باب: جنگ میں اہل اسلام کا کس جگہ قیام ہوگا؟

۸۹۳: ہشام بن عمار یحییٰ بن حمزہ ابن جابر زید بن ارطاة جبیر بن نفیر حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (دجال سے جنگ کرنے کے لئے) مسلمانوں کا پڑاؤ (مقام) غوطہ میں ہوگا جو کہ دمشق نامی شہر کے قریب ہے اور دمشق ملک شام کے بہترین علاقوں میں سے ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن وہب کے واسطے سے ابن حازم عبید اللہ نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عنقریب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف گھیر گھار کر لایا جائے گا یہاں تک کہ ان لوگوں کی بہت فاصلہ کی سرحد (حد و ملک) سلاح ہوگا۔ (سلاح ایک مقام کا نام ہے)

۸۹۵: احمد بن صالح، عنہ بنہ یونس، حضرت زہری سے روایت ہے کہ سلاح خیبر کے قریب (ایک جگہ کا نام) ہے۔

باب: لڑائیوں سے فتنوں کا پیدا ہونا

۸۹۶: عبد الوہاب بن نجدہ اسماعیل (دوسری سند) ہارون بن عبد اللہ حسن بن سواد اسماعیل سلیمان یحییٰ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس اُمت پر دونوں آفات نہیں بھیجے گا کہ (مسلمان) بیک وقت باہمی طور پر جنگ کریں اور دشمن سے بھی جنگ کریں۔

بَاب فِي الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلَا حِم

۸۹۳: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةٍ قَالَ سَمِعْتُ جَبْرَ بْنَ نَفِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أْبَعَدَ مَسَاحِيهِمْ سَلَا حَ۔

۸۹۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بِعَنْ عَنَسَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَسَلَا حٌ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ۔

بَابِ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ فِي الْمَلَا حِم

۸۹۶: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِبِيِّ قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ

الْأُمَّةِ سَيِّفِينَ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا۔

بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالْحَبْشَةِ
۸۹۷: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا
ضَمْرَةَ عَنِ السَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي سَكِينَةَ رَجُلٍ مِنَ
الْمُعَرَّرِينَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ دَعُوا الْحَبْشَةَ
مَا وَدَعَوْكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ۔

باب: ترک اور حبش کو بلاوجہ بھڑکانے کی ممانعت

۸۹۷: عیسیٰ بن محمد ضمیرہ شیبانی، ابوسکنہ نے حضرت رسول کریم ﷺ کے ایک صحابی سے روایت کیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبشی لوگوں کو اور ترکوں کو تم چھوڑے رہو (نظر انداز کر دو) جب تک وہ لوگ تم کو چھوڑیں۔ (یعنی تمہارے سے ٹکراؤ نہ کریں اور تم لوگ ان لوگوں سے خود لڑائی شروع کرو۔)

بَاب فِي قِتَالِ التُّرْكِ

۸۹۸: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي
الْإِسْكَندَرِيَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا
تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ قَوْمًا
وَجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشُّعْرَ۔

باب: ترک کفار سے جنگ کرنا

۸۹۸: قتیبہ بن سعید یعقوب، سہیل بن ابی صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان ترک کفار سے لڑائی نہ کر لیں ان کے چہرے تہہ در تہہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے اور وہ بالوں سے بنا ہوا لباس پہنتے ہوں گے۔

۸۹۹: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ السَّرْحِ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً قَالَ ابْنُ
السَّرْحِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى
تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشُّعْرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ
حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا صِفَارَ الْأَعْيُنِ ذَلِكَ الْأَنْفِ
كَانَ وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةَ۔

۸۹۹: قتیبہ، ابن سرح وغیرہ سفیان، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ مسلمان ایسی قوم سے جنگ کر لیں گے جو کہ چھوٹی آنکھوں والے چھٹی ناک والے ہوں گے ان کے چہرے تہہ در تہہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔

۹۰۰: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَاهِرٍ الْبَيْهَقِيُّ حَدَّثَنَا
خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ
صِفَارَ الْأَعْيُنِ يَعْنِي التُّرْكَ قَالَ تَسُوقُونَهُمْ
ثَلَاثَ مِرَالٍ حَتَّى تُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ
فَأَمَّا فِي السِّيَاقَةِ الْأُولَى فَيَسْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ

۹۰۰: جعفر خلاد، بشیر، عبداللہ بن بریدہ ان کے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں سے ایک چھوٹی آنکھوں والی ترکی قوم جنگ کرے گی پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ ان لوگوں کو تین مرتبہ (پیچھے) ہٹا دو گے یہاں تک کہ تم لوگ ان کو جزیرہ عرب کے کنارہ پر پہنچا دو گے تو پہلی ہانک میں ان لوگوں میں سے جو شخص بھاگ کھڑا ہوگا تو وہ شخص نجات یافتہ ہوگا اور دوسرے میں بعض لوگ بچ جائیں گے اور بعض

وَأَمَّا فِي النَّابِيَةِ فَيَنْجُو بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ
وَأَمَّا فِي الْغَالِيَةِ فَيُضْطَلَمُونَ أَوْ كَمَا قَالَ۔

لوگ ہلاک ہوں گے اور پھر تیسرے میں تو تمام لوگ جڑ سے اکھڑ
جائیں گے (بالکل ہل جائیں گے) یا جس طرح فرمایا۔

باب فِي ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

۹۰۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ جُمَهَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بُكْرَةَ قَالَ
سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ
نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِغَائِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ
يُقَالُ لَهُ دِجْلَةٌ يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا
وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ ابْنُ يَحْيَى
قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا
كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قُنُطُرَاءَ عِرَاضُ
الْوُجُوهِ صِغَارُ الْأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِّ
النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرْقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ
أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَالْبَرِيَّةِ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ
لَأَنفُسِهِمْ وَكَفَرُوا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَهُمْ
خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيَقَاتِلُونَهُمْ وَهُمْ الشُّهَدَاءُ۔

۹۰۱: محمد بن یحییٰ بن فارس نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں میں سے جو اللہ کے رسول کے پیچھے آئے ہیں ان میں سے ایک فریق آئے گا اور ایک فریق اپنے آپ کو بچا کر کافر ہونا منظور کرے گا اور (ان لوگوں میں سے) ایک فریق اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کر نکلے گا اور جنگ کرے گا تو وہ بھی (فرقہ) شہید ہوگا۔

تاریخ اسلام کا ایک واقعہ:

اس حدیث شریف میں جس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے یہ واقعہ خلفاء عباسیہ کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کے زمانہ خلافت میں پورا ہوا اور سابقہ احادیث میں جن چھوٹی آنکھ والے ترک سے جنگ کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے تو ان لوگوں میں سے بہت سے چینی اور ترکستانی لوگوں سے اہل اسلام جنگ کر چکے اسی جنگ کے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے تفصیل کے لئے تاریخ اسلام کی کتب ملاحظہ فرمائیں۔

۹۰۲: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُوسَى الْحَنَاطُ
لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ

۹۰۲: عبد اللہ بن صباح نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں میں سے جو اللہ کے رسول کے پیچھے آئے ہیں ان میں سے ایک فریق آئے گا اور ایک فریق اپنے آپ کو بچا کر کافر ہونا منظور کرے گا اور (ان لوگوں میں سے) ایک فریق اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کر نکلے گا اور جنگ کرے گا تو وہ بھی (فرقہ) شہید ہوگا۔

سے بچنا اور اس شہر کے کلاء سے اور اس کے بازار سے اور اس شہر کے دولت مند لوگوں کے دروازوں سے (بھی بچنا) اور تم اس شہر کے صنواچی کو اختیار کرنا کیونکہ اس شہر کے اندر زمین میں دھنسا پتھر برستا اور زلزلہ کا عذاب ہوگا اور ایک قوم رات گزارے گی یعنی وہ لوگ بالکل صحیح حالت میں سوئیں گے مگر صبح کو خنزیر اور بندر ہو کر اٹھیں گے۔

أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبُصْرَةُ أَوْ الْبُصَيْرَةُ فَإِنَّ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَلْيَاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَاتِهَا وَسَوْفَهَا وَبَابُ أَمْرَانِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَائِحِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبْسُتُونَ يُصْبِحُونَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ۔

لَعْنَةُ تَشْرِيحٍ: مَذْكُورَةٌ حَدِيثٌ فِي سَبَاحِ سَيْبِخَةَ كَالْفَرْمَائِيَا لَمَّا هِيَ سَيْبِخَةُ اس زَمِينِ كَوَيْبَا جَاتَا هِيَ جَسَ فِي شُورِيَّتِ هَوْتِي هِيَ اؤر ضاحية ايك جنگل كا نام هے اور بصره عراق كا مشهور شهر هے۔

۹۰۳: محمد بن ثنیٰ ابراہیم ان کے والد حضرت صالح بن درہم سے روایت ہے کہ وہ میان کرتے تھے کہ ہم لوگ حج کی نیت سے گئے تھے تو ہم کو وہاں پر اچانک ایک شخص ملا اور اس نے ہم سے کہا کہ تم لوگوں کی طرف ایک بستی ہے جس کو ابلہ کہا جاتا ہے تو ہم نے کہا جی ہاں پھر اس شخص نے کہا کہ تم لوگوں میں سے میرے لئے کون شخص ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ میرے لئے مسجدِ عشار میں دو رکعت یا چار رکعت پڑھے اور اس طرح کہے اس کا ثواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لئے ہے کیونکہ میں نے اپنے جگری دوست ابو القاسم رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے بلاشبہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسجدِ عشار سے اپنے شہداء کو اٹھائے گا کہ بدر کے شہداء کے ساتھ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ امام ابوداؤد نے فرمایا یہ مسجد نہر کے قریب ہے۔

۹۰۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يَقُولُ اَنْطَلَقْنَا حَاجِبِينَ فَاِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا اِلَى جَنِيكُمْ قَرِيْبَةٌ يُقَالُ لَهَا الْاَبْلَةُ فَلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ اَنْ يُصَلِّيَ لِي فِي مَسْجِدِ الْعَشَارِ رَكْعَتَيْنِ اَوْ اَرْبَعًا وَيَقُوْلَ هَذِهِ لِاَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيْلِي رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَنْعُثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءٌ لَا يَقُوْمُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرِ غَيْرُهُمْ قَالَ اَبُو دَاوُدَ هَذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرَ۔

مسجدِ عشار:

مذکورہ حدیث میں مسجدِ عشار سے مراد دریائے فرات کے پاس واقع ایک مسجد ہے اور حدیث کے آخری جملوں میں شہداء سے مراد شہدائے کربلا ہیں کہ یہ شہداء بدری شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔

باب: حبشہ کا تذکرہ

۹۰۴: قاسم بن احمد ابو عامر زہیر موسیٰ بن جبیر ابو امامہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حبشی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جب تک کہ وہ تم لوگوں سے مقابلہ نہ کریں کیونکہ بیت اللہ شریف کے خزانے

باب النہی عن تہویج الحبشۃ

۹۰۴: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَبْرِ عَنْ اَبِي اَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَتْرُكُوْا

الْحَبَشَةَ مَا تَرَكَوْكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزُ الْكُعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ۔
والا ہوگا۔

خزانہ بیت اللہ کا محافظ حبشی:

مذکورہ حدیث میں جس شخص کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے وہ حبشی قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ ع کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت ہوگا اور علامات قیامت سے متعلق تفصیل رسالہ ”علامات قیامت“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

باب: علامات قیامت

۹۰۵: مؤمل بن ہشام اسامیل ابو حیان حضرت ابو زمرہ سے مروی ہے کہ چند لوگ مروان کے پاس مدینہ منورہ سے آئے تو انہوں نے مروان سے سنا وہ حدیث بیان کرتا تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت دجال کا نکلنا ہے تو (یہ سن کر) میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور میں نے ان سے بیان کیا حضرت عبد اللہ نے فرمایا اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے (قیامت کی) سب سے پہلی علامت آفتاب کا مغرب کی طرف سے نکلنا ہے یا لوگوں میں دھوپ چڑھتے وقت دابۃ الارض کا نکلنا ہے اور ان دونوں میں سے جو بات پہلے ہوگی تو دوسری بات بہت جلد اس کے پیچھے آجائے گی اور عبد اللہ توریت اور انجیل تلاوت کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میرا گمان ہے کہ (قیامت کی) سب سے پہلی علامت مغرب کی طرف سے آفتاب کا طلوع ہوتا ہے۔

باب أَمَارَاتِ السَّاعَةِ

۹۰۵: حَدَّثَنَا مُؤْمَلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ إِلَى مَرْوَانَ بِالْمَدِينَةِ فَمَسِعُوهُ بِحَدِيثٍ فِي الْآيَاتِ أَنْ أَوَّلَهَا الدَّجَالُ قَالَ فَاَنْصَرَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحًى فَأَيُّهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبِهَا فَلَا أُخْرَى عَلَى آثَرِهَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ وَأُظُنُّ أَوَّلَهُمَا خُرُوجًا طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا۔

۹۰۶: مسدذ ہناذ ابو الاحوص فرات عامر ابو الطفیل حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول کریم ﷺ کے (مکان مبارک) کے سائے میں بیٹھے ہوئے قیامت کا تذکرہ کرنے لگے۔ اس تذکرے کے دوران ہم لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں (یعنی شور و غل ہوا) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت (اس وقت تک) ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے قبل دس علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ (۱) آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا (۲) دابۃ الارض کا نکلنا (۳) یاجوج ماجوج کا نکلنا (۴) دجال کا نکلنا (۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا (آسمان سے) تشریف لانا

۹۰۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَهَنَادُ الْمَعْنِيُّ قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا فَرَاتُ الْقُرَازِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاللَّةِ وَقَالَ هَنَادُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حَذِيفَةَ بْنِ أَسِيدِ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا قُعُودًا نَتَحَدَّثُ فِي ظِلِّ غُرْفَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كُنَّا السَّاعَةَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ تَكُونَ أَوْ لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ الدَّابَّةِ وَخُرُوجِ

يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالذَّجَالَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
وَالذَّخَانَ وَثَلَاثَةَ خُصُوفٍ خُسْفٍ بِالْمَغْرِبِ
وَحُسْفٍ بِالْمَشْرِقِ وَحُسْفٍ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ
وَأَخْرُ ذَلِكَ تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمِينِ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ
تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ۔

(۶) اور دھواں نکلنا (۷) تین مقامات پر زمین کا دھنسا یعنی
(۸) مغرب مشرق (۹) اور عرب کے جزیرے میں زمین کا دھنسا
(۱۰) اور ان تمام کے پیچھے آخر میں عدن کی گہرائی سے ملک یمن میں
ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو میدانِ حشر کی جانب ہانک کر لے
جائے گی۔

بن قیامت نکلنے والی آگ:

حدیث کے آخری جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ملکِ شام تک بھگا کر لے جائے گی اور قیامت سے قبل ایک دھواں نمودار ہوگا اور مکہ مکرمہ کا کوہِ صفا پھٹ جائے گا اس میں سے ذَابَّةُ الْأَرْضِ نکلے گا وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا کہ اب قیامت قریب ہے ارشادِ باری ہے: اَخْرَجْنَا لَهُمْ ذَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔

۹۰۷: احمد بن ابی شعیب، محمد بن فضیل، عمارہ ابو زرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے نہ نکلے پھر جب وہ طلوع ہوگا اور لوگ اس کو دیکھیں گے۔ تو اس وقت زمین پر رہنے والے لوگ ایمان لے آئیں گے تو اس وقت کسی شخص کو اس کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا کہ جس کا پہلے سے ایمان نہیں تھا یا اس شخص نے پہلے نیک کام نہیں کیا تھا۔

۹۰۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْخَرَّابِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ عَنْ عَمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا لِإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا الْآيَةَ۔

ایمان بالغیب:

مطلب یہ ہے کہ دراصل غیب پر ایمان معتبر ہے اور جب عذابِ الہی سامنے نظر آنے لگے اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے اس وجہ سے موت کے وقت کا ایمان شرعاً ناقابل اعتبار ہے۔

باب: دریائے فرات سے خزانہ نکلنے کا بیان

۹۰۸: عبد اللہ عقبہ، عبید اللہ خبیب، حفص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات سونے کے خزانے کو کھول کر رکھ دے گا تو جو شخص وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔

بَابُ فِي حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزٍ
۹۰۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنِي عَقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ

فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا۔

دریائے فرات سے نکلنے والا خزانہ:

مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا اور اس کے لینے سے اس وجہ سے منع فرمایا گیا وہ خزانہ علامات قیامت میں سے ہے اس وقت مسلمان سونا لے کر کیا کرے گا اس وقت اور زیادہ آخرت کی فکر کرنا ضروری ہوگا۔

۹۰۹: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ۔

۹۰۹: عبد اللہ بن سعید عقبہ بن خالد عبید اللہ ابو الزناد اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر ارشاد فرمایا ہے اور اس میں اس طرح ہے کہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔

باب: قیامت سے پہلے دجال کا نکلنا

باب خُرُوجِ الدَّجَالِ

۹۱۰: حسن بن عمرو منصور حضرت ربیع بن حراش سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ عنہما دونوں اکٹھے ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دجال کے ساتھ جو کچھ ہوگا میں اس کے متعلق اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں اس کے ساتھ ایک پانی کا دریا ہوگا اور ایک آگ کی نہر ہوگی۔ جس کو تم لوگ آگ سمجھو گے تو وہ پانی ہوگا پھر ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔

۹۱۰: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حَذِيفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حَذِيفَةُ لَأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ بَحْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ فَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الِذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ۔

۹۱۱: ابو ولید شعبہ حضرت قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نبی نہیں بھیجا گیا مگر اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا جو کہ کانا اور بہت جھوٹا ہے۔ تو تم لوگ باخبر رہو کہ بلاشبہ وہ کانا ہے اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے۔

۹۱۱: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّلِبِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ الْأَعْوَرَ الْكُذَّابَ إِلَّا وَانَّهُ أَعْوَرٌ وَإِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرًا۔

دجال کے کذاب ہونے کی واضح نشانی:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ملعون کی پوری شناخت یہ ہے کہ دجال کانا (ایک آنکھ کا) ہوگا اور واضح طور پر اس کی پیشانی پر کفر تحریر ہوگا۔ کانا ہونا اور پیشانی پر کفر تحریر ہونا یہ دو علامات اس بد بخت کے کذاب ہونے کی کھلی دلیل ہیں ایسی واضح نشانی کسی نبی

نے نہیں بتلائی جس قدر واضح نشانی آپ ﷺ نے بیان فرمائی۔

۹۱۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ لَكَ فَرٍ۔
 ۹۱۲: محمد بن ثنی، محمد بن جعفر شعبہ سے (دجال کے بارے میں) کہ
 فَرٍ روایت ہے۔

۹۱۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَبِيبِ قَالَ يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ۔
 ۹۱۳: مسدد عبد الوارث، شعیب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث روایت ہے اس روایت میں اس طرح ہے کہ جو تحریر اس کی پیشانی پر لکھی ہوگی ہر ایک مسلمان شخص اس کو پڑھ سکے گا۔

۹۱۴: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هَلَالٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ بِاللَّجَالِ فَلَيْنَا عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَأْتِيَهُ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ هَكَذَا قَالَ۔
 ۹۱۴: موسیٰ بن اسماعیل، جریر، حمید ابو دہماء، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص دجال کی اطلاع سنے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اللہ کی قسم اس کے پاس آدمی آئے گا اور اس کو یہ گمان ہوگا کہ وہ (یعنی دجال) صاحب ایمان ہے اور وہ شخص اسی کا فرمانبردار ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس شبہ میں ڈالنے والی اشیاء ہوں گی۔

۹۱۵: حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي بَجِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَمَدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِنَةٍ وَلَا حَجْرَاءَ فَإِنْ أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَلِي الْقَضَاءِ۔
 ۹۱۵: حیوٰۃ بن شریح، بقیہ، بجزیر، خالد بن معدان، عمرو بن اسود جنادہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں دجال کے بارے میں یہاں تک اطلاعات دے دیں یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ مسیح دجال کے نام کے کئی لوگ ہیں بے شک دجال ٹھکنے کا ہے چلتے ہوئے اس کے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رہے گا ہتھکڑیا لے بال والا، کانامٹی ہوئی آنکھوں والا وہ آنکھ نہ تو باہر نکلی ہوئی نہ اندر ٹھسی ہوئی ہوگی پھر اگر تم لوگوں کو اس پر بھی شبہ ہو تو تم لوگ اچھی طرح جان لو کہ تمہارا پروردگار تو کانامٹی نہیں ہے امام ابوداؤد فرماتے ہیں عمر بن اسود قاضی تھے۔

۹۱۶: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدَّمَشْقِيُّ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِنِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرِ بْنِ نَعْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ۔
 ۹۱۶: صفوان ولید، ابن جابر یحییٰ، عبد الرحمن بن جبیر، ان کے والد حضرت نواس بن سمعان کلابی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اگر وہ نکلا اور میں بھی تم لوگوں کے درمیان موجود ہوا تو میں تم لوگوں سے پہلے اس کو نمٹ لوں گا اور اگر وہ نکلا اور میں تم

الْكِلاِبِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَاجِبُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُو حَاجِبِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاحِ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جَوَارِكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ قُلْنَا وَمَا لَيْتُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمَ كَسَنَةِ وَيَوْمَ كَشَفِهِ وَيَوْمَ كَجْمَعِهِ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي كَسَنَتْهُ أَنْكَفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ لَا أَقْدُرُوا لَهُ قُدْرَةَ ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فَيُذِرُكُهُ عِنْدَ بَابٍ لَدَى قَيْقُلَةَ.

لوگوں میں موجود نہ ہوا تو ہر شخص خود ہی اس سے نئے گا اور اللہ ہی ہر مسلمان کا نگہبان ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص اس کو پائے تو اس کو چاہئے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھے کیونکہ وہ آیت کریمہ تم لوگوں کے لئے اس کے فتنہ سے پناہ ہے۔ پھر ہم لوگوں نے عرض کیا وہ (دجال) زمین پر کب تک رہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا چالیس دن اور ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک مہینہ کا اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر اور باقی دن تمہارے دنوں کے برابر ہی ہوں گے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جو ایک سال کا ایک ہی دن ہوگا تو اس میں ہم لوگوں کو صرف ایک ہی دن رات کی نماز کافی ہوگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں اس دن تم لوگ اندازہ کر لینا پھر حضرت عیسیٰ بن مریم دمشق شہر کی مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس (آسمان سے) اتریں گے اور وہ دجال کو باب لد کے قریب پائیں گے اور وہ وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔

۹۱۷: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ضَمْرَةَ عَنْ السَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَذَكَرَ الصَّلَوَاتِ مَعْلًا مَعْنَاهُ

۹۱۷: عیسیٰ بن محمد، ضمرة، شیبانی، عمرو بن عبد اللہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ سے اس طریقہ سے روایت بیان کی ہے اور اس روایت میں نمازوں کا تذکرہ بھی اسی طریقہ سے مذکور ہے۔

۹۱۸: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَنَادَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ.

۹۱۸: حفص بن عمر، ہمام، قنادہ، سالم بن ابی الجعد، معدان، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی شروع کی دس آیات کریمہ یاد کرے گا وہ شخص فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا ایک دوسری روایت جو شعبہ سے منقول ہے اس (اس طریقہ سے مذکور) ہے کہ سورہ کہف کی اخیر کی آیات۔

فضیلت سورہ کہف:

سورہ کہف کی برکات اور فضائل میں سے ایک سب سے بڑی فضیلت و برکت یہ ہے کہ جو شخص اس سورت یا اس کے شروع اور ایک روایت کے مطابق اس کے آخر کی دس آیات کریمہ یاد کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا۔

۹۱۹: حَدَّثَنَا هُدَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ يَعْنِي عِيسَى وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمْصَرَّتَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقَطُرُ وَإِنْ لَمْ يَبْصُرْ بَلَّ فَيَقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحِزْبَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلِكَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَيَمُكْتُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَلَّى فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول:

۹۱۹: ہدیہ ہمام، قتادہ، عبد الرحمن بن آدم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا اور بلاشبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (آسمان سے) نیچے اتریں گے تم لوگ جس وقت ان کو دیکھو گے تو ان کی اس طریقہ سے شناخت کر لو کہ (جیسے) وہ ایک شخص ہیں درمیانہ قد و قامت کے رنگ ان کا سرخی اور سفیدی کے درمیان ہے ان کے بالوں کے درمیان سے پانی ٹپکتا ہوا معلوم ہوگا اگر چہ وہ بال (پانی سے) تر بھی نہیں ہوں گے وہ لوگوں سے اسلام قبول کرنے کے لئے جہاد کریں گے اور وہ صلیب توڑ دیں گے اور وہ خنزیر کو ہلاک کر دیں گے اور وہ (کفار سے جزیہ لینا) موقوف فرما دیں گے۔ (یعنی کفار کو اسلام لانا پڑے گا یا ان کو قتل ہونا پڑے گا) اور اللہ تعالیٰ ان کے دور میں تمام مذاہب کو برباد کر دیں گے اور وہ مردود و ملعون دجال کو قتل کریں گے پھر وہ دنیا میں چالیس سال تک (زندہ) رہیں گے اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور اہل اسلام ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں صرف مذہب اسلام ہی رہے گا اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین اسلام کی اتباع فرمائیں گے اور وہ مشرکین سے (اسلامی ٹیکس) جزیہ کو ساقط کر دیں گے اور مشرکین یا تو اسلام قبول کر کے دنیا میں رہیں گے یا ہلاک کر دیئے جائیں گے۔

باب فِي خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

باب: دجال ملعون کے جاسوسوں کے بارے میں ۹۲۰: نفیلی، عثمان، ابن ابی ذئب، زہری، ابوسلمہ، فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ نبی ایک دن نماز عشاء کے لئے تاخیر سے نکلے پھر جب آپ نکلے تو آپ نے فرمایا میں تمیم داری کی گفتگو سن رہا تھا جو کہ ایک شخص کے بارے میں بتا رہے تھے جو جزائر سمندر میں سے کسی ایک جزیرہ میں تھا (اس شخص کی کشتی طوفان میں پھنس جانے کے بعد کسی جزیرہ میں پہنچ گئی تھی) تو انہوں نے بتایا کہ میں اچانک ایک عورت کے سامنے آ گیا وہ عورت اپنے بالوں کو پھینچ رہی تھی میں نے اس عورت سے معلوم کیا تم کون ہو؟ اس عورت نے جواب دیا میں جاسوس ہوں تم اس محل کی طرف چلو پھر میں اس محل میں پہنچا تو (دیکھا کہ) ایک شخص

۹۲۰: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُ حَبَسَنِي حَدِيثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمُ الدَّارِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَتْ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ أَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ فَاتِيئُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ

اپنے بال کھینچ رہا ہے اور وہ شخص بیڑیوں میں بکڑا ہوا ہے اور وہ زمین و آسمان کے درمیان کود رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے معلوم کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میں دجال ہوں کیا امی لوگوں کے پیغمبر آچکے ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا لوگوں نے اس شخص کی فرمانبرداری کی یا نافرمانی کی میں نے جواب دیا فرمانبرداری کی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ بات ان لوگوں کے لئے اچھی رہی۔

۹۲۱: حجاج، عبدالصمدان کے والد حسین معلم حضرت عبداللہ بن بریدہ عامر حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کے مؤذن کو میں نے پکارتے ہوئے سنا ہے کہ نماز جمع کرنے والی ہے (یعنی نماز کے لئے حاضر ہونا اور اکٹھا ہونا ضروری ہے) تو میں بھی نکل گئی اور میں نے حضرت رسول کریم ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب نبی اپنی نماز مکمل ادا فرما چکے تو آپ ہنستے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ہر ایک شخص اپنے مصلیٰ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو کچھ علم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کس وجہ سے اکٹھا کیا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کو اس کا خوب علم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تم لوگوں کو خوف دلانے یا خوشخبری دینے کے لئے اکٹھا نہیں کیا بلکہ یہ اطلاع دینے کے لئے اکٹھا کیا ہے کہ تمہاری ایک نصرانی شخص تھا پھر وہ شخص حاضر ہوا اور اس نے (میرے ہاتھوں پر) اسلام قبول کیا اور بیعت کی اور اس شخص نے مجھ سے ایک اس قسم کی بات کہی کہ اس کی وہ بات اس بات کے مطابق نکلی کہ جو میں تم لوگوں سے دجال کے بارے میں کہتا تھا۔ کہ وہ کسی سمندری کشتی میں سوار تھے تیس نچی و جد امی افراد کے ساتھ۔ سمندر کی موجیں ان سے ایک مہینہ تک اٹھیلیاں کرتی رہیں پھر وہ ایک دن سورج غروب ہوتے وقت ایک جزیرہ پر جا لگے تو وہاں ایک جانور گھوڑے جیسے بھاری دم اور لمبے بال والا ملا اس سے لوگوں نے کہا کہ اے بد بخت شخص! تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں تم لوگ بے شک اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہو اور تم اس شخص کے

مُسَلْسَلٌ فِي الْأَغْلَالِ يَنْزُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الدَّجَالُ خَرَجَ نَبِيُّ الْأَمِّيِّينَ بَعْدُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَطَاعُوهُ أَمْ عَصَوْهُ قُلْتُ بَلْ أَطَاعُوهُ قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ

۹۲۱: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمُعَلِّمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَرَّاحِيلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي أَنْ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَيَّ الْمَنْبِرِ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَ لِيَلْزِمُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَضَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ وَلَا رَغْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ أَنْ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي حَدَّثْتُكُمْ عَنْ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بِحَرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَحْمٍ وَجُدَامٍ فَلَيْبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ وَارْتَفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرَةَ الشَّعْرِ قَالُوا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَذَا

الدَّيْرَ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمِعْتُ لَنَا رَجُلًا فَرَقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَأَنْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّىٰ دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدَّهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُعَرَ وَعَنْ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ قَالَ إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنَّهُ يُوْشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلَّ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَرْتَيْنِ وَأَوْمًا بِيَدِهِ قِبَلِ الْمَشْرِقِ قَالَتْ حَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ -

پاس دیر چلو کیونکہ وہ شخص تم لوگوں کی اطلاع کا کافی اشتیاق مند ہے۔ تمیم کہتے ہیں کہ جب اس عورت نے ہمارے سامنے اس شخص کا نام لیا تو ہم اس سے ڈرے کہ وہ کہیں شیطان نہ ہو۔ ہم لوگ (وہاں سے) تیز دوڑتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے۔ ہم نے وہاں اس قدر بڑا (یعنی لمبا چوڑا) شخص دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ (وہ شخص) اچھی طرح جکڑا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے پھر انہوں نے حدیث کو اخیر تک بیان کیا اس نے ان سے معلوم کیا کہ (ملک شام میں واقع مقام) بیان کی کجھوروں کی کیا کیفیت ہے زغر نامی چشمہ کیسے ہیں اور آنحضرت کا کیا حال ہے؟ اس کے بعد کہا میں مسیح دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے پھر آپ نے فرمایا وہ دجال ملک شام کے سمندر میں ہے یا ملک یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق کی جانب (ہے) اور آپ نے اپنے دست مبارک سے دو مرتبہ مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ قاطمہ نے بیان فرمایا میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے یاد کی ہے اور راوی نے پھر پوری حدیث بیان کی۔

۹۲۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ لَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمَيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ صُدْرَانَ بَصْرِيٌّ غَرِقَ فِي الْبَحْرِ مَعَ ابْنِ مَسْبُورٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ -

۹۲۲: محمد بن صدران معتمر اسماعیل مجالد عامر حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نماز ظہر ادا فرمائی پھر آپ ﷺ منبر پر چڑھے اور آنحضرت ﷺ اس سے پہلے بھی جمعہ کے دن کے علاوہ منبر پر نہیں چڑھتے تھے لیکن آپ ﷺ اسی دن منبر پر چڑھے پھر آپ ﷺ نے یہی واقعہ بیان فرمایا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں ابن صدران بصرہ کا باشندہ ابن مسور کے ہمراہ پانی میں ڈوب گیا تھا اور ان لوگوں میں سے ان کے علاوہ کسی شخص نے اسلام قبول نہیں کیا۔

۹۲۳: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمْعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّهُ بَيْنَمَا أَنَا سَيِّرُونَ فِي الْبَحْرِ

۹۲۳: واصل ابن فضیل ولید ابوسلمہ بن عبدالرحمن حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک دن منبر پر چڑھے اور آپ ﷺ نے بیان فرمایا کچھ لوگ دریا میں سفر کر رہے تھے کہ ان لوگوں کا کھانا ختم ہو گیا تو ان کے سامنے ایک جزیرہ ابھر کر آ گیا تو وہ لوگ روٹی کی تلاش میں اس جزیرے میں نکل گئے۔ ان لوگوں کو ایک

فَقَفِدَ طَعَامَهُمْ فَرَفَعَتْ لَهُمْ جَزِيرَةً فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ النُّجْزَ فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَ امْرَأَةٌ تَجُرُّ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأْسُهَا قَالَتْ فِي هَذَا الْقَصْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَسَأَلَ عَنْ نَخْلٍ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُعَرَ قَالَ هُوَ الْمَسِيحُ فَقَالَ لِي ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا مَا حَفِظْتُهُ قَالَ شَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ قَالَ وَإِنْ مَاتَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ قَالَ وَإِنْ أَسْلَمَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ قَالَ وَإِنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ۔

جاسوس عورت ملی تو میں نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا وہ جاسوس عورت کون تھی؟ انہوں نے بیان کیا وہ ایک عورت تھی جو اپنے سر اور بدن کے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ پھر حدیث کو اخیر تک بیان کیا اس کے بعد اس شخص (یعنی دجال) نے بیسان (ایک مقام کا نام ہے) کے درختوں کے بارے میں معلوم کیا اور زغر کے چشمے کے بارے میں معلوم کیا۔ راوی نے بیان کیا وہی دجال ہے ابن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ جابر نے اس روایت میں کچھ اور بیان کیا تھا لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا تھا کہ دجال تلعون وہی ابن صیاد ہے۔ میں نے کہا وہ تو مر چکا ہے انہوں نے جواب دیا اگر چہ وہ مر چکا ہو میں نے کہا وہ اسلام لے آیا تھا انہوں نے جواب دیا اگر چہ وہ اسلام بھی لا چکا ہو۔ میں نے کہا وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تھا (وہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا) انہوں نے جواب دیا اگر چہ وہ مدینہ میں بھی داخل ہوا ہو۔

ابن صیاد اور جساسہ:

ابن صیاد مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اس شخص کو دیکھا اور ابن صیاد کے بارے میں مندرجہ ذیل حدیث اور دیگر کتب حدیث میں تفصیلی طور پر مذکور ہے اور مندرجہ بالا حدیث فاطمہ نمبر ۹۲۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ جساسہ ایک بالوں والا جانور تھا اور مذکورہ حدیث نمبر ۹۲۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ جساسہ کوئی عورت تھی تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ جساسہ بالوں والی عورت ہی تھی جو بد شکل ہونے کی بنا پر وحشی جانور لگتی تھی یا ہو سکتا ہے جساسہ شیطان ہو اور وہ مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا ہو کبھی جانور بن کر اور کبھی عورت بن کر واللہ اعلم۔

باب فی خبر ابن الصائِد

۹۲۳: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَشِيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِّ ابْنِ عُمَرَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابْنِ صَائِدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ عِنْدَ أُطَمِ بْنِ مَعَالَةَ وَهُوَ غَلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أُنِّي رَسُولُ اللَّهِ

۹۲۳: ابوعاصم، معمر زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کہ جن میں حضرت عمر بھی تھے ابن صیاد کے پاس سے گزرنے۔ اس وقت ابن صیاد قلعہ بنی معالہ کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس وقت یہ بھی بچہ تھا۔ اس کو آپ ﷺ کے تشریف لانے کی اطلاع نہ ہوئی یہاں تک کہ رسول کریم ﷺ نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا اور اس سے فرمایا کیا تو اس کی شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے آپ ﷺ کی طرف دیکھا اور کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اہل

فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمِينِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدُ ابْنِي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَأْتِيكَ قَالَ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِي قَدْ خَبَأَتْ لَكَ خَبِيئَةٌ وَخَبَأَ لَهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَبُ فَلَئِنْ تَعَدُّوْا قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ فَلَئِنْ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ يُعْنِي الدَّجَالُ وَإِلَّا يَكُنْ هُوَ فَلَاحِ خَيْرٍ لِي فِي قَتْلِهِ۔

۹۲۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يُعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَشْكُ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ ابْنَ صَيَّادٍ۔

۹۲۶: حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ الدَّجَالَ فَقُلْتُ تَحْلِفُ بِاللَّهِ فَقَالَ ابْنِي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَيَّ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْكُرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

۹۲۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ

عرب کے امی لوگوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن صیاد نے حضور اکرم ﷺ سے کہا کہ آپ ﷺ شہادت دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا چیز آتی ہے؟ اس نے جواب دیا میرے پاس تو سچا اور جھوٹا آتا ہے؟ حضرت رسول کریم ﷺ نے اس سے فرمایا تیرا معاملہ مشتبہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے دل میں تیرے لئے ایک بات چھپائی ہے اور آپ ﷺ نے اس کے لئے اس آیت کریمہ کو اپنے قلب میں پوشیدہ رکھا: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ اس پر اس نے کہا پوشیدہ شے دُخ ہے۔ تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا دفع ہو۔ تو اپنی اوقات سے ہرگز آگے نہیں بڑھے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ مجھ کو اس کی گردن اڑانے کی اجازت دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا! اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قادر نہیں ہو گے اگر وہ دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے۔

۹۲۵: قتیبہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر فرماتے تھے اللہ کی قسم بلاشبہ ابن صیاد ہی دجال ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ ابن صیاد بھی ایک دجال ہے اور وہ ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے کہ جس کے قیامت سے قبل ظاہر ہونے کی احادیث میں پیشینگوئی فرمائی گئی ہے)۔

۹۲۶: ابن معاذ ان کے والد شعبہ سعد، حضرت محمد بن المنکدر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو قسم کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ابن صیاد (نامی شخص) دجال ہے تو میں نے کہا کہ کیا آپ ﷺ اس پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت رسول کریم ﷺ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر قسم کھاتے ہوئے دیکھا ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر انکار نہیں فرمایا۔

۹۲۷: احمد بن ابراہیم، عبید اللہ بن موسیٰ، شیبان، اعش، سالم، حضرت

اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ -

یوم الحرہ کا واقعہ:

حرہ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے اس روز یزید کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا مقابلہ ہو گیا اس واقعہ کی تفصیل سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی ﷺ وغیرہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۹۲۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ -

۹۲۸: عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیز، علاء ان کے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیس دجال نہیں نکلیں گے ان میں سے ہر ایک دجال خود کو رسول اللہ سمجھے گا۔

۹۲۹: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا دَجَالًا كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ -

۹۲۹: عبید اللہ بن معاذ ان کے والد محمد بن عمرو، حضرت ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تیس دجال نہیں نکلیں گے اور ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گا (یعنی جھوٹی بات منسوب کرے گا اور جھوٹی جھوٹی احادیث بیان کرے گا)۔

۹۳۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقُلْتُ لَهُ أَتَرَى هَذَا مِنْهُمْ يَعْنِي الْمُخْتَارَ فَقَالَ عُبَيْدَةُ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الرَّءُوسِ -

۹۳۰: عبد اللہ بن جراح، جریر، مغیرہ، ابراہیم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبیدہ سلمانی سے معلوم کیا کہ کیا اس طرح روایت ہے۔ فرق یہ ہے کہ میں نے ان سے معلوم کیا کہ مختار ابن ابی عبیدان ہی دجالوں میں سے (ایک شخص) ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو ان لوگوں کا سردار ہے۔

باب: اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کرنا

۹۳۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَدِيْمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ

۹۳۱: عبد اللہ بن محمد النفیلی، یونس بن راشد، علی بن بدیمہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سعید بن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں جو پہلی خرابی آئی تھی یہ تھی کہ ایک شخص دوسرے سے ملاقات کرتا تو اس سے کہتا کہ تم اللہ کا خوف کرو اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اس لئے کہ یہ بات تمہارے

بَابُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ

لئے ٹھیک نہیں ہے پھر جس وقت وہ شخص اس سے دوسرے دن ملاقات کرتا تو اس کو ان کاموں سے منع نہ کرتا کیونکہ (وہ شخص) اس کے کھانے پینے اور بیٹھنے میں شرکت کر لیتا پھر جب ان لوگوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی بعض لوگوں کے دلوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ ملا دیا پھر ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل والوں میں جنہوں نے کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے (یعنی ان انبیاء کی زبانی) لعنت کی اخیر آیت (یعنی ﴿عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ فَاسْقُونَ﴾ کو پڑھا) پھر فرمایا اللہ کی قسم البتہ تم لوگ خیر کی بات بتلاؤ گے اور برے کاموں سے منع کرو گے اور تم ظالم کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کو (راہ) حق کی طرف اس طرح جھکاؤ گے کہ جو جھکانے کا حق ہے اور تم اس کو حق پر روکو گے جیسا کہ حق پر روکنے کا حق ہے۔

النَّقْصُ عَلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْعَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكْبَلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ صَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لِعَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَاسْقُونَ ثُمَّ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَيَّ يَدَيَّ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرَنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرَنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ قَصْرًا۔

بنی اسرائیل کا ایک طریقہ:

مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں برائی سے ایک مرتبہ تنبیہ کرنے کے بعد دوبارہ منع نہ کیا جاتا بلکہ برائی کرنے والے کے ساتھ کھانے پینے کے مزے حاصل کرنے کی وجہ سے اچھے کاموں کے حکم کرنے کو چھوڑ دیتے اور برائی سے نہ روکتے اور ظالم کو حق کی طرف جھکانے مائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جبراً ظالم کو انصاف کرنے اور حق پر مجبور کرتے رہو گے۔

۹۳۲: خلف بن ہشام ابو شہاب، علاء عمرو سالم ابو عبیدہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا جس طرح مذکور ہوا البتہ یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں اور بعض لوگوں کے قلوب کے ساتھ بعض لوگوں کو ملحق فرمادے گا پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر بھی لعنت فرمائے گا جس طرح ان لوگوں پر لعنت فرمائی تھی۔ امام ابوداؤد درجۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بخاری نے علاء کے واسطے سے عبد اللہ سالم ابو عبیدہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور خالد الحمان نے علاء عمرو بن مرہ، حضرت ابو عبیدہ سے روایت کیا ہے۔

۹۳۲: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابِ الْحَنَاطِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ زَادَ أَوْ لِيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ لِيُعْتَبَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ خَالِدُ الطَّحَّانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ۔

۹۳۳: وہب بن یقینہ خالد (دوسری سند) عمرو بن عون، ہشیم، حضرت اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ ابوبکرؓ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف

۹۳۳: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَاقِينَةَ عَنْ خَالِدِ ح وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ الْمَعْنِيُّ

بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگو! تم لوگ اس آیت کریمہ کو بے محل رکھتے ہو یعنی آیت کریمہ: عَلَيكُمْ أَنْفُسُكُمْ کو اے لوگو! تم لوگوں پر اپنی جان کی فکر کرنا ضروری ہے اور جو شخص بہک گیا وہ تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب تم راہ ہدایت پر ہو، حالانکہ میں نے رسول کریم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے بے شک جب لوگ ظالم شخص کے ظلم کو دیکھیں اور اس ظالم کے ہاتھ نہ پکڑیں (یعنی اس کو ظلم سے باز نہ رکھیں) تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں ان تمام لوگوں کو پکڑ لے۔ عمرو بن عون نے ہشیم سے اپنی روایت میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے آنحضرت سے سنا آپ فرماتے تھے کوئی قوم ایسی نہیں کہ اس میں برے کام نہ ہوتے ہوں اور قدرت کے باوجود لوگ اس برے کام کو ختم نہ کریں مگر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ امام ابوداؤد نے فرمایا اس روایت کو خالد ابو اسامہ اور ایک جماعت نے بیان کیا۔ شعبہ نے کہا کہ ایسی کوئی قوم نہیں ہے کہ جس میں گناہ ہوتے ہوں اور اس قوم میں زیادہ لوگ گناہ کے مرتکب ہوں! پھر ان تمام لوگوں پر عذاب الہی نازل نہ ہو۔

۹۳۴: مسدد ابو الاحوص، ابوالحق، ابن جریر، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کسی قوم میں جو شخص برے کام کا مرتکب ہو اور قوم کے لوگ قدرت کے باوجود اس شخص اور اس کے کام کو تبدیل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا عذاب ان لوگوں کی موت آنے سے قبل ہی پہنچا دیتا ہے۔

۹۳۵: محمد بن علاء، ہناد ابو معاویہ، اعمش، اسماعیل، ان کے والد ابو سعید اور قیس بن مسلم، طارق بن شہاب، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم لوگوں میں سے جو شخص شریعت کے خلاف کوئی کام (ہوتا ہوا) دیکھے اور اس کام کو ہاتھ سے بدل دینے کی (یعنی طاقت سے برائی منانے کی) قدرت رکھتا ہو تو اس کام کو اپنے ہاتھ سے بدل دے (بمناہے) اور اگر ہاتھ

عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ آيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ قَالَ عَنْ خَالِدٍ وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْتَمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ وَقَالَ عَمْرُو عَنْ هَشِيمٍ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَغْيَرُوا ثُمَّ لَا يَغْيَرُوا إِلَّا يُوْشِكُ أَنْ يَعْتَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُو أَسَامَةَ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ شُعْبَةُ فِيهِ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ۔

۹۳۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَظْنَهُ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَغْيَرُوا عَلَيْهِ فَلَا يَغْيَرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا۔

۹۳۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَغْيِرَهُ

بِيَدِهِ فَلْيَغْيِرْهُ بِيَدِهِ وَقَطَعَ هَذَا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ
وَقَاهُ ابْنُ الْعَلَاءِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أضعفُ الْإِيمَانِ -
دل ہی میں براسمجھے اور یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔

أمر بالمعروف اور نہی عن المنکر:

حدیث کے آخری جملہ کی تشریح کے سلسلہ میں صاحب مرقاۃ شارح مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے بھی برائی کو برا کہنے کی قدرت نہ ہو تو برائی میں مبتلا شخص کے لئے دعائے ہدایت کرے بہر حال ایسی صورت میں دل سے ایسے شخص سے نفرت کرے۔

۹۳۶: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ
الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْةَ بْنِ أَبِي
حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللَّحْمِيُّ
حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ
الْخُسَيْبِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ فِي
هَذِهِ آيَةِ عَلَيْنِكَ أَنْفُسُكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلْ أَتَمُّرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ
شُحًا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً
وَأَعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بَرَأِيهِ فَعَلَيْكَ بِعَيْنِي
بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ
أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قُبْضِ عَلَى الْجَمْرِ
لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا
يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ وَزَادَنِي غَيْرُهُ قَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ
خَمْسِينَ مِنْكُمْ -

۹۳۶: ابو الربیع سلیمان بن داؤد ابن مبارک عقبہ عمرو بن جاریہ
ابو امیہ شعبانی سے روایت ہے کہ میں نے ابو ثعلبہ خنسی سے دریافت کیا
کہ اے اباعثلبہ! اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یعنی
﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ کے بارے میں تو انہوں نے کہا تم نے خوب
علم والے شخص سے دریافت کیا اللہ کی قسم! اس آیت کریمہ کے بارے
میں میں نے نبی سے دریافت کیا تو نبی نے ارشاد فرمایا نہیں تم امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ کجروی
کی پیروی کی جارہی ہے اور نفسانی خواہش کی اتباع کی جارہی ہے اور
دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے اور ہر ایک ذی رائے شخص خود پسندی میں
بتلا ہے پھر تم اپنا خیال کرو اور عوام کا خیال دل سے نکال دو اس لئے کہ
تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جن میں صبر کرنا ایسا مشکل ہوگا
کہ جس طرح ہاتھ میں انگار رکھنا اور ان دنوں میں دین پر عمل کرنے
والے شخص کے لئے پچاس اشخاص کے ثواب کے مساوی اجر ملے گا۔
راوی کہتے ہیں کہ کسی دوسرے راوی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ کسی صحابی
نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا انہی میں سے پچاس آدمیوں کو ثواب ملے
گا؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ تمہارے پچاس آدمیوں کا ثواب ملے گا۔

فتنہ کے زمانہ میں محفوظ رہنے والا:

حدیث کی آخری جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے فتنہ کے دور میں جو شخص صراط مستقیم پر قائم رہے اور شریعت کے مطابق عمل کرے تو
ایسے شخص کا درجہ پچاس لوگوں کے برابر ہے اور پچاس آدمی بھی وہ جو رسول اللہ ﷺ کی صحبت سے مستفید ہوئے۔

۹۳۷: حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي
۹۳۷: قعنبی عبدالعزیز بن ابی

العاص سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا اس دور میں تم لوگوں کی کیا حالت ہوگی یا آپ نے اس طرح فرمایا وہ دور قریب ہے جب لوگ چھانے جائیں گے یعنی جو اچھے اچھے لوگ ہیں وہ انتقال کر جائیں گے اور جو برے لوگ ہیں کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک وہ باقی رہ جائیں گے۔ جن کے عہد و بیان اور امانتیں گڈ نہ ہو جائیں گی وہ لوگ باہمی طور پر اختلاف کا شکار ہوں گے اور (وہ لوگ) اس طرح ہو جائیں گے (یہ فرما کر) آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا (ماکر) نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہم لوگ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو جو اچھا معلوم ہو اس کو اختیار کر لینا اور جو تمہیں برا لگے اس کو چھوڑ دینا اور خاص اپنی فکر کرنا اور دوسروں کی فکر چھوڑ دینا۔

فتنہ و فساد کے غلبہ کے زمانہ کا حکم:

مطلب یہ ہے کہ جب ایسے سخت فتنے فساد کا دور ہو چاروں طرف گمراہی پھیل جائے اور کوشش کے باوجود لوگوں کے لئے راہ ہدایت پر آنے کی امید باقی نہ رہے تو اس وقت اپنی اصلاح کی فکر کرے اور دوسرے کی فکر چھوڑ دے۔

۹۳۸: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْفُضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهْدُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ الزَّمْ بَيْنَكَ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ۔

۹۳۸: ہارون، فضل بن دکین، یونس ہلال، عکرمہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ نے فتنہ کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کے عہد و بیان ٹوٹ رہے ہیں اور امانتیں پامال ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی اور آپ ﷺ نے (یہ فرما کر) ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیا یہ بات سن کر میں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا: اپنے زمانہ میں میں کیا کروں اللہ تعالیٰ مجھے آپ ﷺ پر قربان کرے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا (ایسے فتنے کے زمانہ میں) تم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور زبان کو قابو رکھو اور شریعت کی رو سے جو بات اچھی لگے اس کو اختیار کر لو اور بری بات کو چھوڑ دو اور خاص اپنے آپ کی فکر کرو اور دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔

۹۳۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهْدُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ الزَّمْ بَيْنَكَ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ۔

۹۳۹: محمد بن عباده، یزید بن عبد اللہ، یونس ابن اسحاق، ہلال بن خباب، عکرمہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

بُنْ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعُرَيْبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدَلٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ۔

۹۳۰: محمد بن علاء ابو بکر مغیرہ بن زیاد عدی بن عدی حضرت عرس سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جس شخص نے وہ گناہ دیکھا اور اس نے اس گناہ کو برا سمجھا، مرہ نے کہا کہ اس گناہ کو اوپر سمجھا تو اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص نے گناہ کو نہیں دیکھا اور جس شخص نے وہ گناہ نہیں دیکھا لیکن وہ اس گناہ سے رضامند ہے تو گویا اس شخص نے (گناہ) دیکھا ہے۔

۹۳۱: احمد بن یونس ابو شہاب مغیرہ بن زیاد عدی بن عدی سے اسی طریقہ پر روایت ہے جس طرح عرس نے روایت کیا ہے اس روایت میں الفاظ اور بھی مختصر ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے گناہ ہوتا ہو دیکھا مگر اسے برا سمجھا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔

۹۳۲: سلیمان بن حرب حفص بن عمر شعبہ عمرو بن مرہ حضرت ابو بکر مغیرہ سے مروی ہے کہ مجھے اس نے بتایا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سلیمان کی روایت میں ہے کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے جب تک کہ لوگ گناہ کرتے کرتے اپنے لئے کوئی عذر نہ چھوڑیں۔

باب: قیامت قائم ہونے کا بیان

۹۳۳: احمد بن حنبل عبدالرزاق معمر زہری سالم ابو بکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی حیات اقدس کے آخری ایام میں ایک رات عشاء کی نماز ادا فرمائی جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو آپ ﷺ کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم لوگوں نے اس رات کو دیکھا ہے کہ اس رات میں تمام زمین پر جس قدر انسان ہیں

۹۳۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مَغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمُوصِلِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الْعُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عُمِلَتْ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكْرَهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا۔

۹۳۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنْ مَغِيرَةَ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ مَنْ شَهِدَهَا فَكْرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا۔

۹۳۲: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ عَمْرٍو بِنِ مَرَّةٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْتَدُوا أَوْ يُعْتَدُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ۔

باب قِيَامِ السَّاعَةِ

۹۳۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْبُحْرِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا

ان لوگوں میں سے کوئی شخص ایک سو سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ بات سن کر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ تو ایسی احادیث نقل کرتے ہیں کہ سو سال میں قیامت آ جائے گی حالانکہ آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا زمین پر آج کے دن جس قدر لوگ ہیں ان میں سے کوئی شخص سو سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا مطلب یہ تھا کہ یہ صدی گزر جائے گی اور دوسری صدی شروع ہوگی۔

۹۴۳: موسیٰ بن سہل، حجاج بن ابراہیم، ابن وہب، معاویہ بن صالح، عبد الرحمن بن جبیر، ان کے والد حضرت ابو ثعلبہ شنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت کو آدھے دن سے کم میں ختم نہیں کرے گا (آدھے دن سے مراد قیامت کے دن کا آدھا دن (پانچ سو سال) ہے)

۹۴۵: عمرو بن عثمان، ابوالمغیرہ، صفوان، شریح بن عبید، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے توقع ہے کہ میری امت اس قدر عاجز نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نصف دن کی مہلت نہ بخشے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ نصف روز کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے جواب دیا: پانچ سو سال۔

سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو قَوْلَهُ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ بَأَنَّ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ۔

۹۴۳: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يُعْجِزَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ۔

۹۴۵: حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عَبِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تُعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخَّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ قِيلَ لِسَعْدِ وَكَمْ نِصْفُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْحُدُودِ

حد کے معنی: حدود حد کی جمع ہے اور حد کے اصل معنی ہیں ممنوع نیز اس چیز کو بھی حد کہا جاتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو اصطلاح شریعت میں ”حدود“ ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں اور ساتھ ہی متعین ہیں جیسے چوری زنا شراب نوشی کی سزائیں۔ لفظ حد کے اصل معنی ممنوع یا حائل اگر پیش نظر ہوں تو واضح ہوگا کہ شرعی سزاؤں کو ”حدود“ اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ سزائیں بندوں کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے روکتی ہیں اور ان کا خوف انسان اور جرم کے درمیان حائل رہتا ہے۔

”حدود اللہ“ محارم کے معنی میں بھی منقول ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا اسی طرح مقادیر شرعی یعنی تین طلاقیوں کا مقرر ہونا وغیرہ کے معنی میں بھی منقول ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا لیکن واضح رہے کہ ان دونوں میں بھی ”حدود“ کا اطلاق اصل معنی ”ممنوع“ ہی کے اعتبار سے ہے کہ محارم کی قربت (یعنی ان سے نکاح و خلوت) بھی ممنوع ہے اور مقادیر شرعی سے تجاوز کرنا بھی ممنوع ہے۔

سزا کی تفصیل: شرعی قانون نے ”جرم و سزا“ کا جو ضابطہ مقرر کیا ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں سزائیں تین طرح کی ہیں:

① وہ سزائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے مگر ان کے اجراء کو خود بندوں پر چھوڑ دیا ہے ان میں کسی خارجی طاقت جیسے حاکم یا حکومت کو دخل انداز ہونے کا حکم نہیں ہے، شریعت نے اس طرح کی سزا کا نام کفارہ رکھا ہے جیسے قسم کی خلاف ورزی یا رمضان میں بلا عذر شرعی روزہ توڑ دینے کا کفارہ!

② وہ سزائیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں اور ساتھ ہی متعین ہیں ان سزاؤں کو جاری کرنے کا اختیار تو حاکم یا حکومت کو ہے مگر ان میں قانون سازی کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے، اس طرح کی سزا کو شریعت میں حد کہتے ہیں جیسے چوری زنا اور شراب نوشی کی سزائیں۔

③ وہ سزائیں جنہیں کتاب و سنت نے متعین تو نہیں ہے مگر جن برے کاموں کی یہ سزائیں ہیں انکو جرائم کی فہرست میں داخل کیا ہے اور سزا کے تعین کا مسئلہ حاکم یا حکومت کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ موقع و محل اور ضرورت کے مطابق سزا خود متعین کریں گویا اس قسم کی سزاؤں میں حکومت کو قانون سازی کا حق بھی حاصل ہے مگر اس دائرہ کے اندر جو شریعت نے متعین کیا ہے اس طرح کی سزا شریعت میں ”تعزیر“ کہلاتی ہے۔ تعزیر اور حد میں کئی اشخاص فرق نہیں کر پاتے اسلئے اس کی بابت تفصیل یوں ہے:

حد و تعزیر: حد اور تعزیر میں فرق: حد اور تعزیر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حد تو شریعت میں ”عقوبت“ ہے جو اللہ کا حق قرار دی گئی ہے اسی لئے اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے بایں وجہ کہ اس میں کوئی بندہ تصرف نہیں کر سکتا اور تعزیر کو حق اللہ کہا جاتا ہے بایں وجہ کہ بندہ اس میں تصرف کر سکتا ہے یعنی اگر وہ کوئی مصلحت دیکھے تو قابل تعزیر مجرم کو بھی معاف کر سکتا ہے اور موقع و محل اور جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا میں کمی زیادتی اور تغیر و تبدل بھی کر سکتا ہے حاصل یہ کہ حد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے جس میں کوئی تصرف ممکن نہیں اور تعزیر قاضی یا حکومت کے سپرد ہے اسی عدم تقدیر و تحقیق کی بنا پر تعزیر کو حد نہیں کہا جاتا۔ چونکہ ”قصاص“ بھی بندہ کا حق ہے کہ وہ اپنے اختیار سے مجرم کو معاف کر سکتا ہے اس لئے اس کو بھی ”حد“ نہیں کہا جاتا۔

باب: جو شخص مرتد ہو جائے

بَابُ الْحُكْمِ فِيْمَنْ ارْتَدَّ

۹۳۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَعَذِّبُوا بَعْدَآبِ اللَّهِ وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ

۹۳۶: احمد بن محمد بن حنبل، اسماعیل، ایوب، حضرت عکرمہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جو مرتد ہو گئے تھے جلوا دیا تھا۔ ابن عباسؓ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا (اگر میں اس وقت موجود ہوتا) تو لوگوں کو آگ سے نہ جلاتا کیونکہ نبیؐ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص عذاب سے تم عذاب نہ دو بلکہ میں ان دین سے منحرف ہو جانے والوں کو فرمان نبوی کے مطابق قتل کر ڈالتا۔ کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے تو اس کو قتل کر دو۔ پھر جب ابن عباسؓ کے اس فرمان کی اطلاع

فَأَقْتُلُوهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ وَيْحَ عَلِيٍّ كَوَلِيٍّ تَوَانَهُمْ نَعَى فَرَمَا شَابَاشَ أَعَى ابْنَ عَبَّاسٍ! (یعنی علیؑ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے کو پسند فرمایا)

ف: یاد رہے کہ ویح کا لفظ کبھی ہمدردی اور کبھی اظہارِ افسوس کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہاں پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۹۴۷: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثُ الشُّبُوبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ۔

۹۴۷: عمرو بن عون ابو معاویہ اعمش عبد اللہ بن مرہ مسروق عبد اللہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا حلال نہیں خون اس مسلمان کا جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور (اس بات کی شہادت دیتا ہو) کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے تین حالتوں کے ایک تو نکاح کرنے کے بعد زنا کرنے والا دوسرے جان کے بدلے جان تیسرے مرتد شخص کو جس نے دین اسلام چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔

مسلمان کو قتل کرنے کی صورتیں:

مطلب یہ ہے کہ تین صورتوں میں مسلمان کا قتل جائز ہے ایک تو وہ شخص کہ جس نے نکاح کرنے کے بعد زنا کیا ہو۔ دوسرے وہ شخص جس نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا ہو اور وہ قصاص میں قتل کیا جائے۔ تیسرے دین سے منحرف ہونے والے شخص کو۔

۹۴۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثُ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يَرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا۔

۹۴۸: محمد بن سنان ابیہیم عبدالعزیز بن عمیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس شخص کا قتل جائز نہیں جو کہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد ﷺ اس کے پیغمبر ہیں مگر تین باتوں میں سے ایک کی وجہ سے (۱) وہ شخص مہسن ہو پھر بھی زنا کرے (۲) وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے نکلے تو وہ شخص قتل کیا جائے یا اس شخص کو سولی دی جائے یا جلا وطن ہوگا (۳) تیسرے وہ شخص جو کسی کو قتل کرے تو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔

مہسن کی تشریح اور مفہوم حدیث:

شریعت کی نگاہ میں محسن وہ شخص کہلاتا ہے جو عاقل و بالغ ہو اور جس کا نکاح ہو چکا ہو۔ اگر ایسا شخص زنا کا مرتکب ہو اور شہوت شرعی سے اس کا زانی ہونا ثابت ہو جائے تو اسکو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا اور اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لئے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ مار کرنے کے لئے نکلے اور کسی مسلمان کو ظلماً قتل کرنے والے کو مقتول کے عوض قصاص میں قتل کیا جائے گا بشرطیکہ ورثاء قصاص لینا چاہیں ورنہ دیت لے کر قاتل کو معاف کیا جاسکتا ہے۔

۹۳۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هَلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي فِكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَكَتْ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطَّلَعَنِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفِيهِ فَلَصْتُ قَالَ لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ أَنْزِلْ وَالْقَى لَهُ وَسَادَةٌ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مَوْثِقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَاسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السُّوءِ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يَقْتُلَ قِضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يَقْتُلَ قِضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَّرَا فَيَا لَيْلٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَا أَنَا فَأَنَا وَمُؤْمَرٌ أَوْ أِقْوَمٌ وَأَنَا وَمُؤْمَرٌ أَوْ نَوْمِي مَا أَرَجُو فِي قَوْمِي-

۹۳۹: احمد بن حنبل، مسدد، یحییٰ بن سعید، مسدد، قرة بن خالد، حمید بن ہلال، ابو بردہ سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور میرے ہمراہ دوسرے دو اشعری شخص تھے ان میں سے ایک میری دائیں جانب جبکہ دوسرا میری بائیں طرف تھا۔ دونوں نے آپ سے عامل کا منصب طلب کرنا چاہا آپ خاموشی سے تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ یا فرمایا اے عبداللہ بن قیس تم اس سلسلہ میں کیا کہتے ہو میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ان دونوں نے مجھے اپنے دل کی بات سے مطلع نہیں کیا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ عامل بنا چاہتے ہیں۔ ابو موسیٰ نے بیان کیا گویا میں اس وقت آپ کی مسواک کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کے ہونٹ کے نیچے تھی اور ہونٹ اوپر کواٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ہم اپنے کاموں پر اس کو مقرر نہیں کرتے جو ان (عہدوں کی) خواہش کرے لیکن اے ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس تم جاؤ (عبداللہ بن قیس حضرت ابو موسیٰ کا نام ہے) پھر آپ نے ابو موسیٰ کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا اور ان کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ جب حضرت معاذ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت معاذ سے کہا اترو اور ان کے لئے ایک تکیہ رکھا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص بندھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا یہ یہودی شخص تھا۔ اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا پھر اب دین سے پھر گیا اور اپنے برے دین کی طرف چلا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق قتل نہ کر دیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ تم بیٹھو اسی طرح ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں میں کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے

حکم کے مطابق قتل نہ کیا جائے تین مرتبہ یہی فرمایا اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر ابو موسیٰ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دونوں نے رات کو جاگنے کے بارے میں بیان کیا تو ان دونوں میں سے کسی نے یہ کہا کہ شاید حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہی نے کہا ہو کہ میں تو رات میں ہوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں یا (کہا) عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور مجھے توقع ہے کہ مجھ کو سونے میں بھی اسی قدر اجر ملے گا جتنا کہ عبادت کرنے میں اجر ملتا ہے۔

۹۵۰: حسن بن علی، عبد الحمید، طلحہ، یزید، ابوموسیٰ سے مروی ہے کہ میرے پاس معاذ بن جبل آئے اور میں ملک یمن میں تھا وہاں پر ایک یہودی شخص تھا جو کہ مسلمان ہونے کے بعد بے دین بن گیا تھا جب معاذ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے جانور (یعنی سواری) سے نیچے نہیں اترے گا جب تک کہ یہ شخص قتل نہ کیا جائے پھر وہ شخص قتل کر دیا گیا ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اس کو قتل کرنے سے پہلے استغفار کرنے کے لئے کہہ دیا گیا تھا۔ (حکم یہی ہے کہ مرتد کو قتل کرنے سے پہلے توبہ کرنے کیلئے کہا جائے۔ اگر وہ تائب ہو جائے تو جہاد و نارتداد کے جرم میں قتل کر دیا جائے)۔

۹۵۱: محمد بن علاء، حفص، شیبانی، ابوربدہ سے یہی حدیث روایت ہے (البتہ) اس روایت میں اس طرح ہے کہ ابوموسیٰ اشعری کے پاس ایک شخص لایا گیا کہ جو کہ مرتد ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس شخص سے اسلام قبول کرنے کے لئے قریباً بیس رات تک کہا۔ پھر معاذ بن جبل آئے انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اسلام لے آ۔ اس نے انکار کر دیا تو اس کی گردن اڑادی گئی۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو عبد الملک نے ابوربدہ سے بغیر توبہ کرانے کے تذکرہ کے روایت کیا ہے اور ابن فضل نے اس روایت کو شیبانی، سعید بن ابی بردہ ان کے والد ابوموسیٰ کے واسطے سے استغفار کرانے کے تذکرہ کے بغیر روایت کیا ہے۔

۹۵۰: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحِمَازِيُّ يَعْنِي عَبْدَ الْحَمِيدِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ وَبُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ فَأَرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ قَالَ لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّىٰ يُقْتَلَ فَقِيلَ قَالَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ قَدْ اسْتَيْبَ قَبْلَ ذَلِكَ۔

۹۵۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَتَى أَبُو مُوسَىٰ بَرَجُلٍ قَدْ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبَىٰ فَضْرَبَ عُنُقَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرِ الْإِسْتِثْنَاءَ وَرَوَاهُ ابْنُ فَضَالٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْإِسْتِثْنَاءَ۔

مرتد کے لئے مہلت:

مذکورہ حدیث میں استغفار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام کی دعوت دی گئی اور مرتد کو اسلام کے بارے میں جو شبہ ہو اس کو دور کرنے کے لئے مہلت دی جائے گی اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو بہتر ہے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا واضح رہے کہ تمام حدود کا نفاذ دار الاسلام میں ہوتا ہے نہ کہ دارالحرب میں۔

۹۵۲: ابن معاذ، انکے والد، مسعودی، قاسم سے یہی حدیث روایت ہے اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ معاذ سواری سے نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ اس شخص کی گردن اڑادی گئی اور اس سے توبہ نہیں کرائی گئی۔

۹۵۲: حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّىٰ ضُرِبَ عُنُقُهُ وَمَا اسْتِثْنَاءَ۔

۹۵۳: احمد بن محمد، علی بن حسین، ان کے والد، یزید، نحوی، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن سعد بن سرح، آنحضرت ﷺ کے محرر تھے ان کو شیطان نے بہکا دیا۔ وہ پھر کفار میں

۹۵۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ فَأَرْزَلَهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكَفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

شامل ہو گئے جس دن فتح مکہ ہوئی اس دن حضرت رسول کریم ﷺ نے اس کو قتل کر دینے کا حکم فرمایا پھر ان کے لئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پناہ مانگی۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو پناہ دے دی (یہ صاحب دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی:

یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دودھ شریک بھائی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر ان کے گناہ کی معافی کی گڑگڑا کر درخواست کی تو ان کی غلطی معاف کر دی گئی۔

۹۵۴: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْتَصِلِ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَاءَهُ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَأْتِي فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَأَيْتُ كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوا مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلَا أَوْمَأَتْ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَائِثَةً الْأَعْيُنِ -

۹۵۴: عثمان بن ابی شیبہ احمد بن فضل اسباط بن نصر سدی مصعب بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن فتح مکہ ہوا تو عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح عثمان بن عفان کے پاس جا کر روپوش ہو گیا۔ عثمان اس کو خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہوئے۔ یہاں تک کہ اس کو حضرت نبی کے روبرو کھڑا کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! عبد اللہ کو بیعت فرما لیجئے۔ آپ نے اپنا سر مبارک اُوپر اٹھایا اور آپ نے تین مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور ہر دفعہ اس کو بیعت کرنے سے انکار فرمایا۔ تین مرتبہ انکار فرمانے کے بعد آپ نے اس کو بیعت فرمایا اس کے بعد آپ حضرات صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم لوگوں میں سے کوئی شخص ہوش مند نہیں تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس سے بیعت نہیں لی تو (وہ شخص) کھڑا ہوتا اور اس کو قتل کر دیتا۔ ان حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ آپ کے قلب مبارک کے حال نہیں جانتے تھے۔ البتہ اگر آپ اپنی آنکھ سے (اس کو قتل کرنے کا) اشارہ فرماتے تو ہم لوگ ضرور اس کو قتل کر ڈالتے۔ آپ نے (یہ سن کر) از شاد فرمایا یہ بات نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ تنکھیوں سے مخفی اشارہ کرے۔

۹۵۵: حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَبَى الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ لَقَدْ حَلَّ دَمُهُ -

۹۵۵: قتیبہ بن سعید حمید بن حمید بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب غلام اپنے آقا سے شرک و کفر کی طرف بھاگ جائے تو اس کا خون (قتل) جائز ہو گیا۔

باب: گستاخ رسول (ﷺ) کی سزا

۹۵۶: عمار بن موسیٰ، اسماعیل، اسرائیل، عثمان، عکرمہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک نابینا شخص کی ایک اُم ولد (باندی) تھی جو کہ نبی کو برا کہتی تھی اور آپ کی ہجو بیان کرتی تھی۔ وہ نابینا شخص اس کو اس بات سے روکتا۔ لیکن وہ باندی (اپنی حرکت سے) باز نہ آتی اور وہ نابینا شخص اس کو ڈانٹتا لیکن وہ کسی طرح نہ مانتی ایک رات (اس باندی نے حسب معمول) آپ کی ہجو بیان کرنا شروع کی اور آپ کو گالی دینے لگی۔ تو اس نے چہرے لے کر اس باندی کے پیٹ پر رکھ دیا اور اس چہرے پر زور دے کر اسے قتل کر ڈالا۔ اس عورت کے دونوں پاؤں کے درمیان بچہ گرا اور خون میں لت پت ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو خدمت نبوی میں اس کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا جس شخص نے یہ کام کیا ہے میں اس شخص کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اپنے حق کی (قسم دیتا ہوں) جو کہ میرا اس پر حق ہے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے۔ یہ بات سن کر وہی نابینا شخص کھڑا ہو گیا اور وہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا اور کانپتا ہوا حاضر ہوا یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس باندی کو قتل کرنے والا شخص ہوں۔ وہ باندی آپ کو گالی دیا کرتی تھی اور آپ کی ہجو بیان کرتی تھی میں اس کو اس بات سے روکتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتی تھی اور میں اس کو ڈانٹتا تھا لیکن وہ جب بھی باز نہیں آتی تھی اور اس کے بطن سے دو موتیوں جیسے میرے دو بیٹے ہیں اور وہ میری بڑی اچھی ساتھی تھی گزشتہ رات وہ باندی آپ کو برا کہنے لگی اور آپ کی ہجو بیان کرنے لگی تو میں نے چہرے لے کر اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور اس پر (اپنا) وزن ڈال دیا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئی۔ (یہ سن کر) نبی نے ارشاد فرمایا: تم لوگ گواہ رہو کہ اُس کا خون رائیگاں چلا گیا (یعنی کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا)۔

۹۵۷: عثمان بن ابی شیبہ عبد اللہ بن جراح، جریر، مغیرہ شعمی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت حضرت رسول کریم ﷺ کو برا کہتی تھی اور آپ کی ہجو بیان کرتی تھی اس بات پر ایک شخص

باب الحکم فَمِنْ سَبِّ النَّبِيِّ ﷺ

۹۵۶: حَدَّثَنَا عُبَادُ بْنُ مُوسَى الْخَثَلِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامِ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلَدِ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَبْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ فَآخَذَ الْمِقْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَفَقَلَّهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِاللِّدْمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَّ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ فَقَامَ الْأَعْمَى يَنْخَطِي النَّاسَ وَهُوَ يَنْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَانْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَهِيْقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَآخَذْتُ الْمِقْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى فَقَلَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدْرٌ۔

۹۵۷: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَقَّقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَمَهَا۔
 نے اس عورت کا گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو حضرت رسول کریم ﷺ نے اس عورت کا خون رائیگاں قرار دے دیا۔

آپ ﷺ کو برا کہنے والے کی سزا:

مطلب یہ ہے ایسے انسان کا خون رائیگاں ہے اور ایسے شخص کے قتل پر قصاص یا دیت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے علامہ ابن عابدین شامی کی تالیف ”تتمیہ الولاة والحکام علی شاتم خیر الامام“ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ”الصارم المسلمون علی شاتم الرسول“ اور اردو میں اسماعیل قریشی کی کتاب ”گستاخ رسول کی شرعی سزا“ ملاحظہ کریں۔

۹۵۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَهَبَّطَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَاسْتَدَّ عَلَيَّ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَقَامٌ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ لَقَالَ قُلْتُ أَلَّذِي لِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ۔
 ۹۵۸: موسیٰ بن اسماعیل حماد یونس حمید بن ہلال نے نبی سے روایت کیا ہے (دوسری سند) ہارون بن عبد اللہ نصیر بن فرج ابو اسامہ یزید بن زریع یونس بن عبید حمید بن ہلال عبد اللہ بن مطرف ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ایک شخص پر غصہ ہوئے اور سخت ترین غصہ ہوئے۔ میں نے کہا اے رسول کریم کے خلیفہ! آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں اس شخص کی گردن اڑا دوں یہ بات کہنے سے ان کا غصہ جاتا رہا اور وہ کھڑے ہو کر اندر چلے گئے پھر انہوں نے مجھے بلوایا اور فرمایا تم نے ابھی کیا بات کہی تھی؟ میں نے عرض کیا مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس شخص کی گردن اڑا دوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا تم کو اگر میں حکم دیتا تو تم اس شخص کی گردن واقعی اڑا دیتے؟ میں نے عرض کیا بلاشبہ میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا آنحضرت کے بعد یہ مقام کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ یزید بن زریع کے ہیں۔

باب: رہزنی کرنے کا بیان

۹۵۹: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عَكْلٍ أَوْ قَالَ مِنْ عَرَبِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعُوا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلْقَائِهَا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبِيهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحَّحُوا قَتَلُوا رَاعِيًا۔
 ۹۵۹: سلیمان بن حرب حماد ایوب ابو قلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ قبیلہ عکل یا قبیلہ عربینہ کے مدینہ منورہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ان لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو آپ نے ان لوگوں کو کچھ دودھ دینے والی اونٹنیاں عنایت فرمائیں اور انہیں ان کا پیشاب اور دودھ پینے کا حکم فرمایا وہ لوگ (ان اونٹنیوں کو جنگل میں لے کر) چلے گئے جب وہ لوگ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہنکا کر

لے گئے۔ آنحضرت ﷺ کو یہ خبر ملی تو آپ نے لوگوں کو ان لوگوں کے پیچھے دوڑایا تو زیادہ دن نہیں چڑھا تھا کہ وہ تمام لوگ (پکڑ کر) حاضر کئے گئے آپ نے حکم فرمایا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر دی گئی اور وہ لوگ جلتے ہوئے پتھروں پر ڈال دیئے گئے وہ لوگ (پیاس کی وجہ سے) پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں ملتا تھا۔ ابو قلابہ نے بیان کیا ان لوگوں نے چوری اور قتل کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد کافر ہو گئے اور اللہ اس کے رسول سے انہوں نے جنگ کی (تو ان کی یہی سزا ہونا چاہئے تھی)۔

۹۶۰: موسیٰ بن اسماعیل و ہیب حضرت ایوب سے اس روایت میں اس طرح مروی ہے کہ آپ نے سلائیاں گرم کرنے کا حکم فرمایا اور وہ سلائیاں ان لوگوں کی آنکھوں میں پھیری گئیں اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان لوگوں کو ایک ہی مرتبہ میں نہیں قتل کیا گیا۔

۹۶۱: محمد بن صباح بن سفیان (دوسری سند) عمرو بن عثمان و لید اوزاعی ابو قلابہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہی روایت بیان کی گئی ہے اور اس روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کے تعاقب میں مخبروں کو روانہ کیا وہ لوگ گرفتار ہو کر حاضر کئے گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ نازل فرمائی۔ یعنی ”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں (فتنہ) و فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ لوگ قتل کئے جائیں گے یا سولی دیئے جائیں گے یا ایک جانب کے ہاتھ اور دوسری جانب کے پاؤں کاٹے جائیں یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے۔“

۹۶۲: موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت قتادہ حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان لوگوں میں سے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ پیاس کی وجہ سے اپنے منہ سے زمین کھودتا تھا یہاں تک کہ وہ سارے مر گئے۔

۹۶۳: محمد بن بشار ابن ابی عدی ہشام قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح پر روایت ہے البتہ اس روایت میں یہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعْمَ قَبْلَ بَلْغِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي آثَارِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَ أَعْيُنُهُمْ وَالْقَوْمُ فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَفُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

۹۶۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُخِمَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ۔

۹۶۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَفْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ قَبَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِمْ قَافَةً فَأَتَى بِهِمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا الْآيَةَ۔

۹۶۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ وَحَمِيدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطْشًا حَتَّى مَاتُوا۔

۹۶۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ زَادَتْ نَهَى عَنِ الْمُغْلَةِ۔ اضافہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلہ کرنے سے منع فرمایا۔
 مثلہ کرنے کا مفہوم:

شریعت میں ہاتھ پاؤں کاٹنے، آنکھ پھوڑنے، کان کاٹنے وغیرہ کو مثلہ کرنا کہا جاتا ہے مثلہ کیا جانا منع ہے لیکن آپ نے مثلہ کئے جانے کا جو حکم فرمایا وہ ممانعت سے قبل کا حکم ہے۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ ان لوگوں نے بھی آپ کے چرواہوں کو مثلہ کیا تھا اس لئے ان لوگوں کو سزا کے طور پر مثلہ کئے جانے کا حکم فرمایا گیا۔

۹۶۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوا عَنْهُ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنًا قَبَعَ فِي آقَارِهِمْ فَأَخْلَعُوا فَفَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ وَهُمْ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْحَجَّاجَ حِينَ سَأَلَهُ۔

۹۶۳: احمد بن صالح، عبد اللہ عمرو، سعید بن ابی ہلال، ابو الزناد، عبد اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ کر لے گئے اور مرتد ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو جو مسلمان تھا قتل کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا پھر وہ لوگ گرفتار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہی لوگوں کا تذکرہ حجاج سے کیا تھا جب حجاج نے ان سے سوال کیا۔

۹۶۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحِ بْنِ وَهَبٍ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا الْآيَةَ۔

۹۶۵: احمد بن عمرو بن سرح، ابن وہب، لئث بن سعد، محمد بن عجلان حضرت ابو الزناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اونٹ چوری کئے تھے ہاتھ پیر کاٹے اور آنکھیں پھوڑیں تو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا الْآيَةَ﴾

خدا روں کی سزا:

مطلب یہ ہے کہ ایسے خدا روں کے لئے قصاص میں قتل کیا جانا یا پھانسی دیا جانا کافی تھا، ان کی آنکھیں پھوڑنا اور ان کو گرم زمین پر تڑپا تڑپا کر مارنا غیر ضروری تھا اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

۹۶۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح و ۹۶۶: محمد بن کعب، موسیٰ بن اسماعیل، ہمام، قتادہ، حضرت محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ (حکم) حدود کے نزول

قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ يَعْنِي حَدِيثَ أَنَسٍ -

۹۶۷: احمد بن محمد بن ثابت، علی بن حسین، ان کے والد زید بن عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ یہ آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں میں سے گرفتار ہونے سے قبل جو شخص توبہ کر لے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس شخص کے ذمہ سے حد معاف ہو جائے۔

۹۶۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَدَّرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعَهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ الَّتِي أَصَابَ -

حدود کی سزا توبہ سے معاف نہ ہوگی:

انسان اگر گناہ سے توبہ کر لے تو آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی لیکن حدود اور جرم کی سزا جو شریعت میں مقرر ہے وہ بہر حال لاگو ہوگی اور اگر کسی کافر نے زمانہ کفر میں جب مذکورہ بالا کاموں میں سے کوئی کام کر لیا اور بعد میں وہ اسلام لے آیا اور سابقہ کاموں سے توبہ کر لی تو اس کے ذمہ سے حدود اور جرم کی سزا ساقط ہو جائے گی۔

باب: شرعی حد معاف کرنے کے لئے سفارش کرنے

بَابُ فِي الْحَدِّ

کامیاب

يُشْفَعُ فِيهِ

۹۶۸: زید بن خالد (دوسری سند) قتیبہ بن سعید، لیث بن شہاب، عروہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے قریش کو مشکل میں ڈال دیا اسلئے کہ اس عورت نے چوری کی تھی پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ نبی سے اس عورت کی بابت کوئی شخص بات کر سکتا ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ اس بات پر اُسامہ بن زید (نبی) جرات کر سکتے ہیں اسلئے کہ وہ نبی کے لاڈلے ہیں۔ پھر حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہما نے خدمت نبوی میں عرض کیا۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا اے اُسامہ! کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیا

۹۶۸: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ح وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْقَفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمُخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرُّهُ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ارشاد فرمایا اسی چیز نے تو ان کو ہلاک کر دیا جو کہ تم لوگوں سے قبل تھے کہ جب ان میں سے کوئی صاحب حیثیت چوری کا مرتکب ہوتا تو اس شخص کو سزا دیئے بغیر رہا کر دیتے اور جب ان لوگوں میں سے کوئی غریب شخص چوری کا مرتکب ہوتا تو اس شخص پر چوری کی سزا جاری کرتے اور اللہ کی قسم اگر محمدؐ کی صاحبزادی فاطمہؑ بھی (خدا نخواست) چوری کر لے تو اس کا بھی ضرور ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔

سزا سب کے لئے ہے:

مذکورہ حدیث سے واضح ہے کہ شریعت کا حکم سب کے لئے برابر ہے جو بھی جرم کرے سزا بہر حال اس کو ضرور ملے گی کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۹۶۹: عباس، محمد بن یحییٰ، عبدالرزاق، معمر زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت اس عادت کی تھی کہ وہ مانگی ہوئی چیز لے کر اس کا انکار کر دیا کرتی تھی تو حضرت رسول کریم ﷺ نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ دوسری روایت میں (اس طرح) ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا۔ امام ابوداؤد نے فرمایا اس روایت کو ابن وہب نے یونس سے انہوں نے زہری سے روایت کیا انہوں نے زہری سے اور اس روایت میں بھی اسی طرح مذکور ہے کہ جس طرح لٹیٹ کی روایت میں ہے کہ عورت نے دو ربوی میں فتح مکہ کے سال چوری کی تھی اور اس روایت کو لیٹ نے یونس سے روایت کیا انہوں نے ابن شہاب سے اسی سند سے روایت کیا اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ اس عورت نے کوئی شے اُدھار لی تھی (پھر اس عورت نے اس شے کا انکار کر دیا) اور اس روایت کو مسعود بن الاسود رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول کریم ﷺ سے روایت کیا اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ اس عورت نے آپ کے گھر میں سے ایک چادر چوری کی تھی۔ امام ابوداؤد نے فرمایا اس روایت کو ابو زبیر نے جابر سے روایت کیا کہ ایک عورت نے چوری کی پھر اس نے حضرت زینب صاحبزادی آنحضرت ﷺ کی

۹۶۹: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ لَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ وَرَوَى مَسْعُودُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ قَالَ سَرَقَتْ قَطِيفَةً مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فَعَادَتْ بَزِينَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

عاریت کا انکار کرنے کی سزا:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی سے کوئی شے اُدھار لے کر اس کا انکار کر دینا اس سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ ہاتھ چوری کرنے سے کاٹا جاتا ہے اور چوری سرقہ کی تعریف یہ ہے کہ حفاظت سے رکھا گیا مال غیر کی ملکیت سے خفیہ طور پر لے لینا اور عاریت یعنی ماگی ہوئی چیز تو خود لینے والے کے پاس موجود ہے اس لئے عاریت سے انکار کرنے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ واضح رہے کہ مطلقاً سرقہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ سرقہ کا نصاب مقرر ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

۹۷۰: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَبِي فُذَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْهُدُودَ۔

۹۷۰: جعفر بن مسافر، محمد بن سلیمان، ابن ابی ندیک، عبد الملک بن زید، جعفر بن سعید بن زید، عمرو بن نفیل، محمد بن ابی بکر، عمرہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا اصحاب مروت لوگوں کی لغزشوں کو معاف کر دیا کرو سوائے حدود کے۔ (یعنی ایسے لوگ جو عموماً نیک ہوتے ہیں اور عام طور پر گناہوں یا جرائم میں ملوث نہیں ہوتے) اگر ان سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو معاف کر دیا کرو۔ ہاں اگر ان سے کوئی ایسا جرم اور گناہ سرزد ہو جائے جو حدود کے زمرے میں آتا ہو تو وہ معاف نہ کیا جائے۔

باب: جس وقت تک حدود کا معاملہ قاضی کے سامنے

بَابُ الْعُفُوِّ عَنِ الْهُدُودِ مَا لَمْ تُبَلِّغْ

پیش نہ ہو تو اس کو معاف کرنا اچھا ہے

السُّلْطَانَ

۹۷۱: سليمان بن داؤد، ابن وهب، ابن جریج، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ باہمی طور پر اپنی حدود کو معاف کر دیا کرو لیکن جب میرے پاس کوئی حد پہنچی (یعنی حدود سے متعلق کوئی معاملہ پیش ہوگا) تو ضرور حد واجب ہوگی (پھر معافی کا سوال نہیں ہوگا)

۹۷۱: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاَفُوا الْهُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغْتَنِي مِنْ حُدٍّ فَقَدْ وَجَبَ۔

امام کے یہاں معاملہ پیش کرنے سے قبل معاف کرنا:

مطلب یہ ہے کہ قاضی امیر المؤمنین کے یہاں معاملہ پیش کرنے سے قبل اگر حدود معاف کر دی جائیں تو بہتر ہے۔ قاضی کے یہاں معاملہ پیش ہونے کے بعد معاف کرنا درست نہ ہوگا بلکہ حد لاگو ہوگی۔ مذکورہ حدیث میں اگرچہ خطاب آپ کا اپنی جانب ہے لیکن مراد ائمہ حکام اور قاضی حضرات کے یہاں معاملہ پیش کرنے سے ہے۔

باب: اگر کسی سے حد کا کام صادر ہو جائے تو جہاں

بَابُ فِي السَّتْرِ عَلَيَّ

تک ہو سکے اس کو چھپایا جائے

۹۷۲: مسد بخاری، سفیان، زید بن اسلم، یزید بن نعیم، ان کے والد حضرت نعیم سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ماعز رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے چار مرتبہ آپ کے سامنے زنا کا اقرار کیا۔ آپ نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا اور ہزال سے آپ نے فرمایا اگر تو اس بات کو کپڑا ڈال کر چھپالیتا تو تمہارے لئے یہ بہتر ہوتا۔

أَهْلُ الْحُدُودِ

۹۷۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَأَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَالٍ لَوْ سَرَرْتَهُ بِعُوبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ -

ماعز رضی اللہ عنہ کی توبہ:

ہزال اس شخص کا نام ہے جس نے کہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو زنا کے اقرار کرنے کا کہا تھا حضرت ماعز رضی اللہ عنہ سے نادانی میں زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا لیکن انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ رورو کر توبہ کی وہ توبہ قبول ہوئی اور حد بھی لاگو ہو گئی۔

۹۷۳: محمد بن عبید، حماد بخاری، ابن منکدر سے روایت ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو ہزال نے کہا تھا کہ تم حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حالت بیان کرو کہ میں نے یہ زنا کا قصور کر لیا ہے۔

۹۷۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ هَزَالَ أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُخْبِرُهُ -

باب: حد و الا جرم کر کے حاکم کے پاس آ کر اقرار

بَابُ فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ

کر لے

فِيَقْرَأُ

۹۷۴: محمد بن یحییٰ، فریابی، اسرائیل، سماک، علقمہ بن وائل، وائل بن حجر سے مروی ہے کہ دو ربیوی میں ایک خاتون نماز پڑھنے کے لئے نکلی اس خاتون کو (راستہ میں) ایک شخص مل گیا جو کہ اس پر چڑھ دوڑا اور اس نے اس سے صحبت کی اس خاتون نے شور مچایا لیکن وہ شخص چلا گیا۔ اس وقت ایک دوسرا شخص اس خاتون کے سامنے سے گزرا اس خاتون نے کہا ”فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے اور مہاجرین میں سے ایک جماعت آئی ان سے اس خاتون نے یہی بات کہی کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ تمام لوگ یہ بات سن کر چلے گئے اور اس شخص کو جا پکڑ لیا جس کے متعلق خاتون کا خیال تھا کہ اس نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ پھر اس شخص کو (پکڑ کر) اس خاتون کے پاس لائے اس خاتون نے (تصدیق کی اور) کہا کہ ہاں وہ یہی شخص ہے۔ اس پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس شخص کو لے کر خدمت نبوی

۹۷۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَارِسٍ حَدَّثَنَا الْقُرَيْبِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تَرْبِدُ الصَّلَاةَ فَنَلَقَاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَفَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَأَنْطَلَقَ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَأَنْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي طَلَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَوْهَا بِهِ فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا فَأَتُوا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهَا أَذْهَبِي فَقَدْ
 غَفَرَ اللَّهُ لِكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا قَالَ أَبُو
 دَاوُدَ يَعْنِي الرَّجُلَ الْمَأْخُودَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ
 الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوهُ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً
 لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
 رَوَاهُ اسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ أَيْضًا عَنْ سِمَاكِ -
 مدینہ منورہ کے لوگ اس قسم کی توبہ کر لیں تو ان کی طرف سے (توبہ) قبول ہو جائے۔ امام ابوداؤد نے فرمایا اس روایت کو سماک
 سے اسباط بن نصر نے بھی روایت کیا ہے۔

بے قصور عورت:

خاتون سے آپ نے اس کا گناہ معاف ہو جانے کے بارے میں اس لئے فرمایا کیونکہ وہ خاتون بے قصور تھی اور اس سے
 زبردستی زنا کیا گیا تھا اور زنا کے اقرار کے باوجود آپ نے حد زنا کس وجہ سے لاکو نہیں فرمائی اس کی مختلف توجیہات بیان فرمائی گئی
 ہیں جس کی تفصیل شروحات حدیث بذل الجہود جلد ۵ میں مذکور ہے۔

باب: حد کے لئے تلقین کئے جانے کا بیان

بَابُ فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ

۹۷۵: موسیٰ بن اسماعیل، حماد بن اسحاق، حضرت امیہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں چور کو پیش کیا گیا
 جس نے اقرار بھی کیا تھا۔ لیکن اس کے پاس کچھ مال نہیں ملا۔ تو
 حضرت رسول کریم ﷺ نے اس سے فرمایا کہ میرا نہیں خیال کہ تم نے
 مال کی چوری کی ہو اس نے جواب دیا جی کی ہے۔ پھر آپ نے اس
 کے سامنے دو یا تین مرتبہ بھی فرمایا تو آپ نے اس پر حد کا حکم فرمایا اور
 (اس کا ہاتھ) کاٹ دیا گیا پھر اس کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر
 ہوئے آپ نے اس سے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور
 اس کی جانب رجوع کرو تو اس نے کہا میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور
 اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ پھر آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا اے
 اللہ! اس شخص پر توجہ فرما، اور اس کی مغفرت فرما دیجئے، امام ابوداؤد
 فرماتے ہیں کہ اس روایت کو عمرو بن عاصم نے ہمام بن اسحاق ابو امیہ
 انصاری کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

۹۷۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ
 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي
 الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمُخْزُومِيِّ
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَلِصُّ قَدْ
 اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوَجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِخَالِكَ
 بَسْرَفَتِ قَالَ بَلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
 فَأَمَرَ بِهِ فِقَطَعَ وَجِيءَ بِهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ
 وَتُبَّ إِلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ
 اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ ثَلَاثًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو
 بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 قَالَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

اجراء حدود سے مغفرت نہ ہوگی:

مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا کہ حدود کے اجراء سے مغفرت نہیں ہوتی بلکہ شریعت نے عبرت اور مجرم کو سزا کے لئے حدود جاری کئے جانے کا حکم دیا ہے اور حد کے گناہ کی مغفرت استغفار کرنے سے ہی ہوتی ہے۔

باب فی الرَّجُلِ یُعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا یُسَمِّیهِ

باب: کوئی شخص حد لازم ہونے کا اعتراف کرے لیکن یہ نہ کہے کہ کوئی حد ہے؟

۹۷۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَّاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ قَالَ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ صَلَّى مَعَنَا حِينَ صَلَّى قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ۔

۹۷۶: محمود بن خالد، عمر، اوزاعی، ابوعمار، حضرت ابواسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حد کا کام کیا ہے آپ مجھ پر حد قائم فرمادیں۔ آپ نے فرمایا جب تم ہمارے پاس آئے تو تم نے وضو کیا؟ اس شخص نے جواب دیا جی ہاں، آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ہمراہ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا گناہ معاف فرمادیا۔

وضو کی برکت:

آپ نے شخص مذکور سے وضو کے بارے میں اس لئے دریافت فرمایا کیونکہ وضو کرنے سے بہت سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے جیسا کہ دیگر احادیث میں مذکور ہے۔

باب: تفتیش کے لئے مجرم کو مارنا پیٹنا

۹۷۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلْبِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوا أَنَسًا مِنَ الْحَاكِمَةِ فَاتَّوَا النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ حَلَّى سَيْلَهُمْ فَاتَّوَا النَّعْمَانَ فَقَالُوا خَلَيْتْ سَيْلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانٍ فَقَالَ النَّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أُضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظَهْرِكُمْ مِثْلَ

۹۷۷: عبد الوہاب، بقیہ، صفوان، حضرت ازہر بن عبد اللہ حراری سے روایت ہے کہ قبیلہ کلاب کے کچھ لوگ تھے ان لوگوں کا مال چوری ہو گیا ان لوگوں نے کچھ جولا ہوں پر چوری کی تہمت لگائی اور ان کو صحابی رسول نعمان بن بشیر کے پاس لے کر آئے۔ نعمان نے ان جولا ہوں کو کچھ دن تک گرفتار رکھا پھر ان کو رہا کر دیا اس وقت قبیلہ کلاب کے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جولا ہوں کو مار پیٹ کئے بغیر اور انکی تفتیش کئے بغیر رہا کر دیا۔ نعمان نے فرمایا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اگر تم کو منظور ہو تو میں ان کو مارتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر ان لوگوں کے پاس تمہارا سامان نکلے تو ٹھیک ہے ورنہ میں تم کو بھی اسی

مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ قَدْرًا لِمَا كَانَتْ تَحْتَ يَدَيْهِمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحُكِمَ لَهُمْ بِهَذَا حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ ﷺ -
 حکم ہے؟ نعمانؓ نے جواب دیا! یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔

شبہ کی وجہ سے گرفتار کرنا:

مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا کہ شبہ قوی کی بنیاد پر مجرم کو گرفتار کرنا درست ہے تاکہ اس سے پوچھ گچھ کی جاسکے لیکن اس کے ساتھ زیادتی کرنا یا سختی کر کے جرم کا اقرار کرانا جائز نہیں ہے، ظلم ہے۔

باب: کس قدر مال میں چور کا ہاتھ کاٹنا درست ہے؟

باب مَا يَطْعَمُ فِيهِ السَّارِقُ

۹۷۸: احمد بن محمد سفیان زہری، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ میں چور کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔

۹۷۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا -

۹۷۹: احمد بن صالح، وہب بن بیان (دوسری سند) ابن سرح، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چوتھائی دینار یا اس سے زائد میں ہاتھ کاٹا جائے۔ احمد بن صالح نے بیان کیا کہ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ میں ہاتھ کاٹا جائے۔

۹۷۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْقَطْعُ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا -

۹۸۰: عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے تین درہم کی ڈھال کی چوری کرنے (کی صورت) میں ہاتھ کاٹا۔

۹۸۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ -

۹۸۱: احمد بن حنبل، عبد الرزاق، ابن جریج، اسلمیل، نافع، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا کہ جس نے (مقام) صَفِيَّةُ النَّسَاءِ میں سے ڈھال کی چوری کی تھی اور اس ڈھال کی قیمت تین درہم تھی۔

۹۸۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تَرَسًا مِنْ صَفِيَّةِ النَّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ -

۹۸۲: عثمان بن ابی شیبہ، محمد بن ابی سری، ابن نمیر، محمد بن اسحق، ایوب بن موسیٰ، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا، ایک ڈھال کی چوری کے بدلہ میں کہ جس ڈھال کی مالیت ایک دینار یا دس درہم ہوگی۔ امام

۹۸۲: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَمُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ

ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد بن سلمہ اور معدان بن یحییٰ نے اس سند کے ساتھ ابن اسحاق سے روایت کیا ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْرَجُلٌ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةٌ ذَرَاهِمٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ۔

باب: جن اشیاء کی چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ نہیں

باب مَا لَا قَطْعَ

کاٹا جائے گا

فِيهِ

۹۸۳: عبد اللہ بن مسلمہ مالک بن انس، یحییٰ بن سعید، محمد بن یحییٰ بن جہان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک باغ میں کھجور کا ایک پودا چوری کر لیا اور اس کو اپنے آقا کے باغ میں لگایا تو پودے کا مالک اپنے پودے کو تلاش کرتا ہوا نکلا پھر اس نے وہ پودا پالیا اور اس وقت کے مدینہ منورہ کے حاکم مروان بن حکم کے یہاں مقدمہ لے گیا اور اپنے لئے مدد مانگی، مروان نے اس غلام کو قید کر دیا اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا۔ اس غلام کا مالک حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اس نے ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی سے سنا ہے آپ فرماتے تھے پھل کے چوری کرنے اور خوشہ کی چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ مروان نے میرے غلام کو گرفتار کیا ہے اور (وہ) اس کا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ مروان کے یہاں میرے ساتھ چلیں اور آپ نے جو حدیث نبی سے سنی ہے (وہ حدیث) مروان کو سنائیں۔ رافع بن خدیج ان کے ہمراہ تشریف لے گئے یہاں تک کہ مروان کے پاس پہنچ گئے اور بیان کیا کہ میں نے نبی سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ پھل اور (پھلوں کے) گچھے کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ بات سن کر مروان نے غلام کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ امام ابوداؤد نے فرمایا کہ لفظ کھر کے معنی خوشہ (گچھے) ہیں۔

۹۸۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَفَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّةَ فَوْجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَأَنْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غَلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَخَبَّرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ مَعَهُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ فَأَمَرَ مَرْوَانَ بِالْعَبْدِ فَأَرْسَلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْكَثْرُ الْجُمَارُ۔

تعزیر کی مقدار:

جن اشیاء کی چوری کرنے میں ہاتھ کاٹے جانا کا حکم نہیں ہے ان میں تعزیر ہے یعنی حاکم یا قاضی کوڑے وغیرہ لگائے یا کوئی دوسری مناسب سزا تجویز کر دے اور تعزیر میں کوڑے مارنے کی سزا کم از کم تین کوڑے اور زیادہ سے زیادہ اُنتالیس کوڑے ہیں۔ بہر حال مذکورہ واقعہ میں مروان نے اس غلام کو کچھ کوڑے مارے جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث میں صراحت ہے۔

۹۸۴: محمد بن عبید حماد یحییٰ، حضرت محمد بن یحییٰ سے اس روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ مروان نے اس کے غلام کے کچھ کوڑے مارے پھر اس کو رہا کر دیا۔

۹۸۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلْدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ۔

۹۸۵: قتیبہ بن سعید لیث ابن عجلان، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبیؐ سے کسی شخص نے لٹکے ہوئے میوے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس ضرورت مند شخص نے (وہ پھل) کھالیا اور اپنی گود میں پھل جمع نہیں کیا تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہے اور جو شخص اس میں سے کچھ ملے کر نکلے تو اس شخص پر مار پیٹ ہوگی اور اس کو دو گنا جرمانہ ادا کرنے پڑے گا اور جس شخص نے اس میں سے اس کے خشک کرنے کی جگہ سے جمع کرنے کے بعد چوری کیا اور وہ ڈھال کی مالیت کا تھا تو اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

۹۸۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَطْرِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَعَذِّدٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ عَلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيرِينَ فَلْيَغْ ثَمَنَ الْمَجْنُونِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ۔

محفوظ پھلوں کی چوری سے ہاتھ کاٹا جائے گا:

یعنی جس وقت کسی جگہ پھل خشک کرنے کے لئے ڈال دیئے جائیں اور اس جگہ سے کوئی شخص پھل چوری کرے تو اگر تین درہم کی مالیت کے بقدر پھل چوری کرے تو جس وقت درخت سے علیحدہ کر دیا جائے تو اس کا حکم درخت میں لٹکے ہوئے پھلوں جیسا نہیں رہا بلکہ دوسرے اموال جیسا حکم ہو گیا کہ جن کے چوری کرنے سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پارہ ۲۸

باب: علی الاعلان کوئی چیز چھیننے یا امانت میں خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا

۹۸۶: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُتَّخِذِ قَطْعٌ وَمَنْ اتَّخَذَ نَهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَبِهَذَا الْإِسْنَادُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ۔

۹۸۶: نصر بن علی، محمد بن بکر، ابن جریج، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مال لوٹنے (زبردستی چھیننے یا اچکنے) پر ہاتھ نہیں کٹے گا اور جس نے علی الاعلان یہ چیز چھین لی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اسی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خیانت کرنے والے پر بھی قطع نہیں ہے یعنی اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔

اچکنے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا:

ان دونوں قسم کے لوگوں کے ہاتھ نہ کاٹے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان پر چوری کی تعریف صادق نہیں آتی۔ کیونکہ سرقہ یا چوری کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا جو مال حفاظت سے رکھا گیا ہو اس کو خفیہ طریقہ سے نکال لینا۔ (فتاویٰ شامی کتاب السرقہ) لیکن یاد رہے کہ اوپر ذکر کی گئی دونوں وارداتیں بہت ہی گھناؤنا جرم ہیں۔ مال لوٹ لینا یا اچک لینا اور اسی طرح امانت میں خیانت کرنا شریعت کی نگاہ میں بڑی مذموم حرکتیں ہیں جو ذاکل اخلاق میں آتی ہیں اور بہت بڑا گناہ ہیں۔

۹۸۷: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ زَادٌ وَلَا عَلَى الْمُتَّخِذِ قَطْعٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا هَذَا الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَبَلَّغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِينَ الزِّيَّاتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغْبِرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ۔

۹۸۷: نصر بن علی، عیسیٰ بن یونس، ابن جریج، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول کریم ﷺ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ اچکنے والے شخص پر ہاتھ کاٹنا نہیں ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے ابو زبیر سے یہ دونوں احادیث نہیں سنی ہیں اور مجھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ خبر موصول ہوئی کہ ابن جریج نے یہ احادیث یا سین زیات سے سنی ہیں امام ابوداؤد فرماتے ہیں ان دونوں روایات کو مغیرہ نے ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

باب: جو شخص کسی شے کو محفوظ جگہ سے چوری کر لے؟

۹۸۸: محمد بن یحییٰ، عمرو بن طلحہ اسباط، سماک بن حرب، حمید، حضرت صفوان بن اُمیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں (ایک دن) مسجد میں ایک اونی چادر پر سو رہا تھا جس کی مالیت میں درہم تھی۔ اس وقت ایک شخص آیا اور مجھ سے وہ چادر اُچک کر لے گیا۔ پھر وہ آدمی گرفتار ہو گیا اور حضرت رسول کریم ﷺ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ کاٹنے کے لئے فرمایا۔ میں حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ تمیں درہم کے لئے اس شخص کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں میں اس چادر کو اس شخص کو ادھار پر فروخت کرتا ہوں (یہ سن کر) آپ نے فرمایا تم کو اگر اس طرح کرنا تھا تو میرے پاس لانے سے قبل ایسا کیا ہوتا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو زائدہ نے سماک سے انہوں نے عبد بن حمیر سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سو گئے طاؤس اور مجاہد کہتے ہیں کہ وہ سو رہے تھے کہ اتنے میں چور آیا اور اس نے ان کے سر کے نیچے سے چادر نکال لی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ان کے سر کے نیچے سے چادر کھینچ لی تو وہ بیدار ہو گئے اور شور مچایا اور وہ چور پکڑ لیا گیا۔ دوسری روایت میں اس طریقہ سے ہے کہ حضرت صفوان بن اُمیہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر کو تکیہ بنا کر مسجد میں سو رہے تھے کہ ایک چور آیا اور چادر لے گیا تو اس چور کو خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہوئے۔

باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزِ

۹۸۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خِمِيصَةٍ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخَذَ الرَّجُلُ فَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقَطَعَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقَطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أْبِيعُهُ وَأَنْسِيَهُ ثَمَنَهَا قَالَ فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَعْفِدِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفْوَانُ وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خِمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأَخَذَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِذَائِهِ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِذَائَهُ فَأَخَذَ السَّارِقُ فِجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ۔

محفوظ مال کے سرقت سے ہاتھ کاٹا جائے گا:

مذکورہ شخص کے ہاتھ کاٹے جانے کا اس وجہ سے حکم فرمایا گیا کہ وہ مال حفاظت سے رکھا گیا تھا جس طرح کہ کوئی شخص کسی کمرہ یا تالے میں رکھی گئی چیز چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور جو چیز حفاظت سے نہ رکھی گئی ہو اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کتب فقہ میں ان مسائل کی مفصل بحث مذکور ہے۔

باب: عاریت پر کوئی شے لے کر مکر جانے والے کا

ہاتھ کاٹ دیا جائے گا

۹۸۹: حسن بن علی، مخلد بن خالد، عبدالرزاق، معمر، ایوب، نافع، حضرت

بَاب فِي الْقَطْعِ فِي الْعَوْرِ إِذَا

جُحِدَتْ

۹۸۹: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ مخزوم میں ایک عورت ایسی تھی کہ جو عاریتاً سامان لیتی پھر کر جاتی حضرت رسول کریم ﷺ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم فرمایا۔ امام ابوداؤد نے فرمایا اس حدیث کو جویریہ نے نافع سے روایت کیا انہوں نے ابن عمر یا صفیہ بنت ابی عبید سے روایت کیا۔ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کوئی عورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے توبہ کرے۔ تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور وہی عورت (جو کہ مانگ کر چیز لے کر انکار کر دیتی تھی) بیٹھی ہوئی تھی لیکن وہ نہ تو اٹھی اور نہ ہی اس نے کوئی بات کی۔ امام ابوداؤد نے اس حدیث کو ابن عثیم نے نافع سے اور انہوں نے صفیہ بنت ابوعبید سے روایت کیا ہے۔ جس میں فرمایا ہے کہ اس عورت پر گواہی دی۔

الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ مَخْلَدٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَقَطَعَتْ يَدَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جُوَيْرِيَّةٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ هَلْ مِنْ امْرَأَةٍ تَأْتِيهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ فَلَا تَمْرَاتٍ وَتَمْرَاتٍ شَاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَّجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا۔

عاریت امانت ہے:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مانگی ہوئی شے لے کر انکار کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ عاریت امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا لیکن خیانت اپنی جگہ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔

۹۹۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ تَعْنِي حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أَنَسِ يُمْرِفُونَ وَلَا تَعْرِفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ فَأَخَذْتُ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدَيْهَا وَهِيَ الْيَتِي شَفَعَ فِيهَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ۔

۹۹۱: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ

۹۹۱: عباس بن محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق، معمر زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی مخزوم میں ایک عورت ایسی تھی کہ وہ عاریتاً چیز لے کر انکار کر دیا کرتی تھی تو حضرت رسول کریم ﷺ نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا اس کے بعد قتیبہ لیث اور ابن

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَاقْصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَادَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهَا.

شہاب کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ جس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا۔

عاریت لے کر منکر ہو جانا:

ایسی عورت کے ہاتھ کاٹے جانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی چیز لے کر منکر ہو جانا چوری کرنے سے بھی بدتر ہے کیونکہ چوری تو چھپ کر کی جاتی ہے اور یہ طریقہ کھلے طور پر کرنا فریب ہے۔

باب فی الْمُجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يَصِيبُ حَدًا

باب: اگر کوئی مجنون چوری یا حد کے لائق کوئی جوم کرے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی

۹۹۲: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

۹۹۲: عثمان بن ابی شیبہ یزید بن ہارون حماد بن سلمہ حماد ابراہیم اسود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تین شخصوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے (یعنی وہ مرفوع القلم ہیں اور ان سے مواخذہ نہیں) ایک تو سونے والے شخص سے جب تک وہ بیدار نہ ہو دوسرے مجنون شخص سے جب تک وہ ہوش میں نہ آئے تیسرے لڑکے سے جب تک وہ سمجھ دار نہ ہو (بالغ نہ ہو جائے)

بچہ اور مجنون غیر مکلف ہیں:

یعنی بچہ یا بچی جب تک عاقل بالغ یا جوان نہ ہوں ان سے مواخذہ نہیں اور ان کی برائی بھلائی قابل اعتبار نہیں اسی طرح مجنون اگر طلاق دے یا غلام آزاد کرے تو طلاق دینے یا غلام آزاد کرنے سے وہ آزاد نہ ہوں گے اور جنون کی دو قسم ہیں ایک عارضی جنون اور دوسرے مستقل جنون دونوں کے احکام میں فرق ہے۔

۹۹۳: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أْتَى عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أَنَسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ مَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ بَنِي فَلَانَ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رَفَعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

۹۹۳: عثمان بن ابی شیبہ جریر اعمش ابوطالبان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت پیش کی گئی جو کہ مجنون تھی اس عورت نے زنا کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں رائے لی پھر انہوں نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا اس وقت اس طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو لوگوں نے اس عورت کے بارے میں بتلایا کہ یہ عورت مجنون ہے اور فلانی قوم کی ہے اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو سنگسار کئے جانے کا حکم فرمایا

المَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَالُ
هَذِهِ تَرْجَمَ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ
فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يَكْبُرُ۔

ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اس عورت کو پھر لے کر آؤ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا۔ اے امیر المؤمنین کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ تین اشخاص سے قلم اٹھایا گیا ہے۔ ایک تو مجنون سے جب تک کہ اس کو عقل نہ آئے دوسرے

سونے والے شخص سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو تیسرے نابالغ کے جب تک وہ سمجھ دار نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا پھر کس وجہ سے اس عورت کو سنگسار کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس عورت کو چھوڑ دیجئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور تکبیر فرمانے لگے (کہ اللہ تعالیٰ نے غلط اقدام سے محفوظ فرمایا)۔

۹۹۴: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى وَكَعْبُ الْأَعْمَشِ عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ وَقَالَ أَيْضًا حَتَّى يَعْقِلَ وَقَالَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفْقَهُ قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يَكْبُرُ لِيُنِي (بچہ) جب تک سمجھ دار نہ ہو اور کہا کہ مجنون جب تک اس کو جنون سے افاقہ نہ ہو۔ راوی نے بیان کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکبیر پڑھنے لگے۔

۹۹۵: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلِيٌّ عَلَيَّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ بِمَعْنَى عُثْمَانَ قَالَ أَوْ مَا تَذَكَّرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ن: لَائِيَةِ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفْقَهُ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَحَلَّى عَنْهَا۔

۹۹۵: ابن سرح، ابن وہب، جریر، سلیمان، ابوظبیان، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ہوا۔ پھر عثمان کی حدیث کی طرح روایت کیا اور اس میں یہ ہے کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخصوں سے قلم اٹھا لیا گیا۔ ایک مجنون سے کہ جس کی عقل مغلوب ہو جائے دوسرے سونے والے شخص سے کہ جب تک وہ جاگے۔ تیسرے نابالغ سے کہ جب تک اس کو احتلام ہو (یعنی بالغ ہو) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلاشبہ آپ سچ اور درست کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔

۹۹۶: حَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ الْمَعْنَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ هَنَادُ الْجَنْبِيُّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِيٌّ فَأَخَذَهَا فَحَلَّى

۹۹۶: ہناد، ابو الاحوص (دوسری سند) عثمان بن ابی شیبہ، جریر، عطاء، حضرت ابوظبیان سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بدکاری کی مرتکب ایک عورت کو لایا گیا۔ آپ نے اس عورت کو رجم کئے جانے کا حکم فرمایا اس طرف سے (اس وقت) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ہوا انہوں نے اس عورت کو پکڑ کر رہا کر دیا۔ حضرت عمر

سَبَلَهَا فَأَخْبَرَ عُمَرُ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَبَجَاءَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ بَيْنِي فَلَانَ لَعَلَّ الَّذِي أَنَا هَا وَمَهِيَ فِي بَلَائِهَا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ وَأَنَا لَا أَدْرِي۔

فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی انہوں نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو میرے پاس بلاؤ (چنانچہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اے امیر المؤمنین! آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا قلم اٹھایا گیا تین اشخاص سے ایک نابالغ سے جب تک کہ وہ بلوغ کو پہنچے دوسرے سونے والے شخص سے جب تک وہ بیدار ہو تیسرے عقل فوت شدہ شخص سے جب تک وہ ٹھیک ہو (اور) یہ عورت تو فلاں قوم کی مجنون عورت ہے۔ ہو سکتا ہے (اس وقت) کسی نے اس عورت سے اس وقت زنا کیا ہو جب اس عورت کو پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہو (یہ سن کر) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کا معلوم نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا مجھ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ عورت زنا کے وقت دیوانی نہیں تھی۔

شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہے:

ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو کبھی کبھی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ بات کس طرح معلوم ہو کہ اس عورت سے جنون کی حالت میں زنا کیا گیا تھا؟ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس کا بھی ثبوت نہیں کہ اس عورت نے خوشی سے زنا کر لیا ہو اس لئے شبہ ہو گیا اور فقہ کا مسلم اصول ہے کہ شبہ کی وجہ سے حد ساقط اور ختم ہو جاتی ہیں الاشیاء والنظار میں فقہ کے مذکورہ قانون کی مفصل بحث مذکور ہے۔

۹۹۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الضَّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ فِيهِ وَالْحَرْبِ۔

۹۹۷: موسیٰ وہیب خالید ابوالضحیٰ علی سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا تین شخصوں سے قلم اٹھایا گیا ہے ایک تو سونے والے شخص سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو دوسرے بچے سے جب تک بالغ نہ ہو تیسرے پاگل شخص سے جب تک کہ اس کو عقل نہ آئے امام ابوداؤد نے فرمایا اس حدیث کو ابن جریر نے قاسم بن یزید سے اور انہوں نے علی سے روایت کیا البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ (اس) بوزھے شخص سے بھی کہ (بڑھاپے کی وجہ سے) جس کی عقل جاتی رہی ہو۔

باب: اس لڑکے کے بارے میں جو کہ لائق حد

جرم کرے

باب فی الغلامِ یصیبُ

الحدَّ

۹۹۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي عَطِيَّةٌ مَرُودِيٌّ هُوَ فِيهِ قَبِيلَةٌ بَنُو قَرْظَةَ كَانُوا فِي قَبِيلَةٍ مِنْ شَائِلِ تَهَاتُ لَوْ كَانُوا

۹۹۸: محمد بن کثیر سفیان عبد الملک بن عمیر حضرت عطیہ قرظی سے مروی ہے کہ میں بھی قبیلہ بنو قَرْظَةَ کے قیدیوں میں شامل تھا تو لوگوں

الْقُرْطِيُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبِي بَنِي قُرَيْظَةَ لَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَتَيْتَ الشَّعْرَ قِيلَ وَمَنْ لَمْ يَنْتَبِثْ لَمْ يُقْتَلْ لَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يَنْتَبِثْ۔

نے دیکھا (جانچنا) شروع کر دیا جس کے ناف کے نیچے بال ہوتے تو اس کو قتل کر دیتے تو میری ناف کے نیچے بال نہیں (اگے) تھے (اس لئے مجھ کو رہا کر دیا گیا)۔

بنو قریظہ کے قیدی:

قبیلہ بنو قریظہ کے قیدیوں کے بارے میں یہ حکم ہوا تھا کہ نوجوان لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں بچوں کو باندی اور غلام بنا لیا جائے۔ اس لئے یہ دیکھنے کے لئے کہ کون لڑکا بالغ ہوا ہے اس کے زیر ناف کے بال دیکھتے جو بالغ ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا اور نابالغ کو چھوڑ دیا جاتا۔

۹۹۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَكَشَفُوا عَائِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْتَبِثْ فَجَعَلُونِي مِنَ السَّبِيِّ۔

۹۹۹: مسدد ابو عوانہ عبد الملک بن عمیر سے اسی طریقہ سے مروی ہے اور اس روایت میں ہے کہ لوگوں نے میرے ناف کے نیچے کا حصہ کھول کر دیکھا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ میرے زیر ناف بال نہیں نکلے ہیں (اس لئے مجھ کو چھوڑ دیا گیا) اور مجھ کو قیدی بنا لیا گیا اور مجھ کو نابالغ ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا)

۱۰۰۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزَهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ۔

۱۰۰۰: احمد بن حنبل یحییٰ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن وہ آنحضرت ﷺ کے سامنے پیش کئے گئے اور وہ اس وقت چودہ سال کے تھے آپ نے انہیں جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی پھر وہ غزوہ خندق کے دن آپ کے سامنے پیش کئے گئے جب وہ پندرہ سال کے تھے تو آنحضرت ﷺ نے اجازت دے دی (گویا بلوغت کی عمر پندرہ برس طے ہو گئی)

۱۰۰۱: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ۔

۱۰۰۱: عثمان بن ابی شیبہ ابن ادريس عبید اللہ بن عمر قال قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال ان هذا الحديث بين الصغير والكبير۔

باب: جو شخص سفر جہاد کے دوران چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا

باب فی الرجل یسرق فی الغزو یتقطع

۱۰۰۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَبِيبَةُ بْنُ شَرِيحٍ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ

۱۰۰۲: احمد بن حنبل ابن وهب حبيب بن شريح عياش بن عباس

ارطاة کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک چور لایا گیا جس کا نام مصدر تھا اس نے ایک اونٹ چوری کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دوران سفر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس بنا پر میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹتا ورنہ میں اس کا ہاتھ لازمی طور پر کاٹتا۔

الْقُبَانِي عَنْ شَيْمِ بْنِ بَيَّانَ وَبُرَيْدِ بْنِ صُبْحِ الْأَصْبَحِيِّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ فَأَتَانِي بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ مِصْدَرٌ قَدْ سَرَقَ بُحَيَّةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ -

مجاہد اگر چوری کرے:

مذکورہ حدیث کے سلسلہ میں جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ اگر کسی مجاہد نے مال غنیمت میں سے چوری کی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ وہ بھی خود اس میں شریک ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا اس سفر سے مراد جہاد کا سفر ہے یعنی سفر جہاد میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا عام سفر مراد نہیں اور سفر جہاد میں ہاتھ نہ کاٹے جانے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ مجاہدین کی کمی نہ ہو جائے۔

باب: کفن چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جانے

بَابُ فِي قَطْعِ

النباش

النباش

۱۰۰۳: مسدّد حماد ابو عمران مشعث، حضرت عبد اللہ بن صامت، حضرت ابو ررضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابوذر! میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اور اطاعت گزار ہوں یا رسول اللہ! پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب لوگوں کو موت آجائے گی تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ (اور اس وقت) گھر خادم کے عوض ہوگا یعنی قبر۔ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول خوب واقف ہیں یا عرض کیا کہ اللہ اور رسول میرے بارے میں جو ارشاد فرمائیں میں اسی طریقہ سے کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم پر صبر کرنا ضروری ہے۔ امام ابوداؤد نے فرمایا حماد بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ کفن چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس لئے کہ وہ مردے کے مکان میں داخل ہو گیا۔

۱۰۰۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ الْمَشْعَثِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيكَ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ مَا خَارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ أَوْ قَالَ تَصَبَّرْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَمَادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يُقْطَعُ النَّبَاشُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ -

مکان خادم کے عوض ہونے کا مفہوم:

مکان خادم کے عوض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگ اس قدر زیادہ تعداد میں مریں گے کہ ایک قبر کی جگہ غلام کے عوض خریدی جائے گی چند صفحات قبل بھی اسی جملہ کا مفہوم عرض کیا جا چکا ہے۔

باب: متعدد مرتبہ چوری کرنے والے شخص کی سزا

۱۰۰۴: محمد بن عبد اللہ ان کے دادا مصعب بن منکدر حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کے سامنے ایک چور کو پیش کیا گیا آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس شخص نے تو چوری کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کا ہاتھ کاٹ دو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کا (دایاں) ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس کو دوسری مرتبہ لے کر حاضر ہوئے پھر آپ نے اس کے قتل کا حکم فرمایا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ اس نے تو چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا پاؤں کاٹ دو۔ پھر اس شخص کا بائیں پاؤں کاٹ دیا گیا گیا اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اس شخص کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے اس شخص کے قتل کا حکم فرمایا پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کاٹ دو تو اس کا کبایاں (ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کے بعد اس کو چوتھی مرتبہ لے کر حاضر ہوئے آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص نے چوری کی ہے۔ آپ

باب فی السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

۱۰۰۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِئْتُ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ أَقْطَعُوهُ قَالَ فَقَطِّعْ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ أَقْطَعُوهُ قَالَ فَقَطِّعْ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ أَقْطَعُوهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ أَقْطَعُوهُ فَأَتَيْتُ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَا نَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بئرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ۔

نے فرمایا کاٹ دو تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دیا گیا پھر جب اس کو پانچویں مرتبہ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں پھر ہم اس کو لے گئے اور اس کو قتل کر دیا اور اس کو گھسیٹ کر کنوئیں میں پھینک دیا اور اوپر سے اس کے پتھر مارے۔

قصص کی بابت منسوخ حکم:

مذکورہ بالا حدیث دیگر احادیث سے منسوخ ہے جو کہ چند صفحات قبل گزر چکی ہیں کیونکہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان تین جرم کے علاوہ کسی جرم میں قتل نہ کیا جائے اور مذکورہ جرم ان جرائم میں سے نہیں کہ جس کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مرتد ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔

باب: چوری کرنے والے شخص کا ہاتھ کاٹنے کے بعد

اس کے گلے میں لٹکا دینے کا بیان

باب فی تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ

فی عُنُقِهِ

۱۰۰۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدِ عَمْرُو بْنِ عَلِيٍّ حَاجٍ كَهْلٍ حَضَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ

مخبر نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکا دینا سنت ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایک مرتبہ ایک چور کو حضرت رسول کریم ﷺ کے رو برو پیش کیا گیا اس چور کا ہاتھ کاٹا گیا اور آپ نے اس کے ہاتھ کو لٹکانے کا حکم فرمایا چنانچہ وہ ہاتھ اس چور کے گلے میں لٹکا دیا گیا۔

۱۰۰۶: موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ عمرو بن ابی سلمہ ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب غلام چوری کرے تو اس کو فروخت کر دو اگرچہ اس کی قیمت ایک نش ہی ملے۔

عَلَيْ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُخَبَّرٍ قَالَ سَأَلْنَا فَضَالَ بْنَ عَبِيدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلْسَّارِقِ أَمِنْ السَّنَةِ هُوَ قَالَ آتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَسَّارِقٍ فَقَطَعَتْ يَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِقَتْ فِي عُنُقِهِ۔

۱۰۰۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعَهُ وَلَوْ بِنَشٍّ۔

چور غلام کو فروخت کرنا چاہئے:

یعنی چاہے کم قیمت ہی وصول ہو ایسے غلام کو فروخت کر دینا چاہئے یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور اس کے حالات سے اطمینان ہو جائے کہ آئندہ چوری نہیں کرے گا تو فروخت نہ کرنا بھی درست ہے اور نش آدھے اوقیہ اور بیس درہم کو کہا جاتا ہے رسالہ ”اوزان شرعیہ“ میں حضرت مفتی اعظم پاکستان نے عربی اوزان کی مفصل بحث فرمائی ہے ان اوزان کی مکمل تشریح مذکورہ رسالہ میں ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہیں۔

باب: سنگسار کرنا

۱۰۰۷: احمد بن محمد علی بن حسین انکے والد یزید نحوی عکرمہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ سَبِيلًا يَعْنِي تَمُّ لُغُوں مِیں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر چار شخصوں کو گواہ بناؤ پس اگر وہ (چار گواہ) شہادت دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ انکو موت آجائے یا اللہ ان کیلئے کوئی راستہ نکال دے۔ پھر آپ نے عورتوں کے تذکرہ کے بعد مردوں کا تذکرہ فرمایا پھر مرد و عورت دونوں کو ساتھ بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا: وَالَّذِي يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا يَعْنِي جو دو مرد بدکاری (لواطت) کا ارتکاب کریں تو انکو تکلیف دو پھر اگر وہ توبہ کریں اور نیک بن جائیں تو انکو چھوڑ دو (معاف کر دو) یہ آیات الزانیۃ والذانیۃ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ سَمُوعُ هُوَ كَيْفِيٌّ۔ یعنی زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو ایک سو کوڑ مارے جائیں۔

باب فی الرِّجْمِ

۱۰۰۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَذَكَرَ الرَّجُلُ بَعْدَ الْمَرَاةِ ثُمَّ جَمَعَهُمَا فَقَالَ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فَتَسَحَّ ذَلِكَ بآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ۔

۱۰۰۸: احمد بن محمد موسیٰ شیلی، ابن ابی نجیح، حضرت مجاہد نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے (زانی اور زانیہ کے لئے) راستہ نکال دے گا اس راستہ سے مراد حد لگانا ہے۔

۱۰۰۹: مسدّد یحییٰ سعید، قتادہ، حسن، حطان بن عبد اللہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ مجھ سے سیکھ لو (تعلیم حاصل کر لو) مجھ سے سیکھ لو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راستہ مقرر کر دیا ہے، ہیب کو ہیب کے ساتھ ایک سو کوڑے اور سنگسار کرنا ہے اور کنواری لڑکی اور کنواری مرد کو زنا کرنے پر ایک سو کوڑے اور ایک سال تک جلا وطن کرنا ہے۔

۱۰۱۰: ابوبہ بن بقیہ، محمد بن صباح، ہشیم، منصور، حسن سے پہلی روایت کی طرح روایت ہے اور اس روایت میں ہے کہ دونوں نے کہا ہے کہ (ہیب جس وقت ہیب کے ساتھ زنا کرے) تو اس کو ایک سو کوڑے اور سنگسار کرنا ہے۔

۱۰۱۱: عبد اللہ بن محمد، ہشیم، زہری، عبید اللہ، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا حضرت رسول کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور ان پر کتاب نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس میں (زانی کو) سنگسار کئے جانے کی آیت کریمہ تھی جس کو کہ ہم لوگوں نے تلاوت کیا اور یاد کر لیا اور اس کو خوب سمجھ لیا۔ حضرت رسول کریم ﷺ نے (زانی کو) سنگسار کیا اور آپ کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے بھی (زانی کو) سنگسار کیا اور اب مجھے ڈر ہے کہ ایک عرصہ گزر جائے اور کہنے والا شخص یہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ میں تو ہم سنگسار کرنے کا حکم نہیں پاتے پھر اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے فرض کو ترک کر دینے سے لوگ گمراہ ہو جائیں اور سنگسار کیا جانا ضروری ہے۔ زنا کرنے والے پر چاہے زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت جو شادی شدہ ہو اور اس پر گواہ بن جائیں یا حمل ہو یا اقرار سے ثابت ہو اور اللہ کی قسم لوگ اگر یہ

۱۰۰۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ السَّبِيلُ الْحَدُّ۔

۱۰۰۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْفَيْبُ بِالْفَيْبِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَرَمَى بِالْحِجَارَةِ وَالْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَنَفَى سَنَةً۔

۱۰۱۰: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا هَشِيمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِ يَحْيَىٰ وَمَعْنَاهُ قَالَ جُلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ۔

۱۰۱۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَفَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَّمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضْلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلًا أَوْ

بات نہ کہتے کہ (حضرت) عمر فاروقؓ نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں اس آیت کو قرآن میں تحریر کر دیتا یعنی سنگسار کرنے کی آیت کو۔

۱۰۱۲: محمد بن سلیمان و کعب ہشام حضرت یزید بن نعیم بن ہزبل سے مروی ہے کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ میرے والد کی زیر پرورش یتیم تھے۔ انہوں نے محلہ کی ایک لڑکی سے زنا کر لیا تو میرے والد صاحب نے ان سے کہا تم نبیؐ کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے اس کام کی خبر دو۔ شاید نبیؐ تمہارے لئے گناہ سے توبہ کی دعا فرمائیں اس (مشورہ) سے انکا مطلب یہ تھا کہ ان کیلئے کوئی راستہ نکلے تو حضرت ماعزؓ خدمت نبویؐ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہؐ میں نے (غلطی سے) زنا کیا ہے مجھ پر آپ قرآن کے مطابق حکم فرمائیں (یعنی سزا دیجئے) تو آپ نے چہرہ انور پھیر لیا۔ (یعنی رخ موڑ لیا) تو دوبارہ انہوں نے یہی عرض کیا۔ یا رسول اللہؐ میں نے زنا کر لیا ہے مجھ پر آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن کریم) کے مطابق حکم فرمائیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے چار مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے ان سے فرمایا تم چار مرتبہ کہہ چکے کہ میں نے زنا کیا ہے اب تم یہ بتلاؤ کہ تم نے کس کے ساتھ زنا کیا ہے؟ ماعزؓ نے عرض کیا فلاں عورت سے۔ آپ نے فرمایا تم اس عورت کے ساتھ سوئے تھے؟ ماعزؓ نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا تم اس عورت سے لپٹے تھے؟ ماعزؓ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم نے اس عورت سے صحبت کی تھی؟ ماعزؓ نے عرض کیا جی ہاں تب آپ نے ان کو رجم کئے جانے کا حکم فرمایا۔ ان کو لوگ (مقام) حرہ میں لے کر گئے جب ان کو سنگسار کیا جانے لگا تو وہ پتھروں کی تکلیف سے گھبرائے اور دوڑ کر بھاگے تو عبد اللہ بن انیسؓ نے انکو جالیا۔ انکے ساتھی تھک گئے تھے تو انہوں نے ان کو اونٹ کا کھر لگا کر مارا اور ان کو قتل کر دیا پھر نبیؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو نیوہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیا شاید وہ تائب ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمادیتا۔

۱۰۱۳: عبید اللہ بن عمر یزید محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ میں نے عاصم

اعتراف و انہم اللہ لولا ان یقول الناس زاد عمرو فی کتاب اللہ عز وجل لکتبتہا۔

۱۰۱۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نَعِيمٍ بْنُ هَزَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَاصَّبَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي انْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِيمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ صَاحَبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رَجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعًا فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَطِيفٍ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَفَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيُتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔

۱۰۱۳: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ

بن عمر بن قتادہ سے ماعز بن مالک کا واقعہ ذکر کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے حسن بن عمر محمد بن علی بن ابی طالب نے حدیث بیان کی کہ مجھ سے نبی کا یہ فرمان بیان کیا کہ تم نے اس شخص کو کیوں نہیں چھوڑا جس کو تم لوگ چاہو اسلم کے آدمیوں میں سے وہ لوگ کہ میں جن پر تہمت نہیں لگاتا اس نے بیان کیا میں اس حدیث کو نہیں مانتا تو میں جابر بن عبد اللہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا جب انہوں نے پتھر پڑنے کی وجہ سے ماعز کی گھبراہٹ کا واقعہ بیان کیا تو کہا کہ تم نے ان کو (ماعز کو) کیوں نہیں چھوڑ دیا اور میں اس حدیث کو نہیں پہچانتا تو حضرت جابر نے بیان کیا اے میرے بھتیجے میں اچھی طرح اس حدیث سے واقف ہوں۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا کہ جنہوں نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو رجم کیا تھا۔ جب ہم لوگ ان کو لے کر نکلے اور ان کو پتھر مارے تو ان کو پتھروں کے مارنے کی تکلیف ہوئی اور انہوں نے چیخ ماری اور کہا کہ اے لوگو تم لوگ مجھ کو نبی کی خدمت میں واپس لے چلو کیونکہ میری قوم نے مجھ کو دھوکہ دیا اور مجھے انہوں نے قتل کر ڈالا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ نبی مجھے قتل نہیں کریں گے لیکن ہم لوگ باز نہیں آئے اور ان کو مار دیا۔ جب ہم لوگ نبی کی خدمت میں واپس آئے اور آپ سے واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیا یعنی رجم کرنا موقوف کیوں نہ کر دیا اور میرے پاس ان کو لے کر کیوں حاضر نہیں ہوئے اور آپ نے یہ بات اس وجہ سے فرمائی تھی کہ آپ ان کو (ماعز رضی اللہ عنہ) کو حد قبول کرنے کے لئے ثابت قدم بنا دیں کہ ذبیوی تکلیف برداشت کرنا عذاب آخرت سے بہتر ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ (سزا) ملتوی کر دی جائے اس وقت حدیث کا مطلب میری سمجھ میں آیا۔

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَا عَزَّ ابْنُ مَالِكٍ فَقَالَ لِي حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ مِنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا أَتَهُمْ قَالَ وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ مَا عَزَّ مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ قَالَ يَا ابْنَ أُخِي أَنَا أَعْلَمُ النَّاسَ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُنْتُ فِي مَن رَجَمَ الرَّجُلَ إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمَ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِي فَلَمْ نَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ لَيْسْتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَمَا لِي لَتْرِكِ حَدِّ فَلَا قَالَ فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ.

حد لگاتے وقت اگر مجرم بھاگنے لگے؟

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے کہ زانی حد لگاتے وقت بھاگنے لگے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کا تعاقب کر کے اس کو سنسار کر دیا جائے گا دیگر ائمہ کی رائے حضرت امام صاحب کی رائے سے مختلف ہے۔

۱۰۱۴: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي الْحَذَاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهُ أَمْجُونُ هُوَ قَالُوا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ أَفَعَلْتَ بِهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأَنْطَلِقَ بِهِ فُرْجَمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

۱۰۱۴: ابو کمال، یزید بن زریع، خالد الحذاء، عکرمہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے ان سے منہ موڑ لیا پھر انہوں نے بار بار یہی بات کہی تو آپ نے منہ موڑ لیا۔ اس کے بعد آپ نے ان کی قوم سے یہ دریافت فرمایا کہ یہ شخص مجنون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں اس کو کسی قسم کا کوئی مرض لاحق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس عورت سے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا پھر لوگ ان کو لے گئے اور سنگسار کر دیا اور آپ نے ان کی نماز (جنازہ) نہیں پڑھی۔

زانی کی نماز جنازہ:

حضرت ماعز کی اس وقت نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی البتہ اگلے روز ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی بہر حال مسئلہ یہ ہے کہ زنا سے مرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

۱۰۱۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جُمِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَصِيرًا أَعْضَلَ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ قَبَلْتَهَا قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْأَخِرُ قَالَ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَلَا كَلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزًّا وَجَلًّا خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَيْبٌ كَسِبَ التَّيْسَ يَمْنَعُ إِحْدَاهُمُ الْكُفْبَةَ أَمَا إِنَّ اللَّهَ إِنْ يُمَكِّنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا نَكَلْتُهُ عَنْهُنَّ.

۱۰۱۵: مسدد ابو عوانہ، سماک، جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ جب ماعز بن مالک کو خدمت نبوی میں لایا گیا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے قد کے موٹے آدمی تھے۔ ان پر چادر نہیں تھی انہوں نے اپنے خلاف چار شہادتیں پیش کیں کہ میں نے زنا کیا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا شاید تم نے بوسہ لیا ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا واللہ اس رائدہ درگاہ نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ پھر آپ نے انکو سنگسار کیا اور خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا باخبر ہو جاؤ جب ہم لوگ راہ الہی میں سفر کرتے ہیں (یعنی جہاد کیلئے روانہ ہوتے ہیں) تو کوئی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے اور بکرے کی طرح آواز نکالتا ہے اور کسی عورت کو کچھ دے دلا کر (زنا کر لیتا ہے) سن لو! اگر اللہ مجھ کو اس قسم کے کسی شخص پر قدرت عطا فرمائے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں کہ اسے عورتوں سے ہٹا کے ہی دم لوں۔ (یعنی میں اس کو سنگسار کئے جانے یا کوڑے مارنے کی سزا دوں گا)۔

اقرار زنا کتنی مرتبہ ضروری ہے؟

مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چار مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے اور اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ زانی کو چار مرتبہ اور چار مجالس میں زنا کا اقرار کرنا لازمی ہے۔

۱۰۱۶: محمد بن ثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبہ سماک کہتے ہیں کہ میں جابر بن سمرہ سے بھی اسی طرح روایت سنی ہے لیکن پہلی روایت اس سے زیادہ مکمل ہے اور اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبیؐ نے ماعزؓ کے اقرار کو دو مرتبہ رد کر دیا سماک کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سعید بن جبیر کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ نبیؐ نے (ماعزؓ کا قول) چار مرتبہ رد کر دیا۔

۱۰۱۷: عبدالغنیٰ خالد شعبہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سماک سے دریافت کیا کہ پہلی روایت میں کہ کتبہ کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کتبہ تھوڑے سے دودھ کو کہا جاتا ہے (اس سے مراد منی ہے)۔

۱۰۱۸: مسدد ابو عوانہ، سماک، سعید بن جبیر، ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبیؐ نے ماعز بن مالکؓ سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو تمہارے متعلق جو اطلاع ملی ہے کیا وہ سچ ہے؟ (یعنی کیا تم نے زنا کیا ہے) انہوں نے عرض کیا کہ میرے متعلق آپ کو کیا معلوم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلہ کی لڑکی سے بدکاری کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر انہوں نے اپنے خلاف چار مرتبہ شہادت دی تو آپ نے حکم فرمایا اور ان کو سنگسار کر دیا گیا۔

۱۰۱۹: نصر بن علی، ابواحمد، اسرائیل، سماک، بن حرب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے دو مرتبہ اپنے زنا کا اقرار کیا آپ نے اس کی بات رد کر دی۔ پھر وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے دو مرتبہ زنا کرنے کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا اب تم نے اپنے اوپر چار مرتبہ شہادت دے دی لوگو! اس کو لے جا کر سنگسار کر دو۔

۱۰۲۰: موسیٰ بن اسماعیل، جریر، یعلیٰ، عکرمہ (دوسری سند) ظہر عقبہ، وہب ان کے والد یعلیٰ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا شاید تم نے بوسہ لیا ہو گا یا اس کو ہاتھ سے چھوا ہو گا یا آنکھوں سے اشارہ کیا ہو

۱۰۱۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَمَّ قَالَ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ سِمَاكٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ۔

۱۰۱۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُ سِمَاكًا عَنِ الْكُتْبَةِ فَقَالَ اللَّيْنُ الْقَلِيلُ۔

۱۰۱۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْكَ وَقَعْتِ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَهُ بِفَرْجِهِ۔

۱۰۱۹: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَرَفَ بِالزَّانَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَأَعْتَرَفَ بِالزَّانَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَذْهَبُوا بِهِ فَاَرْجُمُوهُ۔

۱۰۲۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنِي يَعْلَى عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَقْبَةُ بْنُ مَكْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ

گا۔ انہوں نے عرض کیا نہیں پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے اس عورت سے صحبت کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر اس اقرار کرنے کے بعد آپ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ نے اس روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نام نہیں لیا اور یہ وہب کے الفاظ ہیں۔

۱۰۲۱: حسن بن علی عبدالرزاق، ابن جریر، ابوزبیر، حضرت عبدالرحمن بن صامت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے چار مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے ایک عورت سے حرام طریقہ سے ہمبستری کی ہے۔ آپ ہر مرتبہ اس سے چہرہ موڑ لیتے تھے۔ پھر آپ پانچویں مرتبہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کیا تم نے اس عورت سے صحبت کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اس طرح کہ تمہارا عضو اس عورت کے عضو میں غائب ہو گیا۔ حضرت ماعز نے عرض کیا جی ہاں پھر آپ نے دریافت فرمایا اس طرح دخول ہوا کہ جس طرح سرمہ دانی میں سلانی اور کنویں میں رستی جاتی ہے۔ حضرت ماعز نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ زنا کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یہی کہ جو کام انسان حلال طریقہ سے اپنی بیوی سے کرتا ہے، میں نے وہی کام حرام طریقہ سے کیا ہے آپ نے فرمایا پھر اب تمہارا کیا مقصد ہے؟ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے گناہ سے پاک فرمادیتے۔ آپ نے حکم فرمایا اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ پھر آپ نے حضرت ماعز کے رفقاء میں سے دو آدمیوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ دیکھو اس آدمی کو (یعنی حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو) کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا جرم چھپا دیا لیکن اس آدمی کے نفس نے اس آدمی کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ پتھروں سے ہلاک کیا جس طریقہ سے کتا ہلاک کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ کچھ دیر چلے تو آپ کو راستہ میں

يُعَلِّيٰ يَعْزِي ابْنُ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ عَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا قَالَ أَفَبِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُوسَىٰ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا لَفْظٌ وَهَبٌ۔

۱۰۲۱: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِي أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أُرْبِعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَنْكَبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّىٰ غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحَلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبُرِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَدْرِي مَا الزَّانَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا قَالَ فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَيَّ هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدْعُهُ نَفْسُهُ حَتَّىٰ رَجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّىٰ مَرَّ بِجَفِيَّةٍ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلَيْهِ فَقَالَ آيْنُ فُلَانٍ وَفُلَانٌ فَقَالَا نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْزِلَا فِكَلَا مِنْ جَفِيَّةٍ هَذَا الْحِمَارِ فَقَالَا مِنْ هَذَا قَالَ فَمَا نَلْتَمَا مِنْ عَرَضِ

أَحْيَكَمَا أَنْفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي آتِهَارِ الْجَنَّةِ يَنْقِمُسُ فِيهَا۔
ایک مردہ گدھاملا کہ جس کا پیر (پھول جانے کی بنا پر) اٹھا ہوا تھا۔
آپ نے فرمایا وہ شخص اور فلاں شخص کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ! ہم لوگ حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا: نیچے اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ
کون شخص اس کا گوشت کھائے گا؟ آپ نے فرمایا تم نے کچھ دیر پہلے اپنے مسلمان بھائی کی جو عیب جوئی کی کہ وہ اس مردار گدھے
کے کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے! حضرت ماعز اس وقت جنت کی نہروں میں
غوطے لگا رہے ہیں۔

۱۰۲۲: محمد بن متوکل، حسن بن علی، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابوسلمہ
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ اسلم میں سے
ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے زنا کا اقرار کیا تو آپ
نے چہرہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ اس شخص نے اپنے اوپر چار بار زنا کا
اقرار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تم پاگل ہو؟ اس نے عرض کیا
نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے عرض کی
جی ہاں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر حضرت رسول کریم ﷺ نے ان کے
لئے رجم کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان پر پتھر
پڑنے لگے تو وہ بھاگ گئے اور پکڑ لئے گئے اور ان کو رجم کیا گیا۔ یہاں
تک کہ ان کا انتقال ہو گیا آپ نے ان کی بھلائی بیان فرمائی اور ان پر
(اس وقت) نماز جنازہ نہیں ادا فرمائی۔

۱۰۲۳: ابوکامل، یزید بن زریج (دوسری سند) احمد بن منیع، یحییٰ بن زکریا،
داؤد ابونصرہ، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب
آنحضرت ﷺ نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنگسار کرنے کا حکم
فرمایا تو ہم لوگ ان کو قبیح (ایک جگہ کا نام ہے) کی جانب لے کر چلے تو
واللہ ہم لوگوں نے نہ تو ان کو (رتی وغیرہ میں) باندھا اور نہ ان کے لئے
کوئی گڑھا کھودا لیکن (رجم کرانے کے لئے وہ خود کھڑے ہو گئے اور ہم
لوگوں نے ان کو ہڈیوں، ڈھیلوں، کنکریوں سے مارا وہ بھاگنے لگے ان
کے پیچھے ہم لوگ بھی بھاگے۔ یہاں تک کہ وہ (ایک سنگلاخ حصہ
زمین) حرہ کی جانب پہنچے وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگوں نے
بڑے بڑے پتھر لے کر ان کو مارا یہاں تک کہ وہ مرد ہو گئے (مر گئے)

۱۰۲۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ
وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَرَفَ بِالزَّانَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ
اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِهِ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبُكَ جُنُونٌ
قَالَ لَا قَالَ أَحْصَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ
ﷺ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ
فَرَّ فَأَدْرَكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ۔

۱۰۲۳: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ
زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
زَكَرِيَّا وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ خَرَجْنَا بِهِ إِلَى
الْبَيْعِ قَوْلَ اللَّهِ مَا أَوْفَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ
لَنَا قَالَ أَبُو كَامِلٍ قَالَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدْرِ
وَالْخَرْفِ فَاسْتَدَّ وَاسْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى
عَرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ
الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ قَالَ لَمَّا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا

سَبَّ۔

پھر نبی نے ان کے لئے نہ تو دعائے مغفرت فرمائی اور نہ ان کو برا کہا۔

۱۰۲۴: مؤمل اسامیل، جریری، ابو نضرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے اقرار کیا۔ پھر اس شخص کو سنگسار کیا گیا اس شخص کو لوگ برا کہنے لگے آپ نے (اس کو برا کہنے سے) منع فرمایا پھر لوگ اس شخص کیلئے دعائے مغفرت مانگنے لگے۔ آپ نے (دُعائے مغفرت سے) منع فرمایا اور فرمایا وہ ایک شخص تھا کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اب اللہ (خود) اس کو سمجھ لے گا یعنی یا تو اسکی بخشش فرما دیا گیا عذاب میں مبتلا کریں گے یا تم لوگ اسکے بارے میں رائے زنی نہ کرو۔

۱۰۲۵: محمد بن ابی بکر، یحییٰ ان کے والد غیلان، علقمہ بن مرثد، ابن بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت معز رضی اللہ عنہ کا منہ سونگھا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سونگھا کہ حضرت معز رضی اللہ عنہ نے کہیں شراب تو نہیں پی لی۔

۱۰۲۶: احمد بن اسحاق، ابو احمد، بشیر، عبد اللہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کرتے تھے کہ عامر یہ اور حضرت معز بن مالک رضی اللہ عنہم کا اقرار کرتے انکار کر دیتے یا یہ کہا انکار کرتے تو آپ ان کو سزا نہ دیتے (رجم نہ کرتے) بلکہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ان کو اس وقت سنگسار کیا کہ جب وہ (واضح طور پر) چار دفعہ سزا کا اقرار کر چکے تھے۔

۱۰۲۳: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ ذَهَبُوا يَسُونَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ ذَهَبُوا يَسْتَفْغِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيْبَهُ اللَّهُ۔

۱۰۲۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ غِيْلَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْكَهَ مَا عَزَا۔

۱۰۲۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَنَحَّدْتُ أَنَّ الْغَامِلِيَّةَ وَمَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبَهُمَا وَإِنَّمَا رَجَعَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ۔

عامر یہ کون ہے؟

عامر یہ عرب کی ایک عورت کا نام ہے جو کہ زنا کرنے کی وجہ سے سنگسار کی گئی تھی اور آپ نے زانی اور زانیہ دونوں کو جب رجم کیا جبکہ ان کے اقرار زنا میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہا۔

۱۰۲۷: عبدة، حرمی بن حفص، محمد بن عبد اللہ، محمد بن داؤد بن صبیح، عبد العزیز بن عمر، خالد بن الجلاج کہتے ہیں کہ انکے والد الجلاج نے انہیں بتایا کہ وہ (ایک دن) بازار میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے اس وقت ایک عورت نکلی (گری) جو کہ ایک بچہ کو لئے ہوئے تھی لوگ اس عورت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے میں بھی لوگوں کے ہمراہ (اس کو دیکھ کر) کھڑا ہو گیا۔

۱۰۲۷: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَبِيْحٍ قَالَ قَالَ عَبْدَةُ أَخْبَرَنَا حَرْمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْجَلَّاحِ حَدَّثَهُ أَنَّ

اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ دریافت فرما رہے تھے کہ اس بچہ کا والد کون شخص ہے؟ وہ عورت خاموش تھی۔ ایک نوجوان شخص نے جو کہ اس عورت کے برابر کھڑا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ! اس بچہ کا والد میں ہوں نبی پھر اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا اس لڑکے کا والد کون شخص ہے؟ نوجوان شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس بچہ کا والد ہوں۔ آپ نے یہ بات سن کر اپنے ارد گرد بیٹھے کچھ لوگوں کو دیکھ کر ان سے اس نوجوان کے بارے میں دریافت فرمایا لوگوں نے عرض کیا ہم لوگ اس شخص کو نیک و صالح ہی سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے دریافت فرمایا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں آپ نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس شخص کو لے کر نکلے (چلے) اور اسے ایک گڑھے میں گاڑ دیا پھر ہم نے اس شخص کو پتھروں سے مارا۔ یہاں تک کہ وہ شخص مر گیا) اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نوجوان کے بارے میں معلوم کرنے لگا۔ ہم لوگ اس شخص کو خدمت نبوی میں لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ شخص اس خمیشت (زانی) کا حال دریافت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص اللہ کے ہاں پاکباز انسان ہے مشک سے بھی بڑھ کر۔ پھر (بعد میں) پتہ چلا کہ وہ آدمی اس نوجوان کا والد تھا ہم لوگوں نے اس نوجوان (مرنے والے) کے غسل تجمیز و تکفین میں اسکی مدد کی۔ راوی نے بیان کیا کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ یہ (لفظ) بھی فرمایا اسکی نماز جنازہ بھی پڑھو یا نہیں اور یہ عبادہ کی حدیث ہے جو زیادہ مکمل ہے۔

اللُّجْلَاجُ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَتَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَكَثُرَتْ فِيمَنْ تَارَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكَ فَسَكَتْتُ فَقَالَ شَابٌ حَدَّثَنَا أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكَ قَالَ الْفَتَى أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصَنْتُ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فُرْجِمَ قَالَ فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمَكْنَا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَذَا فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهْوٌ أَطِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَأَعَاتَهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَذَنْبِهِ وَمَا أَدْرِي قَالَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَهَذَا حَدِيثٌ عَبْدَةٌ وَهُوَ أَمُّ-

رجم کئے گئے شخص کی نماز جنازہ:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رجم کئے گئے شخص کی بھی نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔ لقولہ علیہ السلام:

صلوا علی کل بر و فاجر -

۱۰۲۸: ہشام بن عمار صدقہ بن خالد (دوسری سند) نصر بن عاصم ولید محمد ہشام نے بیان کیا کہ محمد بن عبد اللہ خالد بن الجلاج ان کے والد الجلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً اسی طرح روایت بیان کی ہے۔

۱۰۲۸: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ ح وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمِ الْأَنْطَاكِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ جَمِيعًا قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَقَالَ هِشَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعْبِيُّ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْجَلَّاجِ عَنْ

أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ -

۱۰۲۹: قتیبہ بن سعید (دوسری سند) ابن ابی سرح، عبد اللہ بن وہب، ابن جریج، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا تو آنحضرت ﷺ نے اس عورت کو حد مارنے کا حکم فرمایا اس عورت کے درے مارے گئے پھر آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو شادی شدہ ہے۔ تو آپ نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔

۱۰۲۹: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ الْمَعْنَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ -

۱۰۳۰: محمد بن عبد الرحیم، ابو عاصم، ابن جریج، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے زنا کیا اس شخص کے محسن ہونے کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو اس شخص کے درے لگائے گئے پھر پتہ چلا کہ وہ شخص محسن ہے تو اس شخص کو سنگسار کیا گیا۔

۱۰۳۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبُرْزَلِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ -

باب: قبیلہ جہینہ کی ایک عورت کا واقعہ کہ جس نے

زنا کا ارتکاب کیا اور آپ نے اس کو سنگسار کرنے کا

حکم فرمایا

۱۰۳۱: مسلم، ہشام، ابان، یحییٰ، ابو قلابہ، ابو مہلب، عمران بن حصین سے مروی ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور یہ کہ میں حمل سے ہوں آپ نے اس عورت کے ولی کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا تم اس عورت کو ٹھیک طریقہ سے رکھنا جب اس عورت کے بچہ کی پیدائش ہو جائے تو اس کو (میرے پاس) لے کر آنا چنانچہ جب اس عورت کے ولادت ہو گئی تو اس عورت کا ولی اس کو خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہوا تو آپ نے اس عورت کے سنگسار کرنے کا حکم فرمایا تو اس عورت کے کپڑے باندھے گئے پھر اس کو سنگسار کیا گیا اس کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا۔ ان حضرات نے اس عورت کی نماز (جنازہ) ادا کی عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ (کیا ہم لوگ اس عورت پر نماز جنازہ پڑھیں) جبکہ اس عورت نے زنا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس

بَاب الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

۱۰۳۱: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ أَنَّ هِشَامًا الدَّسْتَوَائِيَّ وَأَبَانَ ابْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ يَحْيَى عَنِ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِءْ بِهَا فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا نِيبَاتُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَصِي

کے قبضہ میں میری جان ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ مدینہ کے ستر اشخاص پر تقسیم کر دی جائے تو انکو کافی ہو تو کیا کوئی بات اس سے زیادہ اچھی ہوگی کہ اس عورت نے اپنے نفس (جان) کو قربان کر ڈالا یعنی وہ خود رجم کرانے کیلئے خدمت نبوی میں حاضر ہوگئی (راوی نے ابان کا نام نہیں لیا پھر اس عورت کے کپڑے باندھے گئے۔

۱۰۳۲: محمد بن وزیر ولید اوزاعی نے بیان کیا کہ فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے کپڑے باندھے گئے (تاکہ سنگسار کرنے کے وقت عورت کا بدن نہ کھلے)۔

۱۰۳۳: ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ بشیر عبد اللہ بن بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ غامد کی ایک عورت خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے زنا کر لیا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا تم واپس ہو جاؤ تو وہ عورت واپس چلی گئی پھر اگلے دن اس عورت نے آکر عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کو واپس فرمایا تھا آپ مجھے بھی واپس فرمانا چاہتے ہیں (یعنی آپ مجھے رجم نہیں کرنا چاہتے) اور اللہ میں تو زنا سے حاملہ بھی ہوں تو بھی آپ نے اس سے فرمایا واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی۔ اگلے دن وہ عورت پھر حاضر ہوئی۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا واپس چلی جاؤ اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو مت آنا وہ عورت واپس چلی گئی جب اس عورت کے بچہ کی پیدائش ہوئی تو وہ بچہ لے کر حاضر ہوئی اور اس نے کہا اس بچے کو میں نے جنم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم واپس ہو جاؤ اور اس بچہ کو دودھ پلاؤ یہاں تک کہ تم اس بچہ کا دودھ چھڑاؤ۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں بچہ کا دودھ چھڑا کر اسے لے آئی اور اس بچہ کے ہاتھ میں کوئی شے تھی جس کو وہ کھا رہا تھا پھر بچہ کسی مسلمان کے سپرد کر دیا گیا اور اس عورت کے اسے فرمایا گیا تو اس عورت کے لئے ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کو رجم کرنے کا حکم ہوا تو وہ عورت رجم کی گئی اور اس کے رجم کرنے میں خالد بھی شامل تھے تو ان کا پھر اس عورت کے ایسا لگا کہ اس عورت کے خون کا قطرہ ان کے چہرہ

عَلَيْهَا وَقَدْ زَنْتُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبَانَ فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا۔

۱۰۳۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا يَعْنِي فَشَدَّتْ۔

۱۰۳۳: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمَهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً يَعْزِي مِنْ غَامِدٍ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَقَالَ ارْجِعِي فَرَجَعْتُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْعَدُوُّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَرَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَرَجَعْتُ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَبَجَّاتُ بِهِ وَقَدْ فَطَمْتُهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَا كُفُّهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فُدْفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا فُرْجِمَتْ وَكَانَ خَالِدٌ لِيَمَنْ يَرْجُمُهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةً مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْهِهِ فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبٌ مَكْسٍ لَغَفِرَ لَهُ

وَأَمْرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَذَفِنَتْ۔

پر پڑا تو انہوں نے اس عورت کو گالی دی آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے خالد ٹھہرو! اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے بلاشبہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ظالم انسان اور انسانوں کے حقوق میں خسارہ پیدا کرنے والا شخص ایسی توبہ کرتا تو اس کی بھی بخشش ہو جائے۔ پھر آپ کے حکم سے اس عورت پر نماز پڑھی گئی اور اس کی (مسلمانوں کے قبرستان میں) تدفین ہوئی۔

۱۰۳۴: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الْفُتُوَّةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ عَنْ عُمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْفُتَايِيُّ جُهَيْنَةُ وَغَامِدٌ وَبَارِقٌ وَاحِدٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثْتُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ سَلِيمٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ نَمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلِ الْحِمَصَةِ نَمَّ قَالَ ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ فَلَمَّا طَفِنَتْ أُخْرِجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ۔

۱۰۳۳: عثمان بن ابی شیبہ، وکیع بن الجراح، زکریا بن ابی عمران، ایک محدث ابن ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ایک عورت کو سنگسار کیا تو اس کے لئے سینہ تک ایک گڑھا کھودا گیا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بواسطہ عبدالصمد بن عبدالوارث، زکریا بن سلیم اسی طریقہ سے پہنچی ہے اور اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر حضرت رسول کریم ﷺ نے اس عورت کو چنے کے برابر کنکر یوں سے مارا اور ارشاد فرمایا اس عورت کے مارو لیکن اس کے چہرہ کو بچا کر، جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو حضرت رسول کریم ﷺ نے اس عورت کو (گڑھے سے) نکالا اور اس پر نماز (جنازہ) پڑھی اور توبہ کے بارے میں وہی بات ارشاد فرمائی جو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزر چکی ہے۔

۱۰۳۵: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأُذِّنُ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ فَرَزْتَنِي بِأَمْرَاتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَسْتَدِيتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ

۱۰۳۵: عبد اللہ بن مسلمہ، مالک ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ ابو ہریرہ اور خالد جعفی سے مروی ہے کہ نبی کی خدمت میں دو آدمی مقدمہ لے کر آئے ان میں سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے درمیان آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمادیجئے اور دوسرے شخص نے بھی گزارش کی اور وہ شخص زیادہ عقلمند تھا اس نے کہا (سچ ہے یا رسول اللہ! آپ ہم دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی فیصلہ فرمادیجئے اور مجھے گزارش کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: بیان کرو۔ اس شخص نے عرض کیا بلاشبہ میرا لڑکا اس شخص کا نوکر تھا۔ عسیف (مزدوری پر کام کرنے والے کو کہتے ہیں)۔ اس نے اس شخص کی بیوی سے زنا کیا اور لوگوں نے مجھے اطلاع دی کہ میرے لڑکے کو سنگسار ہونا ہے تو میں نے اس لڑکے کی طرف سے ایک سو بکریاں اور ایک باندی ندریہ میں دے دی ہیں۔ پھر میں نے علماء سے دریافت کیا تو

ان حضرات نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر ایک سو درے اور ایک سال کی جلاوطنی لازمی ہے اور اس شخص کی بیوی پر سنگسار ہونا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم غور سے سنو اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے بلاشبہ میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی کے مطابق کروں گا تمہاری بکریاں اور باندیاں تو تم ہی کو واپس کر دی جائیں گی اور اس کے لڑکے کو آپ نے ایک سو کوڑے مارے اور ایک سال تک کے لئے جلاوطن کر دیا۔ پھر آپ نے انیس اسلمی کو حکم فرمایا کہ وہ دوسرے شخص کی بیوی کے پاس جائے اگر وہ عورت اقرار کر لے تو اس کو رجم کر دے تو اس عورت نے اقرار کر لیا اور سنگسار کر دی گئی۔

باب: یہودی اور یہودیہ کو زنا میں سنگسار کرنا

۱۰۳۶: عبد اللہ بن مسلمہ مالک نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کی خدمت میں یہودی حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہم لوگوں میں سے ایک مزد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ تورات میں زنا کے سلسلے میں کیا حکم دیکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ زنا کرنے والوں کو ذلیل کر کے کوڑے مارتے ہیں۔ عبد اللہ بن سلام نے ان لوگوں سے فرمایا تم لوگ جھوٹے ہو۔ بلاشبہ تورات میں زانی کو رجم کرنے کا حکم ہے پھر وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک شخص نے زانی کو رجم کرنے کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس جگہ سے آگے پیچھے کا مضمون پڑھنے لگا۔ عبد اللہ بن سلام نے اس شخص سے کہا تم اپنا ہاتھ اٹھاؤ اس شخص نے اپنا ہاتھ جب اٹھایا تو دیکھا اس میں سنگسار کئے جانے کی آیت موجود تھی۔ پھر تمام لوگ کہنے لگے اے محمد! آپ ہی نے درست فرمایا اس میں سنگسار کئے جانے کی آیت موجود ہے پھر آپ نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا عبد اللہ بن عمر نے فرمایا میں نے اس مرد کو دیکھا کہ وہ مرد اس عورت کو پتھروں سے بچانے کے لئے اس پر جھکا جا رہا تھا۔

۱۰۳۷: محمد بن علاء اعمش عمید اللہ بن مرہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے سے ایک یہودی

فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي جَلْدٍ مِائَةَ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَىٰ أَمْرَائِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ لَوْ دُ الْبَيْتِكَ وَجَلَدْتُ ابْنَهُ مِائَةَ وَعَرَبْتُهُ عَامًا وَأَمْرًا نَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةً الْآخَرَ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَأَعْتَرَفَتْ لَوْ رَجَمَهَا۔

باب فی رجم الیہودیین

۱۰۳۶: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنِيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعْدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الزَّانَا فَقَالُوا نَفْضِحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدُهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَيْكَ فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَرَأْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ بِقِيهَا الْحِجَارَةَ۔

۱۰۳۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنِ

شخص نکلا یعنی گزرا) جس کا منہ کالا کیا گیا تھا آپ نے یہود کو طلب فرمایا اور ان سے دریافت کیا کیا تم لوگ توریت میں زنا کرنے والے شخص کی یہی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔ آپ نے ان لوگوں کے ایک عالم کو طلب فرمایا اور اسے اس اللہ کی قسم دی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی (اور آپ نے فرمایا) کیا تم لوگ اپنی کتاب میں زنا کرنے والے شخص کی یہی سزا پاتے ہو (کہ اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے اور لوگوں میں اس کو گھمایا جائے) تو وہ کہنے لگا: نہیں اور اگر آپ مجھے اتنی بڑی قسم نہ کھلاتے تو میں آپ سے بیان نہ کرتا یعنی صحیح صحیح بات نہ بتاتا) ہم لوگوں کی کتاب میں زنا کرنے والے شخص کی حد اس کو رجم کرنا ہے لیکن جب امراء میں زنا عام ہو گیا تو جب کسی باعزت شخص کو ہم اس جرم میں پکڑتے تو اس کو رہا کر دیتے اور جب کسی غریب کمزور شخص کو پکڑتے تو اس کو حد لگاتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ آؤ تمام لوگ مل کر ایک ہی سزا پر اتفاق کر لیں کہ جو باعزت اور کمزور شخص پر جاری کر سکیں تو ہم لوگوں نے منہ کالا کرنے اور مجرم کے کوڑے مارنے پر اتفاق کیا اور سنگسار کرنا ترک کر دیا۔ یہ بات سن کر آپ نے فرمایا یا اللہ میں تمام لوگوں سے پہلے آپ جل جلالہ کے حکم کو زندہ کروں گا جب کہ ان لوگوں نے اسے کالعدم کر دیا تھا۔ تو آپ نے اس شخص کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا اور اس شخص کو سنگسار کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو لہ تعالیٰ: وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ - آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں جو کافر ہونے میں جلدی کر رہے ہیں یا کفار سے دوستی کرنے میں (جلدی کرتے ہیں) ان لوگوں میں سے جو لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئے اور ان لوگوں کے دل میں یقین نہیں آیا یہاں تک کہ ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ حکم دیں کہ (زانی کو) درے مارے جائیں تو اس کو قبول کر لو اور اگر سنگسار کئے جانے کا حکم دیں تو اس کو تسلیم نہ کرو پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ - پھر ارشاد فرمایا اور جو

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرُّوا عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهُودِيٍّ قَدْ حُمِمَ وَجْهُهُ وَهُوَ يُطَافُ بِهِ فَنَاشَدَهُمْ مَا حَدَّثَ الرَّزَائِي فِي كِتَابِهِمْ قَالَ فَأَحَالُوهُ عَلَيَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدَّثَ الرَّزَائِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ الرَّجْمُ وَلَكِنْ ظَهَرَ الزَّانَا فِي أَشْرَافِنَا فَكَبَرْنَا أَنْ يُتْرَكَ الشَّرِيفُ وَيَقَامَ عَلَيَّ مِنْ دُونِهِ فَوَضَعْنَا هَذَا عَنَّا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا مَا آمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرُّوا عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهُودِيٍّ مُحَمَّمٌ مَجْلُودٌ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّثَ الرَّزَائِي فَقَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ قَالَ لَهُ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّثَ الرَّزَائِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا وَكَوْلَا أَنْتَ نَشَدْتَنِي بِهِذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّثَ الرَّزَائِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمُ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَلَقْنَا تَعَالَوْا فَتَجَمَّعَ عَلَيَّ شَيْءٌ نَقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجُلْدِ وَتَرَكْنَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ آمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُدُّوهُ وَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ

فخص کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے پھر ارشاد فرمایا جو شخص کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ شخص فاسق ہے۔ ان تمام سے یہود مراد ہیں اور یہ آیات کریمہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں (کتب تفسیر میں ان آیات کریمہ کا شان نزول مفصل مذکور ہے)

فَاَحْذَرُوا اِلَىٰ قَوْلِهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ فِي الْيَهُودِ اِلَىٰ قَوْلِهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ فِي الْيَهُودِ اِلَىٰ قَوْلِهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ قَالَ هِيَ فِي الْكُفّٰرِ كُلّٰهَا يَعْنِي هٰذِهِ الْاٰيَةَ۔

۱۰۳۸: احمد بن سعید ابن وہب، ہشام بن زید بن اسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کچھ یہود آئے اور حضور اکرم ﷺ کو (مدینہ منورہ میں واقع وادی) قف میں بلا کر لے گئے آپ لوگوں کے پاس بیت المدراس میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم ہم لوگوں سے ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا تو آپ ان کا فیصلہ فرما دیجئے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے لئے ایک تکیہ رکھ دیا۔ آپ اس تکیہ پر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: میرے پاس توریت لے کر آؤ۔ چنانچہ توریت پیش کی گئی آپ نے اپنے نیچے سے تکیہ نکالا اور اس پر توریت رکھی اور ارشاد فرمایا اس شخص کو بلاؤ جو کہ تم سب میں سب سے زیادہ صاحب علم ہو تو ایک نوجوان شخص طلب کیا گیا اس کے بعد سنگسار کئے جانے کا واقعہ بیان کیا۔

۱۰۳۸: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَتَى نَفْرًا مِنْ يَهُودٍ فَدَعَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْقفِّ فَاتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمُدْرَاسِ فَقَالُوا يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ رَجُلًا مِّنَّا زَنَى بِامْرَاةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ بِالتَّوْرَةِ فَاتَىٰ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اَمَنْتُ بِكَ وَيَمَنْ اَنْزَلَكَ ثُمَّ قَالَ اَتُونِي بِاعْلَمِكُمْ فَاتَىٰ بِفَتَى شَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنِ نَافِعٍ۔

توریت میں زانی کی سزا:

حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن صوریہ کو طلب فرمایا اور ان سے حلفاً دریافت فرمایا کہ توریت میں زانی کے لئے سنگسار کئے جانے کی سزا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بلاشبہ زنا کرنے والے شادی شدہ کے لئے سنگسار کئے جانے کی سزا ہے۔

۱۰۳۹: محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق، معمر زہری، قبیلہ مزینہ کا ایک شخص (دوسری سند) احمد بن صالح، عنبسہ، یونس اور محمد بن مسلم دونوں کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص سے سنا جو ان لوگوں میں سے تھا جو علم کو حاصل کرتے اور اسے یاد رکھتے ہیں اس کے بعد دونوں ایک ہی طرح کی بات کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے کہ انہوں نے ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث سنائی کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا تو ان

۱۰۳۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنبَسَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ

دونوں نے ایک دوسرے سے کہا اس رسول کی خدمت میں چلو کیونکہ وہ رسول وزن ہلکا کرنے کے لئے مبعوث کیا گیا ہے پس اگر وہ سنگسار کرنے کے حکم سے بچے کوئی کم درجہ کی سزا کا حکم دیں گے تو ہم اس حکم کو تسلیم کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بھی پیش کریں گے کہ یہ حکم تمہارے انبیاء میں سے ایک نبی کا ہے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہود نے کہا اے ابوالقاسم! آپ اس مرد اور عورت کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے زنا کیا۔ آپ نے یہ بات سن کر کوئی جواب نہ دیا اور ان لوگوں کے مدرسہ کی طرف تشریف لے گئے وہاں پر دروازہ پر کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس اللہ کی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی تم لوگ توریت میں کیا حکم پاتے ہو اس شخص کے بارے میں جو زنا کا مرتکب ہوا ہو جبکہ وہ شادی شدہ بھی ہو یہود نے بیان کیا کہ ایسے شخص کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور اس کو گدھے پر بٹھلا کر (شہر میں) گھمایا جاتا ہے اور اس کے درے مارے جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں سے ایک نوجوان یہ بات سن کر خاموش رہا۔ جب آنحضرت ﷺ نے اس شخص کو خاموش دیکھا تو آپ نے اس شخص کو دوبارہ قسم کھلائی۔ اس پر اس شخص نے کہا جب تم نے ہم لوگوں کو بھرپور حلف دلایا تو ہم لوگ تو تورات میں (زانی کو) سنگسار کئے جانے کا حکم پاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کب سے ہلکا سمجھ کر ترک کر دیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہم لوگوں میں سے کسی بادشاہ کے رشتہ دار نے زنا کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار نہیں کیا پھر ایک دوسرے شخص نے عام لوگوں میں سے زنا کیا تو بادشاہ نے اس شخص کو سنگسار کرنا چاہا لیکن اس کی قوم کے لوگ درمیان میں آگئے اور کہنے لگے ہمارا آدمی سنگسار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ تم اپنے آدمی کو پیش نہ کرو اور اس کو سنگسار نہ کرو۔ آخر تمام لوگوں نے متفقہ طور پر اس سزا پر اتفاق کیا۔ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں

وَهُوَ أَمُّ قَالَتْ زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بَعَثَ بِالْتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبْلِنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ قَالَ فَاتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنِيَا فَلَمْ يَكَلِّمَهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِذْرَاسِهِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ قَالُوا يُحْمَمُ وَيُجَبَّ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْيِهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَتَقَابَلُ أَفْتِيهُمَا وَيَطَافُ بِهِمَا قَالَتْ وَسَكَّتْ سَابٌّ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَّتْ أَلْطَبُ بِهِ النَّشْدَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَةِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ قَالَ زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَةِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَّغْنَا أَنَّ هَذِهِ آيَةٌ نَزَلَتْ فِيهِمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُمْ.

تو وہی حکم کرتا ہوں جو کہ تورات میں موجود ہے پھر آپ نے حکم فرمایا وہ یہودی مرد اور عورت (جو کہ زنا کے مرتکب ہوئے تھے) سنگسار کر دیئے گئے۔ زہری نے بیان کیا کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ یہ آیت ان ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ (ترجمہ) ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہ رسول جو کہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں حضرت نبی ﷺ ہی انہی میں سے ہیں۔

۱۰۲۰: عبد العزیز، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاق، زہری، ایک مزنی آدمی سعید بن مسیب، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ یہود میں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا اور وہ دونوں محسن (شادی شدہ) تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی مدینہ منورہ تشریف لائے اور ان لوگوں کی کتاب تورات میں (زانی کو) سنگسار کئے جانے کا حکم موجود تھا اور ان پر فرض تھا لیکن ان لوگوں نے اس حکم کو ترک کر دیا تھا اور (اسکے بجائے) انہوں نے (زانی کو) گدھے پر اٹائے رخ سوار کرنا چاہا اور ایک سومرتبہ روغن دار رسی سے مارنا اختیار کر رکھا تھا۔ ان لوگوں کے علماء اکٹھے ہوئے اور ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو خدمت نبوی میں حد زنا معلوم کرنے کیلئے بھیجا۔ پھر حدیث کو اخیر تک بیان کیا اور چونکہ وہ یہودی لوگ آپ کے دین میں نہیں تھے اس لئے نبی کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کا فیصلہ فرمائیں یا فیصلہ نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَإِنْ جَانُوكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ یعنی اگر یہود آپ کے پاس حاضر ہوں تو آپ ان کا فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ آپ اگر فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور آپ اگر فیصلہ کریں تو انصاف سے کام لیں۔ اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

۱۰۲۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَىٰ أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ زَنَى رَجُلٌ وَأَمْرًاةً مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أَحْصَيْنَا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَةِ فَتَرَكَوهُ وَأَخَذُوا بِالْتَّجْبِيهِ يُضْرَبُ مِائَةً بِحِجْلِ مَطْلِي بِقَارٍ وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَجْهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ فَاجْتَمَعَ أَحْبَابٌ مِنْ أَجْبَارِهِمْ فَبَعَثُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِي وَسَاقِ الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ قَالَ وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَخَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ جَانُوكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ

۱۰۲۱: یحییٰ بن موسیٰ ابواسامہ، مجالد، عامر جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ یہودی لوگ ایک مرد اور ایک عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے لوگوں میں سے دو زیادہ علم رکھنے والوں کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص صوریہ کے دونوں بیٹوں کو لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں کو قسم دی اور دریافت فرمایا ان کیلئے توریث میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو

۱۰۲۱: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ الْبُلْخِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ مُجَالِدٌ أَخْبَرَنَا عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَامَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَأَمْرًاةٍ مِنْهُمْ زَنَى فَقَالَ اتُّوْنِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَآتَوْهُ بَابْنِي صُورِيًا فَتَشَدَّهُمَا كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَهُذَيْنِ فِي التَّوْرَةِ قَالَا نَجِدُ فِي

تورات میں یہ حکم پاتے ہیں جب چار گواہ شہادت دیں کہ انہوں نے مرد کے ذکر کو عورت کی شرم گاہ میں اس طرح سے دیکھا ہے کہ جس طرح سرمردانی میں سلائی ہوتی ہے تو وہ دونوں سنگسار کئے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر تم ان دونوں کو سنگسار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگوں کی حکومت تو باقی نہیں رہی تو ہم لوگوں کو (کسی کو) مار دینا برا لگتا ہے۔ اس پر نبی نے گواہوں کو طلب فرمایا وہ چار گواہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے اس طرح گواہی دی کہ ہم لوگوں نے مرد کے عضو مخصوص کو عورت کی شرم گاہ میں اس طرح دیکھا ہے جس طرح کہ سلائی سرمردانی میں (ہوتی ہے) آپ نے (رجم کئے جانے کا) حکم فرمایا۔

۱۰۴۲: وہب بن بقیۃ ہشیم، مغیرہ ابراہیم شععی سے بھی یہی حدیث روایت ہے لیکن اس روایت میں یہ (مروی) نہیں ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے گواہوں کو طلب فرمایا اور انہوں نے شہادت دی۔

۱۰۴۳: وہب بن بقیۃ ہشیم، ابن شبرمہ شععی سے اسی روایت جیسی روایت بیان کی ہے۔

باب: اگر کوئی شخص اپنی محرم عورت سے زنا کا مرتکب

ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟

۱۰۴۴: مسدّد خالد مطرف، ابوالجہم براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے اڈنٹ گم ہو گئے تھے میں ان کو تلاش کر رہا تھا کہ اسی دوران کچھ سوار پہنچے ان لوگوں کے ہمراہ ایک جھنڈا تھا تو دیہاتی لوگ رسول کریم ﷺ کے ہاں میری قدر و منزلت کی وجہ سے میرے گرد گھومنے لگے۔ پھر وہ لوگ ایک قبر پر پہنچے اور انہوں نے وہاں سے ایک شخص کو باہر نکال کر اسکی گردن اڑادی۔ اسکے بارے میں میں نے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کیا تھا۔

التَّوْرَةَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمَيْلِ فِي الْمُكْحَلَةِ رُجْمًا قَالَ لِمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا قَالَا ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكْرَهُنَا الْقَتْلَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمَيْلِ فِي الْمُكْحَلَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُجْمِهِمَا۔

۱۰۴۲: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فَدَعَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا۔

۱۰۴۳: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ ابْنِ شَبْرَمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِ مِنْهُ۔

باب فی الرجل یزنی

بحریمہ

۱۰۴۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي صَلَّتُ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسٌ مَعَهُمْ لَوَاءٌ فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَوْا قَبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِأَمْرَأَةٍ أُبَيِّهِ۔

محارم سے نکاح:

شخص مذکورہ نے دو درجہ اہلیت کے دستور کے مطابق سوتیلی ماں سے نکاح کیا تھا۔ اسلام میں محارم سے نکاح نکاح باطل ہے اور صحبت کرنے سے حد لگائے جانے کا حکم ہے۔

۱۰۴۵: عمرو بن قسبط عبید اللہ زید عدی بن ثابت یزید بن براء حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے چچا سے ملاقات کی ان کے ہمراہ ایک جھنڈا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے حضرت رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کی طرف بھیجا ہے کہ جس نے اپنے والد کی بیوی (سوتیلی ماں) سے نکاح کر لیا ہے۔ تو آپ نے اس شخص کی گردن اُڑا دینے اور اس کا مال ضبط کر لینے کا حکم فرمایا ہے۔

باب: اگر کوئی شخص بیوی کی باندی سے زنا کر لے تو

اس کی کیا سزا ہے؟

۱۰۴۶: موسیٰ بن اسماعیل ابان قتادہ خالد حبیب بن سالم سے مروی ہے کہ ایک شخص عبد الرحمن بن حنین نامی نے اپنی بیوی کی باندی سے صحبت کر لی تو یہ معاملہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے یہاں پیش ہوا اور وہ حاکم کوفہ تھے انہوں نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ اسی طرح کروں گا جس طرح نبیؐ نے فرمایا تھا۔ اگر تمہاری بیوی نے اپنی باندی کو تمہارے لئے حلال کر دیا تھا تو میں تمہیں ایک سو درے ماروں گا اور اگر حلال نہیں کیا تھا تو میں تم کو پتھروں سے سنگسار کروں گا۔ پھر جب تحقیق واقعہ کی تو پتہ چلا کہ اس شخص کی بیوی نے اس شخص کیلئے اپنی باندی کو حلال کر دیا تھا۔ پس انہوں نے اس شخص کے ایک سو درے مارے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے اس سلسلہ میں حضرت حبیب بن سالم کو تحریر کیا تو انہوں نے یہ حدیث تحریر فرما کر روانہ کی۔

۱۰۴۷: محمد بن بشر محمد بن جعفر شعبہ ابو بشر خالد بن عرفطہ حبیب بن سالم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کی باندی سے صحبت کرے تو اگر بیوی نے اجازت دے دی تو اس شخص کو ایک سو درے ماروں گا ورنہ اسے سنگسار کروں گا۔

۱۰۴۸: احمد بن صالح عبد الرزاق معمر قتادہ حسن قبیصہ حضرت سلمہ

۱۰۴۵: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطِ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ عَمِيَّ وَمَعَهُ رَأْيَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأَخَذَ مَالَهُ.

باب فی الرجل یزنی بجاریة

امراته

۱۰۴۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفَطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَنِينٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرَفَعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَّا لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدُوهُ مِائَةً قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا.

۱۰۴۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفَطَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجِمَتْهُ.

۱۰۴۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

بن محبت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کے سلسلہ میں کہ جس نے اپنی بیوی کی باندی سے صحبت کر لی تھی یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اگر اس شخص نے زبردستی صحبت کر لی تو وہ باندی آزاد ہے اور اسے اس باندی کی مالکہ کو اسی قسم کی باندی ادا کرنا ضروری ہوگا اور اگر اس باندی نے بخوشی صحبت کرائی تو وہ باندی اس شخص کی ہو جائے گی اور اس باندی کی مالکہ عورت کو اس جیسی دوسری باندی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حسن سے یونس، عمرو منصور اور سلام نے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے (البتہ) یونس اور منصور نے روایت میں قبضہ کا تذکرہ نہیں کیا۔

۱۰۴۹: علی بن حسین، عبدالاعلیٰ، سعید قتادہ، حسن، سلمہ بن محبت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا اور اس حدیث میں اس طرح مذکور ہے کہ اگر اس باندی نے بخوشی صحبت کرائی تو وہ باندی اور اس جیسی ایک دوسری باندی بیوی کو شوہر کے مال میں سے دلوائی جائے گی۔

باب: اغلام بازی کرنے والے کی سزا

۱۰۵۰: عبداللہ بن محمد، عبدالعزیز، عمرو، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جس شخص کو قوم لوط کا عمل (اغلام بازی) کرتے دیکھو تو کرنے والے (یعنی اغلام باز) اور کروانے والے دونوں افراد کو قتل کر دو۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو سلیمان بن ہلال نے عمرو بن ابی عمرو سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے اور عباد بن منصور نے عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے مرفوعاً اور ابن جریج نے ابراہیم، داؤد، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

۱۰۵۱: اطلق بن ابراہیم بن راہویہ، عبدالرزاق، ابن جریج، ابن حنیم، سعید بن جبیر، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ بکر (یعنی

الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَرِيثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فِيهَا حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيْدَتِهَا مِثْلَهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فِيهَا لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيْدَتِهَا مِثْلَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ وَسَلَامٌ عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ۔

۱۰۴۹: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدَّرَهَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فِيهَا وَمِثْلَهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيْدَتِهَا۔

باب فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

۱۰۵۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ۔

۱۰۵۱: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيحٍ أَخْبَرَنِي

ابْنُ حُفَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ (کنوار) فُحْصَ اِغْلَامَ بَازِيٍّ فِي مِثْقَالٍ فِي يَوْمٍ كُنَّا فِيهِ وَنَحْنُ نَحْمَدُ اللَّهَ بِمَا يَحْدِثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبُكْرِ جَاءَ -
يُؤْخَذُ عَلَى اللُّوْطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ -

امام اعظم ابوحنيفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اغلام بازی کی سزا:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اغلام بازی کرنے والے کی سزا قاضی یا امیر المؤمنین کی رائے پر موقوف ہے یعنی قاضی یا امام اغلام باز کو تعزیر کرے کتب فقہ میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔

باب فِيمَنْ اتَى بِهِمَةً . باب: جانور سے بدکاری کرنے والے کی سزا

۱۰۵۲: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَى بِهِمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوها مَعَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبِهِمَةِ قَالَ مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ كَبْرَةٌ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عَمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ -
۱۰۵۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَنَّ شَرِيكَاً وَأَبَا الْأَحْوَصِ وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي رَبِيعٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْوَدَّاءِ الْبِهِمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعَّفُ حَدِيثُ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرٍو -

۱۰۵۲: عبد اللہ بن محمد، عبد العزیز، عمرو بن ابی عمرو، ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبیؐ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی چوپایہ سے زنا کیا تو اس شخص کو مار ڈالو اور اس کے ساتھ اس جانور کو بھی مار ڈالو، عکرمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباسؓ سے دریافت کیا کہ اس چوپایہ (جانور) کا کیا جرم ہے؟ عکرمہ خود ہی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے (جانور کو مار ڈالنے کی) بات اسلئے کی کہ جس جانور کے ساتھ ایسا براکام کیا جا چکا ہو، ابن عباسؓ نے اس کے گوشت کھانے کو اچھا نہ سمجھا ہو۔
۱۰۵۳: احمد بن یونس، شریک، ابوالاحوص اور حضرت ابوبکر بن عباس رضی اللہ عنہما، ابورزین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ چوپایہ سے بدکاری کرنے والے شخص پر کوئی حد نہیں لگائی جائے گی۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ عطاء نے اسی طریقہ سے بیان کیا اور حکم نے بیان کیا کہ اس شخص کے درے لگائے جائیں لیکن حد کے دروں سے کم حسن نے بیان کیا کہ اس شخص کی سزا زنا کرنے والے شخص جیسی ہے۔ امام ابوداؤد درجہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاصم کی روایت عمرو کی روایت کی تصحیف کر رہی ہے۔

باب: اگر کوئی مرد اقرار زنا کر لے اور عورت

منکر رہے؟

باب إذا أقر الرجل بالزنا وكلم

تلق المرأة

۱۰۵۴: عثمان بن ابی شیبہ، طلق، عبد السلام، ابوحازم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

۱۰۵۴: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا

ابو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أتاه فأقرّ عنده أنه زنى بامرأة سمّاها له فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلدها الحد وتروكها۔

میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے اور اس عورت کا نام بھی لیا۔ حضرت رسول کریم ﷺ نے اس عورت کو طلب فرمایا اور اس سے دریافت کیا مگر اس عورت نے انکار کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس شخص کے حد (زنا) لگائی اور عورت کو چھوڑ دیا۔

مرد کا اقرار زنا:

مذکورہ مرد کے حد لگائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس مرد کا زنا کا اقرار کرنا اس کے اوپر حد جاری کرنے کے لئے کافی ہو گیا لیکن مرد کا اقرار کرنا عورت کے حد لگائے جانے کے لئے کافی نہیں جب تک کہ وہ خود اقرار نہ کرے یا چار گواہ نہ ہوں اس لئے آپ نے عورت کو حد نہیں لگائی اور چھوڑ دیا۔

۱۰۵۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ قِيَاضِ الْأَنْبَارِيِّ عَنِ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرٍ بَنِي لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقْرَأَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بَكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفُرْيَةِ لِمَانِينَ۔

۱۰۵۵: محمد بن یحییٰ، موسیٰ بن ہارون، ہشام، قاسم، خلاد ابن مسیب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ بنی بکر اور قبیلہ بنی لیت میں سے ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس شخص نے ایک عورت کے ساتھ اپنے زنا کرنے کا چار دفعہ اقرار کیا تو آپ نے اس شخص کو ایک سو کوڑے لگوائے اور وہ شخص کھوار تھا۔ پھر اس شخص سے عورت کے خلاف شہادت طلب کی گئی تو عورت نے کہا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! یہ شخص جھوٹا ہے تو اس شخص پر حد زنا لگائی گئی (اور اس کے اسی کوڑے مارے گئے)۔

حد زنا لگائے جانے کا واقعہ:

شخص مذکورہ نے مذکورہ عورت پر زنا کی تہمت لگائی اور اس نے اپنے لئے حد قبول کی۔ آپ ﷺ نے اس شخص سے مذکورہ عورت سے زنا کرنے پر حسب ضابطہ شرع چار شاہد طلب فرمائے وہ شخص دعویٰ زنا پر گواہ نہ پیش کر سکا تو آپ نے اس شخص پر حد زنا لگائی۔ لقولہ تعالیٰ: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (النور ۴:۱۸) یعنی جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت (زنا) لگائیں اور پھر وہ چار گواہ (زنا کے) پیش نہ کر سکیں تو اس شخص کے اسی کوڑے لگائے جائیں۔

باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَنَ الْجَمَاعِ فَيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْإِمَامُ

باب: کوئی شخص کسی عورت سے صحبت کے علاوہ تمام کام کرے پھر پکڑے جانے سے قبل تائب ہو جائے؟

۱۰۵۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو

۱۰۵۶: مسدد ابوالاحوص، سماک، ابراہیم، علقمہ اور اسود عبد اللہ بن مسعود

”سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ! میں مدینہ کے کنارہ ایک عورت سے ملا اور میں نے صحبت کے علاوہ تمام کام کیا ہے۔ تو اب میں حاضر خدمت ہوں مجھے جو چاہیں سزا دے دیجئے۔ عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جرم چھپا دیا تھا اگر تم بھی اپنا جرم چھپالیتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ وہ شخص چل دیا۔ نبیؐ نے اس کے پیچھے ایک شخص روانہ کیا اور اس کو آپ نے طلب فرمایا اور اسکو یہ آیت سنائی: اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ یعنی نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں (اور ہر ایک فجر، ظہر، عصر میں) اور رات کے اندھیرے میں بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ حکم خاص اس شخص کیلئے ہے یا تمام لوگوں کے لئے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں کے لئے۔

دن کے کناروں سے مراد:

دونوں کناروں سے مراد نماز فجر، ظہر، عصر سے اور رات کی تاریکی سے مراد مغرب، عشاء کے وقت کی نمازیں ہیں اور وضو کرنے سے گناہِ صغیرہ معاف ہو جانے کی تفصیل جلد اول کے ترجمہ میں عرض کی جا چکی۔ بعض مفسرین نے مذکورہ بالا مسئلہ میں مزید تفصیل بیان فرمائی ہے۔

باب: غیر شادی شدہ باندی زنا کرے تو اس کی سزا

۱۰۵۷: عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب، عبید اللہ ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی سے مروی ہے کہ کسی شخص نے رسول کریمؐ سے دریافت کیا کہ غیر شادی شدہ باندی جب زنا کرے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ باندی زنا کرے تو اس کے درے مارو پھر اگر وہ زنا کرے تو اس کے درے مارو۔ اگر پھر زنا کرے تو اس کے درے مارو۔ پھر اگر وہ زنا کرے تو اس کو فروخت کر دو اگرچہ ایک رشتی کے عوض کیوں نہ ہو ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے تیسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا یا چوتھی مرتبہ میں ارشاد فرمایا کہ اس باندی کو فروخت کر دو ایک رشتی کے عوض اور ضمیر رشتی کو کہتے ہیں۔

۱۰۵۸: مسدّد یحییٰ، عبید اللہ، حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

بَابُ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَكَمْ تُحْصَنُ

۱۰۵۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَكَمْ تُحْصَنُ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ثَمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ثَمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ثَمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي فِي الْعَالِيَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.

۱۰۵۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ

اللّٰهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدَكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلَا يُعَيِّرُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيُعْمَرْ بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرِ -

عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کسی شخص کی باندی زنا کاری کرے تو اس کو حد لگائے اسے صرف شرمسار کر کے نہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کو تین مرتبہ تک حد (زنا) لگائی جائے اور اگر وہ چوتھی مرتبہ زنا کی مرتبہ ہو تو اس کو فروخت کر دو اگر چہ (اس کی قیمت) بال کی رتھی ہی ملے۔

عرب کا خلاف شرع طریقہ:

عرب کا یہ وطیرہ تھا کہ وہ لوگ باندی کے زنا کرنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے صرف اس باندی پر غصہ ہو کر اور اس کو ڈرا کر اس شخص کے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ایسی باندی سے صرف ناراضگی ہی کافی نہیں بلکہ اس کو حد بھی لگائی جائے گی۔

۱۰۵۹: حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَا يَتْرَبْ عَلَيْهَا وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ لْيُعْمَرْ وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرِ -

۱۰۵۹: ابن نفیل، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاق، سعید بن ابی سعید ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس باندی کو ہر مرتبہ کتاب اللہ کے مطابق مارے (یعنی حد لگائے) اور اس کو صرف ڈانٹ ڈپٹ کر نہ چھوڑے یا حد مارنے کے بعد پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ اگر وہ باندی چوتھی مرتبہ زنا کرے تو پھر اس کو کتاب اللہ کے مطابق حد لگائے اس کے بعد اس باندی کو فروخت کر دے اگر چہ اس کی قیمت بال کی رتھی ہی وصول ہو۔

باندی کی حد کی مقدار:

باندی کی حد آزاد عورت کے مقابلہ میں آدھی ہے غیر محضہ یعنی غیر شادی شدہ باندی کی حد پچاس کوڑے ہے کتب فقہ میں باندی کی حد سے متعلق تفصیلات مذکور ہیں۔

باب: مریض پر حد جاری کرنے کا بیان

۱۰۶۰: احمد بن سعید ابن وہب، یونس ابن شہاب، حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں آنحضرت ﷺ کے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ ان لوگوں میں سے ایک شخص بیمار پڑ گیا یہاں تک کہ وہ کمزور ہو کر ہڈی پر صرف کھال رہ گئی اس وقت اس شخص کے پاس کسی شخص کی باندی گئی اس کو دیکھ کر وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے اس باندی سے صحبت کر لی۔ جب اس شخص کی

باب فی إقامة الحد علی المریض

۱۰۶۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْيَبَ فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ

قوم کے لوگ اس شخص کے پاس مزاج پُرسی کے لئے آئے تو اس شخص نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ تم لوگ آنحضرت ﷺ سے میرے متعلق دریافت کرو کیونکہ میں نے ایک باندی سے جماع کیا ہے جو میرے پاس آئی تھی۔ ان لوگوں نے یہ واقعہ خدمت نبوی میں عرض کیا اور کہا کہ ہم لوگوں نے تو ایسا مریض اور کمزور شخص کسی کو نہیں دیکھا جتنا کمزور اور مریض وہ شخص ہے۔ اگر ہم لوگ اس شخص کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں تو اس شخص کی جسم کی ہڈیاں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی وہ تو صرف ہڈیوں پر کھال ہے۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے حکم فرمایا کہ درخت کی ایک سوشا خوں لے کر اس شخص کو ایک ہی مرتبہ مار دیں۔

فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ جَارِيَةً لِيُعْصِمَهُمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلْتُ عَلَى فَدَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاحٍ فَيَضْرِبُوهَا بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

قصص یادیت لازم ہونے کی صورت:

مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو درخت کی ایک سوشا خوں سے مارنا سو مرتبہ مارنے کے قائم مقام ہوگا پھر اگر وہ شخص مذکورہ طریقہ پر حد لگائی جانے کی صورت میں مرجائے تو اس شخص کا خون معاف ہے کسی پر قصاص یادیت لازم نہ ہوگی۔

۱۰۶۱: محمد بن کثیر، اسرائیل، عبدالاعلیٰ، ابو جہیلہ، علی سے مروی ہے کہ نبی کے اہل بیت میں سے کسی شخص کی باندی نے زنا کر لیا تو نبی نے ارشاد فرمایا اے علی! اٹھو اور اس کے حد مارو آپ نے دیکھا تو اس باندی کے خون جاری تھا۔ میں واپس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا: اے علی رضی اللہ عنہ تم حد مار کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس باندی کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس باندی کے خون جاری ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا اچھا اس باندی کو چھوڑ دو جب تک اس کا خون بند نہ ہو اس کے بعد اس پر حد قائم کرو اور تم لوگ اپنے غلام اور باندی پر حد قائم کیا کرو۔ امام ابوداؤد نے فرمایا کہ ابوالاحوص نے یہ روایت عبدالاعلیٰ سے روایت کی اور شعبہ نے عبدالاعلیٰ سے روایت بیان کی ہے البتہ اس روایت میں اس طرح ہے کہ اس باندی کو حد نہ لگاؤ یہاں تک کہ اس کے بچہ پیدا ہو لیکن روایت کا اوّل زیادہ صحیح ہے۔

۱۰۶۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فُجِرَتْ جَارِيَةٌ لِأَبِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَإِنِ انْطَلَقْتَ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَلَرَّغَتْ قُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ فَقَالَ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى فَقَالَ فِيهِ قَالَ لَا تَضْرِبُهَا حَتَّى تَضَعَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

باب: جھوٹی تہمت لگانے والے کی حد کا بیان

باب فی حدِّ القَدْفِ

۱۰۶۲: تھیبہ مالک ابن ابی عدی، محمد بن اسحاق، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب

۱۰۶۲: حَدَّثَنَا قُسَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقِيُّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُسَمِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَنَّ ابْنَ

میری تطہیر (پاکی) کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا اور قرآن کریم تلاوت فرمایا اس کے بعد آپ جب منبر سے اترے تو آپ نے دو مرد اور ایک عورت کے لئے (حد لگائے جانے کا) حکم فرمایا پھر ان لوگوں نے انہیں حد لگائی۔

۱۰۶۳: ثقیلی، محمد بن سلمہ، محمد بن الحنفیہ سے اسی طریقہ پر مروی ہے اور اس روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ آپ نے دونوں مردوں اور ایک عورت کو کہ جنہوں نے بری بات کہی تھی (نعوذ باللہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی (وہ مرد حسان بن ثابت اور مسطح بن اثاثہ تھے اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت حمہ بنت جحش تھی۔

أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عَذْرَى قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا تَعْنَى الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضْرِبُوا حَدَّهُمْ۔

۱۰۶۳: حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ قَالَ قَامَ بِرَجُلَيْنِ وَأَمْرًا مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمَسْطُوحُ بْنُ اثَّاثَةَ قَالَ الثَّقَلِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمَّةُ بِنْتُ جَحْشٍ۔

باب: حد شراب

۱۰۶۴: حسن بن علی، محمد بن ثنی، ابو عاصم ابن جریج، محمد بن علی، عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے شراب کی کسی قسم کی کوئی حد متعین نہیں فرمائی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ایک شخص نے شراب پی تو اسے نشہ ہو گیا اور وادی میں لڑکھڑاتا ملا تو اس شخص کو لوگ لے کر خدمت نبوی میں لے جانے لگے۔ جب وہ شخص ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مکان کے سامنے پہنچا تو وہ اچانک بھاگ گیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر میں داخل ہو کر ان سے لپٹ گیا پھر یہ پورا واقعہ خدمت نبوی میں عرض کیا گیا۔ آپ کو ہنسی آگئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا اس شخص نے اس طرح کیا ہے؟ اور آپ نے اس کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں فرمایا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بن علی کی اس قسم کی حدیث ہے جس میں اہل مدینہ متفرد ہیں۔

باب الحد فی الخمر

۱۰۶۴: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رُمَّانَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتِ فِي الْخَمْرِ حَدًّا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكَرَ فَلَقِيَ بِمَيْلٍ فِي الْفَجِّ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَادَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْقَلَبَتْ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ أَفْعَلَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هَذَا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرابی کو معاف کرنے کی وجہ:

شخص مذکور کو آپ نے اس وجہ سے معاف فرمادیا کہ ثبوت شرعی سے اس شخص کا شراب پینا ثابت نہیں تھا۔ واضح رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی کوئی حد متعین نہیں فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورہ سے شرابی کی حد اسی کوڑے مقرر فرمائی گئی۔ بذل المجموع ج ۵ میں اس مسئلہ کی مزید تفصیل مذکور ہے۔

۱۰۶۵: تھیہ ابو صمرہ یزید محمد بن ابراہیم ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو مارو۔ تو ہم لوگوں میں سے کسی شخص نے اسے ہاتھ سے کسی نے اپنے جوتے سے اور کسی نے کپڑے سے مارا۔ پھر جب فارغ ہو گئے تو قوم میں سے کسی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح نہ کہو اس پر شیطان کی مدد نہ کرو۔

۱۰۶۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَرَجَلِي قَدْ شَرِبَ فَقَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِمَا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِعَوِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تَعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ.

سزایافتہ گنہگار کو برا کہنے کی ممانعت:

مطلب یہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے جب گنہگار کو سزا مل جائے تو اس کی برائی نہ کرو کیونکہ اس طرح برا کہنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ مسلمان کی ذلت سے شیطان خوش ہوگا تو گویا تم نے شیطان کی مدد کی ایسی صورت میں تو یہ کہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔

۱۰۶۶: محمد بن داؤد ابن وہب یحییٰ بن ایوب حیوۃ اور ابن لہیعہ ابن البہاد سے اس روایت میں اسی طریقہ پر بیان کیا گیا البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب لوگ اس شخص کو مار پیٹ کر فارغ ہو گئے تو آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا اس شخص کو ڈانٹ ڈپٹ کرو تو لوگ اس کو یوں کہنے لگے: تجھے اللہ کا ڈر نہیں آیا۔ تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے اور تجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرم و حیا نہیں آئی پھر اس شخص کو چھوڑ دیا۔ اس روایت کے اخیر میں یہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اے لوگو اس طرح کہو کہ اے اللہ اس شخص کی مغفرت فرمادے اور اس شخص پر رحم فرما اور بعض حضرات نے روایت میں کچھ کمی زیادتی کی ہے۔

۱۰۶۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الْإِسْكَندَرَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَحْيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ بِكُتُوهُ فَاقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتُ اللَّهَ مَا خَشِيتُ اللَّهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا.

۱۰۶۷: مسلم بن ابراہیم ہشام (دوسری سند) مسدد یحییٰ ہشام قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو جوتوں اور کھجور کی چھڑیوں سے حد لگائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرابی کے چالیس کوڑے لگائے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے صحابہ رضی اللہ

۱۰۶۷: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ فَلَمَّا

عنہم کو بلایا لوگ آبادیوں کے قریب ہو گئے مسد نے بیان کیا گاؤں اور آبادی سے (مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ شراب پینے لگے) تو اب شراب پینے والے شخص کی حد کے سلسلہ میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ سب سے جو ہلکی حد ہے وہی متعین کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اسی کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابن ابی عروبہ نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے کھجور کی شاخوں اور جوتوں سے چالیس مرتبہ مارا۔ شعبہ نے (اس طرح) بیان کیا کہ اس کو دو لکڑی سے چالیس مرتبہ مارا۔

وَلَّى عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرَّيْفِ وَقَالَ مُسَدُّ بْنُ الْقُرَيْ وَالرَّيْفُ لَمَّا تَرَوْنَ فِي حِدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخْفِ الْحُدُودِ فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَلَدَ بِالْحَجْرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ضَرَبَ بِحَجْرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ۔

سب سے کم درجہ کی حد:

حدود میں سب سے کم درجہ کی حد حد تذف ہے جس میں اسی کوڑے لگائے جانے کا حکم ہے۔ قرآن میں اسی کی وضاحت فرمائی گئی ہے اسی حد تذف کے مطابق شراب کی حد بھی اسی کوڑے مقرر رکھے۔

۱۰۶۸: مسدذ موسیٰ، عبدالعزیز، عبداللہ بن دانا، حصین بن منذر رقاشی جو ساسان کے والد ہیں سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ اس وقت لوگ حضرت ولید بن عقبہ کو لے کر آئے اور ان پر عمران نے (جو کہ حضرت کے آزاد کردہ غلام تھے) اور ایک حبشی نے گواہی دی تو ایک شخص نے (گواہی میں) بیان کیا کہ میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے ولید کو شراب کی تے کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے شراب کی تے تھی تو کی ہے جب اس نے پی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حد مارنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو حضرت حسن سے حد مارنے کے لئے حکم فرمایا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ جس شخص نے خلافت کا مزہ حاصل کیا ہے اس کو بوجھ بھی برداشت کرنا چاہئے (یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہما جو خلیفہ ہیں وہ ہی حد ماریں یا اپنے کسی رشتہ دار کو حکم لگانے کا فرمائیں) پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے فرمایا تم حد لگا

۱۰۶۸: حَدَّثَنَا مُسَدُّ بْنُ مُسْرَهْدٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانِجُ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ هُوَ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدَهُمَا أَنَّهُ رَأَاهُ شَرِبَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ وَشَهِدَ الْآخَرَ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَقَيُّ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيًّا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ لِعَلِيٍّ أَيْمٌ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ عَلِيُّ لِلْحَسَنِ أَيْمٌ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِي حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى فَأَرَاهَا فَقَالَ عَلِيُّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَيْمٌ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ فَأَخَذَ السُّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ قَالَ حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

وَعُمَرُ لَمَّائِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ۔ دو۔ انہوں نے دزہ لے کر اس شرابی کو مارنا شروع کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ شرفہ فرماتے رہے جب چالیس پر پہنچے تو فرمایا کافی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے (شرابی کو) چالیس کوڑے مارے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی چالیس ہی مرتبہ مارا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی کوڑے مارے ہیں اور تمام مسنون ہے اور مجھ کو تو یہ چالیس (کوڑے) مارنا بہت پسندیدہ ہے۔

شرابی کی حد:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرابی کی حد اور حد تذف کی حد ایک ہی ہے یعنی اسی اسی کوڑے۔

۱۰۶۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ الدَّانَاجِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنِ عَلِيٍّ قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَكَمَلَهَا عُمَرُ لَمَّائِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ الْأَضْمَعِيُّ وَنَحْوَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا وَنَحْوَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا هَذَا كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَأْسَانَ۔

۱۰۶۹: مسدّد یحییٰ ابن ابی عروبہ داناج، حصین بن منذر، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شراب پینے کی حد چالیس کوڑے مارے ہیں اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حد کو اسی کوڑوں سے مکمل فرمایا اور یہ تمام مسنون ہے۔ امام ابوداؤد نے فرمایا اصمعی نے بیان کیا وَنَحْوَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص نے خلافت کی سہولیات حاصل کی ہیں اسی کو مشکلات بھی برداشت کرنے دو۔

باب: جو شخص کئی مرتبہ شراب پیے تو اسکی کیا سزا ہے؟

۱۰۷۰: مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ عَاصِمٍ ابُو صَالِحٍ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب لوگ شراب پییں تو ان کو کوڑے مارو اور پھر اگر وہ (دو بارہ) شراب پییں تو جب بھی ان کو کوڑے مارو اور اگر پھر بھی پییں (یعنی تیسری مرتبہ) تو کوڑے مارو پھر (چوتھی مرتبہ) پییں تو انہیں قتل کر دو۔

۱۰۷۰: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكَرَ أَنَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ۔

شرابی کا قتل منسوخ ہے:

شرابی کا قتل کئے جانے کا حکم مندرجہ ذیل حدیث سے منسوخ ہے۔

۱۰۷۱: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا فِي حَدِيثٍ

۱۰۷۱: موسیٰ بن اسماعیل حماد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے اسی طریقہ سے ارشاد فرمایا اور آپ نے پانچویں مرتبہ میں فرمایا اگر وہ شخص (پانچویں مرتبہ) شراب پیے تو اس کو قتل کر دو۔ امام ابوداؤد نے فرمایا۔ (راوی) ابو غطفیف کی روایت میں بھی اسی طریقہ سے مذکور ہے کہ اس کو پانچویں مرتبہ میں قتل

أَبِي عَطِيْفٍ فِي الْخَامِسَةِ.

کرڈالو۔

۱۰۷۲: نصر بن عاصم یزید ابن ابی ذئب حارث ابوسلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نشہ کرے تو اس کو درے لگاؤ۔ اگر پھر (دوبارہ) نشہ کرے (شراب پئے خواہ تھوڑی یا زیادہ) تو پھر اس کے درے لگاؤ اگر پھر (تیسری مرتبہ) شراب پئے تو درے لگاؤ اور اگر وہ اس پر بھی نہ رکے تو چوتھی مرتبہ میں اس کو قتل کر دو۔ امام ابوداؤد نے فرمایا عمرو بن ابی سلمہ نے اپنے والد ابوسلمہ سے روایت کیا جب کوئی شخص شراب پئے تو اس کو درے مارو اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے (یعنی تین مرتبہ تک) تو پھر چوتھی مرتبہ اس شخص کو قتل کر دو۔ امام ابوداؤد نے فرمایا اسمیل نے ابوصالح سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا اور اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ چوتھی مرتبہ شراب پیئیں تو ان کو قتل کر دو اور اسی طریقہ سے ابو نعیم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی آپ سے ایسی ہی روایت ہے اور ثرید کی روایت حضرت رسول کریم ﷺ سے اور جدلی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے حضرت رسول کریم ﷺ سے کہ آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ میں قتل کرنے کا حکم فرمایا۔

۱۰۷۳: احمد بن عبدہ سفیان زہری حضرت قبیسہ بن ذویب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص شراب پئے تو اس کو درے مارو اور اگر پھر (دوبارہ) پئے تو درے مارو اور اگر وہ اس پر بھی نہ رکے تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں اس کو قتل کر دو پھر (صحابہ) ایک آدمی کو لائے جس نے کہ شراب پی رکھی تھی تو آپ نے اس شخص کو درے لگوائے پھر اس شخص کو لائے پھر اس کے درے مارے پھر اسے لایا گیا آپ نے اسے درے لگوائے پھر اسے لایا گیا تو آپ نے درے لگوائے اور اس کو قتل کرنے کا حکم اٹھالیا گیا جو کہ رخصت تھا۔

۱۰۷۲: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَائِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَّرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكَّرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكَّرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالشَّرِيدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ عَادَ فِي الْفَالِغَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

۱۰۷۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذَوَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الْفَالِغَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَأَتَنِي بَرَجَلٌ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ وَكَانَتْ رُحْصَةً قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا

سفیان نے بیان کیا کہ زہری نے اس حدیث کو اس وقت بیان فرمایا کہ جب انکے پاس منصور اور محول بیٹھے ہوئے تھے ان سے زہری نے بیان کیا کہ تم اہل عراق کیلئے یہاں سے یہ روایت تختا۔ لیتے جانا۔

منسوخ حکم کی بابت حد شراب:

مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوا کہ شرابی کو قتل کئے جانے کا حکم منسوخ ہو گیا بہر حال شرابی پہلی مرتبہ یا زیادہ مرتبہ شراب پئے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔

۱۰۷۴: اسامیل بن موسیٰ، شریک، ابو حصین، عمیر بن سعید، علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے حد لگاؤں اور وہ شخص (حد لگنے کی وجہ سے مر جائے) تو میں اسکی دیت نہیں ادا کروں گا سوائے شراب پینے والے شخص کے، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے شراب (پینے والے شخص کیلئے) کوئی حد مقرر نہیں فرمائی جو کچھ متعین کیا ہے وہ تو ہم لوگوں نے کیا ہے۔

۱۰۷۴: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا أَدِي أَوْ مَا كُنْتُ لِأَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلَّا شَارِبَ الخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْبًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قَلْنَا نَحْنُ.

۱۰۷۵: سلیمان بن داؤد ابن وہب، أسامة ابن شہاب، حضرت عبد الرحمن بن ازہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ گویا میں اب بھی حضرت رسول کریم ﷺ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ اوتنوں کے پالانوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اوتنوں کا کجاوہ ملاحظہ فرما رہے تھے اتنے میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ تو آپ نے لوگوں سے حکم فرمایا اس شخص کو (کسی چیز سے) مار دو کسی شخص نے جوتے سے اور کسی شخص نے لاشی سے اس کو مارا اور کسی شخص نے کھجور کی چھڑیوں سے اس کو مارا۔ ابن وہب نے بیان کیا کہ یعنی کھجور کے درخت کے بغیر پتوں کے کچی اور تازہ چھڑیوں سے اس شرابی کو مارا پھر آنحضرت ﷺ نے زمین سے کچھ مٹی لے کر اس شخص کے چہرہ پر ڈال دی۔

۱۰۷۵: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ الْمِصْرِيُّ ابْنُ أُخْبِي رَشِيدٍ بِنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْآنَ وَهُوَ فِي الرَّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَيَتَمَّا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ آتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اضْرِبُوهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْجَرِيدَةُ الرُّطْبَةُ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَابًا مِنَ الْأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ.

۱۰۷۶: ابن سرح، عبد الرحمن، عقیل ابن شہاب، حضرت عبد الرحمن بن ازہر کے والد سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شرابی شخص کو لے کر حاضر ہوئے آپ اس وقت غزوہ حنین میں تھے۔ آپ نے اس شخص کے منہ پر مٹی ڈال دی اور صحابہ کرام رضی اللہ

۱۰۷۶: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَقِيلِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

عنہم سے اس شخص کو مارنے کا حکم دیا تو ان حضرات نے اپنے جوتوں سے اس شرابی کو مارا اور جوتوں کے علاوہ جو کچھ ان حضرات کے ہاتھ میں تھا اس سے مارا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا بس کرو اس پر لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ کے بعد ابوبکر صدیقؓ حد شراب میں چالیس کوڑے لگاتے رہے پھر عمر فاروقؓ بھی اپنے ابتدائی زمانہ خلافت میں چالیس ہی کوڑے مارا کرتے تھے پھر اخیر زمانہ خلافت میں آپ نے اسی کوڑے مارے پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کبھی اسی کوڑے مارے اور کبھی چالیس کوڑے مارے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی کوڑے مقرر فرمائے۔

باب: مسجد میں حد لگائے جانے کا بیان

۱۰۷۷: ہشام بن عمار صدقہ بن خالد شعمی 'زفر' حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر قصاص لینے اور وہاں پر شعر پڑھنے اور مسجد میں حد لگانے سے منع فرمایا۔ (تا کہ مسجد میں شور و غل نہ ہو)

باب: حد میں منہ پر مارنے کا بیان

۱۰۷۸: ابوالکامل ابووانہ ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی شخص کو (ادب کے سکھانے کے لئے) مارے تو منہ کو بچائے (یعنی منہ پر نہ مارے)۔

باب: تعزیر کا بیان

۱۰۷۹: قتیبہ بن سعید لیث 'یزید بن ابی حبیب' بکیر بن عبد اللہ سلیمان بن یسار عبد الرحمن جابر بن عبد اللہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے علاوہ (بطور تعزیر) دس کوڑوں سے زیادہ نہ لگائے جائیں۔

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحَيْنِ فَحَتَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابُ ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِعَالِيهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمْ ارْفَعُوا أَرْفَعُوا فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدِيثَيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَثَبَتْ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ۔

بَاب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ

۱۰۷۷: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ زُفَرِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُشَدَّ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تَقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ۔

بَاب فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِّ

۱۰۷۸: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ۔

بَاب فِي التَّعْزِيرِ

۱۰۷۹: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ

جَلَدَاتِ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
 ۱۰۸۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
 أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بَكْرِ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنْ
 سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
 جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ
 يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَاذْكُرْ مَعَاهُ -

۱۰۸۰: احمد بن صالح، ابن وهب، عمرو بکیر بن الاشج، سلیمان بن یسار، عبد الرحمن بن جابر، حضرت ابوبردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے۔ پھر انہوں نے پہلی روایت جیسی روایت بیان فرمائی۔

أَوَّلُ كِتَابِ الدِّيَاتِ

دیات کا بیان

باب: جان کے عوض جان لینا

۱۰۸۱: محمد بن علاء، عبد اللہ بن موسیٰ، علی بن صالح، سماک بن حرب، عکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر میں سے کوئی آدمی قبیلہ بنو نضیر زیادہ باعزت تھا جو جس وقت قبیلہ بنی قریظہ میں سے کوئی آدمی بنو نضیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے عوض (بنو قریظہ میں بطور قصاص ایک شخص قتل کر دیا جاتا) اور جب قبیلہ بنو نضیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو (قاتل) ایک سو سو تک مجبوراً یہ ادا کر کے رہا کر لیا جاتا۔ جب آنحضرت کی بعثت ہوئی تو قبیلہ بنو نضیر کے ایک آدمی نے بنو قریظہ کے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ قاتل کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم لوگ اس کو قتل کریں (قبیلہ بنو نضیر نے حسب سابق قاتل کو دینے سے انکار کر دیا) پھر ان لوگوں نے کہا کہ نبی کی خدمت میں لے چلو آپ جو فیصلہ فرمائیں اس کو تسلیم کر لو یہ تمام لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اس پر یہ آیت کریمہ: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ نازل ہوئی یعنی اے نبی اگر آپ یہودیوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو عدل و انصاف سے فیصلہ فرمائیں عدل یہ ہے کہ جان کے عوض جان لی جائے پھر یہ آیت نازل ہوئی: افْحْكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ یعنی کیا وہ لوگ جاہلیت کے حکم کو پسند کرتے ہیں۔

باب النفس بالنفس

۱۰۸۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
 يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ
 بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ
 قُرَيْظَةٌ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ
 قُرَيْظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ
 النَّضِيرِ قَتَلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ
 رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَوَدِيَ بِمَانِيَةٍ وَسَقِيَ مِنْ تَمْرٍ
 فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ
 رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا
 ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّوَهُ فَتَزَلَّتْ وَإِنْ
 حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ
 النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ افْحْكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ
 يَبْغُونَ -

باب: بھائی یا والد کے قصور کرنے کی وجہ سے بھائی یا

بیٹے پر گرفت نہیں کی جائے گی

۱۰۸۲: احمد بن یونس، عبید اللہ بن ایاد حضرت ابو رمضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ حضرت رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آنحضرت ﷺ نے میرے والد سے فرمایا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میرے والد ماجد نے فرمایا جی ہاں۔ قسم ہے بیت اللہ شریف کے پروردگار کی۔ آپ نے فرمایا: سچ؟ میرے والد نے جواب دیا بلاشبہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ مسکرائے اس لئے کہ میں کھلے طور پر والد کے ہم شکل تھا اور پھر میرے والد نے قسم کھائی کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا خبردار! نہ وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے پکڑا جائے گا اور نہ تم سے اس کے گناہ میں مواخذہ ہوگا اور نبیؐ نے آیت: **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تلاوت فرمائی۔

باب: اگر حاکم صاحب حق کو خون کی معافی کا

حکم دے

۱۰۸۳: موسیٰ بن اسماعیل، حماد محمد بن اسحاق، حارث سفیان، ابو شریح خزاعی سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص پر قتل کی آفت پڑ جائے یا جسم کے کسی عضو کے کاٹنے کی (مصیبت پڑ جائے) تو اس شخص کو تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے یا قصاص (یعنی جان کے بدلے جان لے) یا معاف کر دے یا دیت وصول کرے۔ پھر اگر وہ شخص ان کے علاوہ کوئی چوتھی بات اختیار کرنا چاہے تو اس شخص کے ہاتھوں کو پکڑ لو (یعنی اس کو وہ بات کرنے سے باز رکھو) اور جو شخص حد سے تجاوز کرے تو ایسے شخص کیلئے دردناک عذاب ہے۔

۱۰۸۴: موسیٰ بن اسماعیل، عبد اللہ بن بکر، عطاء بن ابی میمونہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ جب بھی آپ کی خدمت میں کوئی ایسا مقدمہ پیش ہوتا جس

باب لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةٍ

أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

۱۰۸۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِبَادٍ حَدَّثَنَا إِبَادٌ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي أَنْبِكَ هَذَا قَالَ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ حَقًّا قَالَ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ فَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبًا مِنْ بَيْتِ شَيْبَى فِي أَبِي وَمِنْ حَلِيفِ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔

باب الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ

فِي الدَّمِ

۱۰۸۳: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلِي أَوْ جَلْبِي فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَفْتَضَّ وَإِمَّا أَنْ يُعْفُو وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَيَّ يَدِيهِ وَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

۱۰۸۴: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ

میں قصاص لازم ہو تو آپ معاف کرنے کا حکم فرماتے (یعنی مقتول کے وراثت سے قاتل کو معاف کرنے کی ترغیب فرماتے)

۱۰۸۵: عثمان بن ابی شیبہ ابو معاویہ اعمش، الوصالح، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی دوزخ میں قتل کر دیا گیا اور آپ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا (تو آپ نے قاتل کو مقتول کے وراثت کے سپرد فرمایا۔ قاتل نے عرض کیا یا رسول اللہ! واللہ میں نے مقتول کو قتل کرنے کے ارادہ سے قتل نہیں کیا۔ رسول کریم ﷺ نے مقتول کے وارث سے فرمایا دیکھو! اگر یہ شخص سچا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ بات سن کر اس شخص نے قاتل کو چھوڑ دیا اس (قاتل) کے دونوں ہاتھ تھے سے بندھے ہوئے تھے وہ اپنے تمہ کو کھینچتا ہوا نکلا اس دن سے قاتل کا نام ذَا النَّسْعَةِ یعنی تمہ والا پڑ گیا۔

۱۰۸۶: عبید اللہ بن میسرہ یحییٰ بن سعید عوف حمزہ علقمہ بن وائل وائل بن حجر سے مروی ہے کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک قاتل آیا کہ جس کی گردن میں تمہ بندھا ہوا تھا۔ آپ نے مقتول کے وارث کو طلب فرمایا اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا کیا تم معاف کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم دیت لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا پھر اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا: ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کو (قاتل کو) لے جاؤ جس وقت وہ لے کر چلے گا تو آپ نے فرمایا تم اس کو معاف کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا تم دیت لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا قاتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کو (یعنی قاتل کو) لے جاؤ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا دیکھو! اگر تم اس کو معاف کر دو گے تو وہ اپنا گناہ اور مقتول کا گناہ دونوں اپنے اوپر اٹھائے گا۔ یہ سن کر مقتول شخص کے وارث نے اس کو چھوڑ دیا۔ وائل نے بیان کیا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ تمہ کھینچتے ہوئے جا رہا تھا۔

۱۰۸۷: عبید اللہ بن عمر بن میسرہ یحییٰ بن سعید جامع بن مطر علقمہ بن حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طریقہ سے مروی ہے۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ۔

۱۰۸۵: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَرَأَيْتُ الْمَقْتُولَ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلرَّوْلِيِّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجْرُو نِسْعَتَهُ فُسِمِيَ ذَا النَّسْعَةِ۔

۱۰۸۶: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجَشْمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِدِيُّ حَدَّثَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ بِي رَجُلٌ قَاتِلٌ فِي عُنُقِهِ النَّسْعَةُ قَالَ فَدَعَا وَرَأَيْتُ الْمَقْتُولَ فَقَالَ اتَّعَفُوْا قَالَ لَا قَالَ أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ أَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَلَمَّا وَرَأَيْتُ قَالَ اتَّعَفُوْا قَالَ لَا قَالَ أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ أَتَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِيْمِهِ وَإِنَّمِ صَاحِبِهِ قَالَ فَعَفَا عَنْهُ قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجْرُو النَّسْعَةَ۔

۱۰۸۷: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ

۱۰۸۸: محمد بن عوف طائی، عبدالقدوس، یزید بن عطاء، سماک، علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص خدمت نبوی میں ایک حبشی شخص کو لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اس شخص نے میرے بھتیجے کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے اس شخص سے دریافت فرمایا تم نے اس شخص کے بھتیجے کو کیسے قتل کیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اسکے سر پر کلباڑی ماری ہے (وہ مر گیا) لیکن میں نے اسکو جان سے مار دینے کے ارادہ سے نہیں مارا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال موجود ہے کہ جس سے تم اسکی دیت ادا کر سکو؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں تم کو چھوڑ دوں تو تم لوگوں سے سوال کر کے اسکی دیت جمع کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تیرے رشتہ دار تجھے مال دے دیں گے؟ اس نے کہا: نہیں۔ اس پر آپ نے اس آدمی سے (یعنی مقتول کے بچے سے) فرمایا اسکو لے جاؤ۔ وہ اس کو قتل کرنے کے ارادہ سے لے کر چل دیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اس شخص کو قتل کر دیا تو یہ بھی اسی جیسا ہو جائیگا یہ بات اس شخص نے سن لی (یعنی مقتول کے بچے نے) تو وہ شخص پھر اس حبشی کو لے کر حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یہ حاضر ہے جو چاہیں اسکے متعلق حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اسکو چھوڑ دو وہ شخص اپنا گناہ اور تمہارے بھتیجے کا گناہ اپنے سر پر لے کر دو رخ میں ہوگا۔ تو اس بات پر اس نے اس کو چھوڑ دیا (قتل نہیں کیا)۔

۱۰۸۹: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، محمد بن اسحاق، محمد بن جعفر زیاد (دوسری سند) وہب، احمد بن سعید، ابن وہب، عبدالرحمن بن ابوالزناد، عبدالرحمن بن حارث، محمد بن جعفر زیاد بن سعد بن ضمیرہ، حضرت عروہ بن زبیر اپنے والد سے اور دادا سے روایت کرتے ہیں اور وہ دونوں حضرات غزوہ حنین میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ موجود تھے۔ پھر ہم وہب کی حدیث کی طرف آتے ہیں کہ محکم بن جشامہ لیشی نامی شخص نے اسلام کے دور میں قبیلہ الشحج میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور یہ (سب سے) پہلی دیت ہے جس کا فیصلہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تو عیینہ نے اشجعی کی

مَطَرٍ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَايِلٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ۔
 ۱۰۸۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَبَّاجِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَشِيٍّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَتَلَ ابْنَ أُخِي قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ وَلَمْ أَرُدْ قَتْلَهُ قَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ أَقْرَأَيْتَ إِنْ أُرْسَلْتِكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَمَوَالِكَ يُعْطُونَكَ دَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ لِلرَّجُلِ لِحْذُهُ فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِنْهُ فَيَلْغُ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلَهُ فَقَالَ هُوَ ذَا فَمُرْ فِيهِ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلْهُ وَقَالَ مَرَّةً دَعَا يَوْمَ يَأْتِمُ صَاحِبِهِ وَإِلَيْهِ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قَالَ فَأُرْسَلُهُ۔

۱۰۸۹: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَانَ وَهُوَ مَحْضُورٌ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ فَدَخَلَهُ عُمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ إِنَّمَا قَالَ قُلْنَا يَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَلَمْ يَقْتُلُونِي سَمِعْتُ رَسُولَ

طرف سے گفتگو کی کیونکہ وہ قبیلہ غطفان میں سے تھا اور اقرع بن حابس نے محکم کی جانب سے گفتگو کی اس لئے کہ وہ خندق میں سے تھا تو کافی آوازیں بلند ہوئیں اور (دونوں فریق کی جانب سے گفتگو میں) شور وغل برپا ہوا، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اے عیینہ تم دیت نہیں لیتے ہو؟ عیینہ نے جواب دیا: نہیں اللہ کی قسم میں دیت نہیں لوں گا جس وقت تک کہ میں اس شخص کی عورتوں کو وہی تکلیف اور غم نہ پہنچاؤں جو میری عورتوں کو پہنچا ہے۔ پھر صدائیں بلند ہوئیں اور خوب لڑائی اور شور وغل برپا ہوا حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا اے عیینہ تم دیت قبول نہیں کرتے؟ عیینہ نے پھر اسی طریقہ سے جواب دیا یہاں تک کہ ایک شخص قبیلہ بنی لیث میں سے کھڑا ہوا کہ جس کو مکلیل کہا کرتے تھے وہ شخص اسلحہ باندھے ہوئے تھا اور ہاتھ میں (تلواری کی) ڈھال لئے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قتل کرنے والے شخص کے یعنی محکم کے شروع اسلام میں اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں دیکھتا ہوں جس طرح کچھ بکریاں کسی چشمہ پر پانی پینے کے لئے پہنچیں تو کسی نے پہلی بکری کو تو مار دیا کہ جس کی وجہ سے آخری بکری بھی بھاگ کھڑی ہوئی تو آپ اج ایک دستور بنا لیجئے اور کل اس کو ختم کر دیجئے۔ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا پچاس اونٹ اب ادا کرے اور پچاس اونٹ اس وقت ادا کرے جب ہم لوگ مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آئیں (چنانچہ آپ نے اس شخص سے دیت ادا کرائی) اور یہ واقعہ دوران سفر پیش آیا تھا محکم ایک طویل قد گندی رنگ کا شخص تھا وہ لوگوں کے کنارے بیٹھا تھا لوگ بیٹھے تھے کہ وہ بچتے بچاتے آنحضرت ﷺ کے سامنے آکر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے گناہ کیا ہے جس کی آپ کو اطلاع ملی ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں آپ میرے لئے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اسلام کے شروع زمانہ میں اس شخص کو اپنے اسلحہ سے قتل کیا ہے؟ اے اللہ! محکم کی مغفرت نہ کرنا آپ نے یہ بات باواز بلند فرمائی (راوی)

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِلُّ دَمُ
أَمْرٍ مُسْلِمٍ إِلَّا يَأْخُذُ ثَلَاثَ كُفْرٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ
أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ
فَوَاللَّهِ مَا زَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ
وَلَا أَحْبَبْتُ أَنْ لِي بِيَدِي بَدَلًا مِّنْهُ هَذَا بِي اللَّهِ
وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فِيمَ يَقْتُلُونِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ
عُفْمَانَ وَابُو بَكْرٍ تَرَكَمَا النُّخْمَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ ضَمِيرَةَ
الضَّمَيْرِيَّ ح وَأَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ وَأَحْمَدُ
بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ
سَمِعَ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضَمِيرَةَ السُّلَمِيَّ وَهَذَا
حَدِيثٌ وَهْبٍ وَهُوَ أَنَّهُ يُحَدِّثُ عُرْوَةَ بْنَ
الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مُوسَى وَجَدَهُ وَكَانَا شَهَدَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا نُمُّ
رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ وَهْبٍ أَنَّ مُحَلِّمَ بْنَ جَفَّامَةَ
اللُّبَيْيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعٍ فِي الْإِسْلَامِ
وَذَلِكَ أَوَّلُ غَيْرِ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ عِيْنَةُ فِي قَتْلِ الْأَشْجَعِيِّ
لِأَنَّهُ مِنْ غُطَفَانَ وَكَلَّمَهُ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ
دُونَ مُحَلِّمٍ لِأَنَّهُ مِنْ خِنْدِفٍ فَارْتَفَعَتْ
الْأَصْوَاتُ وَكَثُرَتْ الْخُصُومَةُ وَاللُّغَطُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِيْنَةُ أَلَا
تَقْبَلُ الْغَيْرَ فَقَالَ عِيْنَةُ لَا وَاللَّهِ حَتَّى أُدْخَلَ

عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحُزْنِ مَا أُذْخَلَ
عَلَى نِسَائِي قَالَ ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَابُ
وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّفْطُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْغَيْرَ
بِحَشَشِ كِي دُعَا فَرْمَانِي۔

فَقَالَ عِيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيضًا إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكْحِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلْتُ هَذَا فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ مَثَلًا إِلَّا غَنَمًا وَرَدَّتْ فَرُمِي أَوْلَاهَا فَتَفَرَّ آخِرُهَا اسْنُنُ
الْيَوْمِ وَغَيْرُ غَدَاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُونَ فِي فُورِنَا هَذَا وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى
الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طَوِيلُ آدَمٍ وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ فَلَمَّ يَزَالُوا حَتَّى تَخْلَصَ
فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي
بَلَّغَكَ وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَلْتَهُ بِسِلَاحِكَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ بِصَوْتِ عَلِ زَادَ أَبُو سَلَمَةَ فَقَامَ وَإِنَّهُ
لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَرَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ
ذَلِكَ۔

فرمان نبوی ﷺ کی وضاحت:

مذکورہ حدیث کے مجملہ ”شروع اسلام میں اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں دیکھتا ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام کا شروع
زمانہ ہے اگر قانون اسلام کے مطابق آپ قصاص میں اس شخص کو قتل کریں گے تو اس شخص کے دوسرے متعلقین جو کہ ابھی کافر ہیں
وہ اسلام نہیں لائیں گے۔ بعض حضرات نے مذکورہ حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں یہ کہا ہے کہ مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر آپ
قصاص نہیں لیں گے اور قتل کرنے والے سے دیت وصول کر کے اس کو معاف فرمادیں گے تو عرب کے دیگر قبائل مسلمان نہ ہوں
گے اور وہ اسلام سے نفرت اس بنیاد پر کریں گے کہ اسلام میں قاتل پر قصاص نہیں ہے پس یہ مثال صادق آئے گی کہ تم نے ایک
بکری جو کہ ریوڑ کے شروع میں تھی اس کو مار کر بقیہ ریوڑ کی تمام بکریوں کو بھگا دیا اور بکریوں کی دوسری مثال کا مطلب یہ ہے کہ اگر
آپ آج تو دیت وصول فرمائیں پھر آئندہ قاتل سے قصاص لیں تو سابقہ حکم منسوخ ہو جائے گا کیونکہ دیت ہمیشہ تو نہیں لی جائے
گی۔ واللہ اعلم

باب: مقتول کا ولی اگر دیت لینے پر رضامند ہو تو

باب وَلِيِّ الْعَمْدِ يَرْضَى

دیت دلائی جائے گی

بِالدِّيَةِ

۱۰۹۰: مسد بن مسرہد یحییٰ بن سعید ابن ابی ذئب سعید بن ابی سعید
حضرت ابوشریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی

۱۰۹۰: حَدَّثَنَا مُسَدُّ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي

سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شَرِيحٍ الْكُفَيْبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خَزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَيْلَ مِنْ هَذِيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قَيْلَ لَهُ بَعْدَ مَقَاتِلِي هَذِهِ قَيْلٍ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا۔

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قبیلہ خزاعہ والو! تم لوگوں نے قبیلہ ہذیل میں سے اس آدمی کو قتل کر دیا اور میں اس کو دیت ادا کروں گا تو پھر ہمارے اس حکم کے بعد جس کا بھی کوئی مقتول ہو تو لوگوں (ورثاء) کو دو اختیار حاصل ہیں یا تو وہ لوگ دیت وصول کریں ورنہ قاتل کو قتل کر دیں۔

قتل عمد میں قصاص ہے:

مذکورہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ قتل عمد ہو اور قتل کی مختلف اقسام ہیں جن کی مفصل بحث تنویر المحاشی شرح سر اجماع ص ۶ پر تفصیلی طور پر مذکور ہے۔

۱۰۹۱: عباس بن ولید ان کے والد اوزاعی یحییٰ (ذسری سند) احمد بن ابراہیم ابوداؤد حرب یحییٰ بن ابی کثیر ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہو تو اس شخص کو اختیار حاصل ہے یا (قاتل سے) دیت وصول کرے یا قصاص (جان کے بدلہ جان) لے یہ حکم سن کر ایک یمنی شخص جس کا نام ابوشاہ تھا اٹھا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم تحریر فرمادیں۔ عباس بن ولید (راوی) کہتے ہیں کہ ابوشاہ نے اکتب لی کے بجائے اکتبوا لئی کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو یہ حکم تحریر کر دو اور یہ احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ (اس شخص نے اس طرح کہا تھا) مجھے آنحضرت ﷺ کا خطبہ تحریر کر دو۔

۱۰۹۱: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَيْلَ لَهُ فَمَنْ قَيْلَ لَهُ بَعْدَ بَيْحِ النَّظْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُوَدَى أَوْ يُقَادَ فِقَامَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي قَالَ الْعَبَّاسُ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اكْتُبُوا لِي يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ۔

باب: قاتل سے دیت وصول کر کے قتل کرنا

۱۰۹۲: موسیٰ بن اسماعیل حماد مطر حسن حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جو کہ دیت وصول کر کے (قاتل کو) قتل کرے (یعنی ایسے شخص سے ضرور قصاص لیا جائے گا)۔

باب مَنْ يَقْتُلُ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

۱۰۹۲: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بَكَافِرٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دَفَعْنَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا أَخْلَوْا الدِّيَةَ۔

باب: زہر کھلانے والے شخص سے قصاص لیا جائے گا

یا نہیں؟

۱۰۹۳: یحییٰ بن حبیب، خالد بن حارث، شعبہ ہشام، انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت، آنحضرت کے پاس زہر آلود بکری لے کر آئی۔ آپ نے اس میں سے کھالیا پھر اس کو لوگ پکڑ کر نبی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے اس سے معلوم کیا کہ تم نے کس وجہ سے زہر ملایا؟ اس نے جواب دیا میں نے آپ کو جان سے مارنے کی نیت سے زہر ملایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی یہ کام نہیں کرنے دے گا یا آپ نے یہ فرمایا (اللہ تعالیٰ تم کو میرے اوپر مسلط نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ حکم فرمائیں تو ہم اس کو قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انس نے فرمایا پھر اس زہر کا اثر ہمیشہ میں آپ کے سوزھوں میں دیکھتا رہا۔

۱۰۹۴: داؤد بن رشید، عباد بن عوام (دوسری سند) ہارون بن عبد اللہ سعید بن سلیمان، عباد سفیان، حسین زہری، سعید حضرت ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودیہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک زہر آلود بکری بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کوئی الجھاؤ نہیں کیا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت مرحب نامی شخص کی ہمشرہ تھی کہ جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو (بکری کے گوشت میں) زہر ملا کر دیا تھا۔

۱۰۹۵: سلیمان ابن وہب، یونس ابن شہاب، جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ خیبر کی رہنے والی ایک یہودی عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری میں زہر ملایا اور نبی کی خدمت میں وہ (زہر آلود بکری) ہدیتاً بھیجی آپ نے اس میں سے (شانہ کا کچھ گوشت لے کر) کھالیا اور آپ کے ہمراہ کچھ صحابہ نے بھی کھالیا پھر آپ نے ان حضرات سے فرمایا تمہارا اٹھالو اور آپ نے اس عورت کے پاس کسی کو بھیج کر اسے طلب فرمایا پھر اس سے دریافت فرمایا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا۔ اس نے عرض کیا

بَابُ فِيمَنْ سَعَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ

فَمَا تَأْتِيهِ مِنْهُ

۱۰۹۳: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِئَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكَ عَلَيَّ ذَلِكَ أَوْ قَالَ عَلَيَّ فَقَالُوا أَلَا نَفَعَلَهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۱۰۹۴: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَادُ عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ هَارُونُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ شَاةً مَسْمُومَةً قَالَ فَمَا عَرَضَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ أُخْتُ مَرْحَبِ الْيَهُودِيَّةِ الَّتِي سَمَّتِ النَّبِيُّ ﷺ.

۱۰۹۵: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ثُمَّ

آپ کو یہ بات کس نے بتلائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے شانے نے بتلایا جو کہ میرے ہاتھ میں ہے (یعنی معجزہ کے طور پر خود دست کے گوشت نے بتلایا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے) اس عورت نے جواب دیا بلاشبہ میں نے زہر ملا یا۔ آپ نے دریافت فرمایا (زہر ملانے سے) تمہارا کیا مقصد تھا؟ اس عورت نے جواب دیا میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کو زہر نقصان نہیں دیگا اور اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو آپ کی طرف سے آرام مل جائیگا گھنٹی ہم سب آپ سے نجات حاصل کر لیجئے) تو نبیؐ نے اس عورت کا جرم معاف فرمادیا اور اس عورت کو کوئی سزا نہیں دی اور نبیؐ کے بعض صحابہ نہیں سے کہ جنہوں نے گوشت تناول کیا تھا وہ (زہر آلود گوشت کھانے کی وجہ سے) وفات پا گئے اور نبیؐ نے اسی زہر کی وجہ سے اپنے دونوں مومناہے کے درمیان سبکی لگوائی اور ابوہند نے گائے کے سینک اور چھری سے آپ کے سینکی لگائی اور ابوہند قبیلہ بنو بیاضہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔

۱۰۹۶: وہب بن بقیعہ خالد محمد بن عمرو ابوسلمہ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ کی خدمت میں ایک یہودی عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری ہدیا بھیجی۔ پھر انہوں نے حدیث کو اسی طریقہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ بشر بن براء بن معرور انصاریؓ صحابی اس گوشت کے تناول کرنے سے وفات پا گئے۔ آپ نے اس عورت کو بلایا اور دریافت فرمایا تم نے ایسا کس وجہ سے کیا؟ آگے جا بڑکی حدیث کی طرح بیان فرمایا۔ اسکے بعد آنحضرتؐ نے حکم فرمایا اور وہ عورت قتل کر دی گئی (یعنی حضرت بشر بن براء صحابی کے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا) اس روایت میں حجامت (سبکی) لگائے جانے کا تذکرہ نہیں ہے۔

باب: جو شخص اپنے غلام کو قتل کر دے یا اس کا کوئی عضو

کاٹ دے تو قصاص لیا جائے گا

۱۰۹۷: علی بن جعد شعبہ (دوسری سند) موسیٰ بن اسماعیل حماد قتادہ حسن سمرہ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا تو ہم بھی اس شخص کو قتل کر دیں گے اور جو شخص

قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْقَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاَهَا فَقَالَ لَهَا أَسَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ قَالَتْ الْيَهُودِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِلذَّرَاعِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ قَالَتْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتَوَفَّى بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الْإِدْيِ أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِبْنِي بِيَّاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ۔

۱۰۹۶: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بَخِيرَ شَاةٍ مُضَلِّيَّةً نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ قَمَاتَ بَشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ مَا حَمَلَتْكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتِلَتْ وَلَمْ يَذْكَرْ أَمْرُ الْحِجَامَةِ۔

باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد

منه

۱۰۹۷: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اپنے غلام کو جدرع کرے گا یعنی ناک، کان کاٹے گا) تو ہم بھی اس کو جدرع کریں گے (یعنی اس کے ناک، کان کاٹیں گے)

۱۰۹۸: محمد بن شئی، معاذ بن ہشام ان کے والد قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے غلام کو خضی کرے گا تو ہم بھی اس کو خضی کریں گے پھر شعبہ اور حماد کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوداؤد طیالسی نے اس حدیث کو ہشام سے معاذ کی روایت جیسی روایت نقل کی ہے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ۔

۱۰۹۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَضَى عَبْدَهُ خَضَيْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَحَمَادٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذٍ۔

منسوخ شدہ حکم بابت قصاص:

حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مذکورہ حکم منسوخ ہے کیونکہ آقا سے اس کے غلام کا قصاص نہیں لیا جاتا۔ تفصیل کے لئے بذل الجہود ملاحظہ فرمائیں بہر حال مندرجہ ذیل حدیث سے بھی مذکورہ حکم ناسخ ہونا واضح ہے۔

۱۰۹۹: حسن بن علی سعید بن عامر ابن ابی عمرو بن قتادہ سے اسی طرح روایت ہے البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر اس حدیث کے راوی حسن اس حدیث کو بھول گئے اور وہ کہنے لگے کہ آزاد شخص غلام کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا۔

۱۰۹۹: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ زَادَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ فَكَانَ يَقُولُ لَا يَقْتُلُ حُرًّا بِعَبْدٍ۔

۱۱۰۰: مسلم بن ابراہیم ہشام قتادہ حسن سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے۔

۱۱۰۰: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا يَقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ۔

۱۱۰۱: محمد بن حسن، محمد بن بکر، سوار، عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ انکے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک شخص چینٹا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اسکی باندی تھی۔ آپ نے فرمایا او بھلے مانس! تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا بہت بُرا ہوا میرے مالک کی ایک باندی تھی میں نے اسکو دیکھ لیا تو اس نے مارے غیرت کے میرا عضو مخصوص کو ادا کیا۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ اسے تلاش کیا گیا لیکن وہ مل نہ سکا اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! (اگر میرا مالک زبردستی مجھے غلام بنانا چاہے) تو میری کون

۱۱۰۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمِ الْعَتَكِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا سَوَّارُ أَبُو حَمَزَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مُسْتَضْرِحٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا لَكَ قَالَ شَرًّا أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةٌ لَهُ فَغَارَ فَجَبَّتْ مَذَاكِيرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

سَنَنْ اِبُو اَوْد جلد سوم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذْهَبُ فَاَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ مَنْ نَصَرْتَنِي قَالَ عَلَيَّ كُلِّ مُؤْمِنٍ۔

فخص امداد کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر ایک مسلمان شخص یا ہر ایک صاحب ایمان تمہاری امداد کرے گا۔

غلام آزاد کرنے کے لئے حکم کا اختیار:

اگر کوئی آقا اپنی باندی یا غلام کو بلاوجہ شرعی تکلیف پہنچائے یا انکی طاقت سے زیادہ کام لے تو حاکم کو اس غلام یا باندی کو آزاد کر دینا جائز ہے۔

الحمد للہ وبقضیہ پارہ نمبر: ۲۸ مکمل ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پارہ ۱۹

باب: قسامت کا بیان

باب القسامۃ

۱۱۰۲: عبید اللہ بن عمر محمد بن عبید حماد یحییٰ بشیر حضرت سہل بن ابی حمزہ اور حضرت رافع بن خدیج سے مروی ہے کہ حمیصہ بن مسعود اور عبد اللہ بن سہل خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور ایک نخلستان میں دونوں علیحدہ ہو گئے تو حضرت عبد اللہ بن سہل قتل کئے گئے ان کے متعلقین نے یہودیوں پر تہمت لگائی پھر ان کے بھائی عبد الرحمن بن سہل اور چچا زاد بھائی حمیصہ اور حمیصہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن جو چھوٹا بھائی تھا اس نے اپنے بھائی کے معاملہ میں آپ سے گفتگو کی تو آنحضرت ﷺ نے اس سے ارشاد فرمایا تم اپنے سے بڑے آدمی کی عظمت و احترام کرو یا تم اپنے سے بڑے شخص کو بات کہنے دو۔ پھر ان دونوں نے اپنے ساتھی کے بارے میں گفتگو کی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے پچاس شخص یہودیوں کے شخص پر قسم کھائیں (جس پر قتل کا شک ہو) پھر وہ اپنا گلا حوالے کر دے۔ ان لوگوں نے عرض کیا ہم نے تو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر ہم کس طرح قسم کھائیں گے آپ نے فرمایا پھر یہودیوں کے پچاس شخص قسم کھا کر اپنے آپ کو رہا کرالیں گے۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافر لوگ ہیں۔ راوی نے بیان کیا پھر آپ نے اپنی طرف سے ان کو دیت عطا فرمائی۔ سہل نے بیان کیا کہ میں ایک دن ان لوگوں کے اونٹ باندھنے کی جگہ گیا وہاں پر ایک اونٹ نے مجھے لات ماری۔ حماد نے بھی یہی یا اس قسم کی بات کہی ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بشر بن مفضل اور مالک نے یحییٰ بن سعید سے روایت کیا ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم لوگ پچاس قسمیں کھانے کے لئے تیار ہو اور اپنے قتل

۱۱۰۲: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحْيِصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ انْطَلَقَا قَبْلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَأَتَاهُمَا الْيَهُودُ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيْصَةَ وَمُحْيِصَةَ فَأَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أُخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُفْرُ الْكُفْرُ أَوْ قَالَ لِيَبْدَأُ الْاَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمِيهِ قَالُوا أَمْرُكُمْ نَشْهَدُهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتَبَرَّكُمْ يَهُودُ بَأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كَفَّارٌ قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِهِ قَالَ سَهْلٌ دَخَلْتُ مَرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَوَرَّكْتَنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكُضَةً بِرِجْلِهَا قَالَ حَمَادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بَشِيرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ اتَّحِلُّوْنَ

کرنے والے شخص کے خون کے مستحق بنتے ہو؟ بشر نے اپنی روایت میں دم کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ بشر کے علاوہ دوسرے راویوں نے بیچی سے حماد کی طرح روایت کیا ہے۔ ابن عیینہ نے بیچی سے تو رسول اللہ ﷺ کے اس قول سے ابتدا کی: یہودی پچاس قسمیں کھا کر تم سے اپنے آپ کو چھڑالیں گے اور انہوں نے خون کے استحقاق کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ یہ ابن عیینہ کا وہم ہے۔

خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بَشَرًا دَمًا وَقَالَ عَبْدُهُ عَنْ يَحْيَى كَمَا قَالَ حَمَادُ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى لَبَدًا بِقَوْلِهِ تَبَرُّكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَخْلِفُونَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْاِسْتِحْقَاقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهُمْ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

قسامت کی وضاحت:

جس وقت کسی قتل کئے گئے شخص کی نعش کسی محلہ میں پڑی ملے اور اس کے قاتل کے بارے میں معلوم نہ ہو تو جن اہل محلہ پر قتل کرنے کا الزام ہو ان سے پچاس قسم لیں گے اگر اہل محلہ پچاس افراد سے کم ہوں تو ان سے ہی دوبارہ سہ بارہ قسمیں لے کر پچاس قسمیں پوری کریں گے شریعت میں اسی کا نام قسامت ہے۔ واضح رہے کہ یہ احکام یاد دیگر حدود پر دیت کے احکام دارالاسلام میں جاری ہوں گے۔

۱۱۰۳: احمد بن عمرو ابن وہب مالک ابویسی حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم کے بزرگوں سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سہل اور حمیصہ کسی پریشانی کی بنا پر خیبر کی طرف نکل گئے؟ پھر حمیصہ واپس آئے اور بتایا کہ عبداللہ بن سہل کو قتل کر دیا گیا ہے اور انہیں کسی گڑھے یا چشمہ میں پھینک دیا گیا ہے۔ پھر وہ یہودیوں کے پاس آئے اور کہا اللہ کی قسم تم نے ہی اس کو قتل کیا ہے انہوں نے بیان کیا تو وہ ان کے بڑے بھائی حمیصہ اور عبدالرحمن بن سہل خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ حمیصہ نے یہ پورا واقعہ بیان کرنا شروع کیا اور یہ خیبر میں تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا عمر کے لحاظ سے بزرگی قائم رکھو بزرگی قائم رکھو اس کے بعد حمیصہ نے بیان کیا پھر حمیصہ نے بھی بیان کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا یا تو یہ لوگ دیت ادا کر دیں یا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سلسلہ میں خط لکھا۔ ان لوگوں نے اس خط کا یہ جواب تحریر کیا کہ اللہ کی قسم ہم لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیصہ اور حمیصہ اور عبدالرحمن سے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ قسم کھا کر اپنے بھائی کے خون کا قصاص وصول کرو گے تو انہوں نے عرض کیا نہیں پھر

۱۱۰۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرَجُلَانِ مِنْ كِبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَوَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ فَاتَى مُحَيِّصَةَ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي قَفِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَاتَى يَهُودَ فَقَالَ أَيْتُمُ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةَ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةَ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِمَّا أَنْ يَدُؤَا صَاحِبِكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤَدُّوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

آپ نے ارشاد فرمایا یہودی لوگ تمہارے لئے قسم کھائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں پھر آپ نے اپنی طرف سے ایک سو اونٹنیاں بطور دیت عطا فرمائیں۔ یہاں تک کہ وہ اونٹنیاں ان کی گھروں میں ان کے پاس پہنچ گئیں۔ سہل نے بیان کیا ان ہی میں سے ایک لال رنگ کی اونٹنی نے میرے لات ماری تھی۔

۱۱۰۴: محمود بن خالد کثیر بن عبید (دوسری سند) محمد بن صباح سفیان ولید ابو عمرو عمرو بن شعیب اپنے اور وہ انکے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی نے قسامت میں ایک شخص کو بحرۃ الرغاء میں سمندر کے کنارے قتل کیا جو کہ قبیلہ بنی نصر بن مالک سے تھا راوی کہتے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں کا تعلق اسی قبیلہ سے تھا اور یہ محمود بن خالد کے الفاظ ہیں۔ بحرۃ کالغظ صرف محمود نے کہا ہے۔ لیلۃ البحر کے کنارے پر۔

حرة الرغاء اور لیلۃ البحر قتل عمد میں قصاص لازم ہے:

حرة الرغاء ایک گاؤں کا نام ہے اور لیلۃ البحر ایک پہاڑی کا نام ہے جو شہر طائف میں واقع ہے بعض حضرات نے کہا کہ لیلۃ ایک وادی کا نام ہے۔

مذکورہ حدیث منقطع ہے اور اس حدیث کی سند کمزور ہے بہر حال قتل عمد میں بہر صورت قصاص واجب ہوتا ہے اس مسئلہ میں ائمہ رحمۃ اللہ علیہم کا اختلاف ہے بذل المجموعہ میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔

باب: قسامت میں قصاص ترک کرنے کا بیان

۱۱۰۵: حسن بن محمد ابو نعیم سعید بشیر بن یسار سے مروی ہے کہ ایک شخص نے انصار میں سے جس کا نام سہل بن ابی حمزہ تھا ان سے بیان کیا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے پھر وہاں پر پہنچ کر (تمام لوگ) علیحدہ علیحدہ ہو گئے پھر ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قتل کر دیا گیا۔ جس جگہ وہ شخص مقتول ہونے کی حالت میں ملا تھا وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہم اس کے قاتل سے واقف ہیں۔ اس کے بعد ہم تمام لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم گواہ پیش کرو اس شخص پر کہ جس نے اس کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے جواب دیا ہمارے پاس گواہ موجود نہیں۔ آپ نے

باب فی ترک القود بالقسامۃ

۱۱۰۵: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِبِيِّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَقَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا فَقَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَأَنْطَلَقْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ هَذَا قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ

فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ قَالُوا لَا نَرْضَىٰ بِإِيمَانِ الْيَهُودِ
فَكِرَةٌ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطَلَ
دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ۔

فرمایا پھر وہ لوگ (یعنی جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ انہوں
نے قتل کیا ہے) تمہارے واسطے قسم کھائیں گے۔ ان لوگوں نے جواب
دیا کہ ہم لوگ یہود کے حلف کرنے پر رضامند نہیں ہوں گے۔ رسول
اللہ ﷺ کو یہ برا لگا کہ اس شخص کا خون برباد ہو جائے (یعنی نہ تو قاتل
سے قصاص لیا جائے اور نہ دیت وصول کی جائے) آپ نے زکوٰۃ کے
اؤنٹ میں سے ایک سو اؤنٹ اس کی دیت میں ادا کئے۔

۱۱۰۶: حسن بن علی، ہشیم، ابو حیان، عباده بن رفاعہ، حضرت رافع بن
خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی خیبر میں
قتل کیا گیا تو اس شخص کے ورثاء خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ
سے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا تمہارے پاس دو ایسے
شاہد موجود ہیں جو کہ تم لوگوں کے ساتھی کے قتل کئے جانے کی شہادت
دیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہاں پر تو مسلمانوں میں
سے کوئی موجود نہیں تھا اور وہ تو تمام کے تمام یہودی ہیں اور لازمی طور پر
وہ لوگ اس سے زیادہ بڑے کام کی جرأت کر سکتے ہیں۔ آپ نے
ارشاد فرمایا تم لوگ ان لوگوں میں سے پچاس آدمی منتخب کر لو اور ان سے
قسم کھلو اور اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا پھر آپ نے اس کی دیت اپنی
طرف سے ادا فرمائی۔

۱۱۰۷: عبد العزیز بن یحییٰ، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاق، محمد بن ابراہیم، عبد
الرحمن بن بجید سے مروی ہے کہ سہل نے اس حدیث میں وہم کیا۔ اصل
بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کو تحریر کیا کہ تم لوگوں کے
درمیان ایک مقتول ملا ہے تو اب تم لوگ اس مقتول کی دیت ادا کرو۔
ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ پچاس قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم
لوگوں نے اس شخص کو نہ قتل کیا اور نہ ہی ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔
پھر آنحضرت ﷺ نے اس شخص کی دیت اپنے پاس سے ادا فرمائی
(روایت میں) ایک سو اؤنٹ ادا فرمائے۔

۱۱۰۸: حسن بن علی، عبدالرزاق، معمر زہری، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن
اور سلیمان بن یسار انصار حضرات سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت

۱۱۰۶: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَافِعٍ أَخْبَرَنَا
هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا عَبَّادَةُ بْنُ
رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ فَأَنْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ
فَقَالَ لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَيَّ قَتَلَ
صَاحِبَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ أَحَدٌ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ وَقَدْ يَجْتَرُونَ
عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا قَالَ فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ
خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ فَأَبَوْا فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ۔

۱۱۰۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّابِيُّ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ إِنَّ سَهْلًا وَاللَّهِ أَوْهَمَ
الْحَدِيثِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى يَهُودِ أَنَّهُ قَدْ
وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَوَدَاهُ فَكَبَرُوا يَحْلِفُونَ
بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا
قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ۔

۱۱۰۸: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي

ﷺ نے پہلے یہود سے فرمایا تم لوگوں میں سے پچاس اشخاص حلف لیں انہوں نے انکار کیا۔ پھر حضرت رسول کریم ﷺ نے انصار سے فرمایا تم لوگ اپنا حق (حلف کر کے) ثابت کرو۔ ان لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم لوگ غیب کی بات پر قسمیں کھائیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے یہود سے ان کی دیت ادا کرانی کیونکہ اس کی لاش ان لوگوں کے ہاں (پاس) سے ملی تھی۔

باب: کیا جس طرح قاتل نے پتھر وغیرہ سے قتل کیا اسی طریقہ سے اسے بھی قتل کیا جائے

۱۱۰۹: محمد بن کثیر، ہام، قنادر، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک لڑکی اس طرح پائی گئی کہ اس کا سر دو پتھروں سے چل دیا گیا تھا تو اس سے معلوم کیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں فلاں شخص نے یہاں تک کہ اس یہودی کا بھی نام لیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کر کے بتایا۔ پھر اس یہودی کو پکڑ کر لایا گیا تو اس نے اقرار کیا اور آنحضرت ﷺ نے اس (یہودی) کا بھی سر کچلنے کا حکم فرمایا۔

۱۱۱۰: احمد بن صالح، عبدالرزاق، معمر، ابو قلابہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص نے انصار کی کسی لڑکی کو اس کے زیور کی وجہ سے جان سے مار ڈالا اور پھر اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور اس کا سر پتھروں سے چل ڈالا پھر وہ شخص پکڑا گیا اور آپ کے روبرو پیش کیا گیا آپ نے اس کے رجم کرنے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ وہ شخص مر جائے تو اس شخص کو سنگسار کیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ ابوداؤد فرماتے ہیں ایوب سے ابن جریج نے اسی طریقہ پر روایت کیا ہے۔

۱۱۱۱: عثمان بن ابی شیبہ، ابن ادریس، شعبہ، حضرت ہشام بن زید اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انصار کی ایک لڑکی زیور پہنے ہوئے تھی اس لڑکی کو ایک یہودی شخص نے پکڑ لیا اور پتھر سے اس کا چل دیا پھر نبی ﷺ اس لڑکی کے پاس تشریف لے گئے اور ابھی اس کی زندگی کی کچھ رمت باقی تھی۔ آپ نے اس سے معلوم کیا تمہیں کس نے قتل کیا ہے کیا فلاں فلاں شخص نے؟ اس لڑکی نے اپنے سر کے اشارہ سے بتلایا کہ نہیں۔ پھر

سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا فَأَبَوْا فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ اسْتَحِقُّوا قَالُوا نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَّةً عَلَى يَهُودٍ لِأَنَّهُ وَجَدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ۔

باب أَيَقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ بِحَجَرٍ أَوْ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ

۱۱۰۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَامٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةَ وَجَدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَعِيلَ لَهَا مِنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا أَفْلَانُ أَفْلَانُ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْضَّ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ۔

۱۱۱۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيِّ لَهَا ثُمَّ أَلْفَاهَا فِي قَلْبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَخَذَ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ۔

۱۱۱۱: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةَ كَانَتْ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَرَضَخَ رَأْسَهَا يَهُودِيًّا بِحَجَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا مَنْ قَتَلَكَ فَلَانٌ قَتَلَكَ فَقَالَتْ لَا بِرَأْسِهَا قَالَ مَنْ

فَلَنْ قَتَلَ فُلَانٌ قَتَلَكَ قَالَتْ لَا بِرَأْسِهَا قَالَ فُلَانٌ قَتَلَكَ قَالَتْ نَعَمْ بِرَأْسِهَا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقِئَ بَيْنَ حَجْرَيْنِ۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ کیا فلاں شخص نے تمہیں قتل کیا ہے؟ پھر اس لڑکی نے اپنے سر کے اشارے سے انکار کیا پھر آپ نے اس لڑکی سے تیسری مرتبہ دریافت فرمایا کہ کیا فلاں شخص نے تمہیں قتل کیا ہے؟ اس لڑکی نے اپنے سر کے اشارے سے بتلایا جی ہاں۔ پھر آپ نے اس لڑکی کے قاتل کے بارے میں حکم فرمایا اور اسے دو پتھروں کے درمیان کچل کر قتل کر دیا گیا۔

حنفیہ کے نزدیک قصاص صرف تلوار سے لینا درست ہے:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصاص ہمیشہ تلوار سے لیا جائے گا چاہے قاتل مقتول کو کسی دھار والے آلہ یا کسی بھی طریقہ سے قتل کرے گویا تلوار کے علاوہ کسی دیگر چیز سے قصاص لینا درست نہیں ہے۔ ان کی دلیل طحاوی شریف کی حدیث ((لَا قَوْلًا إِلَّا بِالسَّيْفِ)) ہے یعنی تلوار کے علاوہ کسی چیز سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور باقی تینوں ائمہ کے نزدیک تلوار کے علاوہ سے بھی قصاص درست ہے یعنی جس چیز یا جس طریقہ سے قاتل قتل کرے تو اس کو بھی اسی طریقہ سے قتل کیا جائے گا ان حضرات کی دلیل مذکورہ حدیث نمبر ۱۱۱۱ ہے حنفیہ نے اس حدیث کے مختلف جوابات دیئے جس کی تفصیل بذیل المجموعہ میں مذکور ہے۔

باب: مسلمان کو کافر کے بدلے قتل کئے جانے کا بیان

۱۱۱۲: احمد بن حنبل، مسدد یحییٰ، سعید قتادہ، حسن، قیس بن عباد سے مروی ہے کہ میں اور اشتر بن مالک علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا گیا حضور اکرم ﷺ نے آپ کو کوئی خاص حکم ارشاد فرمایا جو دوسروں سے نہ فرمایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں سوائے اس کے جو میری کتاب میں ہے مسدد کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ایک کتاب نکالی امام احمد فرماتے ہیں کہ اپنی تلوار کے غلاف سے نکالی۔ اس میں یہ تحریر تھا کہ تمام اہل اسلام کا خون برابر ہے ہر ایک مسلمان شخص دوسرے مسلمان کے عوض قتل کیا جائے گا اور وہ ایک ہاتھ ہیں اپنے غیر (کافر) پر اور ان کا ادنیٰ آدمی بھی ان کے عہد و پیمان کا ذمہ دار ہوگا۔ خبردار کوئی صاحب ایمان شخص کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے نہ ذمی اپنے اقرار میں۔ اور جو شخص دین میں نئی بات پیدا کرے تو اس کا گناہ اسی کو ہوگا اور جو شخص دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا کسی نئی بات کرنے والے کو اپنے پاس جگہ (پناہ دے) تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مسدد ابی عروبہ سے روایت کرتے کہ انہوں نے ایک کتاب نکالی۔

بَابُ اَيْقَادِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ

۱۱۱۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْطَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْنَا هَلْ عَهْدٌ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُوا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ إِلَّا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحَدَتْ حَدَّثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحَدَتْ حَدَّثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا۔

ذمی کے بدلہ مسلمان کو قتل کرنا:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی ذمہ کا فر یعنی اس کافر کے جو کہ دارالاسلام میں جزیہ ادا کر کے رہتا ہو اس کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا وہ مسلمان اس ذمی کے بدلہ قتل کیا جائے گا دلیل یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا: ((دمائهم کدمائنا و اموالهم کاموالنا))۔

۱۱۱۳: عبید اللہ بن عمرو، ہشیم، یحییٰ، عمرو بن شعیب اپنے والد اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی نے مندرجہ بالا حدیث کی طرح روایت بیان فرمائی البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ان لوگوں میں سے معمولی شخص پناہ دے سکتا ہے اور مال غنیمت میں عمدہ جانور اور کمزور جانور والا برابر ہوگا اور جو شخص لشکر سے باہر نکلے اور جنگ کرے اور جو لشکر ہی میں بیٹھا رہے (وہ بھی مال غنیمت میں برابر حصہ کا حقدار ہوگا)

باب: جو شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر شخص کو پائے
کیا وہ اس شخص کو قتل کر دے

۱۱۱۳: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَلِيِّ زَادَ فِيهِ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيَرُدُّ مُشَدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمَتَسَّرِيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ۔

باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ

رَجُلًا أَيْقَتَلَهُ

۱۱۱۴: قتیبہ بن سعید، عبد الوہاب، عبد العزیز بن محمد، سہیل، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی غیر آدمی کو دیکھے تو کیا وہ شخص اس آدمی کو مار ڈالے؟ آپ نے فرمایا نہیں پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو عزت عطا فرمائی حق کے ساتھ (یعنی میں اس آدمی کو قتل کروں گا) آنحضرت ﷺ نے فرمایا سنو! تم لوگوں کے سردار کیا کہتے ہیں راوی عبد الوہاب نے بیان کیا آپ نے فرمایا دیکھو سعد کیا کہہ رہے ہیں (غیرت دلانے کے لئے بھی)

۱۱۱۴: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ نَجْدَةَ الْخَوْطِيُّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتَلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ سَعْدُ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا إِلَيَّ مَا يَقُولُ سَبِّدْكُمْ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِلَيَّ مَا يَقُولُ سَعْدُ۔

۱۱۱۵: عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، سہیل، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں عرض کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پاؤں تو کیا میں اس کو مہلت دوں چار گواہ اکٹھا کرنے تک؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں (ضرور)

۱۱۱۵: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَمْهَلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اظہارِ غیرت:

حضرت سعد نے پھر فرمایا رسول اللہ میں تو ایسے شخص کو اسی وقت قتل کر ڈالوں گا۔ یہ سن کر آپ نے انصار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا دیکھو تم لوگوں کے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ اور مجھ کو ان سے بھی زیادہ غیرت ہے یعنی ایسا شخص واجب القتل ہے یہ غیرت کا تقاضا ہے۔

باب: اگر عامل کے ہاتھ سے غلطی سے کسی کے چوٹ لگ جائے؟

بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيْهِ خَطَاً

۱۱۱۶: محمد بن داؤد عبد الرزاق، معتمر زہری، عروہ عائشہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے ابوہم بن حذیفہ کو صدقہ وصول کرنے کے لئے روانہ فرمایا ایک شخص نے اپنا صدقہ ادا کرنے کے سلسلہ میں ان سے لڑائی کی تو ابوہم نے اس شخص کی پٹائی کر دی۔ اس شخص کا سر پھٹ گیا۔ اس پر اسکے متعلقین خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ (ابوہم سے) قصاص دلوائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس قدر مال وصول کر لو۔ وہ لوگ اس بات پر رضامند نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس قدر مال قبول کر لو (لیکن) وہ لوگ رضامند نہیں ہوئے آپ نے فرمایا تو اس قدر مال لے لو وہ لوگ رضامند ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں آج تیسرے پہر لوگوں کے سامنے خطبہ دوں گا اور ان لوگوں کو تمہاری رضامندی کے بارے میں بتاؤنگا ان لوگوں نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا قبیلہ لیث میں سے یہ لوگ میرے پاس قصاص لینے کے مقصد سے آئے۔ میں نے ان لوگوں کو اس قدر مال ادا کرنے کا وعدہ کیا تو وہ لوگ تیار ہو گئے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا: کیا تم راضی ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ مہاجرین نے ان لوگوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے مہاجرین کو روکے رکھا وہ لوگ رکے رہے۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو طلب فرمایا اور کچھ زیادہ مال ادا کرنے کیلئے فرمایا پھر ان لوگوں سے دریافت فرمایا کیا تم لوگ رضامند ہو گئے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ہم لوگ رضامند ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کے سامنے خطبہ دوں گا اور ان لوگوں کے سامنے تم لوگوں کی

۱۱۱۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ بِنَ حُدَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَهُ رَجُلٌ فِي صَدَقِيهِ فَضْرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا الْقَوْدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَاطِبُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيْنَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوْدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرْضِيْتُمْ قَالُوا لَا فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْفُوا عَنْهُمْ فَكَفُوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَرَادَهُمْ فَقَالَ أَرْضِيْتُمْ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ إِنِّي خَاطِبُ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْضَيْتُمْ قَالُوا نَعَمْ۔
 رضامندی بیان کروں گا ان لوگوں نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ آپ نے
 لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان لوگوں سے دریافت فرمایا کیا تم لوگ
 رضامند ہو گئے ان لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں۔

بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الْأَمِيرِ مِنْ

باب: مارنے پینے کی وجہ سے قصاص لینا اور حاکم کو

اپنے سے قصاص دلانے کا بیان

نَفْسِهِ

۱۱۱۷: احمد بن صالح، ابن وہب، عمر، بکیر، عبادہ، حضرت ابوسعید خدری
 رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کو کچھ تقسیم فرما
 رہے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور آپ کے اوپر اوندھا کرنے لگا۔
 آپ نے ایک لکڑی سے اس شخص کو ٹھوکا دیا جو آپ کے پاس تھی تو لکڑی
 اس شخص کے چہرہ پر لگی اور اس کے زخم ہو گیا۔ آپ نے اس شخص سے
 فرمایا آؤ مجھ سے قصاص لو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے
 آپ کو معاف کر دیا۔

۱۱۱۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
 عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ
 الْأَشَّجِ عَنْ عَبْدِ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ
 قَسْمًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بَوَجْهِهِ فَقَالَ
 لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ فَقَالَ بَلْ
 عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ۔

۱۱۱۸: ابوصالح، ابوالفتح جریری، ابونضر، حضرت ابو فراس سے مروی ہے
 کہ عمر فاروق نے خطبہ دیا تو فرمایا میں اپنے عاملین کو اس وجہ سے نہیں
 بھیجتا کہ وہ لوگ تم لوگوں کے بدن کو ماریں یا تم لوگوں کے مال وصول
 کریں اگر کوئی شخص ایسا کرے تو تم میرے پاس اس کا معاملہ پیش کرنا
 میں اس سے انتقام لوں گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے
 جواب دیا کہ اگر کوئی عامل اپنی رعایا کو کچھ سزا دے تو آپ اس کا بدلہ
 اس شخص سے لیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اس ذات
 کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تو بدلہ لوں گا۔ اور میں نے
 آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہے آپ نے اپنی ذات سے قصاص دلویا۔

۱۱۱۸: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ
 الْفَرَارِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي
 فِرَاسٍ قَالَ خَطَبْنَا عَمْرًا بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي
 لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا
 لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعَهُ
 إِلَيَّ أَقْصُهُ مِنْهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَوْ أَنَّ
 رَجُلًا أَذَبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتَقْصُهُ مِنْهُ قَالَ إِي
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَقْصُهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْصَّ مِنْ نَفْسِهِ۔

باب: خواتین بھی قصاص معاف کر سکتی ہیں

بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِّ

۱۱۱۹: داؤد بن رشید، ولید، اوزاعی، حسن، ابوسلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ
 رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لڑائی
 کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ قصاص لینے سے باز رہیں پہلے

۱۱۱۹: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ
 الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ
 يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ عَلَى

المُقْتَلِينَ أَنْ يَنْحَجِرُوا الْأَوَّلَ فَلَاوَلَّ وَإِنْ كَانَتْ
 امْرَأَةٌ قَالَتْ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي
 الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْأَوْلِيَاءِ وَبَلَغَنِي عَنْ
 أَبِي عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ يَنْحَجِرُوا يَكْفُوا عَنِ الْقَوْدِ۔

قصاص معاف کرنا اولیٰ ہے:

مطلب یہ ہے کہ اگر مقتول کی وارث کوئی خاتون ہو تو وہ بھی معاف کر سکتی ہے بعض علماء نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جو
 مسلمان آپس میں لڑائی کریں ان کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ انتقام نہ لیں بلکہ اچھا یہ ہے کہ درگزر سے کام لیں۔ بعض حضرات نے یہ
 مفہوم بیان کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء قصاص لینا چاہیں یا قاتل کے ورثاء قصاص نہ دینا چاہیں تو اس صورت میں
 مقتول کے ورثاء کو قصاص کے معاف کرنے کی ترغیب دے کہ قصاص معاف کر دو۔

۱۱۲۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ
 حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ
 عَمْرٍو عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ مَنْ قُتِلَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّاءِ رَمِي
 يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسَّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ
 بَعْضًا فَهِيَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَا وَمَنْ قُتِلَ
 عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَوْدٌ يَدُ تَمَّ اتَّفَقَا وَمَنْ
 حَالَ دُونَهُ لَعَلَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَضْبُهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ
 صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَمَّ۔

قتل خطا:

مطلب یہ ہے کہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص کا پتھر دوسرے شخص کے لگ گیا اور وہ شخص ہلاک ہو گیا۔
 ۱۱۲۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
 بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَيْسِرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٍو
 بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ۔

باب: مقدر دیت

۱۱۲۲: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بَارُونَ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَبِي زُرْقَانَ ان کے والد محمد بن راشد سلیمان

حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ جس شخص کو خطا قتل کیا گیا اس کی دیت ایک سو اونٹ ہوگی۔ جن میں تیس اونٹنیاں، ایک سال کی عمر کی اور تیس اونٹنیاں دو سال کی عمر کی اور تین سال کی جو چوتھے سال میں لگی ہوں اور دس اونٹ دو سال کے۔ جو کہ تیسرے سال میں لگے ہوں۔

۱۱۲۳: یحییٰ بن حکیم، عبدالرحمن، حسین معلم، حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دور میں دیت کی قیمت آٹھ سو دینار یا آٹھ ہزار درہم (دیت کے اونٹوں کی قیمت) مقرر تھی اور اہل کتاب کی دیت اس وقت مسلمانوں سے نصف مقرر تھی راوی کہتے ہیں کہ پھر اس طریقہ سے دیت کا حکم جاری رہا یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور وہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اونٹ کی قیمت تو مہنگی ہوگئی راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سونے والے کی دیت ایک ہزار دینار اور چاندی والے شخص پر بارہ ہزار (درہم دیت) مقرر فرمائی اور گائے، بیل والے شخص پر دو سو گائے اور بکری والے شخص پر دو ہزار بکریاں اور حملہ والے شخص پر دو سو جوڑے مقرر فرمائے اور آپ نے اہل ذمہ کی دیت چھوڑ دی اس کو نہیں بڑھایا جس طریقہ سے اہل اسلام کی دیت کو بڑھایا۔

بُنْ رَاشِدٍ ح وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الرَّزْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فِدْيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتٌ مَخَاضٌ وَ ثَلَاثُونَ بِنْتٌ لَبُونٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ عَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرَ۔

۱۱۲۳: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيَمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِ مِائَةٍ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةِ آفِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةٌ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتَخْلَفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَتَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ آفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ آفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتِي بَقْرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ الْفِي شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَيْبِ مِائَتِي حَلْبَةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ۔

اہل حله:

مذکورہ حدیث میں اہل حله کا مطلب ہے کپڑے والے یعنی اہل حله پر دو سو جوڑے کی دیت ہے عربی زبان میں حله چادر اور تہبند کو کہا جاتا ہے اس کا اطلاق پورے جوڑے پر ہوتا ہے اور ذمی کی دیت چار سو دینار یا چار ہزار درہم ہے اور مذکورہ حدیث میں ذمی لوگوں کی دیت کے نہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اہل ذمہ کی دیت چاندی سونے والے شخص کے برابر نہیں کی اس کو حسب سابق چھوڑ دیا۔

۱۱۲۳: موسیٰ بن اسماعیل، حماد محمد بن اسحاق، حضرت عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے سلسلہ میں فرمایا کہ اونٹ والوں پر ایک سو اونٹ اور گائے اور بیل

۱۱۲۳: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

والوں پر دوسو گائے اور بکریوں والے لوگوں پر دو ہزار بکریاں اور حلہ والوں پر دوسو حلے اور گےہوں والوں پر اس قدر گےہوں جو کہ اس حدیث کے راوی محمد بن اسحاق کو یاد نہیں رہا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن یعقوب نے بواسطہ ابومیلہ، محمد بن اسحاق، عطاء، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ کی روایت کے طریقہ سے روایت بیان کی اور بیان کیا کہ گندم والوں کے ذمہ کچھ (دیت ہے) جو کہ مجھے یاد نہیں رہا۔

قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتِي بَقْرَةً وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفِي شَاةً وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَيْ مِائَتِي حُلَيْةً وَعَلَى أَهْلِ الْقُمْحِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى وَقَالَ وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ۔

۱۱۲۵: مسدّد عبد الواحد حجاج، زید بن جبیر، حشف بن مالک، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قتل خطا کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (اس میں) بیس حلقے ہیں بیس جذعہ اور بیس بنت مخاض اور بیس بنت لبون اور بیس بنی مخاض نہ ہیں (یعنی ایک ایک سال کے مذکر اونٹ)۔

۱۱۲۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنِي مَخَاضٍ ذَكَرَ۔

۱۱۲۶: محمد بن سلیمان، زید بن حباب، محمد بن مسلم، عمرو بن دینار، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ بنی عدی میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تو آنحضرت ﷺ نے اس شخص کی دیت بارہ ہزار مقرر فرمائی۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابن عیینہ نے عمرو عکرمہ کے واسطے سے روایت کیا ہے اور اس روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۱۲۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ۔

باب: قتل خطا اور قتل شبہ عمد کی دیت کا بیان

۱۱۲۷: سلیمان بن حرب، مسدّد حماد، خالد، قاسم، عقبہ، حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مکہ مکرمہ کی فتح کے دن خطبہ دیا تو آپ نے تین مرتبہ اللہ اکبر فرمایا اور پھر فرمایا نہیں ہے خدائے واحد کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے (دشمن کے) لشکر کو تباہ نکست

باب فی دِيَةِ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ
۱۱۲۷: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدُ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا

دی راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک میں نے مسد سے یاد رکھا۔ پھر دونوں راوی ایک جیسی بات بیان کرتے ہیں سن لو، دور جاہلیت کی جس قدر فضیلت تھی اور ان کا تذکرہ ہوتا تھا یا دور جاہلیت کے جس قدر وعدے تھے چاہے وہ وعدے خون کے ہوں یا مال کے وہ تمام میرے دونوں پیروں کے نیچے ہیں مگر حاجیوں کا پانی پلانا اور بیت اللہ کی خدمت۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا خبردار قتل خطا کی دیت قتل شبہ عمد کے برابر ہوگی۔ جبکہ کوڑے اور لاٹھی سے (قتل کیا گیا ہو) اور وہ دیت ایک سو اونٹنیاں ہیں ان میں چالیس اونٹنیاں حاملہ ہوں گی (اور باقی اس قسم کی اونٹنیاں) اور مسد کی حدیث مکمل ہے۔

قتل عمد میں قصاص ہے:

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل عمد میں ہی قصاص لیا جائے گا اور قتل عمد کے علاوہ قتل کی دیگر اقسام قتل خطا، قتل شبہ عمد، قتل حاری، مجرای خطا وغیرہ میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل عمد یہ ہے کہ بندوق وغیرہ تیز دھار آلہ یا زخم دینے والے آلے سے قتل کرے جو کہ قتل کرنے کے لئے بنایا گیا ہے جیسے تلوار، چاقو، خنجر، بندوق، رانفل وغیرہ اور قتل کی جملہ اقسام کی مفصل بحث ثنویہ الحواشی شرح سراجی پر تفصیلی طور سے مذکور ہیں اور دیگر کتب فقہ میں بھی قتل کی جملہ اقسام کی تفصیلی بحث و احکام مذکور ہیں۔

۱۱۲۸: حَدَّثَنَا مُسَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوْ الْكُعْبَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۱۱۲۸: مسد، عبد الوارث، علی بن زید، قاسم ابن عمر سے اسی طریقہ پر مروی ہے جس طرح اوپر مذکور ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی نے مکہ معظمہ کی فتح کے روز بیت اللہ شریف یا فرمایا کہ کعبہ کی سیڑھی پر خطبہ دیا۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ نے علی بن زید کے واسطے سے انہوں نے قاسم بن ربیعہ سے اور انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے نبی سے اسی طریقہ پر روایت کیا ہے اور ابویب نے قاسم بن ربیعہ سے اور انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے خالد کی حدیث کے طریقہ پر روایت کیا اور حماد بن سلمہ نے علی بن زید سے انہوں نے یعقوب سے اور انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے اور انہوں نے نبی سے اسی طریقہ پر روایت کیا ہے۔

۱۱۲۹: حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَضَى عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعُمْدِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ

۱۱۲۹: ثقلی، سفیان، ابن ابی نجیح، مجاہد سے قتل شبہ عمد کے سلسلے میں مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے (قتل شبہ عمد میں) فیصلہ فرمایا کہ وہ تینتیس حقے اور تیس جذعے ہیں اور چالیس اونٹ چھ سال کی عمر

سے لے کر نو سال کی عمر تک کے ہیں۔

خَلِيفَةٌ مَا بَيْنَ نَيْبَةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامِيهَا۔

۱۱۳۰: ہناد ابو الاحوص، سفیان، ابواسحق، عاصم بن ضمرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ قتلِ شبہِ عمد کی دیت تین ٹلوں کی رو سے ہے یعنی تینتیس حقہ، تینتیس جذعے اور چونتیس ثنیہ بازل کے سال تک ہیں اور یہ تمام حاملہ ہوں۔

۱۱۳۰: حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثَلَا ثَلَاثَ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثَ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ نَيْبَةً إِلَى بَازِلٍ عَامِيهَا وَكُلُّهَا خَلِيفَةٌ۔

قتلِ شبہِ عمد:

مذکورہ حدیث میں قتلِ شبہِ عمد کے سلسلے میں بیان فرمایا گیا ہے اور بازل اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پورے دانت نکل آئیں اور اس میں پوری جسمانی طاقت موجود ہو اور اس دانت نکلنے کے بعد پھر کوئی دانت نہ نکلے اونٹ میں یہ کیفیت آٹھ سال پورے ہونے کے بعد نوے سال کے شروع ہونے تک ہوتی ہے حدیث نمبر ۱۱۳۲ میں مذکورہ الفاظ کی تشریح مذکور ہے۔

۱۱۳۱: ہناد ابو الاحوص، سفیان، ابواسحق، حضرت عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتلِ خطا کی دیت چوتھائی کے اعتبار سے ہے یعنی چار قسم سے ہے پچیس حقہ، پچیس جذعہ، پچیس بنت لبون، پچیس بنات مخاض ہیں۔

۱۱۳۱: حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ فِي الْخَطَا أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعَشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعَشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعَشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعَشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ۔

۱۱۳۲: ہناد ابو الاحوص، ابواسحق، حضرت علقمہ اور حضرت اسود سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شبہِ عمد کی دیت کے بارے میں فرمایا کہ ۲۵ حقے، ۲۵ جذعے، ۲۵ بنت لبون اور ۲۵ بنت مخاض ہوں گی۔

۱۱۳۲: حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعَشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعَشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعَشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعَشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ۔

۱۱۳۳: محمد بن ثنی، محمد بن عبد اللہ سعید، قتادہ، عبد ربہ، حضرت ابو عیاض سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے دیتِ مغالظہ (یعنی قتلِ شبہِ عمد کے سلسلے میں) روایت ہے کہ چالیس حاملہ جذعہ، تیس حقہ، تیس بنت لبون اور قتلِ خطا کی دیت میں تیس حقہ، تیس بنت لبون، تیس ابن لبون اور تیس بنت مخاض ہیں۔

۱۱۳۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَغْلَظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِيفَةٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَفِي الْخَطَا ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعَشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ذُكُورٌ وَعَشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ۔

۱۱۳۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيدِ
 بْنِ الْمَسِيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ
 الْمُغْلَظَةِ فَذَكَرَ مِنْهُ سَوَاءً بَابِ اسْتِئْذَانِ الْإِبِلِ
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ وَإِذَا
 دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهِيَ حِقٌّ
 وَالْأُنثَى حِقَّةٌ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ
 وَيُرَكَّبَ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ
 وَجَذَعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَالْقَى نَيْبَتَهُ
 فَهُوَ نَيْبٌ وَنَيْبَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ
 وَرَبَاعِيَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَالْقَى السِّنَّ
 الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ فَإِذَا
 دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابَهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ
 فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ
 اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلٌ عَامٍ وَبَازِلٌ عَامِيْنٌ
 وَمُخْلِفٌ عَامٍ وَمُخْلِفٌ عَامِيْنٌ إِلَى مَا زَادَ وَقَالَ
 النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ ابْنَةُ مَخَاضٍ لِسَنَةِ وَابْنَةُ لَبُونٍ
 لِسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لِفَلَاحٍ وَجَذَعَةٌ لِالرَّبِيعِ وَنَيْبَةٌ
 لِخُمْسٍ وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ وَبَازِلٌ
 لِعَمَانٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَصْمَعِيُّ
 وَالْجُدُوْعَةُ وَقْتُ وَلَيْسَ بِسِنَّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ
 بَعْضُهُمْ فَإِذَا الْقَى رَبَاعِيَّتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا الْقَى
 نَيْبَتَهُ فَهُوَ نَيْبٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِذَا لَقِحتُ فَهِيَ
 خَلِيفَةٌ فَلَا تَرَالُ خَلِيفَةٌ إِلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا بَلَغَتْ
 عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عَشْرَاءُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا الْقَى
 نَيْبَتَهُ فَهُوَ نَيْبٌ وَإِذَا الْقَى رَبَاعِيَّتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ -

۱۱۳۴: محمد بن ثنی، محمد بن عبد اللہ سعید، قنادہ، حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے دیت مغلظہ کے سلسلے میں اس طریقہ پر روایت ہے کہ جس طرح اُپر مذکور ہے۔ امام ابوداؤد نے فرمایا کہ ابو عبید نے ایک سے زائد افراد سے فرمایا کہ جب کوئی اونٹنی چوتھے سال میں لگے تو وہ حق ہے اور اس کی مؤنث حقہ ہے۔ اس لئے کہ وہ سواری اور سامان لادنے کے لائق ہوگی اور جب وہ پانچویں سال میں لگے تو وہ جذع ہے یا جذع اور جس وقت وہ چھٹے سال میں لگے اور وہ سامنے کے دانت گرائے تو وہ ثنی ہے پھر جب وہ ساتویں سال میں لگے تو وہ رباع اور رباعیہ ہے۔ جب وہ آٹھویں سال میں لگے اور وہ دانت گرائے جو چوتھے سال کے بعد کا ہے تو وہ اونٹنی سدیس اور سدس پھر جب وہ اونٹنی نویں سال میں لگے اور اس کی دانتوں کی کچھیاں نکل آئیں تو وہ اونٹنی بازل ہے اور جب وہ اونٹنی دسویں سال میں لگے تو وہ مخلف ہے اس کے بعد اونٹنی کا کوئی نام نہیں لیکن پھر اس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک سال کا بازل دو سال کا بازل ایک سال کا مخلف دو سال کا مخلف راوی بضر بن شمیل نے بیان کیا بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی بنت لبون دو سال کی اونٹنی اور حقہ تین سال کی اونٹنی اور جذع چار سال کی ثنی پانچ سال کی رباع چھ سال کی سدیس سات سال کی بازل آٹھ سال کی ابو حاتم اور اصمعی نے بیان کیا کہ جذوعہ ایک وقت کا نام ہے کسی عمر کا نام نہیں ہے۔ ابو حاتم نے بیان کیا جس وقت وہ اونٹنی رباعی گرائے تو وہ رباع بن جاتی ہے۔ ابو عبیدہ نے بیان کیا کہ جب وہ اونٹنی حاملہ ہو جائے تو اس کو خلفہ کہا جاتا ہے دس مہینے تک۔ پھر دس مہینے کے بعد وہ اونٹنی عشاء ہے۔ اور ابو حاتم نے بیان کیا جس وقت وہ اونٹنی سامنے کے دانت نکالے تو اس کو ثنی کہا جاتا ہے پھر جب وقت رباعیہ اونٹنی دانت نکالے تو وہ رباع ہے۔

باب: اعضاء کی دیت کا بیان

باب ديات الأعضاء

۱۱۳۵: اسحاق بن اسماعیل، عبدہ بن سلیمان، سعید بن ابی عروبہ، غالب، حمید بن ہلال، مسروق بن اوس، حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انگلیاں سب برابر ہیں ان کی دیت دس دس اونٹ ہیں۔

۱۱۳۶: ابو ولید، شعبہ، غالب، مسروق بن اوس، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انگلیاں سب برابر ہیں میں نے عرض کیا کیا ہر ایک انگلی کی دیت میں دس دس اونٹ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو محمد بن جعفر نے شعبہ کے واسطے سے انہوں نے غالب سے انہوں نے مسروق بن اوس سے سنا اور اسماعیل نے غالب سے ابو الولید کی سند سے بیان کیا۔ اور حنظلہ نے غالب سے اسماعیل کی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

۱۱۳۷: مسدد، یحییٰ، (دوسری سند) ابن معاذ، ان کے والد (تیسری سند) نصر بن علی، یزید، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ اور یہ برابر ہیں یعنی انگوٹھا اور چھنگلی انگلی۔

۱۱۳۸: عباس، عبد الصمد، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انگلیاں اور دانت (دونوں) برابر ہیں اور دانت برابر ہیں چاہے سامنے کے دانت ہوں یا داڑھیں ہوں یہ اور وہ (دونوں) برابر ہیں امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو نصر بن شہیل نے شعبہ سے، عبد الصمد کی طرح روایت کیا ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے داری نے بواسطہ نصر یہ حدیث بیان کی۔

۱۱۳۵: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ غَالِبِ التَّمَارِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَصَابِعُ سِوَاءَ عَشْرٍ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ۔

۱۱۳۶: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبِ التَّمَارِ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَصَابِعُ سِوَاءَ قُلْتِ عَشْرٍ عَشْرٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ غَالِبِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبُ التَّمَارِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْوَلِيدِ وَرَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي صَفِيَةَ عَنْ غَالِبِ بِإِسْنَادِ إِسْمَاعِيلِ۔

۱۱۳۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ كُلُّهُمُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ وَهَذِهِ سِوَاءَ يَعْنِي الْإِبِهَامَ وَالْخِضْرَ۔

۱۱۳۸: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَصَابِعُ سِوَاءَ وَالْأَسْنَانُ سِوَاءَ الْفَيْئَةِ وَالضَّرْسُ سِوَاءَ هَذِهِ وَهَذِهِ سِوَاءَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَى عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْبَدْرِيُّ عَنْ النَّضْرِ۔

جاڑے دانت کی دیت:

دانت برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دانتوں میں سے کوئی سادانت ہو یا داڑھ ہو کسی نے اگر کسی کا دانت یا داڑھ توڑ ڈالی تو

اس کی دیت پانچ اونٹ ہیں۔

۱۱۳۹: محمد بن حاتم، علی بن حسن، ابو حمزہ، یزید نخعی، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دانت برابر ہیں اور انگلیاں برابر ہیں۔

۱۱۴۰: عبد اللہ بن عمرو، ابو تمیلہ، حسین معلم، یزید نخعی، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو برابر قرار دیا (یعنی دیت ہر ایک انگلی کی برابر ہے) خواہ پاؤں کی کوئی سی انگلی ہو یا ہاتھ کی۔

۱۱۴۱: ہدبہ بن خالد، ہام، حسین معلم، حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اس وقت اپنی پشت مبارک) بیت اللہ کی جانب کئے ہوئے تھے انگلیوں میں (دیت) دس دس اونٹ ہیں۔

۱۱۴۲: زہیر بن حرب، یزید، حسین معلم، حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں میں (دیت کے) پانچ پانچ اونٹ ارشاد فرمائے (یعنی ہر ایک دانت کی دیت پانچ اونٹ ہیں) امام ابوداؤد نے فرمایا میں نے اپنی کتاب میں شیبان سے روایت کیا لیکن میں نے ان سے اس حدیث کو نہیں سنا۔ پھر ہمارے ایک ساتھی ابو بکر نے ہم سے روایت کیا شیبان سے انہوں نے محمد بن راشد سے بیان کیا انہوں نے سلیمان بن موسیٰ سے اور سلیمان بن موسیٰ نے عمرو بن شعیب سے روایت کیا انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کی دیت کی قیمت لگاتے تھے اہل ہستی پر چار سو دینار یا اس کے برابر چاندی اور اس کی قیمت اونٹوں کی قیمت سے لگاتے تھے۔ پھر جب مہنگائی ہوتی تو اس کی مالیت میں اضافہ فرمادیتے تھے اور جس وقت ارزانی معلوم ہوتی تو دیت کی قیمت سے کم کر دیتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیت کی قیمت چار سو دینار سے

۱۱۳۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمَزَةَ عَنْ يَزِيدِ النَّخَوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ۔

۱۱۴۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيْلَةَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَزِيدِ النَّخَوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً۔

۱۱۴۱: حَدَّثَنَا هُدَيْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهَرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ۔

۱۱۴۲: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سَلِيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْوَمُ دِيَةَ الْخَطَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيَقْوَمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَّتْ رَفَعَهَا فِي قِيَمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيَمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ

آٹھ سو دینار تک ہوگی اور اس کے برابر چاندی سے آٹھ ہزار درہم اور آنحضرت ﷺ نے گائے، بیل والے لوگوں پر دو سو گائے کا حکم فرمایا اور بکری والوں پر دو ہزار بکری کا حکم فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا دیت کا مال مقتول کے ورثاء کی وراثت ہے اپنی اپنی رشتہ داری کے مطابق پھر جو مال ان ورثاء سے فاضل رہ جائے وہ مقتول کے عصباء کو ملے گا۔ راوی نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے فیصلہ فرمایا جب پوری ناک کاٹ دی جائے تو پوری دیت لازم ہوگی اور جب ناک کے نیچے کا نرم حصہ (جس کو نرمہ سے تعبیر کیا گیا ہے) تو نصف دیت ہوگی یعنی پچاس اونٹ یا اس کے برابر سونا چاندی یا ایک سو گائے یا ایک ہزار بکریاں ہوں گی اور جب کسی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے تو (اس صورت میں) نصف دیت ضروری ہوگی اسی طریقہ سے ایک پاؤں (کانٹے) میں نصف دیت ادا کرنا ضروری ہوگی اور مامومہ (یعنی اس زخم وغیرہ میں جو کہ دماغ تک پہنچے) میں ایک تہائی دیت ادا کرنا ہوگی یعنی ۳۳ اونٹ اور ایک ٹکٹ یا اس کی مالیت چاندی سونے یا گائے بکریاں ہیں اور جانفہ (یعنی پیٹ تک پہنچ جانے والے زخم) میں بھی اسی طرح ہے (یعنی جو حکم مامومہ کا ہے وہی جانفہ کا بھی ہے) اور انگلیوں میں سے ہر ایک انگلی کے عوض دس اونٹ ادا کرنا ہوں گے اور دانتوں میں سے ہر دانت کی دیت پانچ اونٹ ہوں گے۔ اور آنحضرت ﷺ نے حکم فرمایا کہ عورت کی جنابت کی دیت اس کے عصباء کے درمیان تقسیم ہوگی یعنی وہ عصباء جو عورت کی کسی چیز کے وارث نہیں بن سکتے البتہ جو ذوی الفروض سے بچ جاتا وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ (یہ لوگ عورت کے ذمہ دیت کو آپس میں تقسیم کر کے ادا کی کریں گے) پس اگر کوئی عورت خود مار ڈالی جائے تو اس کی دیت اس کے تمام ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگی اور وہی لوگ قصاص کے بھی مالک ہوں گے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قتل کرنے والے شخص کو ترکہ میں سے کچھ نہیں ملے گا اور مقتول شخص کا اگر کوئی وارث نہ ہو تو سب سے نزدیک رشتہ دار جو ہوگا وہی اس کا وارث بنے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقْرِ مِائَتِي بَقْرَةً وَمَنْ كَانَ دِيَّةَ عَقْلِهِ فِي الشَّيْءِ فَأَلْفِي شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَّةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ نُدُوتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةَ بَقْرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَثَلَاثُ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقْرِ أَوْ الشَّيْءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنَّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرْتُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ فَاتْلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گا۔ لیکن قتل کرنے والا شخص ہرگز وارث نہیں ہوگا۔ محمد نے بیان کیا کہ یہ تمام کے تمام سلیمان، عمرو بن شعیب، ان کے والد اور دادا کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے۔

عصبہ کی تشریح اور قاتل کا ترکہ سے محروم ہونا:

عصبات ان ورثاء کو کہا جاتا ہے جو کہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد حصہ لیں۔ عصبہ کی دو قسمیں ہیں عصبہ بنفسہ، عصبہ لغيرہ، سراجی باب العصبات میں عصبات کی تفصیلی بحث مذکور ہے اور قاتل مقتول کے ترکہ سے محروم ہے اور یہ سزا ان کے جرم کی ہے کہ وہ قتل کا مرتکب ہو اس لئے ترکہ سے محروم ہوگا اور جو عورت کوئی جنایت کرے تو اس کی دیت اس کے عصبات کو ادا کرنا ہوگی۔

۱۱۴۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ الْعَامِلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَقْلٌ شَبِيهُ الْعَمْدِ مُغْلَطٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يَقْتُلُ صَاحِبَهُ قَالَ وَزَادَنَا خَلِيلٌ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُرَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَا فِي غَيْرِ صَغِينَةٍ وَلَا حَمَلٍ سِلَاحٍ -

۱۱۴۴: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ -

۱۱۴۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَةَ لِمَكَانِهَا بَطْلُ الدِّيَةِ -

باب: پریٹ کے بچہ کی دیت سے متعلق

۱۱۴۶: حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو شُعْبَةُ، مَنْصُورُ ابْنِ أَبِيهِمْ عُبَيْدُ بْنُ شُعْبَةَ، مِنْ رِوَايَةِ هُوَ كَ هَذَا لِي كَيْفَ أَدَى كَيْفَ دُوَيْوِيَا تَهِيں پھر ان میں سے

بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ

۱۱۴۶: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ

ایک عورت نے دوسری عورت کے کٹڑی مار کر اس کو اور اس عورت کے پیٹ کے بچہ کو مار ڈالا اور دونوں قبیلہ والے اپنا مقدمہ نبی کی خدمت میں لائے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا ہم لوگ کس طریقہ سے اسکی دیت ادا کریں جو کہ نہ تو رویا اور نہ اس نے کھایا پیا اور نہ وہ چیخا اور اس قبیلہ (والے) نے یہ بات قافیہ دار عبارت میں بیان کی آپ نے فرمایا کیا تم دیہات والوں کی طرح قافیہ بندی سے کام لے رہے ہو؟ پھر آپ نے قاتلہ (عورت) کے در ثاء کو ایک غرہ دینے کا فیصلہ فرمایا اور اسے (قاتلہ) عورت کے در ثاء کے ذمہ ڈالا (غرہ سے مراد ایک غلام یا لونڈی ہے) بچے کی دیت میں ایک غلام (یا باندی) دینے کا حکم فرمایا۔

۱۱۳۷: عثمان ابن ابی شیبہ جری منصور نے اسی سند کے ساتھ روایت بیان کی جو کہ اوپر مذکور ہوئی اور اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مقتول عورت کی دیت کو قتل کرنے والی عورت کے عاقلہ پر لازم قرار دیا۔ آپ نے غرہ کو اس بچہ کی دیت میں جو کہ پیٹ میں تھادیئے جانے کا حکم فرمایا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حکم نے مجاہد کے واسطے سے مغیرہ بن شعبہ سے اسی طریقہ سے روایت بیان کی ہے۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح حکم نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

غرہ کیا ہے؟

غرہ غلام یا باندی کو کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس بچہ کو جو کہ پیدا ہونے سے قبل ہلاک کر دیا گیا تھا اس کی دیت میں ایک غرہ ادا کئے جانے کا حکم فرمایا۔ (بذل الجہود)

۱۱۳۸: عثمان بن ابی شیبہ ہارون بن عباد وکیع ہشام عروہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اسقاطِ حمل کے سلسلہ میں رائے لی تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں موجود تھا اور آنحضرت ﷺ نے ایک غلام باندی ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ایک دوسرے شخص کو (بھی) لے کر آؤ جو کہ تمہاری بات کی شہادت دے تو وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حاضر ہوئے انہوں نے اسقاطِ حمل کے متعلق شہادت دی کہ مرد نے اپنی بیوی کے پیٹ پر مکا وغیرہ مارا جس سے اس

نَضَلَّةَ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هَذَيْلٍ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بَعْمُودٍ فَفَتَلَتْهَا وَجَنَيْنَهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ كَيْفَ نَدَى مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَقَالَ أَسْجَعُ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ فَقَضَى فِيهِ بَغْرَةً وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ۔

۱۱۳۷: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغَرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمُغِيرَةَ۔

۱۱۳۸: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبَادٍ الْأَزْدِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهَا بَغْرَةً عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ ابْنُ بِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَاتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ زَادَ هَارُونُ فَشَهِدَ لَهُ يَعْنِي ضَرَبَ

الرَّجُلِ بَطْنِ امْرَأَتِهِ۔

کا بچہ ضائع ہو گیا۔

۱۱۴۹: موسیٰ بن اسماعیل و ہیب ہشام ان کے والد حضرت مغیرہ نے عمر سے اسی طریقہ سے روایت کی ہے۔ امام ابوداؤد نے فرمایا اس روایت کو حماد بن زید حماد بن سلمہ نے ہشام بن عروہ عروہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ کو ابو عبید سے یہ بات پہنچی ہے کہ اسقاطِ حمل کو املاص کہا جاتا ہے کیونکہ املاص کے معنی از لاق کے یعنی کسی چیز کے پھسلانے کے ہیں اور گویا عورت بچہ کی پیدائش سے قبل اس کو پھسلاتی ہے اسی طریقہ سے ہاتھ وغیرہ سے کوئی شے پھسل جاتی ہے تو اس کو بھی مَلَصَّ کہا جاتا ہے۔

۱۱۴۹: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَّغْنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلَاصًا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزْلُقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلِقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلَصَ۔

۱۱۵۰: محمد بن مسعود ابو عاصم ابن جریج عمرو بن دینار طاؤس ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ میں دریافت فرمایا کہ آنحضرت ﷺ اسقاطِ حمل کے سلسلہ میں کیا حکم فرماتے تھے؟ تو حمل بن مالک بن نابذہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں دو خواتین کے درمیان میں تھا ان میں سے ایک خاتون نے دوسری خاتون کے لکڑی مار کر اسے اور اس کے پیٹ کے اندر کے بچے کو قتل کر دیا۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے اس کے بچے کی دیت میں ایک بردہ (غلام یا باندی) دیے جانے کا حکم فرمایا اور اس خاتون کو قتل کرنے والی کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا (بطور قصاص کے) امام ابوداؤد نے فرمایا نصر بن شمیل نے بیان کیا کہ یہ لکڑی روٹی پکانے کی تھی۔ ابو عبید نے بیان کیا کہ وہ خیمہ کی ایک لکڑی تھی۔

۱۱۵۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قِضْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَفَقَلْتُهُمَا وَجَنَيْتُهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَيْتِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ الْمِسْطَحُ هُوَ الصَّوْبُجُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمِسْطَحُ عُوْدٌ مِنْ أَعْوَادِ الْحَبَاءِ۔

۱۱۵۱: عبد اللہ بن محمد سفیان عمرو طاؤس عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ منبر پر کھڑے ہوئے۔ پھر اسی طریقہ سے روایت بیان کی جس طریقہ سے اوپر مذکور ہے البتہ اس روایت میں یہ مذکور نہیں کہ آپ نے اس خاتون کے قتل کئے جانے کا حکم فرمایا تھا۔ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے ایک بردہ (غلام یا باندی) ادا کرنے کا حکم فرمایا عمر نے فرمایا اللہ اکبر! اگر ہم پہلے سے اس حکم کو نہ سنتے تو ہم کوئی دوسرا حکم دیتے۔

۱۱۵۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ وَأَنْ تُقْتَلَ زَادَ بِغُرَّةٍ عُبَيْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهِذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا۔

۱۱۵۲: سلیمان عمرو بن طلحہ اسباط اساک عکرمہ ابن عباس سے حمل بن

۱۱۵۲: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَارِ

مالک کے واقعہ کے سلسلہ میں مذکور ہے کہ اس خاتون کے پیٹ سے بچہ گر گیا کہ جس کے بال اگ چکے تھے لیکن وہ بچہ مردہ برآمد ہوا اور پھر وہ خاتون بھی ہلاک ہو گئی تو آپ نے قاتلہ خاتون کے اہل خاندان سے دیت ادا کرائی۔ اس کے چچا نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس خاتون کے پیٹ سے ایسے بچہ کا اسقاط ہوا کہ جس کے بال نکل چکے تھے۔ قتل کرنے والی خاتون کے والد نے عرض کیا یہ شخص جھوٹا ہے اللہ کی قسم وہ بچہ چچا نہیں تھا اور اس بچہ نے کھایا، پیا اس قسم کے بچہ کا قتل ضائع ہے (یہ سن کر) آپ نے ارشاد فرمایا تم اہل جاہلیت جیسی منہشی عبارت بول رہے ہو۔ جس طریقہ سے (عرب) کے کاہن بولا کرتے تھے۔ تم ایک بچہ کے عوض ایک غرہ ادا کرو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان دونوں خواتین میں سے ایک کا نام ملیکہ تھا اور دوسری کا نام ام غطفیف تھا۔

پیٹ کے بچہ کو قتل کرنے کی دیت:

بچہ کا قتل باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بچہ کے قتل کرنے سے قصاص یا دیت کچھ واجب نہیں ہے اور جاہلیت میں لوگ کاہن وغیرہ بہت دلکش عبارت بولتے تھے تاکہ اپنے الفاظ کے جادو سے مخاطب کو مرعوب کر سکیں آپ نے اس سے روکا اور فرمایا جو اصل کام ہے یعنی دیت ادا کرنا وہ کرو باتیں نہ بناؤ اور غرہ سے مراد غلام یا باندی ہے۔

۱۱۵۳: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَيْلٍ قَتَلَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَأُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِيرَأُهَا لِرِزْوَجِهَا وَوَلَدِهَا۔

۱۱۵۳: عثمان بن ابی شیبہ یونس بن محمد حدیثنا عبد الواحد بن زیاد حدیثنا مجالد قال حدیثنا الشعبی عن جابر بن عبد اللہ ان امرأتین من ہذیل قتلتا احداهما الاخری ولکل واحد منہما زوج وولد فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتہ المقتولہ علی عاقلہ القاتلہ وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلہ المقتولہ میرأها لنا قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا میرأها لریزویجہا وولدیہا۔

۱۱۵۴: وَهَبُ بْنُ سَرْحٍ، ابْنُ وَهَبٍ، يُونُسُ بْنُ شَهَابٍ، سَعِيدُ بْنُ مَسِيْبٍ، ابْنُ سَلَمَةَ، حَضْرَتُ ابُو هَرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ مَرْوَى هُوَ كَقَبِيْلَةِ بَنِي

ہذیل میں سے دو عورتوں میں آپ س میں لڑائی ہوئی۔ ایک عورت نے دوسری عورت کو پتھر سے ہلاک کر دیا پھر وہ جھگڑا خدمت نبوی میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچہ کی دیت غرہ ہے یعنی غلام یا باندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی دیت کا قاتل کے خاندان والوں پر دیت دینے کا حکم فرمایا اور اس کے لڑکے کو اور جو اس کے ہمراہ تھے ان کو وارث قرار دیا تو حمل بن مالک بن نابغہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں کس وجہ سے اس بچہ کا تاوان دوں کہ جس نے نہ کچھ پایا تھا اور نہ کچھ کھایا تھا نہ اس نے آواز نکالی اور نہ وہ چیخا۔ ایسا قتل تو باطل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص تو کاہنوں کا بھائی لگتا ہے کیونکہ اس شخص نے قافیہ دار عبارت بولی ہے۔ (یعنی بناوٹی اور پر تکلف گفتگو کر رہا ہے)

۱۱۵۵: تفسیر لیث، ابن شہاب، ابن میتب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کے متعلق مروی ہے کہ بے شک وہ عورت کہ جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غرہ کا حکم فرمایا تھا وہ ہلاک ہو گئی پھر آپ ﷺ نے حکم فرمایا اس عورت کی وراثت اس عورت کے لڑکے کے لئے ہے اور اس کی دیت اس کے عصبات کے ذمہ ہے۔

۱۱۵۶: عباس، عبید اللہ، یوسف، عبد اللہ بن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے پتھر مار دیا اس عورت کا حمل ساقط ہو گیا پھر یہ مقدمہ خدمت نبوی میں پیش ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بچے کے عوض پانچ سو بکریاں دلوائیں اور آئندہ کے لئے لوگوں کو کسی کے پتھر مارنے کی ممانعت فرمادی۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس طریقہ سے پانچ سو بکریوں کی روایت ہے اور صحیح ایک سو بکریاں ہیں۔

شِهَابٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتُهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَيْهَا وَوَرَثَهَا وَكَذَٰهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بِنِّ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُغْرِمُ دِيَةَ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ لَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ۔

۱۱۵۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَيْتِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا۔

۱۱۵۶: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً حَدَفَتْ امْرَأَةً فَاسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا الْحَدِيثُ خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ۔

پتھر پھینکنے کی ممانعت:

بہت سے لوگ خواہ مخواہ ادھر ادھر ڈھیلے پتھر پھینکتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس طرح کرنے کی ممانعت فرمائی کہ اس سے دوسروں کو اذیت پہنچ جاتی ہے اور بعض اوقات تو نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔

۱۱۵۷: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا ۱۱۵۷: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَبُو سَلَمَةَ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے

کہ نبی کریم ﷺ نے حکم فرمایا کہ جو بچہ (عورت کے) پیٹ میں ہلاک ہو گیا اس کے عوض غرہ غلام ہو یا باندی یا گھوڑا یا خچر دیا جائے۔ امام ابوداؤد درحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو محمد بن عمرو و حماد خالد نے روایت کیا ہے جس میں کہ گھوڑے اور خچر کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۱۵۸: محمد بن سنان، شریک، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ابراہیم سے اور جابر نے شعیب سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا ربیعہ الرائے نے فرمایا کہ غرہ سے مراد بچاس دینار ہیں۔

عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَيْنِ بَغْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ۔

۱۱۵۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ الْعَوْفِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ الْغُرَّةُ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَبِيعَةُ الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا۔

باب: مکاتب کی دیت

۱۱۵۹: عثمان بن ابی شیبہ، یعلیٰ، حجاج، یحییٰ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جب مکاتب قتل کیا جائے تو بدل کتابت میں سے جتنا حصہ وہ دے چکا ہے۔ اتنے حصہ کی دیت آزاد شخص کی دیت کی طرح ادا کی جائے اور باقی کی (دیت) غلام کی دیت کی طرح ادا کی جائے گی۔

۱۱۶۰: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ایوب، عکرمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب مکاتب کوئی حد کا کام کرے یا وہ میراث کا حق دار ہو تو وہ جتنا آزاد ہوا ہو اس کے مطابق وہ وارث ہوگا۔ امام ابوداؤد نے فرمایا کہ اس حدیث کو وہیب نے ایوب کے واسطے سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے اور حماد اور اسماعیل نے ایوب کے واسطے سے، انہوں نے عکرمہ سے یہ روایت مرسل روایت کی ہے اور اسماعیل بن عیینہ نے اس روایت کو عکرمہ کا قول قرار دیا ہے۔

باب فی دیتہ المکاتب

۱۱۵۹: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْمَكَاتِبِ يُقْتَلُ يُوَدَى مَا آذَى مِنْ مَكَاتِبِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ۔

۱۱۶۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمَكَاتِبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَيَّ قَدْرَ مَا عَقَقَ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْسَلَهُ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَجَعَلَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنَ عَلِيَّةٍ قَوْلَ عِكْرِمَةَ۔

مکاتب کی حد:

مکاتب پر اسی اعتبار سے حد قائم ہوگی مثال کے طور پر اگر مکاتب آدھا بدل کتابت دے چکا ہے تو وہ آدھا آزاد سمجھا جائے گا اور آدھا غلام سمجھا جائے گا اور اس کے مطابق سزا و اراشت پائے گا۔

باب: ذمی کی دیت

۱۱۶۱: یزید بن خالد عیسیٰ بن یونس، محمد بن اسحاق، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا معابد (ذمی) اسلامی ریاست میں جزیہ دے کر رہنے والا) کی دیت آزاد شخص کی نسبت نصف دیت ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اُسامہ بن زید اور عبدالرحمن نے اس روایت کو عمرو بن شعیب سے اس طریقہ سے بیان کیا ہے۔

باب: کوئی شخص کسی سے لڑائی کر رہا ہو اور وہ اپنا دفاع

کرتے ہوئے اس کا نقصان کر دے

۱۱۶۲: مسدد، یحییٰ بن جریج، عطاء صفوان بن یعلیٰ اپنے والد یعلیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک خادم نے ایک شخص سے لڑائی کی تو اس نے اس شخص کے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا تو اس کا دانت نکل گیا۔ پھر یہ شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اسکے دعویٰ کو باطل کر دیا (یعنی اسکی دیت نہیں دلوائی) اور آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں دے ڈالے اور تم اس کو اونٹ کی طرح سے چبا ڈالو؟ راوی نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا اپنے دادا سے کہ صدیق اکبرؓ نے اس دانت کی دیت نہیں دلوائی اور فرمایا اللہ کرے اس شخص کا دانت دور ہو جائے۔

۱۱۶۳: زیاد ہشیم، حجاج، عبدالملک، حضرت عطاء، یعلیٰ بن اُمیہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کانٹے والے شخص سے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دو وہ شخص (تمہارا ہاتھ) کانٹے پھر تم اس کو کھینچ لو اور آپ نے اس شخص کے دانتوں کی دیت نہیں دلوائی۔

باب: جو شخص علم طب سے واقف نہ ہو اور وہ کسی کا

باب فی دِیَةِ الذِّمِّیِّ

۱۱۶۱: حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مَوْهَبِ الرَّمْلِیِّ حَدَّثَنَا عِیْسَى بْنُ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أُبَیِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ دِیَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِیَةِ الْحُرِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ، اللَّیْثِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ۔

باب فی الرَّجُلِ یُقَاتِلُ الرَّجُلَ فِیْدَعُهُ

عَنْ نَفْسِهِ

۱۱۶۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا یَحْیَىٰ عَنِ ابْنِ جُرَیجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَعْلَىٰ عَنْ أُبَیِّهِ قَالَ قَاتَلَ أَجْبَرُ لِي رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَانْدَرَتْ نَبِيَّتَهُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا وَقَالَ أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِئِكَ تَقْضِيهَا كَمَا فَحَلَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَهْدَرَهَا وَقَالَ بَعَدَتْ سِنَةٌ۔

۱۱۶۳: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةَ بَهْدًا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاصِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَمْكِنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضُّهَا ثُمَّ تَنْزِعُهَا مِنْ فِيهِ وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ۔

باب فی مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يَعْلَمُ مِنْهُ

طَبُّ فَاَعْنَتَا!

معالجہ کرتے ہوئے نقصان پہنچا دے؟

۱۱۶۴: نصر بن عاصم، محمد بن صباح، ولید ابن جریج، حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم طب نہ جانتا ہو اور وہ شخص خود کو طبیب قرار دے (اور اس کے معالجہ سے کوئی شخص مر جائے) تو وہ شخص ضامن ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو صرف ولید نے بیان کیا ہے ہمیں معلوم نہیں کہ درست ہے یا نہیں؟

۱۱۶۳: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يَعْلَمُ مِنْهُ طَبُّ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ نَصْرُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا الْوَلِيدُ لَا تَدْرِي هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا۔

۱۱۶۵: محمد بن علاء، حفص، عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ کچھ لوگ میرے والد کے پاس آئے انہوں نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص طبیب نہ ہو اور وہ کسی کا معالجہ کرے اور اس شخص کا علم طب جانتا مشہور نہ ہو پھر اس شخص کا علاج معالجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو وہ شخص ضامن ہے۔ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہ صرف طبابت کی ہی بات نہیں بلکہ سیئی لگانے میں کوئی شخص رگ کو کاٹ دے یا برے طریقہ سے زخم ڈال دے یا داغ لگا دے (وہ بھی ضامن ہوگا)

۱۱۶۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي بَعْضُ الْوَلِيدِ بْنِ قُدَمَاءَ عَلِيُّ أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا طَبِيبٌ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُعْرِفُ لَهُ تَطَبَّبَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ إِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرْوِقِ وَالْبَطُّ وَالْكُفَى۔

طَبُّ نَدَّ جَانَنِي وَالْكَاعِلَانِ:

مطلب یہ ہے کہ جو شخص طب سے واقف نہ ہو اور اس کے علاج سے کوئی مر جائے تو طبیب پر دیت ہوگی جیسے کہ فصد لگانے والا اگر رگ کاٹ دے یا چہرہ پر زخم کر دے تو اس پر دیت ہے اسی طرح اس طبیب پر بھی دیت ہوگی۔

باب: دانت کا قصاص

۱۱۶۶: مسدد معتمر، حمید طویل، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انس بن نصر کی ہمشیرہ ربیع نے ایک عورت کا دانت توڑ دیا۔ اس کے اولیاء خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے کتاب اللہ کے مطابق قصاص لینے کا حکم فرمایا۔ حضرت انس بن نصر نے بیان کیا اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا اس عورت کا دانت تو آج نہیں توڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے انس!

بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

۱۱۶۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَسَرَتِ الرَّبِيعَةُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ نَيْبَةَ امْرَأَةٍ فَاتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ نَيْبَتَهَا الْيَوْمَ قَالَ يَا أَنَسُ

کتاب اللہ قصاص کا حکم دیتی ہے پھر جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے درمیان دیت لینے کے لئے رضامند ہو گئے تو آنحضرت ﷺ نے تعجب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے توکل پر کسی بات کا حلف کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حلف کو سچا کر دیتا ہے۔

کِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ أَخَذُوهُ فَعَجَبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَبْلَ لَهُ كَيْفَ يُفْتَضُّ مِنَ السِّنِّ قَالَ تَبَرَّدُ۔

باب: کوئی جانور کسی کے لات مار دے تو اس کے

باب فی الدَّابَّةِ تَنْفَعُ

مالک سے دارو گیر نہ ہوگی

برجلہا

۱۱۶۷: عثمان بن ابی شیبہ محمد بن یزید سفیان زہری سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جانور کا پیر "جبار" ہے یعنی بیکار ہے (اور اس کے پاؤں رکھنے یا لات مارنے کی وجہ سے مالک پر دیت نہیں ہوگی)

۱۱۶۷: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الرَّجُلُ جُبَّارٌ۔

۱۱۶۸: مسدّد سفیان زہری سعید ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا چوپائے کا زخم لگانا باطل ہے اور کان اور کنواں بھی باطل ہے اور رکاز میں پانچواں حصہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ چوپایہ مراد ہے جو کہ کھلا ہوا ہو اور اس کے ساتھ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو اور دن کے وقت ہورات میں نہ ہو۔

۱۱۶۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَّارٌ وَالْمَعْدِينُ جُبَّارٌ وَالْبَشَرُ جُبَّارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَجْمَاءُ الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِي لَا يَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ وَتَكُونُ بِالنَّهَارِ لَا تَكُونُ بِاللَّيْلِ۔

اگر کوئی چوپایہ نقصان کر دے:

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے جانور گائے، بیل، بھینس وغیرہ چوپایہ نے کسی شخص کی کھیتی یا مال ضائع کر دیے تو اس میں تاوان وغیرہ نہیں ہے اور یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ چوپایہ کے ہمراہ اس کا رکھوالا نہ ہو اگر جانور کا ہانکنے والا ساتھ موجود ہے تو اس صورت میں تاوان ہے کیونکہ جانور کی رکھوالی اس کے ذمہ تھی اور کان کھودنے سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی کسی جگہ کان کھدوائی یا اپنی مملوکہ زمین میں کنواں کھودا پھر کوئی شخص گر کر ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں اس جگہ کے مالک وغیرہ پر ضمان یا تاوان نہیں ہے اور رکاز زمین میں مدفون مال کو کہا جاتا ہے ایسے مال میں شمس حاکم کا ہوتا ہے اور باقی جو بچے وہ اس شخص کو ملے گا کہ جس کو وہ مدفون مال ملا ہے تفصیل کے لئے فتاویٰ شامی باب الرکاز جلد اول ملاحظہ فرمائیں۔

باب: اس آگ کے بارے میں جو کہ پھیلتی چلی جائے

باب فی النَّارِ تَعَدَّى

۱۱۶۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ النَّيْسَابِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَائِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مِنْبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّارُ جُبَارٌ۔

غلطی سے دوسرے کے آگ لگ جانا:

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ملوکہ زمین یا مکان میں آگ جلائی اور ہوا چلنے سے دوسرے کے مکان یا کھیت وغیرہ میں آگ لگ جائے تو آگ جلانے والے پر تاوان نہیں ہے اور اس مسئلہ میں تفصیل ہے جو کتب فقہ میں مذکور ہے۔

باب فی جنایۃ العبدِ یكونُ

باب: اگر نادار فقیر آدمی کا بچہ کسی قسم کی جنایت کرے تو

اس سے ذیت کی دارو گیر نہ ہوگی

للفقراء

۱۱۷۰: احمد بن حنبل، معاذ ان کے والد، قنادر، ابو نصرہ، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فقراء میں سے کسی فقیر کے لڑکے نے کسی مالدار آدمی کے لڑکے کا کان کاٹ لیا تو اس غریب لڑکے کے تمام لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ تو نادار فقیر ہیں (یہ سن کر) آپ نے ان پر کوئی جرمانہ نہ لگایا۔

۱۱۷۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلَامًا لِأَنَاسٍ فَفَرَّاهُ فَطَعَّ أُذُنَ غُلَامٍ لِأَنَاسٍ اغْتِيَابًا فَاتَى أَهْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَنَاسٌ فَفَرَّاهُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا۔

فقیر پر ذیت نہیں:

مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان سے کوئی ذیت وغیرہ نہیں دلوائی کیونکہ وہ نادار فقیر تھے ان کے پاس ادا کرنے کے لئے ذیت موجود نہیں تھی اور آپ نے قصاص اس وجہ سے واجب نہ فرمایا کیونکہ غلطی سے جنایت ہوئی ہوگی اور ایسی صورت میں قصاص واجب نہیں ہوتا۔

باب: جو شخص اندھیر نگری میں قتل کیا جائے؟

باب فی من قتل فی عیما بین قوم

۱۱۷۱: سعید سلیمان، عمرو بن دینار، طاؤس ابن عباس سے مروی ہے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص بغیر دیکھے (یعنی اندھا دھند) قتل کر دیا گیا یا پتھر چلانے میں یا کوڑے سے جو آپس میں ہو رہی تھی کوئی آدمی مارا گیا تو اس شخص کی ذیت قتل خطا کی ذیت ہوگی اور جو شخص ارادہ سے قتل کیا گیا تو وہ شخص قصاص لئے جانے کا موجب ہے اور جو شخص دو شخصوں کے

۱۱۷۱: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسِ بْنِ عَبْدِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ فِي عِيْمًا أَوْ رَمِيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقَلَهُ عَقْلَ حَطَاٍ وَمَنْ قَتَلَ

عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ
 لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔
 درمیان پڑ کر قتل کرنے والے شخص کو بچانے کے لئے درمیان میں حائل
 ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔

أَوَّلُ كِتَابِ السُّنَّةِ

سنت کے اتباع کا بیان

باب: سنت کی تشریح

باب فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

۱۱۷۲: وہب بن بقیعہ، خالد بن محمد بن عمرو ابوسلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا: یہودی لوگ اکہتر یا بہتر فرقوں میں متفرق ہو گئے اور نصرانی،
 اکہتر یا بہتر فرقوں میں متفرق ہو گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں
 متفرق ہوگی۔

۱۱۷۲: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ
 مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى
 إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ
 النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً
 وَتَفَتَّرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً۔

یہود و نصرانی کے فرقے کے بیان میں شک راوی:

مذکورہ حدیث میں ۷۱ یا ۷۲ فرقوں میں متفرق ہونے کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے وہ راوی کا شک ہے کہ آپ نے اے فرمایا
 ۷۱ یا ۷۲ آنحضرت ﷺ کا شک نہیں ہے اور ارشاد نبوی کا حاصل یہ ہے کہ تمام فرقے میری امت میں شامل ہیں اور جو فرقے میرے
 راستے پر نہیں ہیں وہ جہنم رسید ہوں گے۔

۱۱۷۳: احمد بن حنبل، محمد بن یحییٰ، ابوالغیرہ صفوان (دوسری سند) عمرو
 بن عثمان، بقیعہ صفوان سے اسی طرح مروی ہے۔ ازہر بن عبد اللہ
 ابوعامر، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور
 ارشاد فرمایا خبردار! تم لوگوں میں سے (تم سے قبل) اہل کتاب بہتر
 فرقے ہو گئے اور اس امت کے لوگ قریب ہے کہ بہتر فرقے بن
 جائیں ان فرقوں میں سے بہتر فرقے دوزخ میں داخل ہوں گے اور
 ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ فرقہ جماعت کا ہے۔ راوی ابن
 یحییٰ اور عمرو کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ میری امت میں اس قسم کے
 لوگ پیدا ہوں گے جن میں گمراہیاں گھس جائیں گی جیسے کہ کلب انسان

۱۱۷۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ
 ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ
 حَدَّثَنِي صَفْوَانُ نَجْوَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ
 عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّازِيُّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَنِيِّ عَنْ
 مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ مِنْ قَبْلِكُمْ
 مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ
 مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ
 وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي

کی ہر ایک رگ اور (بدن کے ہر ایک) جوڑ میں گھس جاتا ہے۔ (جماعت اہل سنت): (مراد وہ فرقہ ہے جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین تابعین کے طریقوں پر چلتا ہے اور اس کا مسلک اعتدال ہے اور فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور کلب ایک قسم کی پیارو ہوتی ہے جو کہ پاگل کتے کے کانٹے سے پیدا ہوتی ہے۔)

الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمَرُو فِي حَدِيثَيْهِمَا وَإِنَّ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ وَقَالَ عَمَرُو الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَفْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ

باب: قرآن کریم کے بارے میں جھگڑا کرنے اور

بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ وَاتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ مِنَ

قرآن کریم کے متشابہات کی جستجو

القرآن

۱۱۷۴: قَعْنِي يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَبْدَ اللّٰهِ قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَضْرَتِ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ آيَةَ كَرِيْمَةً هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِلَاوَاتٍ فَرَمَانِي يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالَى وَهِيَ ذَاتُ هِيَ كَيْ جَسْنَ نِي تَم لُوْغُوْنَ طَر كِتَابِ نَا زَلْ كِي اِسْ مِيْ بَعْضِ اَيَاتِ كَرِيْمَةٍ صَافٍ وَاصِحْ هِيْ وَهِيَ تُوْ كِتَابِ (اللّٰهُ) كِي اَصْلُ هِيْ اُوْر بَعْضِ اَيَاتِ كَرِيْمَةٍ مُتَشَابِهَةٌ هِيْ۔ (جَن كِي مُخْتَلَفٌ پَهْلُو هِيْ) تُوَابِ جَن لُوْغُوْنَ كِي قُلُوْبِ مِيْ ضَلَالَتٍ وَكَمْرَا هِيْ وَهِيَ لُوْغٌ اِنْ مُشْكَلٌ اَيَاتِ كَرِيْمَةٍ كِي پِيْجِيْ پُرْ جَاتِيْ هِيْ فَنْتَهَ بَرِ پَا كَرْنِيْ كِي لِيْئِيْ اُوْر اِسْ كَا مَطْلَبُ پَانِيْ كِي لِيْئِيْ۔ حَالَانِكِيْ اَيَاتِ كَرِيْمَةٍ كَا اللّٰهُ تَعَالَى كِي عِلَاوَهُ كِي كُوْ عِلْمِ نِيْهِسْ۔ پَهْرُ اُپْ نِيْ اَرشَادِ فَرَمَا يَا اِيْ لُوْغُوْ حَسْ وَتَمْتِ اِنْ لُوْغُوْ كُوْ دِيْ كُوْ جُوْ كِي كَرِيْمَةٍ كِي مُتَشَابِهَةٌ اَيَاتِ كَرِيْمَةٍ كِي پِيْجِيْ پُرْ جَاتِيْ هِيْ تُوْ وَهِيَ لُوْغٌ وَهِيَ هِيْ جَن كَا اللّٰهُ تَعَالَى نِيْ قُرْآنِ كَرِيْمِ مِيْ نَامُ لِيَا هِيْ تُوْ تَم لُوْغٌ اِنْ لُوْغُوْنَ كِي صَحْبَتِ سِيْ اَحْتِرَا زَكُرُوْ (بَجُوْ)

۱۱۷۴: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْاَيَةَ هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ اِلٰى اَوَّلُوْ الْاَنْبَاِبِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُوْر لَيْتُكَ الَّذِيْنَ سَمَى اللّٰهُ فَاَحْذَرُوْهُمْ۔

محکم متشابہ آیات:

قرآن کریم کی آیات کی دو قسمیں ہیں ایک قسم کو محکم اور دوسری کو متشابہ کہا جاتا ہے پہلی قسم یعنی محکم وہ آیات کریمہ کہلاتی ہیں جن کا مفہوم واضح ہے اور متشابہ وہ آیات کریمہ ہیں کہ جس کا مفہوم واضح اور صاف نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب پیچیدہ ہے تو جو آیات کریمہ محکم ہیں وہ قرآن کریم کی اصل ہیں ان آیات کریمہ پر عمل کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور جو آیات متشابہات ہیں ان کی تحقیق و جستجو کا حکم نہیں ہے۔ ایک مسلمان محکم آیات پر عمل کرنے کا مکلف ہے اور جو آیات متشابہات ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے لیکن اس کا مطلب اللہ کے سپرد کرے اور اس مسئلہ کی تحقیقی بحث حضرت ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر میں فرمائی ہے۔ کتب تفسیر میں بھی یہ بحث مفصل طریقہ سے مذکور ہے۔

باب: بدعتی لوگوں کی صحبت سے بچنے اور ان سے بغض

بَابِ مُجَانَبَةِ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ

رکھنے کا بیان

۱۱۷۵: مسند خالد یزید بن ابی زیاد مجاہد ایک شخص حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت رکھنا اور اللہ کے لئے بغض رکھنا ہے۔

۱۱۷۶: ابن سرح ابن وہب یونس ابن شہاب عبد الرحمن حضرت عبد اللہ بن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ ان کے تمام صاحبزادوں میں سے وہی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلتے تھے جب وہ نابینا ہو گئے تھے اور وہ کہتے ہیں غزوہ تبوک میں ان کے پیچھے رہ جانے کا واقعہ سنا پھر میں نے حضرت کعب سے سنا اور ابن السرح کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے اہل اسلام کو ہم تین شخصوں سے گفتگو کرنے سے منع فرمادیا جب یہ مدت میرے لئے طویل ہو گئی تو میں حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر ان کے پاس پہنچا۔ اور وہ میرے بچازاد بھائی تھے تو میں نے ان کو سلام کیا اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اپنی توبہ نازل ہونے کا واقعہ بیان فرمایا۔

باب: اہل بدعت کو سلام کے جواب نہ دینے کا بیان

۱۱۷۷: موسیٰ بن اسماعیل حماد عطاء یحییٰ بن عمر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے تو انہوں نے میرے ہاتھ میں زعفران مل دی میں اگلی صبح کو خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ اپنے ہاتھوں کو دھو کر آؤ۔

۱۱۷۸: موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت بنانی سمیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صفیہ بنت حبیبہ کا اونٹ بیمار پڑ گیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ایک اونٹ (ضرورت سے) زائد تھا حضرت رسول اللہ ﷺ نے زینب رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا

وبغضہم

۱۱۷۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ۔

۱۱۷۶: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَذَكَرَ ابْنُ السَّرْحِ قِصَّةَ تَحَلُّفِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَالِمِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قِنَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ثُمَّ سَأَقِ خَيْرَ تَنْزِيلٍ تَوْبَتِهِ۔

باب ترك السلام على أهل الأهواء

۱۱۷۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَقَدْ تَشَقَّقْتُ يَدَايَ فَخَلَقُونِي بِزُعْفَرَانَ فَعَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ أَذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنكَ۔

۱۱۷۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَلَّ بِعَيْرٍ لَصَفِيَّةَ بِنْتِ حَيْيٍّ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضَلَّ ظَهْرُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِرَيْبٍ أَعْطِيهَا بَعِيرًا فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي
تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ
وَبَعْضَ صَفَرٍ.

”تم وہ اونٹ صفیہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا میں یہ اونٹ اس یہودی
عورت کو دے دوں؟ یہ بات سن کر آنحضرت ﷺ غصہ ہو گئے اور آپ
نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ماہ ذی الحجہ اور صفر کے مہینہ کے
کچھ ایام تک گفتگو فرمانا چھوڑ دی۔

طنزیہ کلام:

حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو طنز کے طور پر یہودیہ کہہ دیا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اسلام لانے سے قبل
یہودی تھیں بعد میں انہوں نے اسلام قبول فرمایا تھا زینب رضی اللہ عنہا کا مقصد خدا خواستہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو حقیر سمجھنا
نہیں تھا بلکہ یہ ایک طنزیہ جملہ تھا جو ایسے مواقع پر اکثر خواتین کی زبان پر آئی جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ناراضگی سے اس کی
اصلاح فرمادی۔

باب: قرآن کریم میں جھگڑنے کی ممانعت

۱۱۷۹: احمد بن حنبل، یزید محمد بن عمرو ابوسلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: قرآن کریم میں شبہ کر کے جھگڑنا کفر ہے۔

بَابُ التَّهْيِ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقُرْآنِ

۱۱۷۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي
ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

باب: سنت نبوی کی اتباع لازمی ہے

۱۱۸۰: عبد الوہاب ابو عمرو جریر، عبد الرحمن، مقدم بن معدی کرب سے
مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا سن لو بلاشبہ دی گئی ہے مجھے کتاب یعنی
قرآن اور اسی کے ساتھ اسی کے مثل (حدیث) دی گئی ہے۔ عنقریب
ایک حکم سیر شخص (یعنی آسودہ آدمی) اپنے چھپر کھٹ (یعنی اپنے بستر
وغیرہ آرام کرنے کی جگہ) پر لیٹا ہوا کہے گا کہ تم لوگ اس قرآن کریم
ہی کو اختیار کرو اور تم قرآن کریم میں جو حلال پاؤ اس کو تو حلال سمجھو اور
قرآن میں جو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو خوب سن لو گھر بیلو گدھا تم لوگوں
کے لئے حلال نہیں ہے اور نہ ہی درندوں میں سے دانت والا جانور
حلال ہے (جیسے شیر چیتا، بھیریا وغیرہ) اور نہ ذمی شخص کا پڑا ہوا مال (و
اسباب حلال ہے) لیکن جب اس مال کا مالک مستغنی ہو اور جو آدمی کسی
قوم کے پاس مہمان ہو تو اس قوم کے ذمہ اس شخص کی مہمانداری کرنا

بَابُ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ

۱۱۸۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
عَمْرٍو بْنُ كَثِيرٍ بْنُ دِينَارٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُمَانَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنِ الْمُقَدَّمِ
بْنِ مَعْدِي كَرَبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ
وَمَثَلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ
يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ
حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ
فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ
وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَلَا لِقْطَةٌ مُعَاهِدٍ
إِلَّا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ

فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرَؤُا فَإِنْ لَمْ يَقْرَؤُا فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَآءِهِ۔
 ضروری ہے اور اگر کوئی قوم اس کی مہمانداری نہ کرے تو اس مہمان کو حق حاصل ہے کہ اس قوم سے اپنی مہمانداری کا حق وصول کرے۔

مہمانداری کے وجوب کا حکم منسوخ ہے:

ابتدائے اسلام میں مہمانداری کرنا واجب تھا لیکن اب یہ حکم مستحب ہے اور اب زبردستی مہمان داری کا مذکورہ حق وصول کرنا منسوخ ہو گیا۔ بہر حال اب بھی مہمان کی خاطر کرنا مستحب ہے بخاری شریف کی حدیث ہے: ((مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُم ضَيْفَهُ)) یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھتا ہو تو وہ مہمان کی مہمانداری اور اس کی ہر ممکن عزت و احترام کرے۔

۱۱۸۱: یزید بن خالد لیث، عقیل ابن شہاب، ابودریس، یزید بن عسیرہ جو کہ معاذ بن جبل کے رفقاء میں سے تھے کہ جب معاذ بن جبل وعظ کرنے کیلئے بیٹھا کرتے تھے تو یہ فرماتے اللہ تعالیٰ بڑا عادل و حاکم ہے (دین میں) شبہ کرنے والے لوگ تباہ و ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن بیان کیا تمہارے بعد بڑے بڑے فتنہ و فساد ہوں گے اور مال کافی ہو جائے گا (یعنی آج کے دور کی بہ نسبت لوگ بہت زیادہ دولت مند ہوں گے) اور قرآن کریم آسان ہو جائے گا یہاں تک کہ اس کو مؤمن اور منافق مرد اور عورت اور بڑے اور چھوٹے حاصل کر لیں گے۔ پھر قریب ہے کہ ایک کہنے والا شخص کہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ میری اتباع نہیں کرتے حالانکہ میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوں۔ اب وہ میری اتباع نہیں کریں گے جب تک کہ میں ان کے لئے قرآن کریم کے علاوہ کوئی نئی بات نہ نکالوں۔ پھر اگر وہ نئی بات پیدا کرے تو تم لوگ اس سے احتراز کرو۔ جو نئی بات پیدا ہوگی وہ ضلالت و گمراہی ہے اور میں تم کو عالم کی گمراہی سے ڈراتا ہوں اس لئے کہ شیطان گمراہی کی بات عالم کی زبان سے کہتا ہے اور کبھی منافق آدمی حق بات کہہ دیتا ہے یزید نے بیان کیا میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ مجھے اس بات کا کس طرح علم ہوگا کہ دانا شخص گمراہی کی بات بتلا رہا ہے اور منافق کبھی حق بات کہہ دیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں تم عالم شخص کی ان باتوں سے احتراز کرو جو کہ جھوٹ اور غلطی کے ساتھ شہرت پا جائیں اور تمام لوگ اس کا انکار کریں لیکن ایسی باتوں کی وجہ سے تو عالم سے منحرف نہ ہو جانا کیونکہ

۱۱۸۱ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَايَنَهُ اللَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَمِيرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ اللَّهُ حَكْمٌ قَسَطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتْنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيَفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمَتَّبِعِي حَتَّى أَتْبُدَعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَيَأْتَاكُمْ وَمَا أَتْبُدَعَ فَإِنَّ مَا أَتْبُدَعَ ضَلَالَةٌ وَأَحْذَرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ لِمُعَاذٍ مَا يَدُرُّنِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ بَلَى اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهَرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ وَلَا يُبَيِّنُكَ

ہوسکتا ہے کہ وہ واپس آجائے اور تم جب بھی حق بات سنو قبول کر لو کیونکہ حق ایک روشنی ہوتی ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ عمر نے زہری کے واسطے سے یٰٰنِیْنِکَ کی جگہ لَا یٰٰنِیْنِکَ بیان کیا ہے اور صالح بن کیسان نے زہری سے لفظ مُشْتَهَرَاتِ کی جگہ مُشْتَبِهَاتِ بیان اور اس جگہ یٰٰنِیْنِکَ ہی بیان کیا ہے جس طریقہ سے عقیل نے بیان کیا ہے اور زہری ابن اسحاق نے یہ روایت نقل کی ہے کہ معاذ نے فرمایا ہاں۔ دانا آدمی کی بات تجھے اشتباہ میں ڈال دے اور تو یوں کہہ اٹھے کہ آخراں بات سے کیا مراد ہے (مطلب یہ ہے کہ دانا آدمی کو دو ٹوک واضح اور سچی بات کہنا چاہئے۔ ایسی بات کہنے سے احتراز کرنا چاہئے جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ اگر اس کی زبان سے ایسی بات سنو تو سمجھ لو کہ دال میں کالا ہے۔)

۱۱۸۲: محمد بن کثیر حضرت سفیان سے روایت ہے ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے تقدیر کے بارے میں خط کے ذریعہ دریافت کیا (دوسری سند) ربیع بن سلیمان اسد حماد سفیان ثوری نصر روایت کرتے ہیں (تیسری سند) ہناد قبیسہ ابو رجاء ابوصلت سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط تحریر کر کے تقدیر کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا ”حمود ثنا کے بعد معلوم کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کے حکم اور اس کے نبی کے طریقہ پر راہ اعتدال پر چلنے کی وصیت کرتا ہوں اور اہل بدعت نے جو باتیں ایجاد کی ہیں ان کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اہل بدعت نے یہ باتیں اس وقت ایجاد کیں جب نبی ﷺ کی سنت جاری ہو چکی تھی اور وہ لوگ اس کی شفقت سے سبکدوش ہو گئے تھے تو تم پر سنت نبوی پر عمل کرنا ضروری ہے اس لئے کہ سنت پر عمل کرنے سے تم گمراہی سے بچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر یہ بات بھی سمجھ لو کہ لوگوں نے کوئی بدعت ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کے باطل ہونے پر دلائل سامنے نہ آچکے ہوں یا اس کے دیکھنے سے عبرت حاصل نہ ہوئی ہو اس لئے کہ سنت کو اس شخص نے جاری کیا تھا جس کو معلوم تھا کہ اس کے خلاف کرنے میں کون کونسی غلطیاں اور بھول چوک اور بیوقوفیاں اور

ذَلِكْ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَتَلَقَّى الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا يُنْيِنُكَ ذَلِكَ عَنْهُ مَكَانَ يُنْيِنُكَ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْمُسْتَبَهَاتِ مَكَانَ الْمُسْتَهَرَاتِ وَقَالَ لَا يُنْيِنُكَ كَمَا قَالَ عَقِيلٌ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَى مَا تَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيمِ حَتَّى تَقُولَ مَا أَرَادَ بِهِذِهِ الْكَلِمَةَ۔

۱۱۸۲ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّضْرِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ قَبِيصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَمَعْنَاهُمْ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقَدْرِ فَكَتَبَ أَمَّا بَعْدُ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالْإِقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ وَتَرْكِ مَا أَحَدَثَ الْمُحَدِّثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ وَكَفُّوا مُؤَنَّتَهُ فَعَلَيْكَ بِالزُّرْمِ السَّنَةِ فَإِنَّهَا لَكَ يَا ذَنُ اللَّهِ عِصْمَةٌ ثُمَّ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَّعِدْ النَّاسَ بِدَعْمَةٍ إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ ذَلِيلٌ عَلَيْهَا أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا فَإِنَّ السَّنَةَ إِنَّمَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا

گہرائیاں ہیں پس تم وہ طریقہ اختیار کرو جو طریقہ جماعت سلف نے اختیار کیا تھا اس لئے کہ وہ علم دین سے اچھی طرح واقف تھے اور بہت باریک بینی اور غور و فکر سے کام لے کر ان سے رکے تھے۔ اور وہ حضرات ہم لوگوں سے زیادہ مطلب سمجھنے پر قدرت رکھتے تھے اور ان میں جو فضائل تھے ان کی وجہ سے اور وہ زیادہ بہتر تھے۔ اگر تم لوگ جس طریقہ پر (قائم) ہو۔ یہی طریقہ ہدایت کا طریقہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے نئی باتیں پیدا کیں وہ لوگ اگلے لوگوں کے راستہ پر نہیں چلے اور ان سے نفرت کی تو ہم لوگ بھی کہیں گے کہ اگلے لوگ ہی بہتر تھے اور وہ لوگ ان سے آگے بڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے جس قدر بیان کر دیا وہ کافی ہے اور جس قدر کہہ دیا وہ شافی ہے ان کے پیچھے بھی کوئی کمی نہیں اور ان سے آگے بھی کوئی مقام نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ان سے کمی کی انہوں نے ظلم کیا اور کچھ لوگ ان سے آگے بڑھ گئے اور انہوں نے غلو کیا (یعنی کچھ لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا اور تعصب کیا) اور اگلے لوگ درمیان میں سیدھے راستے پر تھے۔ تم نے تقدیر کے بارے میں سوال لکھا ہے تو اللہ کے حکم سے تم نے یہ سوال اس شخص سے کیا جو کہ اچھے طریقہ سے جانتا ہے۔ میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جس قدر بدعات پیدا کی ہیں اور جس قدر نئی چیزیں پیدا کی ہیں وہ تقدیر کا اقرار کرنے سے نہ تو اثر کے اعتبار سے زیادہ واضح ہیں اور نہ ہی حکم کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں۔ یہاں تک کہ دور جاہلیت میں جبلاء بھی اپنے اپنے کلام میں تقدیر کا تذکرہ کرتے تھے اور اپنے اشعار میں تقدیر سے ضائع ہونے والی چیز پر تسلی حاصل کرتے تھے۔ پھر اسلام نے اس خیال کو اور زیادہ قوت بخشی۔ نبی نے ایک دو حدیث نہیں بلکہ متعدد احادیث میں تقدیر کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں نے آپ سے سنا اور اس کو بیان کیا آپ کی زندگی اور آپ کے وصال کے بعد۔ اس پر یقین کر کے اور اس کو تسلیم کر کے اور خود کو کمزور جان کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ آئی ہو یا اس کی کتاب میں تحریر نہ کی گئی ہو یا اس کے متعلق تقدیر الہی جاری نہ کی گئی ہو

وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ كَثِيرٍ مَنْ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْخَطَا وَالزَّلَالِ وَالْحُمَقِ وَالْتَعَمُّقِ فَارَضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ الْقَوْمُ لِأَنفُسِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ وَقَفُوا وَبَيَّصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا وَهُمْ عَلَى كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَقَمُوا مِنْهُ إِلَيْهِ وَلَيْنَ قُلْتُمْ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَا أَحَدَتْهُ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِمَا يَكْفِي وَوَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَرٍ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرٍ وَقَدْ قَصَرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَحَفُوا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَعَلُوا وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمٍ كَتَبَتْ تَسْأَلُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْقَدْرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَعْتَ مَا أَعْلَمَ مَا أَحَدَتْ النَّاسُ مِنْ مُحَدَّثَةٍ وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بَدْعَةٍ هِيَ أَتَيْنَ أَثَرًا وَلَا أَثَبْتُ أَمْرًا مِنَ الْإِقْرَارِ بِالْقَدْرِ لَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْجَهْلَاءِ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَفِي شِعْرِهِمْ يُعْزُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ بَعْدُ إِلَّا شِدَّةً وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَكَلَّمُوا بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ وَتَضَعِيفًا لِأَنفُسِهِمْ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُهُ وَلَمْ يَمُضْ فِيهِ قَدْرُهُ وَإِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ مِنْهُ افْتِسَاؤُهُ وَمِنْهُ تَعَلُّمُهُ وَلَيْنَ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً كَذَا لِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ

ان تمام باتوں کے باوجود تقدیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی مستحکم کتاب (لوح محفوظ) میں موجود ہے اس میں سے گزشتہ لوگوں نے مسئلہ تقدیر سیکھا اور اسی میں سے (تقدیر کا علم) حاصل کیا۔ تم اگر یہ بات کہو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ آیت کریمہ کس وجہ سے نازل فرمائی؟ اور اس طرح کیوں کیا؟ تو تمہاری اس بات کا یہ جواب ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی

قَرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ كَلِمَةً بِكِتَابِ وَقَدِيرٍ وَكُتِبَتِ السَّقَاوَةُ وَمَا يُقَدَّرُ يَكُنْ وَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا نَمْلِكُ لِأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا نَمَّ رَعِبُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَهَبُوا۔

ان آیات کریمہ کو تلاوت کیا تھا۔ اور ان لوگوں کو اس کی تاویل کا اچھے طریقہ سے علم تھا جس کا تم کو علم نہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب (لوح محفوظ) اور تقدیر کو مانتے تھے مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی وہ ہوگا اور جو اللہ کی مرضی نہ ہو وہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اپنے کو نفع یا نقصان پہنچانے کا مکمل اختیار و قدرت نہیں رکھتے پھر وہ لوگ اسی اعتقاد پر اچھے کام انجام دیتے اور برے کاموں سے ڈرتے رہے۔

۱۱۸۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَكْتُبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَكْذِبُونَ بِالْقَدَرِ۔

۱۱۸۳: احمد بن حنبل، عبد اللہ سعید ابو ضمیر، حضرت نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک دوست ملک شام میں تھا جو کہ ان سے خط و کتابت کرتا رہتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو ایک مرتبہ تحریر کیا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم نے مسئلہ تقدیر کے بارے میں کوئی بات پیدا کی ہے تو اب تم مجھ سے خط و کتابت نہ کرنا اس لئے میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ تقدیر کی تکذیب کریں گے (یعنی اس کو جھوٹا بتلائیں گے)۔

مکثرین تقدیر:

مطلب یہ ہے کہ آنے والے بعض لوگ تقدیر کا انکار کریں گے اور یہ بات کہیں گے کہ تقدیر کچھ نہیں اور تمام کام تدبیر سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ بہر حال حکم شرع یہ ہے کہ اسباب اور تدبیر اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کرو اور نتیجہ اللہ کے سپرد کرو اور مسئلہ تقدیر پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”تقدیر کیا ہے؟“ میں اس مسئلہ کی تفصیلی بحث مذکور ہے۔

۱۱۸۴: عبد اللہ بن جراح، حماد بن خالد الخدّاء سے روایت ہے کہ حسن بصری سے میں نے دریافت کیا کہ اے ابو سعید! مجھ کو بتلاؤ کہ آدم، ایلیم آسمان کیلئے پیدا فرمائے گئے تھے یا زمین کیلئے؟ انہوں نے جواب دیا زمین کیلئے۔ میں نے عرض کیا اگر وہ بچ جاتے اور درخت میں سے نہ کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا وہ ضرور (اس درخت میں سے) کھاتے (اس لئے کہ مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا) میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا

۱۱۸۴: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَخْبِرْنِي عَنْ آدَمَ أَلِ السَّمَاءِ خَلِقَ أَمْ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا بَلْ لِلْأَرْضِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ اعْتَصَمَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بَدْ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى

شیاطین سے کہ تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر اس کو جو کہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا بلاشبہ شیاطین اپنی گمراہی میں کسی کو نہیں پھنسا سکتے سوائے اس کو کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی۔

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ
قَالَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَفْتِنُونَ بِضَلَالَتِهِمْ إِلَّا مَنْ
أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَحِيمَ۔

مسئلہ تقدیر کے بارے میں بحث کی ممانعت:

مسئلہ تقدیر کے بارے میں شریعت نے بحث کرنے سے منع فرمایا ہے اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے اس مسئلہ کی مزید تفصیل حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ”مسئلہ تقدیر“ اور ”الاکسیر فی اثبات التقدير“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۱۸۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ حَسَنٌ نَعَى اس آیت کریمہ: وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ قَالَ خَلَقَ هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ۔

۱۱۸۶: ابوبکر بن اسماعیل، خالد الحذاء، حسن نے اس آیت: مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ کے بارے میں فرمایا۔ شیطان اسی کو پھنسائے گا کہ جس کیلئے اللہ تعالیٰ نے دوزخ لکھ دی ہے۔

۱۱۸۶: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ قَالَ إِلَّا مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَصَلِّيَ الْجَحِيمَ۔

۱۱۸۷: ہلال بن بشر، حماد، حضرت حمید نے روایت کیا کہ حسن بیان کرتے تھے کہ آسمان سے گر جانا زیادہ پسندیدہ ہے بہ نسبت یہ بات کہنے کہ معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔

۱۱۸۷: حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ كَانَ الْعَسَنُ يَقُولُ لَأَنْ يَسْقَطَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ الْأَمْرُ بِيَدِي۔

۱۱۸۸: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، حضرت حمید سے مروی ہے کہ حسن بصری ہمارے پاس مکہ مکرمہ میں آئے تو مجھ سے مکہ معظمہ کے علماء نے بیان کیا کہ حسن سے عرض کرو کہ ایک دن بیٹھ کر وعظ فرمائیں۔ انہوں نے جواب دیا بہت بہتر ہے۔ پھر تمام اہل مکہ اکٹھا ہو گئے حضرت حسن نے ان سے خطاب فرمایا تو میں نے ان سے اچھا کوئی خطیب نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا ابوسعید! شیطان کو کس نے بنایا؟ انہوں نے جواب دیا: سبحان اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی پیدا کرنے والا (بنانے والا) ہے؟ شیطان کو اسی نے پیدا فرمایا۔ اسی نے اچھا برا پیدا فرمایا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے اس بزرگ کی

۱۱۸۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا الْعَسَنُ مَكَّةَ فَكَلَّمَنِي فَقَهَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي أَنْ يَجْلِسَ لَهُمْ يَوْمًا يَعْظُهُمْ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَاجْتَمَعُوا فَخَطَبَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحْطَبَ مِنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ خَلَقَ الشَّيْطَانَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ خَلَقَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ وَخَلَقَ الْخَيْرَ وَخَلَقَ الشَّرَّ قَالَ الرَّجُلُ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ كَيْفَ يَكْذِبُونَ عَلَى هَذَا

الشیخ۔

طرف کس قدر جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔

۱۱۸۹: حَدَّثَنَا ابْنُ كَيْسِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ قَالَ الشِّرْكَ۔

۱۱۸۹: ابن کثیر سفیان حمید نے بیان کیا کہ حسن نے بیان کیا کہ کَذَلِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ یعنی ہم شرک کو کفار کے قلوب میں ڈالتے ہیں۔ یعنی یہاں وہ کی ضمیر شرک کی طرف راجع ہے۔

۱۱۹۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْسِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَاهُ غَيْرُ ابْنِ كَيْسِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ الصِّيدِ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ قَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ۔

۱۱۹۰: محمد بن کثیر سفیان ابن کثیر ایک شخص سفیان عبید الصید حسن نے بیان کیا کہ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ یعنی ان لوگوں میں اور ایمان میں رکاوٹ پیدا ہوگئی یعنی مَا يَشْتَهُونَ سے مراد ایمان ہے۔

۱۱۹۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ بِالشَّامِ فَنادَانِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَانْتَفَتُ فَإِذَا رَجَاءُ بْنُ حَيَوَةَ فَقَالَ يَا أَبَا عَوْنٍ مَا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُونَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَى الْحَسَنِ كَذِبًا۔

۱۱۹۱: محمد بن عبید سلیمان ابن عون سے مروی ہے کہ میں ملک شام جا رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی۔ میں نے (مڑ کر) دیکھا تو رجاء بن حیوۃ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ اے ابو عون! لوگ حضرت حسن بصری کے حوالہ سے کس بات کا چرچا کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ وہ زیادہ تر ان کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔

۱۱۹۲: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَقُولُ كَذَبَ عَلَى الْحَسَنِ ضَرْبَانِ مِنَ النَّاسِ قَوْمُ الْقَدَرِ رَأَيْتَهُمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَنْفِقُوا بِذَلِكَ رَأَيْتَهُمْ وَقَوْمٌ لَهُ فِي قُلُوبِهِمْ شَتَانٌ وَبَغْضٌ يَقُولُونَ أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا أَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ كَذَا۔

۱۱۹۲: سلیمان بن حرب حماد ایوب نے بیان کیا کہ دو قسم کے لوگوں نے حضرت حسن بصری کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ ایک تو (فرقہ) قدریہ نے وہ لوگ یہ بات چاہتے تھے کہ ان کے (حضرت حسن کے) نام لینے سے ہماری (یعنی قدریہ) کی بات کا اعتبار ہو۔ دوسرے وہ لوگ جو کہ ان سے عناد رکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں اور فلاں بات نہیں کہی؟

۱۱۹۳: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ يَحْيَى بْنَ كَيْسِرٍ الْعَنْبَرِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ قَرَّةُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لَنَا يَا فَيَّسَانُ لَا تَغْلَبُوا عَلَى الْحَسَنِ لِإِنَّهُ كَانَ رَأْيَهُ السُّنَّةَ وَالصَّوَابَ۔

۱۱۹۳: ابن مثنیٰ یحییٰ بن کثیر انبیری نے کہا کہ قرہ بن خالد بیان کرتے تھے کہ حضرت حسن کو قدریہ نہ سمجھوان کی رائے سنت کے مطابق اور صحیح تھی۔

۱۱۹۴: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَوْلَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ كَلِمَةَ الْحَسَنِ

۱۱۹۴: ابن مثنیٰ ابن بشار نے بیان کیا کہ اگر ہم لوگوں کو علم ہوتا (اس بات کا) کہ جو بات حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ اس بات کو اس قدر شہرت حاصل ہو جائے گی تو ہم لوگ

تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ لَكُنْتَنَا بِرُجُوعِهِ كِتَابًا وَأَشْهَدْنَا عَلَيْهِ شُهُودًا وَلَكِنَّا فَلْنَا كَلِمَةً خَرَجَتْ لَا تُحْمَلُ۔

ان کے رجوع پر ایک کتاب تحریر کر لیتے اور لوگوں کی شہادتیں (قلم بند کرتے) لیتے ہم لوگ یہ سمجھے کہ چلو انہوں نے ایک بات بیان فرمائی ہے اب اس بات کو کون شہرت دے گا؟

۱۱۹۵: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ قَالَ لِي الْحَسَنُ مَا أَنَا بِعَائِدٍ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ أَبَدًا۔

۱۱۹۵: سلیمان بن حرب حماد بن زید ایوب نے بیان کیا کہ حسن نے کہا کہ میں اب آئندہ اس قسم کی بات نہیں بیان کروں گا۔

۱۱۹۶: حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِثَانَ عَنِ ابْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ قَالَ لِي الْحَسَنُ آيَةُ قَطُّ إِلَّا عَنِ الْإِنْبَاتِ۔

۱۱۹۶: ہلال بن بشر عثمان بن عثمان عثمان بن عثان نے بیان کیا کہ حضرت حسن نے جب بھی کسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی تو (انہوں نے) تقدیر کو ثابت فرمایا۔

۱۱۹۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَلْفِينَنَ أَحَدَكُمْ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكْتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَا۔

۱۱۹۷: احمد بن حنبل عبد اللہ بن محمد سفیان بن فضال ابو نصر عبید اللہ حضرت ابودافع سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ اپنے تخت پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہو کہ اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی اس قسم کا حکم آ جائے کہ میں نے اس کا حکم کیا ہے یا اس سے منع کیا ہے تو وہ شخص یوں کہے۔ مجھے تو علم نہیں میں نے تو کتاب اللہ میں جو چیز پائی بس ہم نے اسی کا اتباع کیا ہے۔

منکرین حدیث کا باطل خیال:

حدیث کے آخری حصہ میں جس شخص کا تذکرہ ہے اس سے مراد ایسا شخص ہے جو کہ نیک کام سے بچنا چاہتا ہے اور یہ لغو دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ حکم تو قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر جس طرح قرآن کریم نازل فرمایا ہے اسی طریقہ سے حدیث شریف بھی عنایت فرمائی ہے یعنی قرآن کریم متن ہے اور حدیث شریف اس کی شرح ہے اس لئے قرآن کریم میں جو حکم نہ ملے وہ حدیث و فقہ سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔

۱۱۹۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا

۱۱۹۸: محمد بن صباح البرزاز نے بیان کیا کہ محمد بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ حضرت عاصم صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمارے اس کام میں نئی بات پیدا کرے یعنی ہمارے اس دین اور شریعت میں (نئی بات نکالے) جو اس میں نہیں تو وہ نئی بات یا اس کا نکلنے والا شخص مردود ہے ابن عیسیٰ نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا جو شخص کوئی کام کرے علاوہ اس

وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلٌّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔
 پر ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں میرے اور خلفاء کا طریقہ لازم پکڑ لو۔ جو نیک راستہ

تھام لو اور دانتوں سے پکڑ لو۔ اور تم لوگ نئی باتوں سے بچو۔ کیونکہ جوئی بات ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کا خلوص اور اتباع امیر کا حکم:

مذکورہ حدیث کی آیت کریمہ: وَلَا عَلَى الَّذِينَ فِي سُلُوكِهِمْ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّبِعُوا الْأَمْرَ وَالْأُمَّةَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ فِي سُلُوكِهِمْ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّبِعُوا الْأُمَّةَ وَالْأُمَّةَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ فِي سُلُوكِهِمْ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّبِعُوا الْأُمَّةَ وَالْأُمَّةَ۔
 کہ اے نبی! وہ لوگ اپنی طرف سے جہاد میں شرکت کے لئے جانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے لیکن وہ بیچارے اپنے پاس سواری کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہیں۔ اور وحشی غلام کی اتباع کا آپ نے جو حکم فرمایا ہے تو آپ۔ نے تاکید۔ کے لئے مبالغہ فرمایا یعنی چاہے امیر اور حکمران کوئی بھی ہو۔ بہر حال اس کی اتباع لازمی ہے اور حکم قبول کرنے سے مراد یہی ہے کہ مسلمانوں کے سردار کی اتباع کرنا اور اس کے حکم کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔

۱۲۰۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَجِيْبٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَا هَلْكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔
 ۱۲۰۰: مسدّد یحییٰ ابن جریج، سلیمان طلق بن حبیب، احنف حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو، بہت مباحثہ اور جھگڑا کرنے والے ہلاک ہو گئے (یعنی حکم الہی نہ ماننے والے) یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائی۔

باب: اتباع سنت کی فضیلت کا بیان

باب لزوم السنۃ

۱۲۰۱: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔
 ۱۲۰۱: یحییٰ بن ایوب اسماعیل علاء انکے والد عبد الرحمن ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو نیک کام کی طرف بلائے گا تو اس شخص کو بھی ثواب ملے گا انکے ثواب کے برابر جو نیک کام میں اسکے تابع ہوں گے۔ اور رہبری کرنے والے کا اجر عمل کرنے والے شخص کے اجر کو کم نہ کرے گا اور جو شخص لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس شخص پر بھی اسی قدر گناہ (اور وبال) ہوگا کہ جس قدر اس کی بات ماننے والوں پر ہوگا گمراہ کرنے والے کا گناہ (عمل) کرنے والوں کے گناہ کو کم نہ کرے گا (یعنی دونوں کے برابر گناہ ملے گا)

۱۲۰۲: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يَحْرَمْ۔
 ۱۲۰۲: عثمان بن ابی شیبہ سفیان زہری عامر بن سعید اپنے والد سعید سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مسلمانوں میں بہت زیادہ گنہگار مسلمان وہ شخص ہے کہ جس نے ایسی بات کے متعلق دریافت کیا جو حرام نہیں تھی پھر اس کے معلوم کرنے کی

فَحَرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ۔
وجہ سے لوگوں پر حرام ہو گئی۔

بلا ضرورت سوال کرنا:

ضرورت کے لئے حکم شرع دریافت کرنے کا تو حکم ہے لیکن بلا ضرورت شرعی سوال کرنا اور غیر ضروری سوالات دریافت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو! ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر ان کے جوابات معلوم ہو جائیں تو تم کو ناگواری ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَكُمْ تَوَكُّمًا۔

باب فی التفضیل
باب: صحابہؓ میں سب سے زیادہ کون افضل ہے؟

۱۲۰۳: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْبُدُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُمَرَانُ ثُمَّ نَبْرُكُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَفْضِلُ بَيْنَهُمْ۔

۱۲۰۴: أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَفْضَلَ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُمَرَانُ أَجْمَعِينَ۔

۱۲۰۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ قَالَ ثُمَّ خَشِيتُ أَنْ أَقُولَ ثُمَّ مَنْ فَيَقُولُ عُمَرَانُ فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ يَا أَبَتِ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

۱۲۰۳: عثمان بن ابی شیبہ، اسود عبد العزیز، عبید اللہ نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دو نبوی میں ہم لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں کرتے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے برابر پھر حضرت عثمان عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہ کرتے تھے پھر دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہم لوگ چھوڑ دیتے تھے ان میں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔

۱۲۰۴: احمد بن صالح، عبید اللہ، نافع، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہم لوگ کہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اُمت کے بہترین فرد ہیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔

۱۲۰۵: محمد بن کثیر، سفیان، جامع، ابویعلیٰ، محمد بن حنفیہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد تمام لوگوں میں کون افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابوبکر صدیقؓ۔
راوی بیان کرتے ہیں پھر میں نے دریافت کیا پھر کون؟ (افضل ہے) فرمایا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ پھر میں اس بات سے ڈر گیا کہ میں دریافت کروں پھر کون (افضل ہے) اور وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیں تو میں نے کہا: پھر ابا جان آپ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں کیا ہوں میں تو صرف ایک شخص ہوں مسلمانوں میں سے۔

حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح:

حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں۔ کتب تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عظیم کارنامے

مذکور ہیں انہوں نے اہل اسلام میں سے اپنے کو ایک شخص یعنی عام مسلمان جو فرمایا ہے یہ آپ کا فرمانا عاجزی اور انکساری کے طور پر تھا ورنہ جمہور علماء اُمت کے نزدیک خلفاء ثلاثہ کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کا مقام ہے۔

۱۲۰۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْفَرُّيَابِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَحَقَّ بِالْوِلَايَةِ مِنْهُمْ فَفَقَدْ خَطَأَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَمَا أَرَاهُ يَرْتَفِعُ لَهُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ۔

۱۲۰۶: محمد بن مسکین محمد فریابی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے سنا وہ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ بات سمجھے کہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی بہ نسبت خلافت کے زیادہ حقدار تھے تو اس شخص نے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور تمام مہاجرین اور انصار کی غلطی نکالی اور جو شخص اس قسم کا اعتقاد رکھے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس شخص کا کوئی عمل آسمان کی طرف جائے۔

خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرات مہاجرین اور انصار کے اتفاق سے ہوئی تھی کتب تاریخ "اسد الغابہ فی احوال الصحابة" اور اردو میں "تاریخ الخلفاء" سیرت خلفاء راشدین میں اس مسئلہ کی تفصیلی بحث مذکور ہے اور آسمان کی طرف عمل جانے سے مراد کوئی عمل قبول ہونا ہے یعنی حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی رائے میں ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں۔

۱۲۰۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا عَبَادُ السَّمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ۔

۱۲۰۷: محمد بن یحییٰ قبیصہ حضرت عباد بن سماک کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے سنا وہ کہتے تھے کہ خلفاء پانچ ہیں: ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ۔

باب: خلافت کا بیان

۱۲۰۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مُحَمَّدٌ كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا بِي وَأُمِّي لَتَدَعَنِي فَلَا عَبْرَتَهَا فَقَالَ عَبْرُهَا قَالَ أَمَا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَا مَا يَنْطَفُ مِنَ السَّمَنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ لِينُهُ وَحَلَاوَتُهُ وَأَمَا

۱۲۰۸: محمد بن یحییٰ عبدالرزاق معمر زہری عبید اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے رات (خواب کی حالت میں) ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جس میں سے گھی اور شہد نیک رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں وہ لوگ شہد اور گھی لے رہے تھے۔ کسی شخص نے بہت سا (شہد اور گھی) لے لیا۔ کسی نے تھوڑا سا لیا اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو دیکھا یا رسول اللہ! کہ آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا اور آپ اُپر

باب فی الخلفاء

۱۲۰۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مُحَمَّدٌ كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا بِي وَأُمِّي لَتَدَعَنِي فَلَا عَبْرَتَهَا فَقَالَ عَبْرُهَا قَالَ أَمَا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَا مَا يَنْطَفُ مِنَ السَّمَنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ لِينُهُ وَحَلَاوَتُهُ وَأَمَا

التَّشْرِيفُ لَمْ يَكُنْ لِي فِي رِثَتِي كَوَيْلًا لِي
وَهُ بَعِي أَوْ بَرِي كَوَيْلًا لِي أَوْ خِصْمًا لِي
بَعِي أَوْ بَرِي كَوَيْلًا لِي أَوْ خِصْمًا لِي
رِثَتِي (درمیان سے) ٹوٹ گئی، لیکن پھر مل گئی اور وہ شخص اُوپر چلا گیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خواب سن کر فرمایا یا رسول اللہ
میرے والدین آپ پر خدا ہوں مجھ کو اس خواب کی تعبیر بیان کرنے
دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چلو تم تعبیر بیان کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بادل کا ٹکڑا تو دین اسلام ہے اور وہ گھی اور شہد
جو اسلام میں سے ٹپک رہا ہے تو اس سے مراد قرآن کریم ہے جس میں
نزی اور مٹھاس ہے اور یہ جو کچھ لوگوں نے اس سے بہت سالے لیا اور
کچھ لوگوں نے اس سے تھوڑا سا حاصل کیا۔ تو (اس سے مراد) یہی ہے
تَقْسِيمُ۔

کہ کسی شخص نے بہت قرآن کریم حاصل کیا اور کسی نے کم حاصل کیا۔ پھر وہ رسی جو کہ آسمان سے زمین تک معلق ہے تو وہ وہ حق ہے
جس کو آپ لئے ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھالے گا (یعنی آپ کی وفات ہو جائے گی) اور آپ کے (وصال کے) بعد اس
(خلافت کے) حق کو ایک دوسرا شخص لے لے گا اور وہ بھی اٹھ جائے گا (یعنی اس کا بھی انتقال ہو جائے گا) پھر ایک اور شخص
(خلافت) حاصل کرے گا وہ شخص کٹ جانے کے نزدیک ہوگا لیکن پھر وہ مل جائے گا۔ اور وہ اُوپر اُٹھ جائے گا یا رسول اللہ آپ
ارشاد فرمائیں کہ میں نے (خواب کی) تعبیر درست بیان کی یا غلط بیان کی؟ آپ نے فرمایا تم نے کچھ تو درست بیان کی اور کچھ غلط
بیان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں میں حلف کرتا ہوں کہ میں نے کیا غلطی کی آپ نے
فرمایا نہیں تم قسم نہ کھاؤ۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے متعلق:

حدیث میں جو فرمایا ہے کہ وہ شخص کٹ جانے کے قریب ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ایسے بن جائیں گے وہ شخص
خلافت چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حال ہوا اور حدیث بالا کے آخری حصہ میں قسم سے متعلق جو
مذکور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا پھر تمہاری قسم پوری نہیں ہوگی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
تعبیر کی غلطی اور اس کے درست ہونے کی تفصیل بیان نہیں فرمائی تا کہ پہلے ہی سے فتن و فساد کی خبریں شہرت حاصل نہ کر لیں، حکم
الہی کے مطابق اس کو مبہم رکھنا ہی تھا اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ خلافت کا معاملہ مبہم رہے۔ اتفاق رائے سے مسلمان جس کو خلیفہ
مقرر کر لیں وہی ٹھیک ہے۔

۱۲۰۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ
۱۲۰۹: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ زُهْرِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبِيدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی واقعہ مذکور ہے اس میں اس طرح ہے

کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آپ ان کی غلطی بیان فرمائیں تو حضرت رسول اللہ ﷺ نے اس سے انکار فرمادیا۔
۱۲۱۰: محمد بن ثنی، محمد بن عبد اللہ اشعث، حسن، ابوبکرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے ایک دن ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے جس نے (رات) کو کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ (اپنا خواب) بیان کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترتی۔ پھر آپ کو اور ابوبکرؓ کو (اس ترازو میں) تولا گیا تو آپ ابوبکرؓ کے مقابلہ میں وزنی تھے۔ اسکے بعد ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو تولا گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وزنی ہوئے پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وزنی ہو گئے اور اس کے بعد وہ ترازو اٹھ گئی۔ راوی نے بیان کیا کہ اس خواب کی وجہ سے ہم نے آپ کے چہرہ مبارک پر ناگواری محسوس کی۔

الرُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ قَابِي أَنْ يُخْبِرَهُ۔
۱۲۱۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ يَا أَبِي بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَرَأَيْنَا الْكِرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

راز خلافت کے اظہار پر آپ ﷺ کی ناراضگی:

اس ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ خلافت کا راز مخفی تھا۔ مذکورہ خواب بیان کرنے سے ایک درجہ میں وہ راز کھل گیا کیونکہ خلافت اسی ترتیب سے قائم ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مذکورہ شخص نے پورا خواب نہیں دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کون خلیفہ قرار دیا جائے گا؟ اسی طریقہ سے اس خواب میں علی کرم اللہ وجہہ کا بھی تذکرہ نہیں ہے اور مسئلہ خلافت کی تفصیل کتب تاریخ و مغازی میں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۲۱۱: موسیٰ بن اسماعیل، حماد علی بن زید، عبد الرحمن بن حضرت ابوبکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک دن ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے جس شخص نے کوئی خواب دیکھا ہو وہ بیان کرے۔ اس کے بعد یہی حدیث بیان کی لیکن ناراضگی کا (اس روایت میں) تذکرہ نہیں کیا البتہ یہ بیان کیا کہ آپ کو یہ خواب برا معلوم ہوا آپ نے ارشاد فرمایا تم نے جو یہ دیکھا ہے وہ نبوت کی خلافت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے حکومت عنایت فرمادیں گے۔

۱۲۱۱: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيْتُكُمْ رَأَى رُؤْيَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكِرَاهِيَةَ قَالَ فَاسْتَأْذَنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَسَأَلَهُ ذَلِكَ فَقَالَ خِلَافَةُ نَبْوَةٍ ثُمَّ يُوتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ۔

۱۲۱۲: عمرو بن عثمان، محمد بن حرب، زبیدی، ابن شہاب، عمرو بن ابان، عثمان، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے نبی نے ارشاد فرمایا ”آج کی شب ایک نیک شخص کو دکھلایا گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے

۱۲۱۲: حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ

ساتھ پیوست کئے گئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیوست کر دیئے گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیوست کر دیئے گئے۔ جابر نے بیان کیا کہ پھر ہم لوگ جس وقت آپ کے پاس سے اٹھ گئے تو ہم لوگوں نے (اپنے گمان سے یہ بات کہی کہ آپ نے جو نیک شخص ارشاد فرمایا تو (ہمارے خیال میں) اس سے مراد خود نبی ہی ہیں اور بعض حضرات کا بعض سے جو پیوست کیا جانا اور ملنا (خواب میں دکھلایا گیا) ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حضرات اس خدمت کیلئے (بھیجے گئے) ہیں کہ جس خدمت کیلئے اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں اس روایت کو یونس اور ابن شہاب نے بھی بیان کیا ہے اور ان حضرات نے روایت میں عمرو بن ابان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔

كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَى اللَّيْلَةَ رَجُلًا صَالِحًا أَنْ أَبَا بَكْرٍ نَيْطًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْطُ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ وَرَيْطُ عُثْمَانَ بِعُمَرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا تَنْوُطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وَوَلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَشُعَيْبٌ لَمْ يَذْكُرَا عَمْرًا وَبَنَ أَبَانَ۔

ترتیب خلافت سے متعلق خواب:

نیک شخص (نے خواب میں) دیکھا سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا مراد ہے اور یہ واقعہ خواب کی حالت کا ہے اور اس خواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آپ کے اتصال اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دوسرے سے غیر معمولی تعلق دکھلایا گیا ہے۔ اور اس خواب میں خلافت راشدہ کی ترتیب بھی دکھلانی گئی ہے چنانچہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تفصیل کے لئے سیرت خلفاء راشدین از مولانا عبدالشکور لکھنوی ملاحظہ فرمائیں۔

۱۲۱۳: محمد بن ثنی، عفان، حماد اشعث، عبد الرحمن، انکے والد، سرہ بن جندب سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے کہ (یعنی خواب دیکھا) آسمان سے ڈول لٹکایا گیا تو پہلے ابوبکر صدیق تشریف لائے اور انہوں نے لکڑی کے دونوں کونے پکڑ کر کچھ پیا (مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اچھی طرح نہیں پایا) پھر عمر فاروق تشریف لائے تو انہوں نے اس کو پکڑ کر اچھے طریقہ سے خوب سیر ہو کر پانی نوش فرمایا اس کے بعد عثمان غنی تشریف لائے انہوں نے اس لکڑی کو پکڑ کر پانی خوب اچھی طرح سے نوش فرمایا اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے انہوں نے اس کو پکڑا تو وہ ڈول (جگہ سے) ابل گیا اور اس میں سے کچھ پانی علی کرم اللہ وجہہ پر گر گیا۔

۱۲۱۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ ذُلُومًا دَلَّتْ مِنَ السَّمَاءِ فَبَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَائِقِهَا فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَائِقِهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَصَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَائِقِهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَصَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عَلِيُّ فَأَخَذَ بِعَرَائِقِهَا فَانْتَشَطَتْ وَأَنْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ۔

دور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں آنے والے فتنے:

مذکورہ بالا حدیث میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں پیش آنے والے فتنہ و فساد کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت متاثر ہوئی۔

۱۲۱۴: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ لَتَمُخَّرَنَّ الرُّومُ الشَّامَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا إِلَّا دِمَشْقُ وَعَمَّانُ۔

۱۲۱۴: علی بن سہل، ولید سعید، حضرت مکحول نے بیان کیا کہ اہل روم ملک شام میں چالیس روز تک داخل رہیں گے ان لوگوں کے ہاتھ سے دمشق اور عمان کے علاوہ کوئی شہر محفوظ نہیں رہے گا۔

۱۲۱۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْأَعْيَسِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَلْمَانَ يَقُولُ سَيَأْتِي مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الْعَجَمِ يَظْهَرُ عَلَى الْمَدَائِنِ كُلِّهَا إِلَّا دِمَشْقَ۔

۱۲۱۵: موسیٰ بن عامر، ولید، حضرت عبدالعزیز بن علاء ابو الاعیس، عبد الرحمن بن سلمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ عجمی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ آئے گا جو دمشق کے علاوہ تمام شہروں پر غلبہ پالے گا۔

۱۲۱۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا بُرْدُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْضِعُ فُسْطَاطِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَلَاخِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ۔

۱۲۱۶: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، برد، حضرت مکحول سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگوں کے وقت میں اہل اسلام کا خیمہ ایک جگہ میں ہوگا جس کا نام غوطہ ہے (غوطہ ملک شام میں شہر دمشق کے قریب ایک مقام ہے)۔

۱۲۱۷: حَدَّثَنَا أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلَامِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَنْ عَوْفِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ مَثَلَ عُمَانَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ يَقْرُؤُهَا وَيَفْسِرُهَا إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتَوَقِّفَكَ وَرَافِعَكَ إِلَيَّ پَرَّهِي لِعِيسَى اللَّهِ تَعَالَى نِي ارشاد فرمایا اے عیسیٰ! میں تم کو دنیا سے اٹھانے والا ہوں اور اپنی جانب تم کو بلانے والا ہوں اور تم کو کفار سے پاک کرنے والا ہوں قیامت تک (حجاج یہ کہہ کر) ہماری اور اہل شام کی طرف اشارہ کیا۔

۱۲۱۷: ابو ظفر، جعفر، عوف بن ابی حمید سے مروی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حجاج بن یوسف خطبہ دے رہا تھا اور (خطبہ میں) بیان کر رہا تھا کہ عثمان کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پھر اس نے آیت: إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتَوَقِّفَكَ وَرَافِعَكَ إِلَيَّ پَرَّهِي لِعِيسَى اللَّهِ تَعَالَى نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ! میں تم کو دنیا سے اٹھانے والا ہوں اور اپنی جانب تم کو بلانے والا ہوں اور تم کو کفار سے پاک کرنے والا ہوں قیامت تک (حجاج یہ کہہ کر) ہماری اور اہل شام کی طرف اشارہ کیا۔

حجاج: حجاج تاریخ اسلام کا ظالم ترین شخص ہے تاریخ کی کتب میں اس کے تفصیلی حالات مذکور ہیں حجاج کیونکہ ایک ظالم انسان تھا اس وجہ سے اس نے خود کو اور خلفائے بنی امیہ کو اور اہل شام کو حضرت عیسیٰ کے (ماننے والے) تبعین سے تشبیہ دی۔

۱۲۱۸: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَقَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَالِدٍ

۱۲۱۸: اسحاق زہیر، جریر، مغیرہ، حضرت ربیع بن خالد جہنی سے مروی ہے کہ میں نے حجاج کو خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ اپنے خطبہ میں بیان کر رہا تھا کہ تم لوگوں میں سے کسی شخص کا پیغام رساں مرتبہ میں زیادہ ہے یا اس

کے گھر میں جو خلیفہ ہو وہ درجہ میں زیادہ ہے؟ میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ اب اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تیرے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھوں گا اور اگر مجھ کو اس قسم کے لوگ مل جائیں جو کہ تجھ سے جہاد کریں تو میں بھی ان کے ساتھ مل کر تیرے خلاف جہاد کروں گا۔ اسحق نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا کہ ربیع بن خالد نے جماعہ کی لڑائی میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔

الصَّبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَخْطُبُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ رَسُولُ أَحَدِكُمْ فِي حَاجَتِهِ أَكْرَمُ عَلَيْهِ أَمْ خَلِيفَتُهُ فِي أَهْلِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لِلَّهِ عَلَيَّ إِلَّا أَصْلِي خَلْفَكَ صَلَاةً أَبَدًا وَإِنْ وَجَدْتُ قَوْمًا يُجَاهِدُونَكَ لِأَجَاهِدَنَّكَ مَعَهُمْ زَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَقَاتَلَ فِي الْجَمَاعِمِ حَتَّى قُتِلَ

حجاج کا باطل خیال:

حجاج کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ حاکم وقت عبد الملک بن مروان کا درجہ آنحضرت ﷺ سے زیادہ سمجھیں اور حجاج کا کہنا یہ تھا کہ حضرات انبیاء تو دنیا میں پیغام الہی لے کر آئے ہیں اور عبد الملک بن مروان اللہ کا خلیفہ تھا (نعوذ باللہ) اور اس کا یہ کہنا ظاہر ہے کہ بالکل باطل اور فوٹھا کیونکہ حضرات انبیاء اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں خاص طور پر آنحضرت ﷺ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔

۱۲۱۹: محمد بن علاء ابو بکر حضرت عاصم سے مروی ہے کہ میں نے حجاج کو منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا اے لوگو! تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس میں نہ کوئی شرط نہ استثناء۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کی اطاعت کرو اس میں کوئی استثناء نہیں ہے تم اللہ کی اگر میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ مسجد کے اس دروازہ سے باہر نکلا کریں مگر وہ لوگ دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں تو میرے لئے ان کے خون اور مال حلال ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم! اگر میں (قبیلہ) مضر کی غلطیوں پر ربیعہ سے مواخذہ کروں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات ٹھیک ہے۔ کون شخص میرے پاس عذر پیش کرے گا عبد ہذیل کی طرف سے (اس سے مراد حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں) جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس طریقہ سے قرآن کریم کی تلاوت میں کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی قسم وہ تو اہل عرب کے گانوں میں سے ایک گانے کی طرح پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پیغمبر پر نازل نہیں فرمایا ان اہل عجم کی جانب سے کون شخص میرے پاس عذر پیش کرے گا کہ ان میں سے ایک آدمی پتھر پھینکتا ہے (یعنی فتنہ کی بات پیدا کرتا ہے) پھر وہ کہتا ہے (اے لوگو!) دیکھو کہاں تک پتھر جاتا ہے کوئی نئی بات پیدا

۱۲۱۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لَيْسَ فِيهَا مَشْيُوتَةٌ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لَيْسَ فِيهَا مَشْيُوتَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاللَّهُ لَوْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَخَرَجُوا مِنْ بَابٍ آخَرَ لَحَلَّتْ لِي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَاللَّهُ لَوْ أَخَذْتُ رِبْعَةَ بُمَظَرَ لَكَانَ ذَلِكَ لِي مِنَ اللَّهِ حَلَالًا وَيَا عَذِيرِي مِنْ عَبْدِ هُدَيْلٍ يَزْعُمُ أَنَّ قِرَائَتَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا هِيَ إِلَّا رَجَزٌ مِنْ رَجَزِ الْأَعْرَابِ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَذِيرِي مِنْ هَذِهِ الْحَمَرَاءِ يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَرْمِي بِالْحَجَرِ فَيَقُولُ إِلَيَّ أَنْ يَقَعَ الْحَجَرُ قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ فَوَاللَّهِ لَأَدْعِيَهُمْ كَالْأَمْسِ الدَّابِرِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِلْأَعْمَشِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ

ہوئی۔ اللہ کی قسم! ان لوگوں کو گزشتہ کل کی طرح سے مٹا ڈالوں گا (یعنی

سَمِعْتُهُ مِنْهُ۔

ان کا نام و نشان نہیں ہے گا) راوی نے بیان کیا کہ میں نے اعمش کے سامنے یہ اقوال نقل کئے تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم حجاج سے میں نے بھی اسی طرح سنا ہے۔

حجاج کا زمانہ:

حجاج کا یہ خیال تھا کہ لوگ کسی قسم کی شرط کے بغیر اس کی اطاعت کریں اور اس کو امیر تسلیم کر لیں اس دور میں بنی امیہ کے غلبہ کے دور میں بعض متقی حضرات فتنہ سے بچنے کے لئے بیعت کر لیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے بشرطیکہ تمہارا حکم خلاف شرع نہ ہو اور حجاج کے مظالم اور اس کے واقعات کی تفصیل کتب تاریخ میں مفصل طور پر مذکور ہے۔

۱۲۲۰: عثمان بن ابی شیبہ ابن ادریس اعمش نے بیان کیا میں نے حجاج سے سنا کہ یہ اہل عجم کاٹ ڈالنے کے لائق ہیں کاٹ ڈالنے کے۔ اللہ کی قسم اگر میں لکڑی کو لکڑی پر ماروں تو میں ان کا اس طرح نشان مٹا دوں گا کہ جس طریقہ سے گزشتہ کل (کا نام و نشان نہیں تھا)

۱۲۲۰: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمَنْبِرِ هَذِهِ الْحُمْرَاءُ هَبْرُ هَبْرُ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَدْ قَرَعْتُ عَصًا بَعْصًا لَأَذَرْتَهُمْ كَالْأَمْسِ الذَّاهِبِ يَعْنِي الْمَوْلَى

۱۲۲۱: قطن بن نسیر، جعفر بن سلیمان، داؤد بن سلیمان، شریک سلیمان اعمش نے بیان کیا کہ میں نے حجاج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی اس نے خطبہ پڑھا پھر پہلی روایت کی طرح روایت بیان کی۔ اس خطبہ میں حجاج نے بیان کیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور بزرگ ہستی عبد الملک بن مروان کی فرمانبرداری کرو پھر انہوں نے گزشتہ کی طرح روایت بیان کی۔

۱۲۲۱: حَدَّثَنَا قَطْنُ بْنُ نَسِيرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكِ عَنِ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ قَالَ جَمَعْتُ مَعَ الْحَجَّاجِ فَخَطَبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ بِنِ عِيَّاشٍ قَالَ فِيهَا فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِخَلِيفَةِ اللَّهِ وَصَفِيهِ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَسَاقِ الْحَدِيثِ۔

۱۲۲۲: سوار عبد الوارث سعید بن جہان سفینہ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا نبوت کی خلافت تیس سال تک (باقی) رہے گی پھر اللہ تعالیٰ جس شخص کو چاہیں گے سلطنت (یعنی خلافت) عطا فرمادیں گے۔ سعید نے بیان کیا کہ سفینہ نے مجھ سے بیان کیا کہ تم لوگ حساب لگا لو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت دو سال اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دس سال اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بارہ سال اور علی کرم اللہ وجہہ کی اس قدر سال۔ سعید نے بیان کیا کہ میں نے سفینہ سے کہا کہ یہ لوگ یعنی (مروان والے) سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں تھے۔ انہوں نے جواب دیا انکے سرین جھوٹ بھولتے ہیں (یعنی مروانی جھوٹے ہیں) اور یہ اس

۱۲۲۲: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُهَّانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مَلِكُهُ مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ سَتَيْنِ وَعُمَرُ عَشْرًا وَعُثْمَانُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَعَلِيٌّ كَذَا قَالَ سَعِيدٌ قُلْتُ لِسَفِينَةَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ بِخَلِيفَةٍ قَالَ كَذَبْتَ

أَسْتَاهُ نَبِيَّ الزُّرْقَاءِ يَعْنِي نَبِيَّ مَرْوَانَ-

۱۲۲۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ وَسُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمِ الْمَازِنِيِّ ذَكَرَ سُفْيَانُ رَجُلًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمِ الْمَازِنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بِنَ عَمْرٍو بْنَ نَفِيلٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ فَلَانٌ إِلَى الْكُوفَةِ أَقَامَ فَلَانٌ خَطِيبًا فَأَخَذَ بِيَدِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الظَّالِمِ فَأَشْهَدُ عَلَى التَّسْعَةِ إِنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ إِسْمُ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ وَالْعَرَبُ يَقُولُ آتَمُ قُلْتُ وَمَنِ التَّسْعَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى حِرَاءِ اثْبُتَ حِرَاءٌ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ قُلْتُ وَمَنِ التَّسْعَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌو وَعُفْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قُلْتُ وَمَنِ الْعَاشِرُ فَنَلَكُنَا هَنِيئًا ثُمَّ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ بِإِسْنَادِهِ-

۱۲۲۴: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ التَّمْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ رَجُلٌ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ عَشْرَةً فِي الْجَنَّةِ النَّبِيُّ

قد رہی ہو وہ ہے کہ زبان سے نہیں نکلی بلکہ ان کے سر میں سے آواز نکلی ہے۔

۱۲۲۳: محمد بن علاء ابن ادریس، حسین ہلال بن یساف، عبداللہ سفیان منصور ہلال بن یساف، عبداللہ بن مازنی سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن زید سے سنا وہ کہتے تھے کہ جب فلاں شخص کوفہ میں آیا اور اس نے فلاں شخص کو خطبہ دینے کے لئے کھڑا کیا تو سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا تم نہیں دیکھتے اس ظالم شخص کو (جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذمت بیان کر رہا ہے) میں نو آدمیوں کے بارے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں اور اگر میں دسویں شخص کا بھی تذکرہ کر دوں تو میں گنہگار نہ ہوں گا۔ ابن ادریس کہتے ہیں اہل عرب ائم کہتے ہیں میں نے عرض کیا وہ حضرات کون کونسے ہیں؟ سعید نے جواب دیا آنحضرت ﷺ (کوہ) حراء تشریف لے گئے آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا (اے پہاڑ!) ٹھہر جاؤ۔ تم پر نبی اور شہید و صدیق کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا وہ حضرات کون کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا آنحضرت ﷺ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم پھر میں نے عرض کیا وہ دسواں کون شخص ہے؟ تو وہ کچھ دیر خاموش رہے پھر انہوں نے جواب دیا وہ دسواں شخص میں ہوں۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو شعبی نے سفیان منصور ہلال بن یساف ابن حیان عبداللہ مازنی سے اسی سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے۔

۱۲۲۴: حفص بن عمر شعبہ جربن صباح، حضرت عبدالرحمن بن اخنس سے مروی ہے کہ وہ (ایک دن) مسجد میں تھے اسی وقت ایک شخص نے (بطور مذمت) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ کیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ پر کہ میں نے آپ سے سنا ہے آپ ارشاد فرماتے تھے کہ دس حضرات جنت میں ہیں۔ ایک تو آنحضرت ﷺ جنت میں

ابوبکر صدیق جنت میں، حضرت عمر فاروق جنت میں، حضرت عثمان غنی جنت میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنت میں، حضرت طلحہ جنت میں، زبیر بن عوام جنت میں، سعد بن مالک رضی اللہ عنہ جنت میں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں اور اگر میں چاہوں تو دسویں شخص کا بھی نام بیان کر دوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ دسواں شخص کون ہے؟ وہ (یہ سن کر) خاموش ہو گئے جب انہوں نے پھر دریافت کیا کہ وہ دسواں شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ:

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے جنتی ہونے کی پیشین گوئی فرمائی ہے انہوں نے اپنا نام سب سے آخر میں بیان فرمایا تاکہ فخر و مباہات ظاہر نہ ہو انہوں نے لوگوں کے اصرار پر اپنا نام عشرہ مبشرہ میں سے ہونا بیان فرمایا۔

۱۲۲۵: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُنْثَرِيِّ حَدَّثَنِي جَدِّي رِيَّاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ فُلَانٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَجَاءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ فَرَحَّبَ بِهِ وَحَيَّاهُ وَأَقْعَدَهُ عِنْدَ رَجُلِهِ عَلَى السَّرِيرِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُ لَهُ قَيْسُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ فَسَبَّ وَسَبَّ فَقَالَ سَعِيدٌ مَنْ يَسُبُّ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ يَسُبُّ عَلِيًّا قَالَ أَلَا أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ ثُمَّ لَا تُنْكِرُونَ وَلَا تُغَيِّرُونَ أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِنِّي لَعَنِيُّ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَيَسْأَلَنِي عَنْهُ عَدَا إِذَا لَقِيْتَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعَمْرُو فِي الْجَنَّةِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْبُرُ فِيهِ

۱۲۲۵: ابوالکامل، عبدالواحد صدقہ، حضرت رباح بن حارث سے مروی ہے کہ میں فلاں آدمی کے پاس مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا (فلاں شخص سے مراد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں) اور ان کے گرد کوفہ کے حضرات اکٹھے تھے۔ اسی وقت حضرت سعید بن زید اور عمرو بن نفیل تشریف لائے (حضرت مغیرہ بن شعبہ) نے مرحبا کہا اور السلام علیکم کہا اور انہوں نے ان کو اپنے پیر کے پاس چار پائی پر بٹھایا پھر ایک کوفہ کا باشندہ حاضر ہوا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا استقبال کیا اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مذمت کی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا یہ شخص کس کی مذمت کر رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ (یہ شخص) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مذمت کر رہا ہے۔ سعید نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آنحضرت ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت بیان کرتے ہیں پھر نہ تو تم (اس سے) روکتے ہو اور نہ ٹوکتے ہو میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے اور مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کی طرف وہ بات منسوب کروں کہ جو آپ نے بیان نہیں فرمائی۔ پھر آپ مجھ سے قیامت میں بوقت ملاقات دریافت فرمائیں (حضرت) ابوبکر

وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عُمُرُهُ وَلَوْ عُمِرَ
جنت میں ہوں گے اس کے بعد حدیث کو اخیر تک بیان اسی طریقہ سے
عُمِرُ نُوْحٍ۔

بیان فرمایا کہ جس طریقہ سے اُوپر مذکور ہے پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی شخص کا آپ کے ہمراہ جہاد میں رہنا کہ جس سے اس شخص کے چہرہ پر غبار گیا، تم لوگوں میں سے زندگی بھر تمام اعمال سے افضل ہے اگرچہ اس شخص کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر ہو۔

صحابی (رضی اللہ عنہ) کا مرتبہ:

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سینکڑوں سال تک بھی نیک کام کرتا رہے تو اس کا مرتبہ صحابی کے برابر نہیں ہوگا اور کوئی بزرگ یا ولی یا عبادت گزار شخص، صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، حضرت مفتی اعظم پاکستان کی تالیف ”مقام صحابہ رضی اللہ عنہم“ میں صحابی کے مقام پر تفصیلی کلام فرمایا گیا ہے۔

۱۲۲۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ صَعِدَ أَحَدًا فَتَبِعَهُ
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضْرِبَهُ
نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ
أَلَيْتُ أَحَدُ نَبِيِّ وَصِدِّيقٍ وَشَهِيدَانِ۔

۱۲۲۶: مسدّد یزید بن زریع (دوسری سند) مسدّد یحییٰ سعید بن ابی
عروبہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے
بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ کوہ احد پر چڑھے اور آپ کے ہمراہ حضرت
ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم تھے۔
(اس وقت) پہاڑ کا پٹنہ لگا تو آنحضرت ﷺ نے اپنے پیر مبارک سے
اس کو مارا اور فرمایا رک جا اے احد! تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور
دو شہید ہیں۔

صدیق کا مفہوم:

صدیق سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی اور دو شہداء سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ کی مذکورہ پیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبعی طریقہ سے وفات ہوئی اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما شہید کئے گئے۔

۱۲۲۷: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ
الرَّمْلِيِّ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ۔

۱۲۲۷: قتیبہ یزید لیث ابوزبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آدمیوں میں سے کوئی
بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا جس نے درخت کے نیچے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی (مراد صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت الرضوان
ہے)

۱۲۲۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانٍ حَدَّثَنَا

۱۲۲۸: موسیٰ بن اسماعیل حماد بن حماد بن سلمہ (دوسری سند) احمد بن سنان یزید
بن ہارون حماد بن سلمہ عاصم ابوصالح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور ارشاد فرمایا تم لوگ جس قسم کے چاہے اعمال کرو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مغفرت فرمادی۔

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى فَلَعَلَّ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ سِنَانٍ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

۱۲۲۹: محمد بن عبید محمد بن ثور، معمر زہری، عروہ، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لئے نکلے۔ (یعنی حدیبیہ کے لئے تشریف لے گئے) پھر حدیث (مندرجہ بالا حدیث کی طرح) بیان کی تو عروہ بن مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بات چیت کرنے لگا۔ پھر جب وہ آپ سے باتیں کرتا تو آپ کی داڑھی مبارک ہاتھ میں لیتا اور (اس وقت) مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ کے نزدیک کھڑے تھے (موجود تھے) ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ان کے سر پر خرد تھا۔ انہوں نے تلوار کے قبضہ سے عروہ کے ہاتھ پر مارا اور کہا تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ الگ رکھو۔ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ مغیرہ بن شعبہ ہیں (پھر عروہ حضرت مغیرہ پر ناراض ہوا کہ میں نے تم پر اس اس طرح کے احسانات کئے ہیں اور تم مجھ سے یہ کہتے ہو)

۱۲۲۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَاتَاهُ بَعْضُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمَغِيرَةَ بِنُ شُعْبَةَ فَأَتَمَّ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَضْرَبَ يَدَهُ بِتَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ آخِرُ يَدِكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمَغِيرَةَ بِنُ شُعْبَةَ.

۱۲۳۰: ہناد بن سری، عبد الرحمن، عبد السلام بن حرب، ابو خالد الدالانی، آل جعدہ کے آزاد کردہ غلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو جنت کا دروازہ دکھایا کہ جس میں سے میری امت (جنت میں) داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی آپ کے ہمراہ ہوتا اور جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر! تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گے۔

۱۲۳۰: حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُخَارِبِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي خَالِدِ الدَّالَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّتِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي.

۱۲۳۱: حفص بن عمر، حماد بن سلمہ، سعید بن ایاس، عبد اللہ بن شقیق، اقرع،

۱۲۳۱: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ

جو کہ عمر فاروقؓ کے مؤذن تھے کہ مجھ کو عمر فاروقؓ نے نھرائیوں کے ایک پادری کی طرف بھیجا میں نے اس کو بلایا عمر فاروقؓ نے اس سے دریافت فرمایا تم اپنی کتاب میں میرے بارے میں کوئی بات دیکھتے ہو؟ (یعنی تمہاری مذہبی کتاب میں میرا تذکرہ ہے یا نہیں) اس نے کہا جی ہاں انہوں نے فرمایا کس طرح سے؟ اس پادری نے جواب دیا "قرن" اس بات پر عمر فاروقؓ نے کوزا اٹھایا اور فرمایا قرن کیا ہے؟ اس نے کہا قرن کے معنی امانت اور مضبوط طاقتور اور سخت کے ہیں۔ پھر عمرؓ نے فرمایا "میرے بعد جو شخص خلیفہ ہوگا اس کی کیا حالت ہے؟ اس نے جواب دیا وہ نیک خلیفہ ہے لیکن وہ اپنی رشتہ داری کا زیادہ خیال رکھے گا۔ عمرؓ نے (یہ سن کر) فرمایا اللہ تعالیٰ عثمانؓ پر رحم فرمائے یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد اسکے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا وہ تو لوہے کا میل کچیل ہوگا (مطلب یہ ہے کہ وہ شب و روز یعنی سلسل جنگ میں مشغول رہے گا) عمرؓ نے فرمایا اے بدبودار گندے شخص! کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا: اے امیر المؤمنین! وہ نیک خلیفہ ہوگا لیکن جب وہ خلیفہ بنے گا تو اس وقت تلوار کھینچی ہوئی ہوگی اور خون بہہ رہا ہوگا امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ذفر کے معنی بدبو کے ہیں۔

باب: فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیان

۱۲۳۲: عمرو بن عون (دوسری سند) مسند ابوعوانہ، قنادہ زرارہ، عمران بن حصین سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہترین لوگ اس دور کے لوگ ہیں کہ جن میں میں معوث کیا گیا اس کے بعد وہ لوگ جو کہ ان کے نزدیک ہیں (یعنی حضرات تابعین کا دور) اس کے بعد وہ لوگ جو کہ ان سے قریب ہے (یعنی تبع تابعین) واللہ اعلم آپ نے تیسرے قسم کے حضرات کا تذکرہ فرمایا یا نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا پھر وہ لوگ نکلیں گے جو کہ فی مطالبہ گواہی دیں گے نذر مانیں گے لیکن پوری نہ کریں گے وہ خیانت کریں گے ان کے پاس امانت نہیں رکھی جائے گی اور ان میں موٹا پاٹا ہر ہو جائے گا۔

باب: حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت کی

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ إِيَّاسٍ الْجُرَيْرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيبٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْأَفْرَعِ مُؤَدِّنَ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَعَثَنِي عَمْرٌ إِلَى الْأَسْقِفِ فَدَعَوْتُهُ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌ وَهَلْ تَجِدُنِي فِي الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ تَجِدُنِي قَالَ أَجِدُكَ قَرْنًا فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ فَقَالَ قَرْنٌ مَهْ فَقَالَ قَرْنٌ حَدِيدٌ أَمِينٌ شَدِيدٌ قَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي يَجِيءُ مِنْ بَعْدِي فَقَالَ أَجِدُهُ خَلِيفَةً صَالِحًا غَيْرَ أَنَّهُ يُؤْتِرُ قَرَابَتَهُ قَالَ عَمْرٌ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَانَ ثَلَاثًا فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُ الَّذِي بَعْدَهُ قَالَ أَجِدُهُ صَدًّا حَدِيدٌ فَوَضَعَ عَمْرٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ يَا ذَفْرَاهُ يَا ذَفْرَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ خَلِيفَةٌ صَالِحٌ وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْلَفُ حِينَ يُسْتَخْلَفُ وَالسَّيْفُ مَسْلُورٌ وَالنَّمُّ مُهْرَاقٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الذَّفْرُ النَّتْنُ۔

باب فی فضل أصحاب رسول اللہ ﷺ

۱۲۳۲: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي الْقُرْنُ الَّذِينَ بَعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ لَا تَمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُؤْفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَفْشَوُ فِيهِمُ السِّمْنُ۔

باب فی النهی عن سبِّ أصحاب رسول

ممانعت کا بیان

۱۲۳۳: مسدّد ابو معاویہ، عمش، ابوصالح، ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم لوگوں میں سے (وہ لوگ جو کہ میرے بعد پیدا ہوں گے ان میں سے) کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مدیا آدھے مد کے برابر نہ ہوگا۔

اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۲۳۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.

صحابی کے صدقہ کی فضیلت:

مد عربی کا ایک وزن ہے جو کہ سوارِ ظل یا دورِ ظل کا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ صحابی کا معمولی سا صدقہ بھی دوسرے لوگوں کے کوحہ

اُحد کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بڑھ کر ہے۔

۱۲۳۴: احمد بن یونس زائدہ، عمر، حضرت عمرو بن ابی قرہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مدائن میں ان باتوں کا تذکرہ فرماتے تھے جو کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے اپنے کچھ صحابہ سے غصہ کی حالت میں بیان فرمائی تھیں پھر کچھ لوگ ان سے یہ باتیں سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے جو باتیں سنتے وہ ان کو بتاتے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان باتوں کو سن کر یہ فرماتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا علم ان ہی کو ہے لوگ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ ہم نے آپ کی حدیث حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے اس حدیث کی نہ تو تصدیق فرمائی اور نہ تکذیب۔ یہ بات سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ اپنی سبزی کے کھیت میں تھے اور ان سے کہا: اے سلمان! تم کو کیا ہو گیا کہ تم میری ان باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ جو میں نے آنحضرت ﷺ سے سنی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آنحضرت ﷺ بعض مرتبہ غصہ ہو جاتے تو آپ غصہ کی حالت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کچھ باتیں فرمادیتے۔ پھر بعض مرتبہ آپ خوش ہوتے تو آپ خوشی میں کچھ باتیں اپنے صحابہ سے

۱۲۳۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ التَّقِيفِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسِ الْمَاصِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةٍ قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَكَانَ يَذْكُرُ أَشْيَاءَ قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْغَضَبِ فَيَنْطَلِقُ نَاسٌ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حُذَيْفَةَ فَيَأْتُونَ سَلْمَانَ فَيَذْكُرُونَ لَهُ قَوْلَ حُذَيْفَةَ فَيَقُولُ سَلْمَانُ حُذَيْفَةَ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ فَيَرْجِعُونَ إِلَى حُذَيْفَةَ فَيَقُولُونَ لَهُ قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَكَ لِسَلْمَانَ فَمَا صَدَقَكَ وَلَا كَذَبَكَ فَآتَى حُذَيْفَةَ سَلْمَانَ وَهُوَ فِي مَبَقَلَةٍ فَقَالَ يَا سَلْمَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَصَدِّقَنِي بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْضَبُ فَيَقُولُ فِي الْغَضَبِ لِلنَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَيَرْضَى فَيَقُولُ فِي الرِّضَا لِلنَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَا تَنْتَهِي حَتَّى تُورِّثَ رَجُلًا حُبَّ رَجَالٍ وَرَجُلًا بُغْضَ رَجَالٍ وَحَتَّى تُوقِعَ اخْتِلَافًا وَفُرْقَةً وَلَقَدْ

فرماتے تم باز نہ آؤ گے جب تک کہ تم کچھ لوگوں کی محبت اور کچھ لوگوں سے نفرت لوگوں کے دلوں میں نہ ڈال دو اور جب تک کہ لوگوں میں اختلاف اور شقاق پیدا نہ کر دو حالانکہ تم لوگ واقف ہو کہ آنحضرت ﷺ نے خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا ”میں نے اپنی امت میں سے جس شخص کو برا بھلا کہا میں نے اس پر بحالت غصہ لعنت کی تو اس وجہ سے کہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں جس طرح دوسرے

لوگوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی اسی طرح غصہ آجاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے اے اللہ! تم اس لعنت یا برے کہنے کو قیامت کے دن ان لوگوں پر رحمت (کا باعث) بنا دے۔ واللہ تم رُک جاؤ (یعنی اس قسم کی روایات بیان کرنے سے باز آ جاؤ) ورنہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھ دوں گا (اور وہ صحیح بندوبست کر دیں گے)

باب: سیدنا ابوبکر صدیقؓ کو خلیفہ مقرر کئے جانے کا بیان
۱۲۳۵: عبد اللہ بن محمد بن محمد بن سلمہ بن محمد بن اسحاق زہری عبد الملک حضرت عبد اللہ بن زمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ پر مرض (الوفات) کی شدت ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں کچھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اسی وقت نماز کے لئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو بلانے کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کسی دوسرے کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے تو میں باہر آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھائیں وہ (نماز پڑھانے کے لئے) آگے بڑھے اور انہوں نے تکبیر پڑھی جب آنحضرت نے ان کی آواز سنی کہ وہ ایک گرج دار آواز کے شخص تھے تو آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کا انکار فرماتے ہیں اور اہل اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ اور مسلمان اس کو روانہ نہیں رکھتے پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی وہی نماز جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھا چکے تھے۔

باب فی استخلاف ابی بکرؓ
۱۲۳۵: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ لَمَّا اسْتَعَزَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَعَاهُ بِلَالٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مَرُّوا مَنْ يُصَلِّي لِلنَّاسِ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ غَائِبًا فَقُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَدَّمُ فَكَبَّرَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهَرًا قَالَ قَائِنَ أَبُو بَكْرٍ يَا بَنِي اللَّهِ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَا بَنِي اللَّهِ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ فَبَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمَرُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیل:

مذکورہ حدیث سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیل ثابت ہوتی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے دیگر اجلاء

صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے امامت کرنے کے لئے فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے درجہ کی امامت بڑے درجہ کی امامت یعنی خلیفہ بنانے کے لئے موید ہے۔

۱۲۳۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ لَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَ عُمَرَ قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَا لَا لَا لِیُصَلِّ لِلنَّاسِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ يَقُولُ ذَلِكَ مُغْضَبًا۔

۱۲۳۶: احمد بن صالح، ابن ابی فدیک، موسیٰ بن یعقوب، عبدالرحمن بن اسحاق، ابن شہاب، عبید اللہ، حضرت عبداللہ بن زمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی گئی ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے مذکور ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حجرہ سے باہر نکالا پھر ارشاد فرمایا: نہیں۔ لوگوں کو ابن ابی قحافہ نماز پڑھائیں۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت غصہ میں فرمایا۔

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت:

وفات سے قبل آنحضرت ﷺ کی خواہش تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرمائیں چنانچہ دوسری روایت میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے آپ کا امامت کرنے کی بابت واضح فرمان مذکور ہے لیکن اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ خیال فرما کر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ طبعاً نرم دل ہیں ایسا نہ ہو کہ آنحضرت ﷺ کی امامت کرنے کی خالی جگہ دیکھ کر غمگین ہوں اس لئے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے امامت کے لئے فرمادیا لیکن آپ نے پھر دوبارہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے امامت کے لئے فرمایا اور ابن ابی قحافہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

باب: فتنہ کے زمانہ میں خاموش رہنے کا حکم

۱۲۳۷: مسدّد مسلم بن ابراہیم، حماد، علی بن زید، حسن ابوبکرہ (دوسری سند) محمد بن ثنی، محمد بن عبد اللہ اشعث، حسن، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا: میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے تو قہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب میری امت کی دو جماعتوں میں مصالحت فرمادے۔ حماد کی روایت میں اس طریقہ سے مذکور ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں مصالحت کرادے۔

بَاب مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ

۱۲۳۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُسْلِمٌ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُصَلِّحَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي وَقَالَ فِي حَدِيثٍ حَمَّادٍ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ۔

سچی پیشین گوئی:

آنحضرت ﷺ کی مذکورہ پیشین گوئی بالکل سچی ثابت ہوئی اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت فرمائی جس کی وجہ سے فتنہ عظیم ملتوی ہو گیا "تاریخ اسلام" کی کتب میں اس واقعہ کی تفصیل مذکور ہے۔

۱۲۳۸: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلَّا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَضْرُكُ الْفِتْنَةَ.

۱۲۳۸: حسن بن علی، یزید ہشام، حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ لوگوں میں سے سوائے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو فتنہ کو پائے اور اس میں مبتلا نہ ہو کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ محمد بن مسلمہ سے ارشاد فرماتے تھے کہ تمہیں کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔

۱۲۳۹: عَمْرُو شُعْبَةَ اشْعَثُ، حضرت ابی بردہ رضی اللہ عنہ حضرت ثعلبہ بن ضبیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک شخص سے واقف ہوں کہ جس کو کوئی فتنہ فساد نقصان نہیں پہنچائے گا پھر ہم لوگ ان کے پاس سے نکلے (چلے) تو ہم نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے ہم لوگ اس میں داخل ہوئے۔ وہاں پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ہم نے ان سے خیمہ میں رہنے اور شہر چھوڑنے کی وجہ معلوم کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا (یعنی پسند نہیں کرتا کہ) تم

۱۲۳۹: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ إِنِّي لَا عَرُفُ رَجُلًا لَا تَضْرُكُهُ الْفِتْنَةُ شَيْئًا قَالَ فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ يَشْتَمَلَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْصَارِكُمْ حَتَّى تَنْجَلِي عَمَّا انْجَلْتُ۔

لوگوں کے شہر میں سے کوئی جگہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے جب تک شہر ان فتنہ و فساد سے (پاک) صاف نہ ہو جائے۔

بوقت فتنہ گوشہ نشینی کا حکم:

مسلمانوں کے درمیان جب فتنہ ہوا اور اصلاح کی کوشش غیر مفید ہو جائے تو ایسے وقت میں گوشہ نشینی بہتر ہے کتاب الفتن میں اس سلسلہ میں کافی کچھ "خلاصۃ الباب" کے تحت عرض کیا جا چکا ہے۔

۱۲۴۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ حُصَيْنِ الثَّعْلَبِيِّ بِمَعْنَاهُ۔

۱۲۴۰: مسدد ابو عوانہ اشعث بن سلیم حضرت ابو بردہ ضبیعہ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طریقہ سے روایت بیان کی گئی ہے۔

۱۲۴۱: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَذَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ أَخْبَرْنَا عَنْ

۱۲۴۱: اسماعیل ابن ابی یونس، حسن، حضرت قیس بن عباد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا کہ آپ ہمیں اپنے سفر کے متعلق (جو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کے

لئے کرتے تھے) بتائیں یہ آپ کے لئے حضرت رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے یا آپ اپنے خیال میں اس بات کو مناسب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آنحضرت ﷺ نے تو مجھ کو اس سلسلہ میں حکم نہیں فرمایا البتہ یہ میری رائے ہے۔

۱۲۳۲: مسلم بن ابراہیم، قاسم بن فضل، ابو نضرہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جانے کے وقت ایک فرقہ پیدا ہوگا اس سے وہ فرقہ جنگ کرے گا جو کہ حق کے نزدیک ہوگا۔

باب: حضرات انبیاء علیہم السلام میں ایک کو دوسرے پر

فضیلت دینا

۱۲۳۳: موسیٰ بن اسماعیل، وہیب، عمرو، ان کے والد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت انبیاء میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔

مَسِيرِكَ هَذَا اَعَهَدَ اَعَهَدَهُ اَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْ رَاى رَاَيْتَهُ فَقَالَ مَا اَعَهَدَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ رَاى رَاَيْتَهُ۔

۱۲۳۲: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرُقٌ مَّارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَفْتُلُهَا اَوْلَى الطَّائِفِيْنَ بِالْحَقِّ۔

باب فی التّخییرِ بَیْنَ الْاَنْبِیَاءِ عَلَيْهِمْ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

۱۲۳۳: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُخَيِّرُوا بَیْنَ الْاَنْبِیَاءِ۔

ایک پیغمبر کو دوسرے سے افضل سمجھنا:

تمام حضرات انبیاء کو مقدس اور افضل تسلیم کرنا ضروری ہے اور مذکورہ حدیث میں ممانعت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نبی سے دوسرے نبی کو اس طرح افضل نہ سمجھو کہ تحقیر کا کوئی پہلو نکلے۔

۱۲۳۳: حجاج، محمد بن یحییٰ، یعقوب، ان کے والد، ابن شہاب، ابوسعید، عبد الرحمن، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص نے بیان کیا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا۔ ایک مسلمان نے یہ بات سن کر اس کے طمانچہ مارا وہ یہودی شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے (یہ سن کر) ارشاد فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اس لئے کہ میدانِ حشر میں ایک مد ہوشی کا عالم ہوگا تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا کنارہ تھامے ہوئے ہیں اب مجھے علم

۱۲۳۳: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِي يَعْقُوْبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُخَيِّرُوْنِي عَلٰى مُوسَى فَاِنْ النَّاسَ يُضَعَّفُوْنَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ

يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَىٰ بِأَطَشٍ فِي جَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا
أَذْرَىٰ أَمَّاكَ مِمَّنْ صَبَقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ
مِمَّنْ اسْتَشَىٰ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
وَحَدِيثُ ابْنِ يَحْيَىٰ أَتَمُّ-

نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہونے کے بعد مجھ سے قبل ہوش میں آ
گئے یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوں گے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ
(راوی) ابن یحییٰ کی حدیث مکمل ہے۔

فضیلت سے متعلق ایک اصول:

مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص کسی سے مفضل ہو تو افضل شخص سے تمام کمالات میں کم درجہ ہونا ضروری نہیں ہے
مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں بعض اس قسم کے کمالات تھے اور ایسی صفات تھیں جو کہ
حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم میں نہیں تھی۔

۱۲۳۵: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
فَرُوحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَوَّلُ
مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ
مُشَفَّعٍ-

۱۲۳۵: عمرو بن عثمان اوزاعی ابوعمار عبداللہ بن فروخ، حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا میں
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں زمین سب سے پہلے
(قیامت کے دن) میرے ہی پاس سے پھٹے گی۔ میں ہی سب سے
پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا اور میں ہی پہلا شخص ہوں گا جس کی
سفارش قبول ہوگی۔

آپ ﷺ کی ایک خصوصیت:

مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن صورت پھونکے جانے کے وقت سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا اور سب سے پہلے شفاعت
کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔

۱۲۳۶: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ
يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

۱۲۳۶: حفص بن عمر شعبہ قتادہ ابو العالیہ حضرت ابن عباس سے مروی
ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اس طرح نہیں کہنا چاہئے
کہ میں (یعنی حضرت محمد ﷺ) حضرت یونس علیہ السلام سے افضل
ہوں۔

دیگر انبیاء علیہم السلام کو کم درجہ سمجھنا:

آپ کا فرمان عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو فضیلت دیتے دیتے دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام کی تحقیر
نہ ہونے پائے۔ ورنہ تو حضرت رسول اللہ ﷺ تمام انبیاء سے افضل ہیں اور انبیاء میں بھی بعض بعض سے افضل ہیں ارشاد باری
تعالیٰ ہے: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ-

۱۲۳۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَىٰ، مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَقِّ، إِسْمَاعِيلُ، قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کسی نبی کے لئے یہ کہنا (اس کی) شایان شان نہیں کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔

۱۲۳۸: زیاد بن ایوب، عبد اللہ بن ادریس، مختار بن فلفل، انسؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو ایک آدمی نے ”یا خیر البریۃ“ (یعنی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل) کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى۔
۱۲۳۸: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ۔

آپ ﷺ کی تواضع کا نمونہ:

آنحضرت ﷺ تمام مخلوق سے افضل اور برتر ہیں لیکن اس کے باوجود تواضع کی بنا پر آپ نے ”یا خیر البریۃ“ کا لقب اپنے لئے پسند نہیں فرمایا۔

۱۲۳۹: محمد بن متوکل، مخلد بن خالد، عبدالرزاق، معمر، ابن ابی ذئب، سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے علم نہیں کہ ”تبع“ لعنت کے لائق ہے یا نہیں اور مجھے علم نہیں کہ حضرت عزیر پیغمبر تھے یا نہیں؟

۱۲۳۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الشَّعْبِيِّ الْمَعْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَدْرِي أَتَبَعَ لِعَيْنٍ هُوَ أَمْ لَا وَمَا أَدْرِي أَعَزِيْرُ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لَا۔

۱۲۵۰: احمد بن صالح، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ کو سب سے زیادہ ابن مریم سے تعلق ہے اس لئے کہ حضرات انبیاء آپس میں باپ شریک بھائی ہیں اور اس وجہ سے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان نبی مبعوث نہیں کیا گیا۔

۱۲۵۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ الْآنِبِيَاءِ أَوْلَادٌ عَلَاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ۔

انبیاء علیہم السلام باپ شریک بھائی ہیں:

جس طریقہ سے باپ شریک بھائیوں کا ایک باپ ہوتا ہے اور ماں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے اسی طریقہ سے تمام پیغمبروں کے اصول ایک ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا بغیر کسی شرکت کے معبود برحق ہونا اور فرشتوں اور قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی وغیرہ اصول پر تمام پیغمبروں کا اتفاق ہے اور سب کی یہی تعلیم ہے البتہ جزئیات میں فرق ہے اور آپ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے

درمیان کا زمانہ زمانہ فترت کہلاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی آمد کی خوشخبری دی۔

باب: فرقہ مرجیہ کی تردید

باب فِي رَدِّ الْإِرْجَاءِ

۱۲۵۱: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، اسمعیل، عبد اللہ بن دینار، ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے افضل یہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے اور سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستہ سے ہڈی کاٹنے، پتھر کو ہٹا دے جس کی وجہ سے راہ گیروں کو تکلیف پہنچنے کا خیال ہو اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

۱۲۵۱: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَطْمِ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ۔

فرقہ مرجیہ:

مرجیہ ایک فرقہ ہے اس کا مسلک یہ ہے کہ اگر مومن کسی گناہ کا مرتکب ہو تو گناہ کرنے سے ایمان کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا اور اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ نیک اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں یہ فرقہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور اس مسئلہ میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نیک اعمال مومن کے لئے لازمی ہیں اور گناہ اور اعمال بد کے ارتکاب سے ایمان کم ہو جاتا ہے اور ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔

۱۲۵۲: احمد بن حنبل، یحییٰ، شعبہ، حضرت ابو جزہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ عبدالقیس کے فرستادہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا آپ نے فرمایا تم لوگوں کو علم ہے کہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کو اچھی طرح علم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور بلاشبہ محمد اس کے پیغمبر ہیں اور نماز، وقت پر ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور مال غنیمت میں سے خمس نکالو۔

۱۲۵۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ۔

۱۲۵۳: احمد بن حنبل، کعب، سفیان، ابو بکر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا بندہ کے اور کفر کے درمیان میں نماز کو چھوڑ دینا ہے۔

۱۲۵۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ۔

نماز چھوڑنے کی وعید:

ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے: ((مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ)) یعنی جس نے قصداً نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور نماز کفر کی رکاوٹ ہے جب کسی نے نماز ترک کر دی تو گویا اب یہ شخص کفر کے قریب آ گیا۔

۱۲۵۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْكُعْبَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ۔

۱۲۵۳: محمد بن سلیمان، عثمان بن ابی شیبہ، وکیع، سفیان، ساک، عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے بیت اللہ کی جانب رخ کرنا شروع کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان لوگوں کا کیا ہے گا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ نازل فرمائی یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک اشکال:

بیت اللہ سے قبل بیت المقدس قبلہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اشکال ہوا کہ جن حضرات نے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ اس پر مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

۱۲۵۵: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَتَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔

۱۲۵۵: مؤمل بن الفضل، محمد بن شعیب، یحییٰ، قاسم، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لئے محبت رکھے اللہ کے لئے عداوت رکھے اور اللہ کے لئے دے (صدقہ کرے) اور اللہ کے لئے روکے اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔

اللہ کے لئے دوستی دشمنی رکھنا:

مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے لئے تعلق رکھے اور دشمنی بھی اللہ کے لئے رکھے والے کا ایمان مکمل ہے ورنہ ایمان ناقص ہے۔

۱۲۵۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرٍّ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ أَغْلَبَ لِيذِي لُبٍّ مِنْكُمْ قَالَتْ وَمَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ وَالِدِينِ قَالَ أَمَّا نَقْصَانُ الْعَقْلِ

۱۲۵۶: احمد بن عمرو، ابن السرح، ابن وہب، بکر بن مضر، ابن الہادی، ابن عبد اللہ بن دینار، ابن عمر، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے دین اور عقل میں ناقص ہونے کے باوجود کسی دانشمند کو بیوقوف بنانے والا تم سے زیادہ (کسی کو) نہیں دیکھا۔ ایک خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے عقل اور دین میں کیا کمی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عقل کا نقصان یہ ہے کہ دو خواتین کی شہادت ایک مرد کی

فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةٌ رَجُلٍ وَأَمَّا نَقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَطْفُرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لَا تَصَلِّيَ۔

شہادت کے برابر ہے اور دین کا نقصان یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک خاتون رمضان المبارک میں روزے میں ناغہ کرتی ہے اور کئی کئی دنوں تک نماز نہیں پڑھتی۔

خَالِصَةُ الْبَابِ: مطلب یہ ہے کہ حیض اور نفس کی بناء پر خواتین کو روزہ اور نماز چھوڑنا پڑتی ہیں اگرچہ شریعت نے نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا صرف روزہ کی قضا کا حکم دیا ہے۔ مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔

باب الدَّلِيلِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصَانِهِ

۱۲۵۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنَهُمْ حُلُقًا۔

باب: ایمان کے کم زیادہ ہونے کے دلائل

۱۲۵۷: احمد بن حنبل، یحییٰ بن سعید، محمد بن عمرو، ابوسلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس شخص کا ایمان تمام لوگوں سے زیادہ مکمل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔

خوش اخلاقی کی تاکید:

مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خوش اخلاقی اور نرم دل اور صاحب مروت ہو۔ خوش اخلاقی کے احادیث میں متعدد فضائل بیان فرمائے گئے ہیں اور خوش اخلاقی کا حکم دیا گیا ہے "اسلامی اخلاق" نامی کتاب میں والد ماجد حضرت مولانا سید حسن صاحب سابق استاد تفسیر وحدیث دارالعلوم دیوبند نے خوش اخلاقی کے فضائل پر متعدد احادیث جمع فرمائی ہیں۔

۱۲۵۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسْمًا فَقُلْتُ أَعْطِ فَلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ قَالَ أَوْ مُسْلِمٌ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَكْبَّ عَلَيَّ وَجْهِي۔

۱۲۵۸: احمد بن حنبل، عبدالرزاق (دوسری سند) ابراہیم، سلیمان، معمر زہری، عامر اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے لوگوں کے درمیان مال تقسیم فرمایا (اور تقسیم میں ایک آدمی کو مال نہیں عطا فرمایا) میں نے عرض کیا فلاں شخص کو بھی مال عطا فرمائیں وہ مؤمن ہے یا یہ لفظ بیان کیا کہ (وہ) مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایک شخص کو مال دیتا ہوں اور میں جس شخص کو نہیں دیتا ہوں اس شخص سے مجھ کو زیادہ محبت ہے لیکن میں جس شخص کو دیتا ہوں تو میں اسکو اس اندیشہ سے دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوزخ میں اُلٹے منہ گر جائے۔

ضعیف الایمان کو مال دینے کی وجہ:

آپ کی رائے یہ تھی کہ جس شخص کو میں مال دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص ابھی کفر چھوڑ کر مسلمان ہوا ہے اس کا اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا، مال کے شوق میں وہ اسلام کی طرف راغب رہے گا اس کی جانب سے اسلام سے منحرف ہونے کا اندیشہ ہے اور جو لوگ پختہ مسلمان ہو چکے ان کی طرف سے اس قسم کا اندیشہ نہیں ہے اس لئے میں ان کو مال نہیں دے رہا ہوں۔

۱۲۵۹: محمد بن عبید محمد بن ثور، معمر زہری، حضرت عامر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کچھ حضرات کو مال عنایتا فرمایا اور آپ نے ایک شخص کو عنایت نہیں فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں فلاں کو عنایت فرمایا اور فلاں کو کچھ عطا نہیں فرمایا حالانکہ وہ شخص صاحب ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا یا مسلمان ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ تین بار کہا آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا (وہ شخص) مؤمن ہے یا مسلم ہے؟ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا میں کسی شخص کو دیتا ہوں اور میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس کو کچھ نہیں دیتا اس اندیشہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوزخ میں اُلٹے مَنہ نہ گر جائیں (یعنی جن لوگوں کو کچھ نہ دوں۔ اس لئے انہیں دے دیتا ہوں)

۱۲۵۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْعَمْتَ فَلَانًا وَفَلَانًا وَلَمْ تُعْطِ فَلَانًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلَاثًا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُعْطِي رَجُلًا وَأَدْعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ لَا أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يَكْبُورَ فِي النَّارِ عَلَيَّ وَجُوهِهِمْ۔

ایمان میں کمی زیادتی:

اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ الایمان یزید وینقص مذکورہ حدیث میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مذکورہ شخص کو مؤمن کہا اور آپ نے اس کو مسلم ہونے سے تعبیر فرمائی مسلم کی بہ نسبت مؤمن کا ایمان زیادہ کامل ہوتا ہے۔

۱۲۶۰: محمد بن عبید ابن ثور، معمر اور زہری نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے: قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا یعنی (اے اعراب!) تم لوگ ایمان نہیں لائے لیکن اس طرح کہو کہ ہم لوگ اسلام لے آئے۔ ہم لوگوں کی رائے میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں اور ایمان اعمال صالحہ انجام دینے کا نام ہے۔

۱۲۶۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا قَالَ تَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ وَالْإِيمَانُ الْعَمَلُ۔

۱۲۶۱: ابوالید شعبہ و اقد بن عبد اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ میرے (وصال) کے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔

۱۲۶۱: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَقْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ۔

۱۲۶۲: عثمان بن ابی شیبہ جریر، فضیل، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان کو کافر قرار دے تو اگر وہ شخص (جس کی طرف کفر

۱۲۶۲: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا

رَجُلٍ مُّسْلِمٍ أَكْفَرَهُ رَجُلًا مُّسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ۔
کافر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کہنے والا شخص (خود) کافر ہو جائے گا۔

تکفیر میں احتیاط کی تاکید:

کسی شخص کو کافر قرار دینے میں بڑی احتیاط لازم ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ اگر کسی شخص کے کلام میں ۱۱/۹۹ احتمالات کفر کے ہوں اور صرف ایک احتمال ایمان کا ہو تو مفتی کے لئے ضروری ہے کہ اس احتمال پر فتویٰ دے اور مؤمن ہونے کا حکم کرے۔ مزید تفصیل کے لئے کتاب ”ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں“ ملاحظہ فرمائیں۔ بہر حال یہ بات انتہائی احتیاط کی متقاضی ہے اور ہر کہ وہ کو بلا سوچے سمجھے دوسرے مسلمان بھائی پر کفر کا فتویٰ دینا انتہائی سنگین گناہ ہے اور اس کے جو نتائج بد نکل رہے ہیں وہ بھی کسی ہوش مند سے پوشیدہ نہیں۔

۱۲۶۳: ابوبکر بن ابی شیبہ، عبد اللہ بن نمیر، عمش، عبد اللہ بن مرہ، مسروق، حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس میں چار عادت ہوں گی وہ شخص خالص منافق ہے اور جس شخص میں ایک عادت ہو تو اس شخص میں ایک ہی نفاق کی عادت ہے جب تک کہ وہ شخص اس کو چھوڑ نہ دے۔ (منافق شخص کے خصائص یہ ہیں) جب وہ کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو (وعدہ کے) خلاف کرے اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے اور جب کسی شخص سے جھگڑا کرے تو زبان سے گالیاں بکے۔

۱۲۶۴: ابوصالح، ابوالحق، عمش، ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی زنا کے وقت صاحب ایمان نہیں ہوتا اور شراب پینے والا شخص شراب پیتے وقت صاحب ایمان (مؤمن) نہیں ہوتا اور چوری کرنے والا شخص چوری کرتے وقت صاحب ایمان (مؤمن) نہیں ہوتا پھر توبہ (واستغفار) کا معاملہ اس کے بعد ہوتا ہے۔

۱۲۶۳: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا حَدَّثَتْ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔

۱۲۶۴: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ۔

گناہ کبیرہ کے مرتکب سے متعلق:

مطلب یہ ہے کہ مذکورہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے وقت ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے بعد میں ایمان واپس آجاتا ہے اور ایسا شخص صدق دل سے توبہ کر لے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔

۱۲۶۵: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ

و سلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے اس میں سے ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح کھڑا رہتا ہے جب وہ اس حرکت سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان پھر واپس آ جاتا ہے۔

حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا نَظَلَّتْ قَبَا إِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ۔

ایک توجیہ:

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس وقت مؤمن سے حیا نکل جاتی ہے کیونکہ حیا اور شرم بھی ایمان کا جزء ہے اور بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ حکم بطور وعید کے ہے بہر حال مذکورہ گناہ کا مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہوتا اگر چہ فاسق اور مستحق عذاب الہی ہے۔

الحمد لله وبفضلہ پارہ نمبر ۲۹ مکمل ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پارہ ۳۰

باب فی القدر

باب: تقدیر کے بارے میں ارشادات رسول ﷺ

۱۲۶۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَمِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ۔

۱۲۶۶: موسیٰ بن اسماعیل، عبدالعزیز، ان کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (فرقہ) قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ اگر وہ لوگ بیمار پڑ جائیں تو ان لوگوں کی عیادت نہ کرو اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرو۔

فرقہ قدریہ:

قدریہ ایک فرقہ ہے جو کہ اہلسنت والجماعت سے خارج ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ نیکی بدی تمام افعال کا بندہ خود پیدا کرنے والا ہے اور اہلسنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نیکی اور برائی تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے البتہ بندہ کو ہر قسم کے افعال کا اختیار دیا گیا ہے اگر وہ برے کام اور گناہ کا مرتکب ہوگا تو عند اللہ ماخوذ ہوگا اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا تو عند اللہ ماجور ہوگا۔ شرح عقائد نسفی اور علم کما کی دیگر کتب میں اس قسم کے مسائل کی مفصل بحث مذکور ہے۔

۱۲۶۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ حَدِيقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرَضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوهُمْ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَالِ وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمُ بِالْدَّجَالِ۔

۱۲۶۷: محمد بن کثیر، سفیان، عمرو بن محمد، عمر مولى غفرة، ایک انصاری شخص، حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر امت میں مجوسی لوگ ہیں اور اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو کہ تقدیر کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازہ میں شرکت نہ کرو اور جب ان میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو اور وہ لوگ دجال کے گروہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دجال ملعون سے ملا کر رہے گا۔

۱۲۶۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَانَاهُمْ فَلَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى

۱۲۶۸: مسدد بن زریع، یحییٰ بن سعید، عوف، قسامہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مشت مٹی سے

پیدا فرمایا جو اس نے تمام زمین سے لی۔ (یعنی اکٹھا کی) پھر اولاد آدم علیہ السلام اپنی اپنی خاک کے مطابق پیدا ہوں۔ کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی کالی اور ان لوگوں میں سے کوئی نرم، کوئی سخت اور بڑے اخلاق والا، کوئی نجس ہے (مشرک، کافر) کوئی پاک (یعنی مؤمن، مسلمان) راوی یحییٰ کی روایت میں جملہ ”بین ذلک“ کا اضافہ ہے اور اخبار یزید کی روایت میں ہے۔

۱۲۶۹: مسدّد، معتمر، منصور، سعد، حضرت عبد اللہ بن حبیب، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنازہ میں شریک تھے جس میں کہ بقیع غرقہ (قبرستان) میں شریک ہوئے جس میں کہ آنحضرت ﷺ بھی شریک تھے تو آپ تشریف لائے اور آپ تشریف فرما ہوئے آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی آپ اس چھڑی کی نوک کو زمین پر مار رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اُونچا کیا اور ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص باقی نہیں یا کوئی نفس پیدا نہیں ہوا مگر اس کا ٹھکانہ تحریر فرما دیا گیا ہے جنت میں یا دوزخ میں اور یہ بھی تحریر فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص بد بخت ہے یا نیک بخت ہے۔ یہ بات سن کر حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم لوگ اپنے لکھے پر (یعنی نوشتہ تقدیر) پر تکیہ نہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ نہ دیں؟ کیونکہ جو نیک بخت ہے وہ یقیناً نیک بختی ہی کی طرف جائے گا اور جو بد بخت ہے وہ بھی یقیناً بد بختوں میں سے ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا عمل کرو کیونکہ ہر آدمی کو (اللہ ہی کی طرف سے) توفیق میسر ہوتی ہے۔ نیک بختوں کو نیک بختی کی توفیق ملتی ہے اور بد بختوں کو بد بختی کی۔ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: جس شخص نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اللہ سے ڈرتا رہا اور سچی بات کی تصدیق کی تو ہم اسے آسانی کے اسباب مہیا کر دیں گے اور جس نے جمل کیا بے پروائی برتی اور سچی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لئے مشکل کے اسباب مہیا کریں گے۔

۱۲۷۰: عبید اللہ ان کے والد کھمس، ابن بریدہ، حضرت یحییٰ بن میسر

الْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةِ قَبْضَتِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ وَالْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ زَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ۔

۱۲۶۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْعَرَقِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَمَعَهُ مَخْضَرَةٌ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالمَخْضَرَةِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفَلَا تَمَكُّتْ عَلَيَّ كِتَابَنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ لِيَكُونَنَّ إِلَى السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقْوَةِ لِيَكُونَنَّ إِلَى الشَّقْوَةِ قَالَ ااعْمَلُوا فَكُلٌّ مَيَسَّرَهُ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقْوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِلشَّقْوَةِ ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيسِرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيسِرُهُ لِلْعُسْرَى۔

۱۲۷۰: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي

سے مروی ہے کہ مسئلہ تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے جس شخص نے گفتگو کی وہ شخص بصرہ میں معبد جہنی تھا تو میں اور حمید بن عبد الرحمن حج یا عمرہ کے قصد سے نکلے اور ہم نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ اگر ہماری کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے اس کی بابت دریافت کر لیں جو یہ لوگ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگوں کی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مسجد میں جاتے ہوئے ملاقات ہو گئی میرے ساتھی اور میں نے ان کو گھیر لیا (یعنی ان کے گرد ہم جمع ہو گئے) میں نے سمجھا کہ میرا ساتھی مجھے گفتگو کرنے دے گا تو میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن! ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ نمودار ہو گئے ہیں جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں وہ لوگ باریک باتیں پیدا کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے تمام کام اسی طرح (یعنی خود بخود) ہو گئے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تم ان لوگوں سے ملاقات کرو تو یہ کہنا کہ میں ان لوگوں سے علیحدہ ہوں وہ لوگ مجھ سے علیحدہ ہیں اس ذات کی قسم کہ جس کی عبد اللہ قسم کھاتے ہیں (یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم) اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس کوہ احد کے بقدر سونا موجود ہو پھر وہ اس کو راہ الہی میں خرچ کرے (صدقہ کر دے) تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد انہوں نے بیان فرمایا کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ حضرت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص اچانک نظر آیا جو کہ بہت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور جس کے بال بالکل سیاہ تھے اور اس پر سفر کے کچھ نشان نہ تھے اور ہم لوگ اس شخص سے واقف نہ تھے وہ شخص آ کر حضرت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھ گیا اور آپ کے مبارک گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیئے اور اس نے رانوں پر ہاتھ رکھ لئے۔ پھر اس نے کہا اے محمد ﷺ مجھے بتلائیں کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں

حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَمْرٍ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبُدُ الْجَهْنِيِّ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمِيرِيُّ حَاجِّينَ أَوْ مُعْتَمِرِينَ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ فَوَلَّقَنِي اللَّهُ لَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو دَاخِلًا فِي الْمَسْجِدِ فَاسْتَفْتَيْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلْنَا نَاسٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ يَزْعُمُونَ أَنَّ لَاقَدَرَ وَالْأَمْرَ أَنْفٌ فَقَالَ إِذَا لَقَيْتَ أَوْلِيكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ بُرَاءٌ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الْعِيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا نَعْرَفُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَيَّ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فِخْدَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُصُومَ رَمَضَانَ وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ

ہے اور حضرت محمد ﷺ اس کے فرستادہ ہیں اور نماز وقت پر ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اگر قوت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرے۔ اس نے کہا: آجیچ کہتے ہیں ہمیں اس پر حیرت ہوئی کہ خود ہی سوال کرتا ہے پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے اس کے بعد اس نے کہا مجھے بتلاؤ کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے پیغمبروں ملائکہ اور اس کی کتب پر ایمان لاؤ اور تم تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اچھا اور برا تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس نے کہا: آپ سچ کہتے ہیں مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کو مسائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کی علامات بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنی مالک کو جنے گی یا اپنے شوہر کو جنے گی اور تم ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چرانے والے شخص کو دیکھو گے کہ وہ بلند بلند عمارتیں بنا لیں گے۔ اس کے بعد وہ آدھی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تین روز تک یا تین گھڑی تک رکا رہا۔ آپ نے دریافت فرمایا اے عمر! تمہیں علم ہے کہ یہ دریافت کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو اچھی طرح علم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص حضرت جبریل امین تھے تم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے تشریف لائے تھے۔

۱۲۷۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا لَهُ الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا نَعْمَلُ أَفِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا أَوْ مَضَى أَوْ فِي شَيْءٍ يُسْتَأْنَفُ الْآنَ قَالَ فِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا وَمَضَى فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ فَفِيمَ الْعَمَلِ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يُسْرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ

۱۲۷۱: مسدّد یحییٰ عثمان عبداللہ یعلیٰ بن یعمر اور حمید بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ ہم لوگوں کی عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے تقدیر کے بارے میں دریافت کیا اور اس بارے میں لوگوں کے خیالات ذکر کئے۔ اس کے بعد گزشتہ روایت کی طرح بیان کیا اور اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب آپ نے تقدیر کا مسئلہ بیان فرمایا تو قبیلہ مزینہ یا قبیلہ جہینہ کا ایک شخص کہنے لگا: کیا یہ سمجھ کر کہ یہ ایسا کام ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یا یہ سمجھ کر کہ یہ بس یہ کام یوں ہی ابھی ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں یہ سمجھ کر کہ تمام کچھ مقدر میں لکھ دیا گیا ہے پھر ایک شخص نے عرض کیا یا چند لوگوں نے یہ عرض کیا پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے

أَهْلِ النَّارِ يُسْرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ -

توفیق (الہی) بخشے جائیگے اہل جنت کے اعمال کی اور جہنم میں داخل ہونے والے لوگ اہل جہنم کے اعمال کی توفیق دیئے جائیں گے۔

۱۲۷۲: محمود فریابی سفیان، علقمہ، حضرت سلیمان بن بریدہ، یحییٰ ابن یحیر سے کچھ کی زیادتی کے ساتھ یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ البتہ اس میں ہے کہ اس شخص نے عرض کیا مجھے بتلائیں کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور غسل جنابت کرنا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ علقمہ (فرقہ) مرجیہ میں سے تھے۔

۱۲۷۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفَرَّايِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ ابْنِ يَعْمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ لَمَّا الْإِسْلَامُ قَالَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْإِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَلْقَمَةُ مُرْجِيٌّ -

۱۲۷۳: عثمان بن ابی شیبہ، جریر ابو فرود، ابو زرعہ، حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ صحابہ کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے جس وقت کوئی نیا آدمی حاضر ہوتا تو آپ کو نہ پہچان سکتا جب تک کہ وہ معلوم نہ کرتا۔ ہم لوگوں نے چاہا کہ آپ کے لئے ایک ایسی نشست گاہ بنا دیں کہ نیا (یعنی ناواقف) آدمی آتے ہی آنحضرت ﷺ کی شناخت کر لے۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے لئے مٹی کا ایک چبوترہ بنایا آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور ہم لوگ آپ کے گرد بیٹھ گئے پھر راوی نے اسی طرح حدیث بیان کی اس کے بعد بیان کیا کہ ایک آدمی حاضر ہوا جس کی حالت انہوں نے بیان کی۔ یہاں تک کہ اس شخص نے جماعت کے کونے سے سلام کیا اور عرض کیا السلام علیک یا محمد آپ نے سلام کا جواب دیا (وہ آدمی حضرت جبرئیل امین تھے)

۱۲۷۳: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرِي أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا آتَاهُ قَالَ فَبَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنَّتَيْهِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَذَكَرَ هَيْئَتَهُ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السَّمَاطِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ -

۱۲۷۴: محمد بن کثیر، سفیان، ابوسنان، وہب بن خالد، عبد اللہ بن دینار سے مروی ہے کہ میں ابی بن کعبؓ کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میرے دل میں مسئلہ تقدیر کے سلسلہ میں کچھ شک پیدا ہو گیا ہے۔ آپ اس سلسلہ میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس شک کو رفع فرمادے۔ ابی نے بیان کیا کہ اگر اللہ تمام آسمان وزمین والوں کو عذاب دے دے تو وہ دے سکتا ہے اور ایسا کر کے وہ ظالم نہ ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ تمام (مخلوقات) پر رحم فرمائے تو اس

۱۲۷۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانَ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدِ الْحَمِصِيِّ عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ آتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي قَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَارَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَابَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ

کی رحمت ان لوگوں کیلئے ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہوگی اور اگر تم لوگ کوہ احد کے بقدر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں سونا خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ اسکو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور یہ یقین نہ رکھ لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتا تھا اور جو کچھ تم سے چوک کر چلا گیا ہے وہ تمہیں مل نہیں سکتا تھا۔ اگر تم اس اعتقاد کے علاوہ کسی دوسرے اعتقاد پر مرو گے تو دوزخ میں داخل ہو گے۔ پھر میں عبد اللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا پھر زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی آنحضرت سے اسی طریقہ سے روایت بیان کی۔

۱۲۷۵: جعفر یحییٰ، ولید، ابراہیم بن ابی عبہ، حضرت ابو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا اے میرے بیٹے! تم ایمان کی چاشنی کبھی حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ تم کو جو ملا وہ کبھی خطا ہونے والا نہ تھا اور جو کچھ تم کو نہیں ملا وہ کبھی حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھو اس نے عرض کیا: کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہر ایک شے کا قیامت تک کا تخمینہ (تحریر کرو)۔ بیٹا! میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص کسی دوسرے عقیدہ پر مر گیا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

۱۲۷۶: مسدد سفیان (دوسری سند) احمد بن صالح، سفیان، عمرو بن دینار، طاؤس، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا آدم اور موسیٰ علیہما السلام نے بحث فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آدم! آپ ہمارے والد بزرگوار ہیں۔ آپ ہی نے ہم لوگوں کو محروم فرمایا اور جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت آدم نے فرمایا اے موسیٰ! تم وہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرما کر بزرگ و برتر فرمایا اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تورات شریف تحریر فرمائی کیا تم مجھ پر

كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَكَوْ
أَنْفَقْتُ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبْلَهُ
اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا
أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ
يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَكَوْمْتُ عَلَيَّ غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتُ
النَّارَ قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ
مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَالَ
مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ۔

۱۲۷۵: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَسْفَرٍ الْهَدَلِيُّ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ قَالَ
عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ
طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ
لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ
قَالَ أَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ
السَّاعَةُ يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَيَّ غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي۔

۱۲۷۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ
عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحَجَّجَ آدَمَ وَمُوسَى فَقَالَ
مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُوْنَا حَبِيبْنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ
الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ

اس کام کے بارے میں ملامت کر رہے ہو کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں میرے پیدا ہونے سے چالیس سال قبل تحریر فرمادیا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔ ابن صالح کے توسط سے احمد نے عمرو طاؤس ابو ہریرہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے۔

بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ تَلَوْنِي عَلَيَّ
أَمْرٌ قَدَّرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً
فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا مقصد:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کی وجہ سے ہم سب دنیا میں آئے ورنہ جنت میں آرام سے زندگی گزارتے تھے اور اس بحث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام غالب آئے کیونکہ انسان کو دوسرے شخص کی غلطی پر تکلیف کرنے کا حق نہیں یہ تو ذات باری تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی گرفت کرے یا معاف فرمادے۔

۱۲۷۷: احمد بن صالح، ابن وہب، ہشام، زید بن اسلم، ان کے والد، عمر فاروق رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار! ہمیں آدم علیہ السلام کا دیدار فرمادیتے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور ہمیں بھی جنت سے نکلوا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے عرض کیا آپ ہمارے والد آدم ہیں انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ وہی آدم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن میں اپنی پیدا فرمائی ہوئی روح پھونگی ہے؟ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام نام سکھلائے اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم فرمایا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آدم نے جواب میں فرمایا جی ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوا کہ آپ نے ہم لوگوں کو اور اپنے آپ کو (جنت سے) نکالا؟ آدم نے فرمایا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں موسیٰ ہوں۔ آدم نے فرمایا آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ نے پردہ کی اوٹ میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آدم نے فرمایا کیا تم کو علم نہیں جو میں نے کام انجام دیا ہے وہ کتاب الہی میں میری پیدائش سے قبل موجود تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، علم ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم کس وجہ سے اس کام پر ملامت کر رہے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پہلے ہی تحریر فرمادیا تھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اس وقت آدم موسیٰ پر غالب آگئے اور یہ بات آپ نے دو مرتبہ ارشاد فرمائی۔

۱۲۷۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَ بْنَ النَّخَّطَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى قَالَ يَا رَبِّ أَرْنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسُهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ فَقَالَ أَنْتَ أَبُوْنَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لِمَا حَمَلَكَ عَلَيَّ أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولًا مِنْ خَلْقِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَلَمَّا وَجَدْتِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فِيمَ تَلَوْنِي فِي شَيْءٍ سَبَقَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الْقَضَاءُ قَبْلِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى۔

۱۲۷۸: عبد اللہ تعنی مالک زید عبد الحمید حضرت مسلم بن یسار سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے آیت: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پشت سے نکالا پھر ان کو اس بات پر گواہ بنایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا (اقرار کیا) کیوں نہیں (یعنی ضرور) ہم نے اس لئے تم کو گواہ بنایا کہ تم قیامت کو اس طرح نہ کہو کہ ہم لوگ اس سے غافل تھے یا اس طرح کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا ہم لوگوں سے قبل شرک میں مبتلا ہو گئے ہم لوگ ان کی اولاد ہوئے کیا تم ہم کو ہلاک کر رہے ہو اس معصیت سے جو کہ جھوٹے لوگوں نے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سنا کہ آنحضرت ﷺ سے اسی آیت کریمہ کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور اولاد نکالی اور فرمایا میں نے ان لوگوں کو جنت کے لئے پیدا کیا یہ لوگ اہل جنت کے کام انجام دیں گے پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اولاد نکالی اور ارشاد فرمایا میں نے ان لوگوں کو جہنم کے لئے پیدا کیا یہ لوگ اہل جہنم کے کام کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ پھر عمل کیوں کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کسی بندہ کو اللہ تعالیٰ جنت کے لئے پیدا فرماتا ہے تو اس سے اہل جنت کے کام کراتا ہے۔ یہاں تک کہ اس شخص کا اہل جنت کے کاموں میں سے کسی کام پر انتقال ہو جاتا ہے

(یعنی اس کا انجام نیک اور خیر پر خاتمہ ہوتا ہے) تو اس کو جنت میں داخل کرتا ہے اور جس کسی بندہ کو جہنم کے لئے پیدا فرماتا ہے تو اس سے اہل دوزخ کے کام کراتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص اہل دوزخ کے کام میں سے کسی کام پر مر جاتا ہے (یعنی اس کا خاتمہ شر پر ہوتا ہے اللہم حفظنا) پھر اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔

۱۲۷۹: محمد بن مصفیٰ بقیۃ عمر بن جعشم زید بن ابی انیسہ عبد الحمید بن عبد الرحمن، مسلم بن یسار حضرت نعیم بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا پھر یہی حدیث روایت کی اور مالک کی حدیث مکمل ہے۔

۱۲۷۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ قَالَ قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ الْآيَةَ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبَعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبَعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَمَلَّهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَمَلَّهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ۔

۱۲۷۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ جُعْشَمٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ

رَبِيعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ مَالِكِ أُمَّ-

۱۲۸۰: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طَبَعٌ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبُوهُ طُغْيَانًا وَكُفْرًا-

۱۲۸۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنِينَ وَكَانَ طَبَعٌ يَوْمَ طَبَعٌ كَافِرًا-

کفر پر پیدا ہونے کا مطلب:

مطلب یہ ہے کہ اس لڑکے کی تقدیر میں لکھا تھا کہ بالغ ہو کر وہ لڑکا کافر و مشرک بنے گا۔ اس لئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تفسیر معارف القرآن سورہ کہف میں اس مسئلہ کی تفصیلی بحث مذکور ہے۔

۱۲۸۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَضِرُ غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَنَتَاوَلَ رَأْسَهُ فَنَلَعَهُ فَقَالَ مُوسَى أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً الْآيَةَ-

۱۲۸۳: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمِرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْسٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنِيُّ وَاحِدٌ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ

۱۲۸۰: قَعْنَبِيُّ، معتمر، ان کے والد رقبہ بن مصقلہ، ابوالحق، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا وہ کفر پر پیدا ہوا تھا اور اگر وہ لڑکا زندہ رہتا تو اپنے والدین کو فتنہ اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔

۱۲۸۱: محمود بن خالد، اسرائیل، ابوالحق، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس آیت کریمہ: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ﴾ کی تفسیر کے بارے میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ لڑکا پیدائش کے دن ہی کفر پر پیدا ہوا تھا۔

۱۲۸۲: محمد بن مہران سفیان، عمرو سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلا ہوا دیکھا تو انہوں نے اس لڑکے کے سر کو پکڑ کر اکھاڑ دیا (یعنی قتل کر دیا) موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا کہ جس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا۔

۱۲۸۳: حفص بن عمر شعبہ (دوسری سند) محمد بن کثیر، سفیان، أعمش، زید، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بیان فرمایا اور آپ صادق القول ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی والدہ کے پیٹ (رحم) میں چالیس دن رکھا جاتا

ہے پھر وہ نطفہ اسی طرح ایک خون کا ٹکڑا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے وہ فرشتہ حکم الہی سے چار چیزیں تحریر کرتا ہے (۱) روزی (۲) اس کی زندگی (۳) اس کے اعمال (۴) یہ کہ وہ شخص بد بخت ہے یا خوش نصیب ہے؟ پھر اس نطفہ میں روح پھونک دی جاتی ہے تم لوگوں میں سے کوئی شخص اہل جنت جیسے اعمال انجام دیتا ہے جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کے برابر فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کے مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور وہ شخص اہل دوزخ کا کام کرتا ہے تو وہ دوزخ میں داخل ہوتا ہے اور تم لوگوں میں سے کوئی شخص اہل دوزخ کے کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخص دوزخ سے ایک ہاتھ کے فاصلہ کے برابر رہتا ہے پھر اس شخص پر مقدر کا تحریر کردہ زور لگاتا ہے تو وہ شخص اہل جنت کا کام انجام دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بطنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ ثُمَّ يَكْتُبُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنْ أَحَدَكُمُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ أَوْ قِيدٌ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدَكُمُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ أَوْ قِيدٌ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا۔

اعتبار خاتمہ کا ہے:

مذکورہ بالا حدیث سے واضح ہے کہ اصل اعتبار خاتمہ کا ہے انما العبرة بالخواتیم اور انسان کو ہمیشہ اعمال صالحہ کی کوشش کرنا چاہئے اور خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہئے۔ شریعت نے اسی کا حکم دیا ہے۔

۱۲۸۴: مسدّد حماد بن زید، مطرف، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا جنتی اور دوزخی کا پہلے سے ہی علم ہو چکا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: جی ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ پھر عمل کرنے والے کس بنیاد پر عمل کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر ایک شخص کو اسی کام کی توفیق بخشی جائے گی کہ جس کے لئے اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔

۱۲۸۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ الرِّشِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَطْرَفٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْلِمَ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔

باب: اولادِ مشرکین کا بیان

۱۲۸۵: مسدّد ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے کسی شخص نے مشرکین کی اولاد کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم ہے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد جو کچھ عمل انجام دیتے۔

باب فی ذراریِ المشرکین

۱۲۸۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ۔

کفار کے بچوں کا حکم:

مذکورہ شخص کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کفار کے بچے بالغ ہونے سے قبل مر جائیں تو ان کا کیا انجام ہوگا وہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں؟ اور بڑے ہونے کے بعد عمل کا مطلب ہے بالغ ہونے کے بعد۔ واضح رہے کہ مذکورہ مسئلہ میں اہلسنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں حضرت تھانوی نے بوادر النوار میں اس مسئلہ کی تفصیلی بحث بیان فرمائی ہے۔

۱۲۸۶: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ح وَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقْمِيُّ وَ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَذْحِجِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَا عَمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ مِنْ آبَائِهِمْ قُلْتُ بَلَا عَمَلٍ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ۔

۱۲۸۶: عبد الوہاب بقیہ (دوسری سند) موسیٰ، کثیر، محمد بن حرب، محمد بن زیاد، عبد اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی نابالغ اولاد کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے دین پر ہوں گے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمل کے؟۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال کی زیادہ خبر ہے (کہ وہ بڑے ہو کر) کیا کرتے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مشرکین کی نابالغ اولاد کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے والدین کے دین پر ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کیا بغیر (برے) عمل کے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ وہ (بڑے ہو کر) کس قسم کا عمل کرتے۔

اولادِ مشرکین کا حکم:

اولادِ مشرکین کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ بچے اپنے والدین کے تابع ہوں گے اگر ان کے والدین جنتی ہیں تو وہ بچے بھی جنتی ہوں گے اور والدین اگر دوزخی ہیں تو بچے بھی دوزخی ہوں گے۔ لیکن اس مسئلہ میں ہمارے حضرات نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے اللہ ہی کو علم ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ واللہ اعلم بما کانوا عاملین بذل المحمود ج ۵ میں اس مسئلہ کی تفصیلی بحث مذکور ہے وہاں ملاحظہ فرمائی جائے۔

۱۲۸۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ أُمِّي النَّبِيِّ ﷺ بَصِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصَلِّي عَلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا لَمْ يَعْمَلْ شَرًّا وَلَمْ يَدْرِ بِهِ فَقَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي

۱۲۸۷: محمد بن کثیر سفیان، حضرت طلحہ بن یحییٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس انصار کے ایک لڑکے کا جنازہ آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے لئے خوشخبری ہے نہ تو اس نے کسی قسم کا گناہ کیا نہ گناہ کو جانا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اسی طرح سمجھتی ہو؟ حالانکہ (واقعہ) اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس کے واسطے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا اور جنت کو ان ہی کے لئے بنایا جبکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پشت میں تھے اور دوزخ

کو پیدا فرمایا اور دوزخ کے لئے انسانوں کو (اور جنات کو) پیدا فرمایا جبکہ ابھی وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔

۱۲۸۸: یعنی مالک ابوالزناد اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں جس طرح اونٹ کی صحیح و سالم جانور سے پیدائش ہوتی ہے کیا ان میں کوئی کان کٹا ہوا اونٹ دکھلائی دیتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو بچپن میں انتقال کر جائے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم ہے کہ (وہ بڑے ہو کر) وہو صغیر قال اللہ اعلم بما کانوا عاملین۔

کیا عمل کریں گے۔ امام ابوداؤد نے فرمایا کہ میری موجودگی میں حارث بن مسکین کے سامنے اس طریقہ سے پڑھا گیا کہ یوسف ابن وہب سے روایت ہے کہ مالک سے بیان کیا گیا ہے کہ بے دین لوگ ہم لوگوں کے خلاف اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو امام مالک نے جواب دیا: تم آخر حدیث سے دلیل پیش کرو کیونکہ اس حدیث میں اس طرح ہے لوگوں نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جو بچپن میں انتقال کر جائے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ (وہ بڑے ہو کر) کس قسم کے عمل کریں گے۔

فطرت کا مفہوم:

فطرت پر بچہ کے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بالکل کورا ہوتا ہے شرک و کفر کی گندگیاں اس کے ذہن میں نہیں ہوتیں۔ والدین اور ماحول اس کو کافر و شرک بنا دیتے ہیں جس طریقہ سے جانور کا بچہ بالکل صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے اس طرح انسان کا بچہ بھی بالکل صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور جس طریقہ سے جانور کے کان کاٹ کر اس کو عیب دار بنا دیتے ہیں اسی طرح انسان کے بچہ کو بھی شرک و کفر میں ڈال دیتے ہیں۔

۱۲۸۹: حسن بن علی حدیثنا حجاج بن المنہال قال سمعت حماد بن سلمة یفسر حدیث کل مولود یولد علی الفطرة قال هذا عندنا حیث أخذ اللہ علیہم العهد فی أصلاب آبائہم حیث قال أکست بریکم قالوا بلی۔

۱۲۸۹: حسن بن علی سے روایت ہے کہ حجاج بن منہال نے فرمایا کہ میں نے حماد بن سلمہ سے سنا وہ اس حدیث کل مولود یولد علی الفطرة کی تفسیر بیان کرتے تھے کہ اس حدیث میں فطرت سے مراد وہ اقرار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا جبکہ وہ اپنے باپ دادا کی پشت میں تھے کہ کیا میں تم لوگوں کا پروردگار نہیں ہوں؟ ان لوگوں نے جواب دیا بلاشبہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔

بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے:

حاصل حدیث یہ ہے کہ ہر ایک بچہ کی اسی اقرار کے بعد ولادت ہوتی ہے پھر وہ کفار و مشرکین کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی

وحدانیت کو فراموش کر دیتا ہے اور شرک و کفر اختیار کر لیتا ہے۔ چاہے نصرانی بن کر یا یہودی اور آتش پرست بن کر۔

۱۲۹۰: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَالِدَةُ وَالْمَوْتُودَةُ فِي
النَّارِ قَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَبِي فَحَدَّثَنِي أَبُو
إِسْحَاقَ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ بِذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ
ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

لڑکی کو زندہ درگور کرنا:

جس عورت نے زندہ درگور کیا وہ تو اس وجہ سے دوزخ میں جائے گی کہ وہ کافر ہے اور اس نے ناحق ایک انسان کو قتل کر دیا اور جس کو زندہ درگور کر دیا گیا وہ تو اس وجہ سے کہ وہ کافر کی اولاد ہے اور وہ اپنے والدین کے تابع ہے۔ واضح رہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص کسی لڑکی کو زندہ درگور کر دے تو اس مسلمان لڑکی کا دوزخ میں داخل ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ لڑکی مظلوم ہے۔

۱۲۹۱: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَجَلَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَيُّ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفَى قَالَ إِنَّ
أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ -

آپ ﷺ کے والدین کے بارے میں حکم:

آنحضرت ﷺ کے والدین کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے اور مذکورہ حدیث کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس شخص کی دلداری کے طور پر فرمایا تھا ایسا نہ ہو کہ وہ شخص غمگین ہو۔ کیونکہ اس شخص کا والد دوزخی تھا اس لئے آپ نے اپنے والد ماجد کی بابت بھی ایسا ہی فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ ”التعظيم والمنه ان ابوی رسول اللہ فی الجنة“ میں اس مسئلہ میں تفصیل سے بحث فرما کر آپ کے والدین کو جنتی قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم

۱۲۹۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ
مَجْرَى الدَّمِ -

شیطان جسم کے ہر ایک حصے میں داخل ہوتا ہے:

مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کے ہر ایک حصہ اور ہر ایک رگ و ریشہ میں شیطانی اثرات پہنچتے ہیں جس کے نتیجے میں ہر ایک عضو شیطانی عمل اختیار کرتا ہے۔

۱۲۹۳: احمد بن سعید، ابن وہب، ابن لہیعہ، عمرو بن حارث، سعید بن ابی ایوب، عطاء بن دینار، حکیم بن شریک، یحییٰ بن میمون، ربیعہ جرشی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ (فرقہ) قدریہ کے پاس نہ بیٹھو اور نہ ان لوگوں سے سلام اور گفتگو کی پہل کرو۔

۱۲۹۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكٍ الْهَدَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تَفَاتِحُوهُمْ۔

باب: جہمیہ کا بیان

باب فی الجہمیۃ

فرقہ جہمیہ ایک گمراہ فرقہ ہے یہ فرقہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے اللہ تعالیٰ کا سنا، گفتگو فرمانا، آسمان و دنیا پر تشریف لانا یا اللہ تعالیٰ کا کسی جگہ اترنا، چڑھنا، دیکھنا وغیرہ وغیرہ کا منکر ہے۔ اس فرقہ کی نسبت جہم بن صفوان نامی شخص کی جانب سے شرح عقائد نسفی اور دیگر علم کلام کی کتب میں اس سلسلہ کی تفصیل موجود ہے۔

۱۲۹۴: ہارون، سفیان، ہشام، ان کے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا لوگ ہمیشہ جھگڑا اور مباحثہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام مخلوق کو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا تو جس آدمی کو اس قسم کا شک ہو تو وہ اس طرح کہے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا امنت باللہ! ۱۲۹۵: محمد بن عمرو، سلمہ، محمد بن اسحاق، عقبہ بن مسلم، ابوسلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا ہے اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ اس طرح کہنے لگیں تو تم لوگ اس طرح کہو اللہ ایک ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں (وہ بے نیاز ہے) نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ کسی نے اس کو جنا اور نہ کوئی اس کے برابر ہے پھر وہ شخص بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے اور شیطان (مردود) سے اللہ کی پناہ مانگے۔

۱۲۹۴: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ۔

۱۲۹۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سَلْمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ لِيَتَفَلَّحْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلِيَسْتَعِذَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔

۱۲۹۶: محمد بن صباح، ولید، سماک، عبد اللہ بن عمیرہ، حضرت احنف بن قیس، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں بطحا میں ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا تھا جس میں آنحضرت

۱۲۹۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبُرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي نَوْرٍ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ

مَلِكِيٍّ يَمْشِي تَشْرِيفًا فَرَمَاتُهُ كَأَنَّهَا كَالْحَبِّ الْمَكْرُورِ۔
 آنحضرت ﷺ نے اس کو ذیکھا اور ارشاد فرمایا تم لوگ اس کو کیا کہتے
 ہو؟ لوگوں نے عرض کیا سبح (یعنی آسمان بادل) آپ نے ارشاد
 فرمایا مزن بھی کہتے ہیں؟ عرض کیا گیا مزن بھی کہتے ہیں آپ نے فرمایا
 عنان بھی عرض کیا گیا عنان بھی۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ مجھے عنان
 کے بارے میں صحیح یاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو علم ہے کہ
 زمین و آسمان کے درمیان کس قدر مسافت ہے؟ عرض کیا گیا ہم لوگوں
 کو علم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اکھتر یا بہتر یا تہتر سال کا۔ پھر اس
 کے اوپر دوسرا آسمان بھی اسی قدر مسافت پر ہے پھر تیسرا آسمان (بھی
 اسی قدر مسافت پر ہے) حتیٰ کہ آپ نے ساتویں آسمان کو بیان فرمایا۔
 پھر آپ نے فرمایا ساتویں آسمان کے اوپر ایک دریا ہے کہ جس کے
 اوپر اور جس کی گہرائی میں اس قدر مسافت ہے کہ جس طرح (ایک)
 آسمان سے دوسرے (آسمان تک) پھر اس کے اوپر آٹھ بکریاں ہیں
 (مطلب یہ ہے کہ بکریوں کی شکل میں ملائکہ ہیں جن کے ناخن اور
 گھٹنوں میں اس قدر مسافت ہے کہ جیسے (ایک) آسمان سے دوسرے

آسمان تک کی مسافت ہے پھر ان کی پشت پر عرش واقع ہے اس کے اوپر کے اور نیچے کے کناروں میں اس قدر مسافت ہے کہ جتنی
 کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت ہے پھر اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر ہے۔

۱۲۹۷: احمد بن ابی شریح، عبد الرحمن، محمد بن قیس، عمرو بن ابی قیس، سماک
 سے اسی طریقہ سے مروی ہے۔

۱۲۹۸: احمد بن حفص، ان کے والد ابراہیم، سماک سے اسی طریقہ سے
 مروی ہے۔

۱۲۹۹: عبدالاعلیٰ، محمد بن ثنی، محمد بن بشار، احمد بن سعید، وہب ان کے والد،
 محمد بن اسحاق، یعقوب، حضرت جبیر بن محمد، محمد بن جبیر بن مطعم، حضرت
 جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص خدمت

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ فِي الْبُطْحَاءِ فِي
 عِصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ فَنظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا
 تَسْمُونَ هَذِهِ قَالُوا السَّحَابَ قَالَ وَالْمُزْنَ قَالُوا
 وَالْمُزْنَ قَالَ وَالْعَنَانَ قَالُوا وَالْعَنَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
 لَمْ أَتَقِنُ الْعَنَانَ جِدًّا قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا بَعْدُ مَا
 بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالُوا لَا نَدْرِي قَالَ إِنَّ بَعْدَ
 مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ
 سَنَةً ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ
 سَمَاوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ
 مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ
 أَوْ عَالٍ بَيْنَ أَطْلَافِهِمْ وَرُكُوبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى
 سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ مَا بَيْنَ أَسْفَلِهِ
 وَأَعْلَاهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ۔

۱۲۹۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
 الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 سَعِيدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ
 سِمَاكِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ۔

۱۲۹۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ حَفْصِ بْنِ أَبِي
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكِ بِإِسْنَادِهِ
 وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ۔

۱۲۹۹: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ
 الرَّبَاطِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ

نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ لوگ آفت میں مبتلا ہو گئے اور گھربار برباد ہو گئے اور مال و اسباب گھٹ گئے اور جانور مر گئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لئے دعا فرمائیں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی سفارش لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس سفارش لاتے ہیں (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ پھر آنحضرت ﷺ نے سبحان اللہ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ اس دیہاتی شخص کے کہنا کا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں پر اثر معلوم ہوا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا بھلا ہوا اس کی مخلوق میں سے کسی پر اللہ کی سفارش نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے اور وہ اس قسم کی بات سے برتر ہے تمہارا بھلا ہوا تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کیسی ہے؟ اس کا عرش آسمانوں پر اس طریقہ سے ہے (اور آپ نے انہیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) کہ اس کا عرش گنبد کی طرح ہے اس کے باوجود وہ (عرش الہی کی عظمت اور اس کے خوف سے) چرچراتا ہے جس طرح کہ کسی سوار کے نیچے (اؤٹ وغیرہ کے) پالان چرچراتے ہیں۔ اپنی روایت میں ابن بشار نے اس قدر اضافہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ عبدالاعلیٰ ابن ثنیٰ ابن بشار نے یعقوب کے واسطے سے جبیر بن محمد بن جبیر، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث احمد بن سعید کی سند سے صحیح ہے (اس لئے کہ) اس کی ایک جماعت نے موافقت فرمائی ہے جن میں یحییٰ بن علی بن مدینی ہیں اور ابن اسحاق سے ایک جماعت نے اس طریقہ سے روایت کیا ہے کہ جس طریقہ سے احمد نے روایت کیا ہے اور مجھ کو جو اطلاع ملی ہے اس میں عبدالاعلیٰ ابن ثنیٰ ابن بشار کا روایت سننا ایک ہی نسخہ سے ہے۔

۱۳۰۰: احمد بن حفص ان کے والد ابراہیم موسیٰ محمد بن منکدر جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کا حال بیان

کُتِبَآهُ مِنْ نُسُخَتِهِ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جُهِدَتِ الْأَنْفُسُ وَصَاعَتِ الْعِيَالُ وَنُهَكَّتِ الْأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ فَاسْتَسْقَى اللَّهُ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُحَكُّ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عَرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيُحَكُّ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَيُحَكُّ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَذَا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقَبْضَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَسْطُرُ بِهِ إِطِيطُ الرَّحْلِ بِالرَّأِيبِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَالْحَدِيثُ بِإِسْنَادِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الصَّحِيحُ وَآفَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا وَكَانَ سَمَاعُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ مِنْ نُسُخَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا بَلَغَنِي۔

۱۳۰۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ

کرنے کی اجازت ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس فرشتے کے کان کی لو سے موٹے ہرے تک سات سو سال کا راستہ ہے۔

۱۳۰۱: علی بن نصر، محمد بن یونس، عبداللہ حرمہ بن عمران، حضرت ابو یونس مولیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ تک اور فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ تلاوت فرماتے وقت انگوٹھا کان پر رکھا ہوا تھا اور شہادت کی انگلی آنکھ پر رکھی ہوئی تھی (اللہ تعالیٰ کی سننے اور دیکھنے کی صفت کو واضح کرنے کے لئے) یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا ہے جیسا کہ (فرقہ) جہمیہ کا قول ہے کہ سننے اور دیکھنے سے مراد (اللہ تعالیٰ کا) علم ہے۔ مقرر نے بیان کیا کہ یہ فرقہ جہمیہ پر رد ہے۔

بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَدْنَىٰ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلِكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعُرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَىٰ عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ۔
۱۳۰۱: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنْتُ ابْنِ عِمْرَانَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَيَّ قَوْلِهِ تَعَالَى سَمِيعًا بَصِيرًا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَالْيَمَىٰ تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا وَيَضَعُ إِصْبَعِيهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ الْمُقْرِئُ يَعْنِي إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْنِي أَنَّ لِلَّهِ سَمْعًا وَبَصَرًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ۔

صفات الہی سے مراد:

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصر سے مراد اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا ہیئتاً مراد ہے نہ کہ مجازاً۔ فرقہ جہمیہ کا یہی قول ہے لیکن حضرات اہلسنت والجماعت کا قول اور مسلک یہ ہے کہ سمع و بصر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی جیسی شان کے لائق ہے اسی جیسا یعنی مجازاً اسناد دیکھنا وغیرہ مراد ہے۔

باب: دیدار الہی

۱۳۰۲: عثمان بن ابی شیبہ، جریر، وکیع، أسامہ، اسماعیل، قیس، جریر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار کو دیکھو کہ جیسے اس کو (چودھویں کے چاند کو) دیکھتے ہو کہ اسکے دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اسلئے اگر تم لوگوں سے ہو سکتا ہو تو اس نماز کی حفاظت کرو جو کہ سورج کے طلوع ہونے سے قبل ہے (یعنی صبح کی نماز کی) اور جو سورج کے غروب ہونے سے قبل ہے (یعنی عصر کی

باب فی الرؤیۃ

۱۳۰۲: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَوَكَيْعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فَنَظَرُوا إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْلَةَ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ

نماز کی) تو ضرور کرو پھر آپ نے اس آیت: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ تلاوت فرمائی یعنی سورج کے طلوع ہونے سے قبل اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرو اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔

۱۳۰۳: اسحاق بن اسماعیل، سفیان، سہیل، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ قیامت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کو دوپہر کے وقت آفتاب کے دیکھنے میں جب بادل نہ ہوں کوئی دشواری ہوتی ہے عرض کیا گیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی مگر جس قدر کہ چاندیا آفتاب کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔

۱۳۰۴: موسیٰ بن اسماعیل، حماد (دوسری سند) عبید اللہ ان کے والد شعبہ یعلیٰ، کعب، حضرت ابی رزین عقیلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کہ کیا ہم لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے پروردگار کی ابن معاذ نے کہا علیحدہ علیحدہ زیارت کرے گا۔ قیامت کے دن (یعنی بغیر کسی دشواری کے؟) اگر اللہ تعالیٰ کا (قیامت کے دن) دیدار کرے گا تو دنیا میں اس کی کیا مثال ہے؟؟ آپ نے فرمایا اے ابا رزین! کیا تم لوگوں میں سے ہر ایک آدمی چاند کو دیکھتا ہے ابن معاذ نے کہا چودھویں رات کے چاند کو بغیر دشواری کے۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ (یعنی ضرور) آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے چاند تو اس کی پیدا کی ہوئی ایک شے ہے۔

۱۳۰۵: عثمان بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، ابوالسائبہ، عمر بن حمزہ، حضرت سالم کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دیں گے پھر ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر فرمائیں گے میں شہنشاہ ہوں۔ ظالم کہاں ہیں، متکبرین کہاں ہیں، پھر زمینوں کو لپیٹ کر ابن العلاء نے کہا دوسرے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمائیں گے

لَا تَغْلِبُوا عَلَيَّ صَلَاةَ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔

۱۳۰۳: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ انرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ إِلَّا كَمَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا۔

۱۳۰۴: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادُ ح وَحَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكَيْعٍ قَالَ مُوسَى ابْنِ عَدُسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ مُوسَى الْعُقَيْلِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْنَا بِرَى رَبِّهِ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ مُخْلِياً بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا رَزِينٍ أَلَيْسَ كُلُّكُمْ بِرَى الْقَمَرِ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِياً بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَاللَّهُ أَعْظَمُ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَاللَّهُ أَجَلٌ وَأَعْظَمُ۔

۱۳۰۵: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطْوِي اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيَمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ ثُمَّ

میں بادشاہ ہوں۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟

۱۳۰۶: قعنبی، مالک، ابن شہاب، ابوسلمہ، عبد اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب ہر ایک رات کو آسمان اول پر نازل ہوتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے پھر ارشاد فرماتا ہے کون شخص مجھ سے دعا مانگتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں اور کون شخص مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو دوں، کون شخص مغفرت مانگتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔

باب: قرآن کریم کا بیان

۱۳۰۷: محمد بن کثیر، اسرائیل، عثمان، سالم، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ خود کو موقف میں لوگوں کے سامنے پیش فرماتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ کیا کوئی شخص ہے جو مجھ کو اپنی قوم کے پاس لے کر چلے اس لئے کہ قریش نے مجھے میرے پروردگار کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے (موقف سے مراد میدان عرفات ہے)

۱۳۰۸: اسماعیل، ابراہیم، ابن ابی زائدہ، مجالد، عامر، حضرت عامر بن شہر سے روایت ہے کہ میں نجاشی (بادشاہ) کے پاس موجود تھا ان کے ایک بیٹے نے انجیل کی آیت تلاوت کی تو میں ہنسنے لگا نجاشی نے کہا تم کلام الہی پر ہنستے ہو؟

۱۳۰۹: سلیمان بن داؤد، عبد اللہ بن وہب، یونس بن یزید، ابن شہاب، حضرت عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، عبید اللہ بن عبد اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی اور سب نے مجھے حدیث کا ایک جزء سنایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق کچھ کلام فرمائیں گے (جس کی ہمیشہ تلاوت کی جاتی رہے گی)۔

يَاخُذُهُنَّ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ يَبْدِيهِ الْاٰخِرَىٰ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيُّنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيُّنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ -

۱۳۰۶: حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّىٰ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ۔

باب في القرآن

۱۳۰۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزُضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْقِفِ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَىٰ قَوْمِهِ فَإِنِّي قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أَبْلُغَ كَلَامَ رَبِّي۔

۱۳۰۸: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَىٰ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مَجَالِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ يَعْنَى الشَّعْبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ فَقَرَأَ ابْنُ لَهُ آيَةً مِنَ الْإِنْجِيلِ فَضَحِكْتُ فَقَالَ أَتَضْحَكُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ۔

۱۳۰۹: حَدَّثَنَا سَلِيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعَبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَكُلُّ حَدِيْثِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيْثِ قَالَتْ وَلَسَانِي فِي نَفْسِي كَانَ

أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بَأْمُرٍ يُبْتَلَىٰ-

واقعہ تک کی طرف اشارہ:

مذکورہ حدیث میں واقعہ تک کی طرف اشارہ ہے جس میں منافقین اور بد بخت لوگوں نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تہمت لگائی تھی جس کی تفصیل کتب تفسیر میں مذکور ہے۔ سورہ نور کی دس آیات آپ کی برائت کے سلسلہ میں نازل ہوئیں۔ جن کی تلاوت تارویق قیامت جاری رہے گی۔

۱۳۱۰: عثمان بن ابی شیبہ، جریر، منصور، منہال، سعید بن جبیر، ابن عباس سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اور اس طرح ارشاد فرماتے تھے میں تم کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر ایک شیطان ملعون سے اور زہریلی چیز سے (جیسے سانپ، بچھوز، ہریلے جانور وغیرہ) اور ہر ایک آنکھ سے جو لگ جائے (یعنی بری نظر سے) پھر ارشاد فرماتے تھے کہ تمہارے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام ان ہی کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔

۱۳۱۱: احمد بن ابی سرت، علی بن حسین، علی بن مسلم ابو معاویہ، اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ (اپنے پیغمبر پر) وحی بھیجنے کے لئے گفتگو فرماتے ہیں (یعنی وحی نازل فرماتے ہیں) تو آسمان والے آسمان کی ایسی آواز سنتے ہیں جیسے زنجیر کو پتھر پر کھینچا جائے وہ یہ آواز سن کر مدہوش ہو جاتے ہیں پھر وہ اسی کیفیت میں رہ جاتے ہیں یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لاتے ہیں جب حضرت جبریل علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں تو ان کو مدہوش آجاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے جبریل! تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا وہ بھی کہنے لگتے ہیں (ہمارے پروردگار نے) حق فرمایا ہے حق۔

۱۳۱۰: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيدَ كَمَا بَكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامِيَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامِيَةٍ ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُوكُمْ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا دَلِيلٌ عَلَيَّ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ-

۱۳۱۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلَصلةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصِّفَا فَيُصْعَقُونَ فَلَا يَرَوْنَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جَبْرِيْلُ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جَبْرِيْلُ فَرَزَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالَ فَيَقُولُونَ يَا جَبْرِيْلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيَقُولُ الْحَقُّ فَيَقُولُونَ الْحَقُّ الْحَقُّ-

اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی نوعیت:

مذکورہ بالا حدیث سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں اور حق تعالیٰ شلنہ کی گفتگو اور آپ کے کلام میں آواز بھی ہوتی ہے جس کو حضرت جبریل امین اور دیگر حضرات ملائکہ بھی سنتے ہیں آیت کریمہ: ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ! وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ اور دیگر آیات سے ایسا ہی مستنبط ہوتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک

آواز سے لوگوں کو پکاریں گے جس کو نزدیک اور فاصلہ کے لوگ سب ہی سن لیں گے۔

باب فی ذِکْرِ البُعْثِ باب: قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے والے

صور کا بیان

وَالصُّورُ

۱۳۱۲: مسدّد، معتمر، ان کے والد اسلم، بشر، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صور ایک سنگھ ہے جس میں (قیامت کے دن) پھونک ماری جائے گی۔

۱۳۱۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَسْلَمٌ عَنْ بَشْرِ بْنِ شَغَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّورُ قُرْنٌ يَنْفُخُ فِيهِ۔

۱۳۱۳: تعنی مالک ابو الزناد، اعرج، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے تمام اعضاء کو زمین کھا لیتی ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی۔ اسی سے انسان کی پیدائش ہوئی اور اسی سے (روز قیامت) دوسری مرتبہ زندہ ہوگا۔

۱۳۱۳: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُ الْأَرْضَ إِلَّا عَجَبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خَلِقَ وَفِيهِ يَرْكَبُ۔

ردہ کی ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے:

دیگر احادیث سے بھی مردہ کے اعضاء میں سے ریڑھ کی ہڈی باقی رہ جانے کی صراحت مذکور ہے۔

باب: شفاعت کا بیان

بَابُ فِي الشَّفَاعَةِ

۱۳۱۴: سلیمان، بسطام، اشعث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ میری امت میں سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں۔

۱۳۱۴: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بَسْطَامُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اشْعَثِ الْهَدَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي۔

گناہ کبیرہ:

گناہ کبیرہ بہت سے ہیں جیسے چوری کرنا، شراب پینا، سود کھانا، سودی لین دین کرنا، جھوٹی گواہی دینا، والدین کی نافرمانی کرنا وغیرہ اور گناہ کبیرہ و صغیرہ کی تفصیل حضرت مفتی اعظم پاکستان کی تالیف ”گناہ بے لذت“ میں مفصل طور پر مذکور ہے اور عربی میں کتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر مصنف علامہ ابن حجر کی میں بھی تفصیل ہے۔

۱۳۱۵: مسدّد، یحییٰ، حسن، ابو رجاء، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ دوزخ میں سے میری شفاعت سے نکلیں گے پھر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے لوگ ان کو دوزخ کی کہیں گے۔

۱۳۱۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔

وَيُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيْنَ-

اہل جنت کو دوزخی کہنا:

ایسے لوگوں کو دوزخی اس لئے کہا جائے گا تاکہ ان کو دوزخ کی یاد آئے اور وہ جنت کی نعمت کی اور زیادہ قدر دانی کر سکیں۔

۱۳۱۶: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَبْرِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ-

۱۳۱۶: عثمان بن ابی شیبہ جریر، اعمش، ابوسفیان حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں اور پیئیں گے۔

باب: جنت دوزخ دونوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر چکے ہیں

۱۳۱۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَقَّقَهَا بِالْمَكَّارِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَحَقَّقَهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا-

۱۳۱۷: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرو، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل سے فرمایا جاؤ جنت کو دیکھ لو۔ وہ اور (جنت کو) دیکھ کر واپس آئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم اے میرے پروردگار! جو شخص بھی جنت کا حال سنے گا تو وہ اس میں ہی داخل ہونا چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دشواریوں سے ڈھانپ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ چنانچہ وہ گئے اور (جنت کو) دیکھا پھر واپس آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے رب! آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی نہ داخل ہو سکے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی تو ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ اور اس کو دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور اس کو دیکھا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور عرض کیا اے پروردگار تیری عزت کی قسم کوئی شخص جہنم کا حال سن کر اس میں داخل نہ ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپ دیا شہوتوں سے پھر ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ اور اس کو دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور دیکھ کر آئے اور عرض کیا اے رب! تیری عزت اور جلال کی قسم! مجھے تو خطرہ ہے (ایسا) کوئی نہ بچے گا کہ جو جہنم میں داخل نہ ہو۔

جنت دوزخ سے متعلق:

جنت کونا گوار چیزوں سے ڈھانپ دینے کا مفہوم یہ ہے کہ جنت ایسے کاموں کے لئے مقرر کی گئی ہے جو کام نفس پر شاق ہیں جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد اور دوزخ کو شہوتوں سے ڈھانپ دینے کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ ایسے کاموں سے بھر دی گئی ہے

کہ جو کام انسان کو پسندیدہ ہیں جیسے شراب پینا، سود خوری اور نماز کو ترک کرنا وغیرہ یا اور دوسرے گناہ کا ارتکاب وغیرہ وغیرہ۔

باب: حوض کوثر

باب فی الْحَوْضِ

۱۳۱۸: سلیمان، مسدّد، حماد بن زید، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے سامنے ایک حوض ہے (یعنی قیامت کے دن تمہارے سامنے ایک حوض ہوگا) اس کے دونوں کناروں میں اس قدر مسافت ہوگی جیسے (موضع) جریا اور موضع اذرح کے درمیان۔

۱۳۱۸: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَّتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرَبَاءَ وَأَذْرَحَ.

ملک شام کے دوگاؤں:

جریا اور اذرح شام میں واقع دوگاؤں کے نام ہیں ان دونوں کے درمیان تین روز کی مسافت ہے اور یہ مثال آپ نے حوض

کوثر کے مفہوم کو سمجھانے کے لئے بیان فرمائی۔

۱۳۱۹: حفص بن عمر، شعبہ، عمرو، ابو حمزہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تھے۔ ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ ان لوگوں کے ایک لاکھ میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہو بہ نسبت جو کہ (میدان) حشر میں حوض کوثر پر حاضر ہوں گے راوی نے فرمایا میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ لوگ اس روز کتنے تھے؟ تو حضرت زید نے جواب دیا: سات سو یا آٹھ سو۔

۱۳۱۹: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمِرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضِ. قَالَ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعُ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانٍ مِائَةٍ.

۱۳۲۰: ہناد بن سری، محمد بن فضیل، مختار، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ہلکی سی پنہ آگئی پھر آپ نے ہنستے ہوئے سر اٹھایا تو آپ نے از خود ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ ﷺ کس وجہ سے آپ کو ہنسی آئی؟ آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اس سورت کو یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّا اَعْطٰیْنٰکَ الْکُوْثَرَ تِلاوَت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا تم لوگوں کو علم ہے کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو اچھی طرح علم ہے۔ آپ نے فرمایا کوثر ایک نہر کا نام ہے کہ جس کو جنت میں

۱۳۲۰: حَدَّثَنَا هِنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَعْغَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْقَانَةَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مَتَسِمًا فَإِنَّمَا قَالَ لَهُمْ وَإِنَّمَا قَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ضَحِكْتَ فَقَالَ إِنَّهُ أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتُ سُورَةِ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّا اَعْطٰیْنٰکَ الْکُوْثَرَ حَتّٰی خَتَمَهَا فَلَمَّا قَرَاَهَا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْکُوْثَرُ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ

میرے رب نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور اس میں بڑی بھلائی ہے اور اس پر ایک حوض بنا ہوا ہے کہ جس پر قیامت کے دن میری امت (پانی پینے کیلئے) اکٹھا ہوگی اسکے برتن ستاویں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔

۱۳۲۱: عامم بن نصر، معتمر، ان کے والد قنادرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (معراج شریف کی رات میں) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اُور پر تشریف لے گئے تو آپ ﷺ کو ایک نہر دکھائی گئی کہ جس کے دونوں کنارے خولدار یا قوت کے تھے۔ آپ ﷺ کے ساتھ جو فرشتہ تھا اس نے ایک ہاتھ مارا اور اندر سے مشک نکالی۔ آپ ﷺ نے اس فرشتہ سے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ (حوض) کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عنایت فرمایا ہے۔

۱۳۲۲: مسلم بن ابراہیم حضرت عبدالسلام بن ابی حازم سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے پھر مجھ سے ایک آدمی ایک راوی نے اس کا نام مسلم بتایا ہے اور وہ جماعت میں شریک تھا۔ اس نے بتایا کہ جب ابو ہریرہ کو عبید اللہ نے دیکھا تو کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا محمدی شخص (یعنی صحابی رسول آپ کی صحبت یافتہ) یہ موٹا اور پستہ قد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ (اس بات کو سن کر) سمجھ گئے کہ (اس شخص نے میری اہانت کی ہے) انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو یہ گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں میں رہ جاؤں گا جنہیں صحبت نبوی کی وجہ سے شرمندہ کیا جائے گا۔ عبید اللہ نے کہا کہ تمہارے لئے صحبت نبوی تو باعث فخر ہے نہ کہ عیب۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو حوض کوثر کی کیفیت بیان کرنے کے لئے طلب کیا ہے؟ جو آپ نے اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ سے سنا ہے۔ ابو ہریرہ نے جواب دیا ہاں سنا ہے ایک دو تین چار پانچ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ سنا ہے۔ جو شخص اس بات کی تکذیب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حوض سے نہ پلائے؟ پھر اس کے بعد وہ غصہ میں نکل گئے۔

فَإِنَّ نَهْرًا وَعَدْنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرُدُّ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيَتُهُ عَدَدُ الْكُوفِ كَأَنَّ

۱۳۲۱: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا قَنَادَرَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ عَرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ الْمُجِيبُ أَوْ قَالَ الْمُجَوِّفُ فَضَرَبَ الْمَلِكُ الَّذِي مَعَهُ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِسْكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ لِلْمَلِكِ الَّذِي مَعَهُ مَا هَذَا قَالَ الْكُوفُ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔

۱۳۲۲: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَبُو طَالُوتٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا بَرزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي فَلَانَ سَمَاءُ مُسْلِمٍ وَكَانَ فِي السَّمَاطِ فَلَمَّا رَأَى عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدِيكُمْ هَذَا الدَّحْدَاحُ فَفَهَمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنِّي أَبْقَى فِي قَوْمٍ يَبْعِرُونِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ عَنِ الْحَوْضِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِيهِ شَيْنًا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرزَةَ نَعَمْ لَا مَرَّةً وَلَا ثِنْتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا وَلَا أَرْبَعًا وَلَا خَمْسًا فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاةَ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ مُغْضِبًا۔

باب: قبر میں سوال اور عذابِ قبر

باب فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

۱۳۲۳: ابوولید شعبہ علقمہ سعد بن عبیدہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اہل اسلام سے قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں اور آیت کریمہ: ﴿يَشْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان کو آخرت میں پختہ بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ تلاوت فرمائی۔

۱۳۲۴: محمد بن سلیمان عبد الوہاب سعید قنادہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ قبیلہ بنی نجار کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پر ایک آواز سنی تو آپ گھبرا گئے اور دریافت فرمایا یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ کچھ لوگوں کی قبریں ہیں جو دور جاہلیت میں انتقال کر گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے دوزخ کے عذاب اور فتنہ دجال سے پناہ مانگو۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے تو (دنیا میں) کس کی عبادت کرتا تھا؟ پس اگر اللہ اس کو (سیدھا) راستہ دکھلاتے ہیں تو وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ پھر اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو (یعنی آنحضرت ﷺ کے بارے میں) وہ شخص جواب دیتا ہے کہ وہ (یعنی آپ) اللہ کے بندے اور اس کے فرستادہ ہیں۔ پھر اور کچھ سوال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کو ایک گھر کی طرف لے جاتے ہیں جو کہ اس کے لئے دوزخ میں تھا اور اس سے کہتے ہیں تمہارا دوزخ میں یہ گھر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی اور تم پر رحم فرمایا اور اس کے عوض جنت میں گھر عطا فرمادیا۔ وہ شخص (یہ سن کر) کہتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو تو میں جاؤں اور اپنے اہل خانہ کو اس کی خوشخبری سناؤں (کہ مجھ کو جنت میں مکان مل گیا) لیکن اس شخص سے کہا جاتا ہے ٹھہرو اور جب کا قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے

۱۳۲۳: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ فَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَشْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔

۱۳۲۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَبَّارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَّابِ بْنُ عَطَاءِ الْخُفَّافِ أَبُو نَصْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَحْلًا لِبَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَزِعَ فَقَالَ مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالُوا وَمِمَّ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ آتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَإِنِ اللَّهُ هَذَا قَالَ كُنْتَ أَعْبُدُ اللَّهَ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ فَيَقَالُ لَهُ هَذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَبْشِرَ أَهْلِي فَيَقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ آتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهَرُهُ فَيَقُولُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيَقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ فَيَقَالُ لَهُ

فَمَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصْبِحُ صَبِيحَةً يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الْفَلَكَيْنِ۔

اور ڈانٹ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس سے کہتے ہیں کہ تو نے نہ تو خود علم حاصل کیا اور نہ کسی کی اتباع کی۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس شخص (نبی ﷺ) کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہی بات کہتا تھا جو کہ لوگ کہتے تھے پھر وہ فرشتہ اس شخص کو اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے گرز سے مارتا ہے وہ شخص ایسی چیخ مارتا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق اس کو سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے۔

قبر عالم برزخ کا نام ہے:

عالم برزخ میں مردہ سے آنحضرت ﷺ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر معلوم کیا جاتا ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کی صورت مبارکہ دکھائی جاتی ہے اور دیگر احادیث میں مذکورہ ملائکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ منکر نکیر ہیں جو کہ مردے سے سوال کرتے ہیں واضح رہے کہ اگر کوئی شخص قبر میں دفن نہ کیا جائے بلکہ اس کو جلا دیا جائے یا پانی میں غرق کر دیا جائے اور اس کی لاش دفن نہ ہو جب بھی اس سے مذکورہ سوال اور عذاب و ثواب ہوگا اور یہ سوال اور عذاب و ثواب عالم برزخ میں ہوتا ہے قبر عالم برزخ کا نام ہے نہ کہ گہرے گڑھے کا اور جہنم اور انسان کیونکہ احکام شرع کے مکلف ہیں اس وجہ سے ان کو بھی اشیاء نہیں دکھائی جاتیں دوسرے مخلوق کو دکھائی جاتی ہیں کیونکہ وہ مکلف نہیں جیسے کہ چوپائے چرند و پرند وغیرہ کو عذاب و ثواب نظر آتا ہے۔

۱۳۲۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ نِعَالِهِمْ فَإِنِّيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ فَدَكَرَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ الْأَوَّلِ قَالَ فِيهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولَانِ لَهُ زَادَ الْمُنَافِقُ وَقَالَ يَسْمَعُهَا مَنْ وَرَيْهِ غَيْرَ الْفَلَكَيْنِ۔

۱۳۲۶: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهَذَا لَفْظُ هَنَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زَادَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا

۱۳۲۵: محمد بن سلیمان، عبد الوہاب سے اسی طریقہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دوست اس کی تدفین کر کے پشت موڑتے ہیں تو وہ شخص اللہ کے جوتوں کی آواز سنتا ہے پھر اس شخص کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کے بعد پہلی حدیث کے قریب قریب بیان فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کافر یا منافق شخص اور ارشاد فرمایا اس کی آواز جن اور انسان کے علاوہ جو اس کے قریب ہیں (سب) سنتے ہیں۔

۱۳۲۶: عثمان بن ابی شیبہ، جریر (دوسری سند) ہناد بن سری، ابو معاویہ، ہناد، اعمش، منہال، زاذان، براء بن عازب سے مروی ہے کہ ہم لوگ آنحضرت کے ہمراہ ایک انصاری شخص کے جنازہ میں (شرکت کرنے کیلئے) نکلے (چلے) جب قبر پر پہنچے اور ابھی قبر تیار نہ تھی اس لئے آنحضرت وہاں پر بیٹھ گئے اور ہم لوگ آپ کے چاروں طرف بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں (یعنی بالکل خاموش بیٹھ

گئے) آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آپ اس سے زمین کرید رہے تھے) آپ نے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو آپ نے یہ جملہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ مردہ ان لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے (جب وہ لوگ تدفین سے فارغ ہو کر چل دیتے ہیں) تب اس شخص سے (یعنی مردہ سے) کہا جاتا ہے کہ اے شخص تیرا پروردگار کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ ہناد نے بیان کیا کہ مردے کے پاس دو فرشتے (یعنی منکر نکیر) آتے ہیں اس کو (قبر میں) بٹھلاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو کہ تم لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا (یعنی آنحضرت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں) وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے۔ پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ تم کو یہ کہاں سے پتہ چلا وہ جواب دیتا ہے میں نے کتاب الہی (یعنی قرآن کریم) تلاوت کی اور اس پر ایمان لایا۔ اس کو برحق سمجھا جریر کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ یہی مفہوم ہے آیت: ﴿يَسْتَبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ کا اس کے بعد ایک منادی دینے والا شخص آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اب جنت میں اس کا بستر کر دو اور اس کو جنتی لباس پہنا دو پھر جنت کی ہو اور خوشبو اس پر آنے لگتی ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے پھر کافر کی موت کا حال بیان کیا کہ اس کی روح اس کے جسم میں (واپس) لائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہا ہا ہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہا ہا ہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے کہ جو تم لوگوں کی جانب مبعوث کیا گیا (یعنی آنحضرت) وہ جواب دیتا ہے ہا ہا ہا مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت ایک منادی کرنے والا آسمان سے منادی کرتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ اس لئے دوزخ میں اس کا بستر کر دو اور اس

يَلْخُدُ فَيَجْلِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَي رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ وَفِي يَدِهِ عَوْذٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَاهُنَا وَقَالَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ حَقْفَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يَقَالُ لَهُ يَا هَذَا مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ قَالَ هَذَا قَالَ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِيه فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِي الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الْآيَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ فَيَنَادِي مَنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَّقَ عَبْدِي فَأَفْرَشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِبَّهَا قَالَ وَيَفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِيه فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَنَادِي مَنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرَشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا

کو دوزخی لباس پہنا دو اور اس پر دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو اور پھر اس پر دوزخ کی گرمی اور لو آنے لگتی ہے اور اس پر قبر تک ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی پسلیاں اس طرف سے اس طرف ہو جاتی ہیں جبریر راوی کی روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ پھر اس پر ایک نابینا گونا گونا فرشتہ (کہ جو نہ مردہ کی اذیت کو دیکھتا ہے اور نہ اس کی آہ و فغاں سنتا ہے) مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے وہ گرز اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی بن جائے وہ فرشتہ اسی گرز سے اس (کافر کو) ایک

لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ زَادَ فِي حَدِيثِ جَبْرِ قَالَ ثُمَّ يَقِيضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكُمْ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تَرَابًا قَالَ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تَرَابًا قَالَ ثُمَّ تَعَادُ فِيهِ الرُّوحُ -

مرتبہ مارتا ہے جس کی آواز جن اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے وہ کافر مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔

کافر کا عذاب قبر:

مطلب یہ ہے کہ کافر ایک مرتبہ مٹی بن جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو زندہ کر کے عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ تاقیامت اس

پر عذاب الہی مسلط رہتا ہے۔

۱۳۲۷: ہناد بن سری، عبد اللہ بن نمیر، عمش، منہال، ابو عمر زاذان، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے۔

۱۳۲۷: حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ أَبِي عُمَرَ زَادَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

باب: میزان کا بیان

۱۳۲۸: یعقوب، حمید، اسماعیل، یونس، حسن، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے دوزخ کا تذکرہ فرمایا اور رونے لگیں۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا (اے عائشہ) تم کس وجہ سے رورہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا مجھے دوزخ کی یاد آئی تو میں نے رونا شروع کر دیا آپ اپنے اہل خانہ کو قیامت کے روز یاد کریں گے؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تین مقامات پر کوئی شخص کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو میزان (یعنی نامہ اعمال وزن کئے جانے والی ترازو) کے پاس۔ جب تک کہ یہ علم نہ ہو جائے کہ اس کی (نامہ اعمال کی) ترازو ہلکی ہوئی ہے یا وزن دار۔ دوسرے جب کہا جائے گا کہ اے لوگو! آؤ اپنی اپنی کتاب کو پڑھو (نامہ اعمال) جب تک کہ یہ علم نہ ہو جائے کہ اس کا نامہ اعمال کس طرف سے ملتا ہے دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے یا

باب فی ذکر المیزان

۱۳۲۸: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَبْكِيكَ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَتْ فَهَلْ تَذَكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَحْفَ مِيزَانُهُ أَوْ يَقْلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يَقَالُ هَاؤُمْ أَفْرُقُوا كِتَابِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَنْ يَقَعُ كِتَابُهُ أَيْ يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ

مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ قَالَ يَعْقُوبُ عَنْ يُونُسَ وَهَذَا لَفْظٌ حَدِيثِهِ۔

پشت کے پیچھے سے اور تیسرے پل صراط پر جب وہ دوزخ پر رکھا جائے گا جب تک اس سے (یعنی پل صراط سے) گزر نہ جائیں۔ یعقوب نے یونس سے روایت کیا اور یہ انہی کی حدیث کے الفاظ ہیں۔

پل صراط:

پل صراط کی کیفیت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے احادیث میں اس کی پوری کیفیت مذکور ہے۔

باب: دجال کا تذکرہ

۱۳۲۹: موسیٰ بن اسمعیل حماد خالد حذاء عبد اللہ بن شقیق عبد اللہ بن سراقہ حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرتؐ سے سنا آپ فرماتے تھے نوح علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوا کہ جس نے اپنی امت کو دجال ملعون سے نہ ڈرایا ہو۔ میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں پھر آپ نے اس ملعون کی کیفیت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس کو وہ شخص پائے جس نے مجھ کو دیکھا ہے اور میری بات سنی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس روز ہم لوگوں کے دل کیسے ہوں گے؟ کیا اسی جیسے ہوں گے کہ جیسے (ہمارے قلوب) آج ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس سے بھی بہتر ہوں گے۔

باب فِي الدَّجَالِ

۱۳۲۹: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَالَ قَوْمَهُ وَإِنِّي أَنْذَرُكُمْوَهُ فَوَصَّفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَأَىوِ وَسَمِعَ كَلَامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ أَمْثَلُهَا الْيَوْمَ قَالَ أَوْ خَيْرٍ۔

زمانہ دجال سے متعلق:

دجال ملعون کے آنے کے وقت قلوب بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور فتنوں و فسادات کا دور ہوگا اور فتنہ و فساد کے دور میں ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اور جس نے آنحضرتؐ کی زیارت کی اس کو دجال کے پانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایک صحابی اس کو دیکھ لے گا اس سے مراد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ دجال کو دیکھ کر آئے تھے اور آنحضرتؐ سے انہوں نے دجال کے بارے میں بیان کیا تھا یا پھر حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو کہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور دجال کو دیکھیں گے۔

۱۳۳۰: مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مُعَمَّرُ بْنُ زُهْرِيٍّ سَالِمُ ابْنُ وَالِدِ بْنِ عَمْرِوٍ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ کو لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان اس کی تعریف بیان فرمائی پھر دجال کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا میں تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ یہاں تک

۱۳۳۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَنشَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي لَأَنْذِرُكُمْوَهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ

کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا لیکن میں تم لوگوں کو ایسی بات بیان کرتا ہوں کہ کسی پیغمبر نے ایسی بات اپنی قوم کو نہیں بتلائی۔ اے لوگو خیردار! دجال ملعون کا ناہوگا اور تمہارا پروردگار کا ناہیں ہے۔

باب: خارجی لوگوں کو قتل کرنے کا بیان

۱۳۳۱: احمد بن یونس، زہیر، ابو بکر، مندل، مطرف، ابو جہم، خالد بن وہبان، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی جماعت سے ایک بالشت کے برابر بھی خارج ہو گیا تو اس نے اسلام کی رستی کو اپنی گردن سے نکال دیا۔

باب فی قتل الخوارج

۱۳۳۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي جَهْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ۔

خوارج: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں پیدا ہونے والے ایک فرقہ کا نام ہے۔ یہ فرقہ ایک گمراہ فرقہ ہے یہ فرقہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا کہتا تھا اس فرقہ کا خیال تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ فرقہ قرآن و حدیث کا غلط مفہوم پیش کرتا تھا۔

اور اس حدیث میں جماعت سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہو گیا یعنی کفر کے قریب ہو گیا احادیث میں جماعت کے ساتھ رہنے کی بہت تاکید اور فضیلت آئی ہے اور جماعت سے ہٹ جانے کی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔

۱۳۳۲: عبد اللہ بن محمد، زہیر، مطرف، ابو جہم، خالد بن وہبان، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب میرے بعد جو حکمران ہوں گے وہ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھیں گے۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو پیغمبر برحق بنا کر مبعوث فرمایا میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھوں گا پھر اس سے ماروں گا یہاں تک کہ میں آپ سے مل جاؤں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے عمدہ تدبیر نہ بتلاؤں، تم صبر سے کام لو یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کرو۔

۱۳۳۲: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَيْمَةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأْتِرُونَ بِهَذَا الْفَيْءِ قُلْتُ إِذَنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضْعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتَّى أَلْفَاكَ أَوْ أَلْحَقَكَ قَالَ أَوْ لَا أَذِلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِي۔

غنیمت سے متعلق پیشینگوئی:

مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجاہدین کو حسب ضابطہ شرع حصے نہیں دیں گے گویا تقسیم غنیمت میں انصاف سے کام نہ لیں گے۔

۱۳۳۳: مسدّد سلیمان، حماد، معلى، هشام، حسن، زبہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے ایسے حکمران ہوں گے جن کے کام اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے پھر ان میں سے جو شخص برے کام پر اپنی زبان سے نکیر کرے تو وہ شخص (گرفت سے) بری ہو گیا اور جو شخص زبان سے برا نہ کہہ سکے لیکن دل سے اس کو برا سمجھ وہ بیخ گیا۔ لیکن جس نے اس فعل پر رضامندی ظاہر کی اور اس کی اتباع کی (وہ شخص برباد ہو گیا اور اس کا دین تباہ و برباد ہو گیا) لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ انہیں قتل نہ کر دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ جب تک وہ لوگ نماز پڑھتے جائیں (ان کو قتل نہ کرو)

۱۳۳۴: ابن بشار، معاذ، ان کے والد، قتادہ، حسن، زبہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہی روایت ہے اس روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ جس نے برا سمجھا تو وہ شخص بری الذمہ ہو گیا اور جس نے نکیر کی وہ محفوظ ہو گیا۔ قتادہ نے بیان کیا یعنی جس شخص نے دل سے نکیر کی اور دل سے اس کو برا سمجھا۔

۱۳۳۵: مسدّد یحییٰ، شعبہ، زیاد، حضرت عرجہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے میری امت میں فتنہ و فساد ہوں گے، فتنہ و فساد ہوں گے، فتنہ و فساد ہوں گے۔ پھر جو آدمی مسلمانوں کے معاملہ میں پھوٹ اور اختلاف پیدا کرنا چاہے جبکہ وہ مسلمان اتفاق کئے ہوئے ہوں تو اس کو تلوار سے قتل کر ڈالو چاہے وہ کوئی ہو۔

۱۳۳۶: محمد بن عبید، محمد بن عیسیٰ، حماد، ایوب، حضرت عبیدہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل نہروان کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا ان میں ایک آدمی ہے چھوٹے ہاتھوں والا۔ اگر تم لوگ میرا کہنا مانتے تو میں تم لوگوں کو وہ وعدہ بتلاتا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مار ڈالنے کا حضرت محمد ﷺ کی زبان مبارک پر کیا ہے۔ عبیدہ نے بیان کیا میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا۔ کیا آپ نے

۱۳۳۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ وَهَشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ صَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ هَشَامٌ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرَّءَ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فِقِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقْتُلُهُمْ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا۔

۱۳۳۴: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنِ صَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنْزَبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرَّءَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ۔

۱۳۳۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرَفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَاتِبًا مَنْ كَانَ۔

۱۳۳۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ أَهْلَ النَّهْرَوَانَ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودِنُ الْيَدِ أَوْ مُخَدِّجُ الْيَدِ أَوْ مَدُونُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَطَرَّوْا لِنَبَاتِكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا
مِنْهُ قَالَ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ۔
آنحضرت ﷺ سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں بیت اللہ شریف
کے پروردگار کی قسم۔

نہروان کی وضاحت:

نہروان اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر خارجی لوگ اکٹھا ہوئے تھے اور حضرت محمد ﷺ کی زبان مبارک پر جملہ کا مفہوم یہ ہے
کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا عند اللہ اجر ملے گا۔

۱۳۳۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْسٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهَبِيَةٍ فِي تَرْتِيهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ
أَرْبَعَةٍ بَيْنَ الْأَفْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ
الْمَجَاشِعِيِّ وَبَيْنَ عَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ
زَيْدِ الْحَيْلِ الطَّائِبِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَهْهَانَ وَبَيْنَ
عَلْقَمَةَ بْنِ عِلَالَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ
قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالَتْ يُعْطَى
صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا فَقَالَ إِنَّمَا أَتَاكَفَهُمْ
قَالَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ
الْوَجْهَيْنِ نَابِءُ الْجَبِينِ كَتُّ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقُ
قَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا
عَصَيْتَهُ أَيَّامُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا
تَأْمُرُونِي قَالَ فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ
الْوَلِيدِ قَالَ فَمَنْعَهُ قَالَ فَلَمَّا وَكَلَى قَالَ إِنْ مِنْ
ضَنْضِئٍ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ
الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ
الْإِسْلَامِ مَرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ
الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ لِيَنْ أَنَا أَدْرِكُهُمْ
فَقَتَلْتُهُمْ قَتْلَ عَادٍ۔

۱۳۳۷: محمد بن کثیر سفیان ان کے والد ابن ابی نعم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت کی خدمت اقدس میں مٹی میں
لگا ہوا تھوڑا سا سونا بھیجا۔ آپ نے اس سونے کو چار حضرات حضرت
اترع بن حابس حظلی المجاشعی عینہ بن بدر الفزاری زید الخلیل طائی جو
بنی نہہان کے بھی ایک فرد تھے اور علقمہ بن علاشہ العامری جو بنی کلیب
کے بھی ایک فرد تھے کے درمیان تقسیم فرما دیا تو قریش اور انصار غصہ
ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ تو نجد کے مالدار لوگوں کو دیتے ہیں اور ہم کو
نظر انداز کرتے ہیں (یہ سن کر) نبی نے ارشاد فرمایا میں ان لوگوں کی
تالیف قلب کرتا ہوں اسی وقت ایک آدمی حاضر ہوا جس کی آنکھیں
اندر گھسی ہوئی تھیں اور اسکے زخار اوپر کو تھے اور اس کی پیشانی بلند تھی
اور اسکی داڑھی اچھی طرح سے گھنی تھی اس کا سر منڈا ہوا تھا اور وہ کہنے
لگا: اے محمد خوف الہی کرو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی کروں تو پھر اسکی فرمانبرداری کون کریگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے
اہل زمین پر امانت دار بنایا اور تم مجھ کو امانت دار نہیں سمجھتے ہو؟ راوی
کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی اور میرا
خیال ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے آپ نے منع فرما
دیا جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا اس شخص کی نسل میں کچھ اس
قسم کے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان کے طلق کے نیچے سے قرآن کریم نہیں
اُترے گا (یعنی ان لوگوں پر قرآن کریم کا کوئی اثر نہ ہوگا) وہ لوگ
اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا
ہے وہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے
میں اگر ان لوگوں کو پاؤں تو میں ان کو قوم عاد کی طرح مار ڈالوں گا۔

نہروان کی وضاحت:

نہروان اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر خارجی لوگ اکٹھا ہوئے تھے اور حضرت محمد ﷺ کی زبان مبارک پر جملہ کا مفہوم یہ ہے۔

۱۳۳۸: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَمُبَشِّرٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْجَلْبَلِيَّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ يَعْنِي الْوَلِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي قَنَادَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفِرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسَيِّئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّيْلِ مَرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فَوْقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَاتَلَهُمْ وَقَتْلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سَيَمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيْقُ.

۱۳۳۸: نصر بن عاصم، ولد، مبشر، ابو عمرو، قناده، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں افتراق و اختلاف ہوگا، کچھ اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ اچھی باتیں کریں گے اور برے کام کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے لیکن وہ (قرآن) ان لوگوں کی ہنسی (حلق کی ہڈی) سے نیچے نہیں اترے گا وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے کہ وہ لوگ دین کی طرف نہیں لوٹیں گے جب تک کہ تیر تانت پر نہ واپس آئے۔ (اور تیر کا تانت پر واپس آنا ناممکن ہے پس اسی طرح وہ لوگ گمراہی میں اس طرح مضبوط ہوں گے کہ ان کا دین اسلام کی طرف واپس آنا ناممکن ہے) وہ تمام مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ اس کے لئے خوشخبری ہے جو ان کو مار ڈالے اور جسے وہ قتل کر ڈالیں وہ لوگ دوسروں کو کتاب الہی کی طرف دعوت دیں گے حالانکہ اللہ کی کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا جو آدمی ان سے جنگ کرے وہ میری امت میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ

قریب ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ ان لوگوں کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سرمنڈانا۔

باطل فرقہ سے متعلق فرمان:

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے سرمنڈے ہوں گے مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ بالکل سرمنڈانا اگرچہ درست ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سر پر بال ہونے چاہئیں۔

۱۳۳۹: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَوَهُ قَالَ سَيَمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ وَالتَّسْبِيْدُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَيْمُوهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ التَّسْبِيْدُ اسْتِنْصَالُ الشَّعْرِ.

۱۳۳۹: حسن بن علی، عبد الرزاق، معمر، قناده، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طریقہ سے مروی ہے اس روایت میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی نشانی سرمنڈانا اور بال دور کرنا ہے۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو ان کو مار ڈالو۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ تسبیہ سے مراد بالوں کو جڑ سے نکالنا ہے۔

۱۳۴۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْمَةَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَقَلَةَ

۱۳۴۰: محمد بن کثیر، سفیان، اعمش، خیمہ، حضرت سوید بن عقلہ سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جب میں تم لوگوں سے

حدیث رسول بیان کروں تو جان لو کہ مجھ کو آسمان سے گر جانا آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے بہتر معلوم ہوتا ہے اور جب میں تم لوگوں سے آپس میں گفتگو کروں تو سن لو کہ جنگ فریب کا نام ہے میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے آخردور میں کچھ اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ کم عمر اور کم عقل ہوں گے وہ اس قسم کی باتیں میان کریں گے کہ جو تمام مخلوق کی باتوں سے اچھی بات ہوگی وہ اسلام سے نکل جائیں گے کہ جس طرح تیرکان سے نکل جاتا ہے ان لوگوں کا ایمان حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو تم جہاں بھی انہیں ملوان کو مار ڈالو اس لئے ان لوگوں کو مار ڈالنا قتل کرنے والے کے لئے قیامت کے دن باعث اجر ہوگا۔

۱۳۴۱: حسن بن علی، عبدالرزاق، عبدالملک، حضرت سلمہ بن کھیل کہتے ہیں کہ حضرت وہب جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اس لشکر میں موجود تھے جو کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ خوارج سے جنگ کرنے کے لئے گیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اے لوگو میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے میری امت میں اس قسم کے لوگ نکلیں گے جو کہ تلاوت قرآن کریں گے اور تم لوگوں کا تلاوت قرآن کرنا ان لوگوں کے سامنے کچھ نہ ہوگا کہ تم لوگوں کی نماز ان لوگوں کے سامنے کچھ ہوگی۔ تم لوگوں کا روزہ ان لوگوں کے سامنے کچھ ہوگا وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت ثواب سمجھ کریں گے حالانکہ وہ ان لوگوں کے لئے عذاب ہوگا ان لوگوں کی نماز ہنسی (حلق کی ہڈی) کے نیچے نہ اترے گی۔ وہ لوگ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیرکان سے نکل جاتا ہے اور اگر اس لشکر کے لوگ جو ان کو مار ڈالیں گے ان فضائل کو جان لیں جو حضرت رسول کریم ﷺ نے ان لوگوں کے لئے بیان فرمائے ہیں تو وہ لوگ مزید نیک عمل چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ان لوگوں میں ایک اس قسم کا شخص ہوگا کہ جس کا بازو ہوگا لیکن ہاتھ (کلائی تک) نہیں ہوگا اور اس کے بازو پر پستان کی گھنڈی جیسی ایک قسم کی گھنڈی ہوگی اس پر سفید بال

قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَانَ آخِرًا مِنَ السَّمَاءِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَنَاءُ الْأَسْنَانِ سَفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَإِنَّمَا لِقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

۱۳۴۱: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَتْ قِرَائَتُكُمْ إِلَى قِرَائَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تَجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاتِبَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْحَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قَضَى لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَكَلَّمُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةٌ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلْمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعْرَاتٌ بِيضٌ

ہوں گے کیا تم لوگ (حضرت) معاویہ اور ملک شام والوں سے جنگ کرنے کے لئے جاتے ہو؟ اور ان لوگوں کو اپنی اولاد اور سامان پر چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ کی قسم! میں توقع رکھتا ہوں کہ جن لوگوں کو حضرت رسول کریم ﷺ نے بیان فرمایا وہ یہی لوگ ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس خون کو بہایا جو کہ حرام تھا اور لوگوں کی چراگاہ کو لوٹ لیا پس تم لوگ اللہ کا نام ملے کر چلو۔ حضرت سلمہ بن کھیل نے بیان کیا کہ مجھے زید بن وہب نے ان جگہوں میں سے ایک جگہ بتلائی کہ جس جگہ وہ جنگ کرنے کے لئے گئے تھے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ ایک پل پر گزرے تو حضرت زید بن وہب نے فرمایا جس وقت دونوں جانب کے لشکر آمنے سامنے ہوئے خوارج کا سردار عبد اللہ بن وہب تھا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا تم لوگ نیزے پھینک دو اور میان سے تلواریں کھینچ لو ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ تم کو قسم کھلائیں کہ جیسی حروراء میں قسم کھلائی تھی۔ راوی نے بیان کیا انہوں نے نیزوں کو پھینک ڈالا اور تلواریں کھینچ لیں۔ اہل اسلام نے ان لوگوں کو اپنے نیزوں سے روکا۔ پھر وہ لوگ یکے بعد دیگرے قتل کئے گئے اور اس روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے دو شخصوں کے علاوہ کوئی نہیں قتل کیا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے فرمایا تم لوگ ان لوگوں میں مخرج (گھنچے) کو تلاش کرو۔ انہوں نے تلاش کیا لیکن اس کو نہیں پایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کھڑے ہوئے اور ان کی لاشوں کے پاس آئے جو کہ اوپر نیچے پڑی ہوئی تھیں اور فرمایا ان (لاشوں کو) علیحدہ کر دو دیکھا تو وہ زمین پر سب لوگوں کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اللہ اکبر کہا اور کہا اللہ نے سچ فرمایا ہے اور اس کے رسول ﷺ نے (اپنا پیغام) پہنچا دیا۔ پھر عبیدہ سلمانی کھڑا ہوا اور کہا اس اللہ کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کیا آپ

أَفْتَدَهُبُونَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرَكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلَفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيكُمْ وَأُمُورِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَعَارَوْا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَيَسِيرُوا عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ قَالَ سَلِمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ فَتَزَلَّيْ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا مَنْزِلًا حَتَّىٰ مَرَّ بِنَا عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ قَالَ فَلَمَّا التَقَيْنَا وَعَلَىٰ الْخَوَارِجِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمُ الْقَوَا الرِّمَاحَ وَسَلُّوا السُّيُوفَ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُواكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ قَالَ فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَاسْتَلُّوا السُّيُوفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ وَقَتَلُوا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ قَالَ وَمَا أَصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ فَقَالَ عَلِيُّ التَّمَسُّوا فِيهِمُ الْمُخَدَّجَ فَلَمْ يَجِدُوا قَالَ فَقَامَ عَلِيُّ يَنْفِسِهِ حَتَّىٰ آتَىٰ نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ فَكَبَّرَ وَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَغَ رَسُولُهُ فَقَامَ إِلَيْهِ عَيْبِدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَتَّىٰ اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَحْلِفُ۔

نے یہ سب رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں (میں نے سنا ہے)۔ یہاں تک کہ اس شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تین مرتبہ قسم دی اور انہوں نے تین مرتبہ قسم کھائی۔

بدرترین لوگ:

مذکورہ حدیث میں ان لوگوں کے لئے قرآن کو عذاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم کے صحیح معنی کو تسلیم نہیں

کریں گے اور قرآن کے معنی کا غلط مفہوم نکالیں گے اور نماز حلق سے نیچے نہ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اثر قلب تک نہیں پہنچے گا صرف زبان سے اور ظاہری طور پر نماز ادا کریں گے اور مخدج 'اپانچ' چھوٹے چھوٹے ہاتھ والا شخص مراد ہے اور حروراء ایک جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر خارجی لوگ اکٹھا ہوئے تھے۔

۱۳۴۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مَرْثَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَضِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اطْلُبُوا الْمُخَدَّجَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَحْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلَى فِي طَبِينٍ قَالَ أَبُو الْوَضِيِّ فَكَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ حَبَشِيٌّ عَلَيْهِ قُرَيْطُقٌ لَهُ إِحْدَى يَدَيْنِ مِثْلُ ثُدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا شَعِيرَاتٌ مِثْلُ شَعِيرَاتِ النَّبِيِّ تَكُونُ عَلَى ذَنْبِ الْبُرْبُوعِ۔

۱۳۴۲: محمد بن عبید حماد، جمیل، ابوالوضی سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا مخدج کو تلاش کرو پھر حدیث کو بیان فرمایا تو لوگوں نے اس کو مقتول لوگوں میں سے مٹی کے پیچے سے نکالا ابوالوضی نے بیان کیا گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ ایک حبشی شخص تھا قیص پہنے ہوئے تھا اور اس کا ہاتھ عورت کے پستان جیسا تھا اس پر اس قسم کے بال تھے کہ جیسے جنگلی چوہے کی دم ہوتی ہے۔

۱۳۴۳: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي مَرْثِمَ قَالَ إِنَّكَ كَانَ ذَلِكَ الْمُخَدَّجُ لَمَعْنَا يَوْمَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ نَجَالِسُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَانَ فَقِيرًا وَرَأَيْتُهُ مَعَ الْمَسَاكِينِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامَ مَعَ النَّاسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بَرْنَسَالِي قَالَ أَبُو مَرْثِمَ وَكَانَ الْمُخَدَّجُ يُسَمَّى نَافِعًا ذَا الْقُدْبَةِ وَكَانَ فِي يَدِهِ مِثْلُ ثُدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهِ حَلْمَةٌ مِثْلُ حَلْمَةِ الْفَدْيِ عَلَيْهِ شَعِيرَاتٌ مِثْلُ سِبَالَةِ السَّنُورِ۔

۱۳۴۳: بشر بن خالد، شبابہ، سوار، نعیم بن حکیم، حضرت ابومریم سے مروی ہے کہ یہ گنجا آدمی اس دن ہم لوگوں کے ساتھ تھا شب و روز وہ مسجد ہی میں بیٹھا رہتا تھا وہ غریب فقیر تھا۔ میں نے اس کو فقراء کے ساتھ آتے جاتے دیکھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے میں نے اس کو استعمال کے لئے ایک کپڑا دیا تھا ابومریم کہتے ہیں کہ اس کو نافع، ذوالدب یعنی پستان والا۔ نافع کہتے تھے کیونکہ اس کے ہاتھ میں پستان تھی جیسی عورت کی پستان ہوتی ہے اور اس پر گھنڈی بھی تھی جس طرح سے پستان پر گھنڈی ہوتی ہے اور گھنڈی پر پٹی کی موچھ جیسے بال تھے۔

باب: چوروں سے مقابلہ کرنا

۱۳۴۴: مسدّد یحییٰ سفیان، عبداللہ، ابراہیم، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ناحق مال حاصل کرنے کا قصد کیا جائے اور وہ شخص اپنے مال کی حفاظت کے لئے لڑائی کرے یہاں تک کہ وہ قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔

باب فی قتال اللصوص

۱۳۴۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِيءُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أُرِيدَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ۔

۱۳۴۵: ہارون بن عبداللہ، ابوداؤد طیالسی، ابراہیم، ان کے والد ابوعبیدہ

۱۳۴۵: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو

طلحہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کی خاطر قتل کر دیا جائے یا اہل و عیال یا اپنی جان یا اپنے دین کی حفاظت کی خاطر قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ -

درجہ کے اعتبار سے شہید:

کیونکہ ایسا شخص ظلم کرنے والے کے ظلم کو دور کر رہا ہے پس اگر اس حالت میں وہ قتل کر دیا گیا تو ظلماً قتل کیا گیا اور درجہ کے اعتبار سے ایسا شخص شہید ہے لیکن ایسے شہید کا درجہ میدان جہاد میں شہید ہونے والے شخص سے کم ہے۔

أَوَّلُ كِتَابِ الْأَدَبِ

باب: تحمل اور اخلاق نبوی ﷺ

۱۳۴۶: مجلد عمر، عکرمہ اسحق، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت ﷺ تمام انسانوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہترین شخص تھے۔ آپ نے مجھے ایک دن کسی کام کیلئے بھیجا میں نے کہہ دیا کہ بخدا میں اس کام کو نہیں جاؤں گا اور دل میں یہی ارادہ تھا کہ (ضرور) جاؤں گا کیونکہ حکم نبوی تھا چنانچہ میں نکلا تو میں نے لڑکوں کو بازار میں کھیلتا ہوا دیکھا (میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا) رسول اللہ ﷺ نے پیچھے سے آکر میری گردن پکڑ لی میں نے آپ کی جانب دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے انیس! (یہ لفظ انس سے ہے شفقت و محبت میں آپ نے انس کے بجائے انیس فرمایا) جاؤ جہاں میں نے جانے کیلئے کہا ہے۔ میں نے عرض کیا بہت بہتر جا رہا ہوں یا رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ کی سات سال یا نو سال خدمت کی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کوئی کام انجام دیا ہو اور آپ نے حکم فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا میں نے کوئی کام نہ کیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔

۱۳۴۷: عبد اللہ بن مسلمہ، سلیمان بن مغیرہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ

باب فِي الْحِلْمِ وَأَخْلَاقِ النَّبِيِّ ﷺ -

۱۳۴۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشُّعْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمَرَ عَلِيٌّ صَيَّانٌ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَقْفَأِي مِنْ وَرَائِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ لِقَالِ يَا أَنَسُ أَذْهَبَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَسُ وَاللَّهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لِنِسْيٍ وَصَنَعْتُ لِمَ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَا لِنِسْيٍ تَرَكْتُ هَلَّا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا -

۱۳۴۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا

تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دس سال تک مدینہ منورہ میں خدمت کی اور میں لڑکا تھا اور میرا ہر ایک کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا لیکن آپ نے کبھی اُف نہیں فرمایا اور نہ آپ نے کبھی یہ فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہ کیا؟

سَلِيمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أَكُونَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِي فِيهَا أَفْ قَطُّ وَمَا قَالَ لِي لِمَ فَعَلْتَ هَذَا أَوْ أَلَا فَعَلْتَ هَذَا.

اُف کا مفہوم:

لفظ اُف عربی زبان میں جھڑکنے کے وقت بولا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے کبھی مجھ پر اظہار ناگواری نہیں فرمائی۔ شاکل ترمذی میں اخلاق نبوی کی تفصیلی بحث مذکور ہے۔

۱۳۴۸: ہارون ابو عامر حضرت محمد بن ہلال کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے حدیث بیان فرمائی کہ آنحضرت ﷺ ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور ہم سے گفتگو فرماتے جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم لوگ بھی (آپ کے ساتھ) کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہم لوگ آپ کو اپنی کسی زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جاتے ہوئے دیکھ لیتے۔ ہم لوگوں نے ایک دن آپ سے باتیں کیں پھر جب آپ کھڑے ہوئے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم نے ایک دیہاتی شخص کو دیکھا کہ انہوں نے آپ کو پکڑ کر چادر ڈال کر کھینچا۔ یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ چادر کھردری تھی آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اس دیہاتی نے کہا میرے ان دونوں اُونٹوں کو آپ (غلہ سے) لا دوں کیونکہ آپ مجھ کو اپنا مال نہیں دیتے نہ اپنے والد (کا مال مجھے دیتے ہیں) آنحضرت ﷺ نے فرمایا بلاشبہ میں اپنا مال نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا میں تمہارے اُونٹوں کو نہیں لا دوں گا جب تک کہ تم مجھ کو اس کھینچنے کا بدلہ نہ دو گے جو تم نے مجھے کھینچا دیہاتی شخص ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ بخدا میں آپ کو بدلہ نہیں دوں گا۔ پھر آپ نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے فرمایا اس شخص کے دونوں اُونٹوں کو لا دو۔ ایک اُونٹ کو جو

۱۳۴۸: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَلَالٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ فَمُنَّا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بَيُوتِ أَرْوَاجِهِ فَحَدَّثَنَا يَوْمًا فَقُمْنَا حِينَ قَامَ فَنَظَرْنَا إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمَرَهُ رَقَبَتَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ رِدَاءً حَشِينًا فَانْتَفَتْ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تَقِيدَنِي مِنْ جَبَذَتِكَ الَّتِي جَبَذْتَنِي فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَاللَّهِ لَا أَقِيدُكَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى الْأَخْرِي تَمْرًا ثُمَّ التَفَّتْ إِلَيْنَا فَقَالَ انْصَرِفُوا عَلَى بَرَكَاتِهِ اللَّهُ تَعَالَى.

سے اور دوسرے کو کھجور سے۔ پھر آپ نے ہم لوگوں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت پر توکل کر کے جاؤ۔

دیہاتی کا عمل:

غلہ اُونٹ پر لادنے کے لئے اس دیہاتی نے آپ سے گستاخی کے طور پر کہا تھا۔ اس دیہاتی کو معلوم تھا کہ آپ انتقام نہیں لیں گے اس وجہ سے وہ انتقام دینے سے انکار کر رہا تھا۔

باب: باوقار رہنے کی فضیلت کا بیان

۱۳۴۹: نفیلی زہیر، قابوس بن ابی ظلمین، ان کے والد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا نیک چال چلن، خوش اخلاقی، اعتدال، نبوت کے پچیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

بَاب فِي الْوَقَارِ

۱۳۴۹: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَلْمِيَّانَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْهُدَى الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبْوَةِ۔

اعتدال کا حکم:

اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کام میں میانہ روی قائم رکھے اور فضول خرچی سے بچے نہ کنجوی کرے اور نہ بہت زیادہ خرچ کرے ہر ایک کام میں شائستہ اور مہذب رہے۔

باب: غصہ پر قابو رکھنے کی فضیلت

۱۳۵۰: ابن سرح، ابن وہب، سعید ابومرجم، حضرت اہل بن معاذ اپنے والد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غصہ کو پی لے حالانکہ وہ اپنا غصہ اُتار سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ تم جس حور کو چاہو پسند کر لو۔ امام ابوداؤد درجۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابومرجم کا نام عبدالرحمن بن میمون ہے۔

بَاب مَنْ كَظَمَ غَيْظًا

۱۳۵۰: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُبُوسِ الْخَلَاقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ۔

۱۳۵۱: عقبہ بن کرم، عبدالرحمن بن مہدی، بشر بن منصور، محمد بن عجلان، حضرت سوید بن وہب، ایک صحابی کے بیٹے سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اسی طرح فرمایا اس روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے امن اور ایمان سے بھر دے گا اور اس حدیث میں (قیامت میں) بلائے کا حال بیان نہیں فرمایا ہے۔

۱۳۵۱: حَدَّثَنَا عَقِبَةُ بْنُ مَكْرَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْنَى : مَهْدِيٌّ عَنْ بَشْرِ بْنِ مَنصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَوْلَادِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

البتہ یہ اضافہ ہے کہ جو شخص بطور عاجزی اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دے حالانکہ وہ اس کے پہننے (استعمال کرنے) کی قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز عزت کا جوڑا پہنائے گا اور جو شخص (کسی غریب محتاج) کا اللہ کے لئے نکاح کرادے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بادشاہی کا تاج پہنائے گا۔

۱۳۵۲: ابوبکر بن ابی شیبہ ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم، حارث، حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ پہلوان، کشتی مارنے والے کس کو کہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا وہ شخص کہ جس کو لوگ نہ پچھاڑ سکیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں پہلوان وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس پر غصہ کے وقت قابو رکھے۔

باب: غصہ آنے کے وقت کیا پڑھنا چاہئے؟

۱۳۵۳: یوسف بن موسیٰ، جریر بن عبد الحمید، عبد الملک بن عمیر، عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس دو آدمیوں نے گالم گلوچ کی۔ ان میں سے ایک آدمی کو بہت غصہ آیا یہاں تک کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک غصہ کی وجہ سے پھٹ جائے گی۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے ایک ایسی بات کا علم ہے کہ اگر یہ شخص اس کو کہہ لے تو اس شخص کا غصہ زائل ہو جائے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس شخص کو یہ کلمہ پڑھنے کا حکم فرمانے لگے اس شخص نے انکار کر دیا اور اس نے مزید لڑائی کرنا شروع کر دی اور زیادہ غصہ کرنے لگا۔

۱۳۵۴: ابوبکر بن ابی شیبہ ابو معاویہ، اعمش، عدی، حضرت سلیمان بن مرد سے مروی ہے کہ دو آدمیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالم گلوچ کیا ان دونوں میں سے ایک آدمی کی آنکھیں لال ہو گئیں (غصہ کی زیادتی کی وجہ سے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک

نَحْوَهُ قَالَ مَلَأَهُ اللَّهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ دَعَاهُ اللَّهُ زَادَ وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبٍ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ بَشْرٌ أَحْسِبُهُ قَالَ تَوَاضَعًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكِرَامَةِ وَمَنْ زَوَّجَ لِلَّهِ تَعَالَى تَوَجَّهَ اللَّهُ تَاجَ الْمُلْكِ۔

۱۳۵۲: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعْتُونَ الصَّرْعَةَ فِيكُمْ قَالُوا الَّتِي لَا يَصْرَعُهُ الرَّجَالُ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ الَّتِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔

باب مَا يُقَالُ عِنْدَ الْغَضَبِ

۱۳۵۳: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى خِيلَ إِلَيَّ أَنْ أَنْفَهُ يَتَمَرَّعُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُهُ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ فَجَعَلَ مُعَاذٌ يَأْمُرُهُ فَأَبَى وَمَحَكَ وَجَعَلَ يَزِدُّهُ غَضَبًا۔

۱۳۵۴: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عِدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَيْدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا

بات کا علم ہے اگر یہ شخص اس کو کہے تو اس کا غصہ زائل ہو جائے اور وہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ہے یہ سن کر اس شخص
نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مجنون سمجھتے ہیں؟

۱۳۵۵: احمد بن حنبل، ابو معاویہ داؤد ابو حرب، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے
کوئی شخص غصہ ہو (تو اگر وہ) کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ اگر غصہ چلا جائے تو
ٹھیک ہے ورنہ لیٹ جائے۔

۱۳۵۶: وہب بن بقیہ خالد داؤد اس سند سے بھی آنحضرت ﷺ نے
اسی طریقہ سے روایت کیا گیا ہے امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث
زیادہ صحیح ہے۔

۱۳۵۷: بکر، حسن، ابراہیم ابو اہل قصہ گو سے مروی ہے کہ ہم لوگ
حضرت عروہ بن محمد سعدی کے پاس گئے ان سے ایک آدمی نے باتیں
کیں اور ان کو غصہ دلا دیا۔ وہ کھڑے ہوئے اور وضو کی اور کہا کہ مجھ
سے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے میرے دادا عطیہ سے
کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف ہوتا ہے اور
شیطان کی آگ سے پیدائش ہوئی ہے اور آگ پانی سے ٹھنڈی کی جاتی
ہے لہذا جب تم لوگوں میں سے کسی شخص کو غصہ آجائے تو وہ وضو کر لے۔

باب: معاف کر دینے کا بیان

۱۳۵۸: عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب عروہ بن زبیر حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کو جب دو
کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ آسان کام کو اختیار فرماتے جب تک
کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو اور اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے زیادہ
اس کام سے دور رہتے اور آنحضرت ﷺ نے کبھی اپنے لئے انتقام نہیں
لیا ہاں البتہ جس صورت میں کوئی شخص حرمت الہی کو چاک کرتا (یعنی

تَحَمَّرَ عَيْنَاهُ وَتَتَفَيْحُ أَوْ دَاجُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِنِّي لَا أَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا لَدَهَبَ عَنْهُ
الَّذِي يَجِدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ۔

۱۳۵۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي
الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لَنَا إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ
دَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ۔

۱۳۵۶: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ
دَاوُدَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ أَبَا ذَرٍّ بِهَذَا
الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَهَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ۔

۱۳۵۷: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو
وَائِلِ الْقَاصِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ
السَّعْدِيِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فَأَغَضَبَهُ فَفَاقَمَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ
رَجَعَ وَقَدْ تَوَضَّأَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي
عَطِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ
الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا
تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ۔

باب في التجاوز في الأمر

۱۳۵۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ
إِنَّمَا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا
أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسِهِ

إِلَّا أَنْ تَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ بِهَا - حرام کار تکاب کرتا تو آپ اللہ کے لئے اس سے انتقام لیتے۔

أُسُوهُ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص زنا کرتا تو آپ اس کو سنگسار کرتے اور چوری کرتا تو ہاتھ کاٹ دیتے اور شراب پیتا تو شراب کی حد قائم فرماتے لیکن اپنی ذات کے لئے کبھی انتقام نہ لیتے۔

۱۳۵۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً قَطُّ - مارا۔

۱۳۶۰: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي قَوْلِهِ خَذُ الْعَفْوِ قَالَ أَمْرٌ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَحْلَاقِ النَّاسِ - ہوا۔

باب: حسن معاشرت اور مہذب رہنے کا بیان

۱۳۶۱: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي الْجَمَانِيَّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنَاسِكِهَا وَأَمْرٌ بِالْعَفْوِ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿﴾ کی تفسیر میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اخلاق میں سے معاف اور درگزر کرنے کا حکم ہوا۔

باب فی حُسن العِشْرَةِ
۱۳۶۱: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي الْجَمَانِيَّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ لَمْ يَقُلْ مَا بَالَ فُلَانٌ يَقُولُ وَلَكِنْ يَقُولُ مَا بَالَ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا -
۱۳۶۲: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمًا يُوَاجِهُ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بَشْيءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ ذَا عَنَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَلَّمَ لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا كَانَ يَبْصُرُ فِي النُّجُومِ وَشَهِدَ عِنْدَ عِدَّتِي بِنِ اِرْطَاةِ بَنِ اِرْطَاةَ كَاسِ شَهَادَتِ دِي چاند

یَجْزُ شَهَادَتَهُ۔ دیکھنے کی۔ انہوں نے اس کی شہادت قبول نہیں فرمائی۔

۱۳۶۳: نصر بن علی ابواحمد سفیان حجاج، ایک شخص ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (دوسری سند) محمد بن متوکل عبدالرزاق بشر، یحییٰ ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن سیدھا (بھولا بھالا) اور شریف ہوتا ہے جبکہ فاسق و فاجر شخص دھوکہ باز اور کمینہ ہوتا ہے۔

۱۳۶۳: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَرِافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَبِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ جَمِيعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ غَيْرُ كَرِيمٍ وَالْفَاجِرُ حَبْ لَيْمٍ۔

۱۳۶۴: مسدّد سفیان ابن منکدر عروہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا (یہ شخص) خاندان کا برا شخص ہے پھر ارشاد فرمایا اس شخص کو اندر داخل ہونے دو۔ جس وقت وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے اس سے نرمی سے باتیں کیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس شخص سے نرمی سے باتیں کیں اور اسکے متعلق آپ پہلے کیا ارشاد فرما چکے تھے (کہ یہ برا آدمی ہے اسکے ساتھ برابر تاؤ کرنا چاہئے تھا) آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے برا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوگا کہ جس سے لوگ اس کی سخت زبانی (یابد زبانی) کی وجہ سے میل جول چھوڑ دیں۔

۱۳۶۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بئس ابن العشيّرة أو بئس رجل العشيّرة ثم قال ائذنوا له فلما دخل الآن له القول فقالت عائشة يا رسول الله أئتت له القول وقد قلت له ما قلت قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لا إتقاء فحشبه۔

۱۳۶۵: عباس عمیری اسود شریک اعمش مجاہد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اے عائشہ وہ لوگ برے ہیں کہ جن کی زبان کے ڈر سے ان لوگوں کی تعظیم کی جائے۔

۱۳۶۵: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعُمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فَقَالَ تَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ۔

خوف کی وجہ سے تعظیم کرنا:

مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کے فتنہ پرور ہونے کی وجہ سے ان کے خوف سے ان کی عزت کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان کی تعظیم نہ کی تو شر انگیزی کریں گے۔

۱۳۶۶: احمد بن منیع، ابوقطن، مبارک، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی آدمی نے آنحضرت ﷺ کے کانوں پر (اپنا) منہ رکھا ہو (یعنی جیکے سے کوئی بات کہنے کے لئے) پھر آپ نے اپنا سر مبارک ہٹالیا ہو اس شخص کے سر ہٹانے سے قبل اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے آنحضرت ﷺ کا ہاتھ مبارک پکڑا ہو پھر آپ نے اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑالیا ہو اس کے ہاتھ چھوڑنے سے قبل۔

۱۳۶۷: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، محمد بن عمرو، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، آپ نے فرمایا یہ شخص اپنے خاندان میں برا شخص ہے، جس وقت وہ شخص اندر داخل ہوا تو آپ اس شخص سے خندہ پیشانی سے ملے اور آپ نے اس شخص سے باتیں کیں جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس شخص نے جس وقت اجازت طلب کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا (یہ شخص) اپنے خاندان کا برا شخص ہے۔ پھر جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو آپ نے اس شخص سے خندہ پیشانی سے ملاقات فرمائی۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ بے ہودہ گو اور فحش گفتگو کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔

باب: شرم و حیا کے بارے میں

۱۳۶۸: قعنبی، مالک، ابن شہاب، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آنحضرت ﷺ کا ایک انصاری شخص کے پاس سے گزر ہوا وہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں کہہ رہا تھا (یعنی اتنے شرم و حیا کی ضرورت نہیں) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کو رہنے دے شرم و حیا تو ایمان میں داخل ہے۔

۱۳۶۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطْنٍ أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا اتَّقَمَ أُذُنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْحِي رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْحِي رَأْسَهُ وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحَدًا يَدْعُ فِتْرَكَ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَدْعُ يَدَهُ.

۱۳۶۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَسِ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ ابْسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَهُ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا اسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ.

باب فی الحیاء

۱۳۶۸: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَخْبَرَنَا شِهَابٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.

حیا کی تاکید:

مطلب یہ ہے کہ وہ انصاری دوسرے کو سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم و حیا نہیں کرنا چاہئے زیادہ شرمیلا ہونا ٹھیک نہیں۔ آپ نے اسے اس طرح کی نصیحت سے منع فرمادیا۔ معلوم ہوا کہ بہر حال شرم و حیا کی احادیث میں بہت تاکید ہے بخاری شریف کی حدیث ہے: ((الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ)) یعنی شرم و حیا ایمان کا جزء ہے۔

۱۳۶۹: سلیمان بن حرب، حماد اسلمی، حضرت ابوقادہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے اور حضرت بشیر بن کعب رضی اللہ عنہ بھی اس جگہ تشریف فرما تھے تو حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا شرم و حیا سب سے بہتر ہے یا (فرمایا) شرم و حیا تمام کی تمام بہتر ہے۔ بشیر نے کہا کہ ہم لوگوں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ بعض شرم و قارواطمینان کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض شرم و حیا کمزوری سے ہوتی ہے۔ حضرت عمران نے پھر یہی حدیث بیان کی۔ بشیر نے پھر وہی بات کہی تب عمران کو غصہ آ گیا یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور کہنے لگے کہ میں تم سے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور (تم اسکے بالمقابل) اپنی کتاب بیان کرتے ہو، ہم لوگوں نے عمران بن حصین سے کہا اے ابوجنید (یہ حضرت عمران کی کنیت ہے) بس کیجئے بس کیجئے۔

۱۳۷۰: عبد اللہ بن مسلمہ، شعبہ، منصور ربیع بن حراش، حضرت ابوسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو پہلے حضرات انبیاء علیہم السلام کا جو کلام یاد رہ گیا ہے اس میں یہ بھی ہے جب تجھ کو شرم و حیا نہ ہو جو چاہو سو کرو۔

باب: خوش اخلاقی کا بیان

۱۳۷۱: تمیمہ، یعقوب، عمرو، مطلب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اس شخص جیسا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو کہ تمام دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے۔

۱۳۷۲: ابولید، حفص بن عمر (دوسری سند) ابن کثیر، شعبہ، قاسم، عطاء، ام درداء، ابودرداء سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان (نامہ اعمال کی ترازو) میں کوئی شے حسن اخلاق سے زیادہ وزن دار نہ ہوگی۔ (مطلب یہ ہے کہ تمام نیک کاموں میں حسن اخلاق کا سب سے زیادہ وزن ہوگا اور قیامت کے دن تمام نیکوں میں

۱۳۶۹: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَتَمَّ بِشِيرٍ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بِشِيرٌ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا نَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةٌ وَوَقَارًا وَمِنْهُ ضَعْفٌ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ وَأَعَادَ بِشِيرٌ الْكَلَامَ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلَا أُرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْدِثُنِي عَنْ كُتُبِكَ قَالَ قُلْنَا يَا أَبَا نُجَيْدٍ يَهْ يَهْ۔

۱۳۷۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ۔

باب فِي حُسْنِ الْخُلُقِ

۱۳۷۱: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَندَرِيَّ عَنْ عَمْرِو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ۔

۱۳۷۲: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَيْسِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ

سب سے زیادہ پہلے حسن اخلاق کا بھاری ہوگا۔

۱۳۷۳: محمد بن عثمان ابوکعب، سلیمان، حضرت ابواہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اس شخص کے لئے جنت کے اطراف میں ایک مکان کا ذمہ دار ہوں جو کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ شخص برحق ہو اور (میں اس شخص کے لئے (ذمہ دار ہوں) جنت کے درمیان میں ایک مکان کا جو کہ جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ وہ لٹی (جھوٹ موٹ) اور مذاق سے ہو اور (میں ذمہ دار ہوں) جنت کی بلندی میں ایک مکان کا اس کے لئے جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔

۱۳۷۴: ابوبکر عثمان بن ابی شیبہ، کعب، سفیان، معبد، حضرت حارثہ بن وہب سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا بدخلق و بد لحاظ اور مغرور و متکبر شخص یا مونا اور بد اخلاق شخص جو اظہار بدخلق اور بدطیلت آدمی کو کہتے ہیں۔

شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ -

۱۳۷۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الْخَمَاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَعْبٍ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رَبِضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ -

۱۳۷۴: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَاظُ الْغَلِيظُ الْفَطُّ -

جنت میں نہ جانے والا:

جنت میں موٹے آدمی کے داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص مال حرام کھا کر مونا ہوا ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور لفظ جواظ کے متعدد معنی ہیں چنانچہ مذکورہ حدیث میں جواظ کے چند معنی بیان کئے گئے ہیں جو کہ سب ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔

باب: شیخی بھگوانے کی ممانعت

۱۳۷۵: موسیٰ بن اسماعیل، حماد ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (آنحضرت ﷺ کی اونٹنی) عضباء کبھی شرط میں پیچھے نہیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص اپنے نو عمر اونٹ پر آیا اور اس نے عضباء سے دوڑ کا مقابلہ کیا پھر وہ اونٹ عضباء سے آگے نکل گیا تو یہ بات آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ناگوار گزری۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ضروری ہے کہ جو شے بڑھ جائے اس کو نیچا دکھائے۔

۱۳۷۶: نفیلی، زہیر حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طریقہ سے روایت ہے اس روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حق

باب فی کراہیۃ الرفعة فی الامور

۱۳۷۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبِقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَسَبَقَهَا الْأَعْرَابِيُّ فَكَانَ ذَلِكَ شَقًّا عَلَيَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ -

۱۳۷۶: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ
ہے کہ جب دُنیا کی کوئی شے بہت بڑھ جائے تو اس کو کم کر دے
(گھٹا دے)۔

عادتِ الہی:

عادتِ الہی یہ ہے کہ جو چیز زیادہ آگے ہو جاتی ہے تو ایک دن اس کو اللہ تعالیٰ گھٹا دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہو۔
یہی بات آپ کی اڑنی کے ساتھ پیش آئی کہ وہ کبھی کسی سے ہارتی نہیں تھی لیکن اس دفعہ ایک اونٹ سے ہار گئی۔

باب: خوشامد چاپلوسی کی مذمت

باب فی گراہیۃ التَّمَادِجِ

۱۳۷۷: ابو بکر بن ابی شیبہ حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ هَمَّامٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَنَّى عَلَى عُمَانَ فِي
وَجْهِهِ فَأَخَذَ الْمُقَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ تَرَابًا فَحَفَا فِي
وَجْهِهِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيتُمُ
الْمَدَّاحِينَ فَاحْشُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ۔
۱۳۷۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو
شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلَى رَجُلٍ
عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَدَحَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ
لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَحْسِبُهُ كَمَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ
وَلَا أَرْكَبِهِ عَلَى اللَّهِ۔

۱۳۷۷: ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان، منصور، ابراہیم، حضرت ہمام سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے ان کی خوشامد کرنے لگا تو حضرت مقداد بن الاسود نے نمٹی لے کر اس کے چہرے پر ڈال دی اور کہا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم خوشامد کرنے والے لوگوں سے ملو تو ان کے چہرے پر نمٹی ڈال دو۔

۱۳۷۸: احمد بن یونس، ابوشہاب، خالد حداء، عبدالرحمن، حضرت ابوبکر، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کے سامنے کسی کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے دوست کی ضرورت کے وقت تعریف کرے تو اس طرح کہے میں اس کو ایسا خیال کرتا ہوں لیکن میں اس کو اللہ کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتا۔

۱۳۷۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ
الْمُفْضِلِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسَلَّمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ
فِي وَفْدِ نَبِيِّ عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ

خَلَاصَةُ الْبَابِ: مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات نہیں کہتا کہ وہ شخص عند اللہ بھی مقبول ہے۔ یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کون مقبول ہے اور کون نہیں۔

۱۳۷۹: مسدد، بشر، ابومسلم، ابونضرہ، حضرت مطرف سے مروی ہے کہ میرے والد قبیلہ بنی عامر کے لوگوں کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے آقا ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا آقا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے عرض کیا ٹھیک ہے ہم تمام میں صاحب فضیلت اور مرتبہ میں آپ سب سے بڑے ہیں۔ آپ نے

۱۳۷۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ
الْمُفْضِلِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسَلَّمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ
فِي وَفْدِ نَبِيِّ عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْنَا وَأَفْضَلْنَا فَضْلًا وَأَعْظَمْنَا
طَوْلًا فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا
يَسْتَجْرِبَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ
ارشاد فرمایا تم لوگ جو کہتے تھے وہی کہو (یعنی اللہ کے رسول اور نبی کہو) یا
اس میں سے کچھ کہو (یعنی رسول اللہ و نبی اللہ کہو) تم لوگوں کو شیطان
وکیل نہ کر لے۔

سید کہنے سے منع کرنے کی وجہ:

سید کے معنی سردار کے ہیں حقیقی طور پر تو تمام کائنات کا سردار اللہ تعالیٰ ہے اور تمام انسان اسی کے بندے ہیں۔ آپ نے ان
لوگوں کو خود اپنے کو سید کہنے سے اس وجہ سے منع فرمایا کیونکہ وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کے سید
ہونے کو دنیاوی سردار جیسا نہ سمجھیں بہر حال آنحضرت ﷺ تمام انسانوں اور اولیٰین اور آخرین کے سید ہیں۔ درود شریف کے
بعض صیغوں میں بھی سیدنا کا لفظ موجود ہے۔

باب: نرمی کرنے کا بیان

باب فی الرِّفْقِ

۱۳۸۰: موسیٰ بن اسماعیل، حماد یونس، حسن، حماد یونس، حمید، عبد اللہ
بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نرم ہے (وہ) ملاحت اور نرمی کو پسند
فرماتا ہے اور نرمی پر جو کچھ عطا فرماتا ہے، وہ تند خوئی اور سختی پر عطا
نہیں فرماتا۔

۱۳۸۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
حَمَادٌ عَنْ يُونُسَ وَحَمِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي
عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ۔

۱۳۸۱: عثمان اور ابوبکر، محمد بن صباح، شریک، حضرت مقدم اپنے والد
شرح سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنها سے دریافت کیا کہ جنگل میں جانا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا
آنحضرت ﷺ ان نالوں کی جانب جنگل میں تشریف لے جاتے
تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے جنگل تشریف لے جانے کا ارادہ کیا تو میرے
پاس ایک اونٹنی بھیجی جس پر سواری نہیں ہوئی تھی زکوٰۃ کے اونٹوں میں
سے اور فرمایا اے عائشہ! نرمی کیا کرو کیونکہ جس شے میں نرمی ہوتی ہے
اس کو زینت دیتی ہے اور جس شے سے نرمی نکل جاتی ہے اس کو معیوب
بنا دیتی ہے۔ ابن الصباح اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ مُحْرَمَةٌ کا
مطلب ہے جس پر سواری نہیں ہوئی تھی۔

۱۳۸۱: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ
عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ
عَائِشَةَ عَنِ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التَّلَاعِ
وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحْرَمَةً
مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ
الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَا نُوعَ
مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي
حَدِيثِهِ مُحْرَمَةٌ يَعْنِي لَمْ تُرَكَّبْ۔

۱۳۸۲: ابوبکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، وکیع، اعمش، تمیم، عبدالرحمن،
حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا جو آدمی نرمی سے محروم ہے وہ تمام قسم کی خیر و خوبی

۱۳۸۲: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ
سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ جَرِيرٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ۔

۱۳۸۳: حسن بن محمد الصباح، عفان، عبد الواحد، سليمان، أعمش، مالك، حضرت مصعب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کام میں ارشاد فرمایا جلدی نہ کرنا اچھا ہے لیکن آخرت کے کاموں میں۔

۱۳۸۳: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْأَعْمَشُ وَقَدْ سَمِعْتَهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْأَعْمَشُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّوَدُّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ۔

باب: احسان کا شکر ادا کرنا لازمی ہے

۱۳۸۴: مسلم، ریح، محمد بن زیاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا (وہ) اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔

باب فِي شُكْرِ الْمَعْرُوفِ
۱۳۸۴: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ۔

۱۳۸۵: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ثابت، انس سے مروی ہے کہ مہاجرین نے عرض کیا یا رسول اللہ! انصاری لوگ تمام اجر و ثواب لوٹ گئے (لے گئے) آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کیلئے دعا مانگتے رہو گے اور انکی تعریف کرتے رہو گے (تمہیں بھی ان جیسا اجر ملتا رہیگا)

۱۳۸۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَتِ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ لَا مَا دَعَوْتُمْ اللَّهَ لَهُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ۔

۱۳۸۶: مسدد، بشر، عمارہ، ایک شخص حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو کوئی شے دی جائے پھر اس کو قدرت ہو تو اس کا عوض ادا کرے اگر عوض نہ دے سکے تو اس کی تعریف کر دے جس شخص نے (کسی کی) تعریف کی اس نے اس کا شکر ادا کیا اور (احسان کو) جس شخص نے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں اس روایت کو یحییٰ، عمارہ، شرحبیل، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔

۱۳۸۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَشَرٌ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُؤْنِ بِهِ فَمَنْ أُنِّي بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَّرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ شَرْحَبِيلَ عَنْ جَابِرٍ۔

۱۳۸۷: عبد اللہ، جریر، أعمش، ابوسفیان، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو کوئی شے ملے وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کیا تو جس شخص نے اس کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔

۱۳۸۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُبْلِيَ بِلَاءٍ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَّرَهُ۔

باب فِي الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقَاتِ

۱۳۸۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّا كُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَدَلْنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أُبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصْرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ -

نگاہ نیچی رکھنے کا بیان:

۱۳۸۸: عبد اللہ بن مسلمہ، عبد العزیز بن زید، عطاء بن یسار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ راستوں (اور سڑک) میں بیٹھنے سے بچو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بیٹھے بغیر ہمارے لئے کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہم وہاں گفتگو کرتے ہیں۔ (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر راستے پر بیٹھنا ضروری ہے تو راستہ کا حق ادا کیا کرو ان حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ راستہ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا اور خیر کی بات کا حکم دینا اور بری بات سے لوگوں کو روکنا۔

نگاہ نیچی رکھنے کا اس لئے حکم فرمایا تاکہ نامحرم پر نظر نہ پڑے اور انسان برائی سے محفوظ رہے واضح رہے کہ شریعت نے بازار کو بری جگہ قرار دیا ہے اس لئے بلا ضرورت بازاروں میں گھومنا بہتر نہیں کیونکہ وہاں نظر کی حفاظت ایک مشکل مسئلہ ہے۔

۱۳۸۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ -

۱۳۸۹: مسدد بن بشر بن مفضل، عبد الرحمن بن اسحاق، سعید مقبری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ ﷺ سے یہی روایت بیان کی ہے اور اس روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ (راستہ بھولے ہوئے کو) راستہ بتانا۔

۱۳۹۰: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى النَّيْسَابُورِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ ابْنِ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتَغْيِثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ -

۱۳۹۰: حسن بن عیسیٰ ابن مبارک، جریر بن حازم، اسحاق بن سوید، ابن حجیر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے اسی طریقہ سے روایت بیان کی ہے البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مصیبت زدہ شخص کی امداد کرو اور راستہ بھولے ہوئے کو راستہ بتاؤ۔

۱۳۹۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ وَكَبِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ

۱۳۹۱: محمد بن عیسیٰ، کبیر بن عیسیٰ، کبیر بن عبید، مروان، انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا تم کسی گلی کے کونے میں چلو جس جگہ تمہارا دل چاہے گا میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ وہ عورت بیٹھ گئی اور آنحضرت نے (اس جگہ جا کر) تشریف فرما ہو گئے یہاں تک

کہ اس عورت نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ راوی ابن عیسیٰ نے راستہ میں بیٹھنا یہ الفاظ ”اس عورت نے کام مکمل کر لیا“ بیان نہیں کئے البتہ کثیر نے حمید سے اسی طرح بیان کیا۔ (اس عورت کو جو عرض کرنا تھا اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ واضح رہے کہ راستہ میں بیٹھ جانا اچھا نہیں ہے اگر ضرورت ہو تو کسی کوئے میں جو راستہ سے علیحدہ ہو وہاں بیٹھ جائے)۔

۱۳۹۲: عثمان بن ابی شیبہ یزید بن ہارون، حماد بن سلمہ ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طریقہ سے مروی ہے کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ خلل تھا۔ پہلی روایت کی طرح (روایت بیان کی)۔

باب: کشادہ ہو کر بیٹھنا

۱۳۹۳: قضیٰ عبد الرحمن بن ابی الموال عبد الرحمن بن ابی عمر، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بیٹھنے کی عمدہ جگہ وہ ہے جو کہ کھلی ہوئی ہو۔

لَهَا يَا أُمَّ فُلَانٍ اجْلِسِي فِي أَبِي نَوَاحِي السِّكِّكِ
شُبْتُ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَيْكَ قَالَ فَجَلَسْتُ
فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا حَتَّى
قَضَتْ حَاجَتَهَا لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَيْسَى حَتَّى
قَضَتْ حَاجَتَهَا وَقَالَ كَبِيرٌ عَنْ حُمَيْدٍ۔

۱۳۹۲: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
أَنْسِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ بِمَعْنَاهُ۔

باب في سعة المجلس

۱۳۹۳: حَدَّثَنَا الْقَعْبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
أَبِي الْمَوَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ
الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ
أَوْسَعُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ۔

مجلس میں بیٹھنے سے متعلق ایک ادب:

مطلب یہ ہے کہ جس جگہ لوگوں کو تنگی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو واضح رہے کہ مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہئے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور مجلس میں تنگی کے وقت جگہ دینے کا حکم ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا﴾

باب: کچھ دھوپ اور کچھ سایہ میں بیٹھنے کا بیان

۱۳۹۴: ابن سرح، مخلد بن خالد سفیان محمد بن منکر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص کچھ دھوپ میں بیٹھا ہو اور مخلد کہتے ہیں کہ سائے میں بیٹھا ہو۔ پھر وہ سایہ اس سے سرک جائے جس کی وجہ سے اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو تو اسے وہاں سے اٹھ جانا چاہئے۔

باب في الجلوس بين الشمس والظل!

۱۳۹۴: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ
قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ
حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو
الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ
أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ وَقَالَ مَخْلَدٌ فِي الْقِيءِ
فَقَلِّصْ عَنْهُ الظِّلَّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ

وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ۔

۱۳۹۵: مسدّد یحییٰ اسماعیل، قیس ان کے والد حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ آئے جبکہ آنحضرت ﷺ خطبہ دے رہے تھے تو وہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے آپ نے ان کے متعلق فرمایا تو وہ سائے میں آ گئے۔

۱۳۹۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَ بِهِ فَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ۔

باب: حلقہ بنا کر بیٹھنا کیسا ہے؟

باب فِي التَّحَلُّقِ

۱۳۹۶: مسدّد یحییٰ اعمش، مسیب، تمیم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگ علیحدہ علیحدہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کیا ہو گیا میں تم کو علیحدہ علیحدہ دیکھ رہا ہوں۔

۱۳۹۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُسَيْبُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حَلَقٌ فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْكُمْ عَزِينَ۔

۱۳۹۷: واصل، ابن فضیل، حضرت اعمش سے اسی طرح روایت ہے اس روایت میں اس طرح ہے کہ گویا آپ کو جماعت کی صورت میں بیٹھنا پسند تھا۔

۱۳۹۷: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا قَالَ كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ۔

۱۳۹۸: محمد بن جعفر، ہناد، شریک، سماک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جہاں جگہ ملتی ہم وہیں بیٹھ جاتے۔

۱۳۹۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَّكَانِيُّ وَهَنَادُ أَنَّ شَرِيكًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهَى۔

باب: حلقہ کے درمیان میں بیٹھنے کا بیان

باب فِي الْجُلُوسِ وَسَطِ الْحَلْقَةِ

۱۳۹۹: موسیٰ بن اسماعیل، ابان، قتادة، ابو مجلز، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو حلقہ کے درمیان بیٹھے۔

۱۳۹۹: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَجْلَزٍ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ۔

باب: کسی شخص کا دوسرے کے لئے اپنی

باب فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ

جگہ سے اٹھنا

مِنْ مَجْلِسِهِ

۱۴۰۰: مسلم، شعبہ، عبد ربہ، ابو عبد اللہ، حضرت سعید بن ابوالحسن سے مروی ہے کہ ایک شہادت کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم لوگوں

۱۴۰۰: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى

کے پاس آئے تو ان کے لئے ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھا۔ حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا آنحضرت ﷺ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے اور آپ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنا ہاتھ ایسے پکڑے سے پونچھے جو اسے پہنایا نہیں گیا (یعنی اس کا اپنا نہیں ہے)

۱۴۰۱: عثمان بن ابی شیبہ محمد بن جعفر شعبہ، عقیل ابو الخصب، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے لئے ایک آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور وہ آدمی اس جگہ بیٹھنے لگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس جگہ بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو الخصب کا نام زیاد بن عبد الرحمن تھا۔

باب: کس شخص کی صحبت میں بیٹھنا چاہئے؟

۱۴۰۲: مسلم ابان قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس مومن کی مثال جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ایسی ہے جیسے کہ ترنج، اس کی بو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس مومن کی مثال جو کہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا کھجور جیسی ہے اس کا ذائقہ عمدہ ہے اور اس کی خوشبو نہیں ہے اور اس فاسق شخص کی مثال جو کہ قرآن کریم پڑھتا ہے گلاب جیسی ہے کہ جس کی خوشبو عمدہ ہے اور ذائقہ کڑوا ہے اور اس فاسق کی مثال جو کہ قرآن کریم نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل جیسی ہے اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اچھے ساتھی کی مثال مشک والے جیسی ہے اگر اس میں سے تم کو کچھ نہ ملے تو خوشبو ہی سہی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دھونکنے والا اگر اس کی کالک سے تم بچ بھی جاؤ تو دھواں ہی لگ جائیگا۔

۱۴۰۳: مسدد یحییٰ (دوسری سند) ابن معاذ، ان کے والد شعبہ قتادہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس

آلِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةِ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِعُوبٍ مَنْ لَمْ يَكْسَهُ۔

۱۴۰۱: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَصْبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَهَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْخَصْبِ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ۔

باب مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يَجَالِسَ

۱۴۰۲: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَنْجُرِجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مَرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مَرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْجَالِسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصْبِكْ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَالِسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِبْرِ إِنْ لَمْ يُصْبِكْ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ۔

۱۴۰۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

میں کہتے تھے کہ اچھے ساتھی کی مثال پھر بقیہ حدیث اسی طریقہ سے ہے۔

مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَسَاقِ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ۔

۱۳۰۴: عبداللہ بن صباح، سعید بن عامر، شبیب بن عزرہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے۔

۱۳۰۴: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ۔

۱۳۰۵: عمرو بن عون، ابن مبارک، حیوۃ بن شریح، سالم، ولید ابوسعید یا ابوالہیثم، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن کے علاوہ کسی شخص کا ساتھ نہ رکھو اور تیرا کھانا پرہیزگار شخص کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔

۱۳۰۵: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَوَةَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَيَّالَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا۔

۱۳۰۶: ابن بشار، ابو عامر، ابوداؤد زہیر، موسیٰ بن وردان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ (تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کس شخص سے دوستی کر رہے ہو؟)

۱۳۰۶: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

۱۳۰۷: ابن بشار، ان کے والد، جعفر، یزید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ارواح منظم لشکر تھیں پھر جس میں باہمی طور پر وہاں (ایک دوسرے سے) شناخت تھی وہ تو دنیا میں ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں اور جن میں وہاں ناواقفیت تھی وہ لوگ دنیا میں بھی علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔

۱۳۰۷: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ بَرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَتْ مِنْهَا ائْتَلَفَتْ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَتْ۔

روح سے متعلق:

روحوں کے جھنڈے کے جھنڈے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے جسم کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں روحیں منظم لشکر کی صورت میں تھیں۔

باب: جھگڑے فساد کی ممانعت کا بیان

باب فی تکرہیۃ المرء

۱۳۰۸: عثمان بن ابی شیبہ، ابواسامہ، یزید، ان کے دادا ابوردہ، حضرت

۱۳۰۸: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو

ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر روانہ فرماتے تو فرمادیتے نفرت نہ دلانا اور سہولت کرتے رہنا اور دشواری نہ ڈالنا، تنگ اور پریشان نہ کرنا۔

۱۳۰۹: مسدّد یحییٰ، سفیان، ابراہیم، مجاہد، قائد، حضرت سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور لوگ میرا تذکرہ اور میری تعریف کرنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہاری بہ نسبت اس کا زیادہ واقف ہوں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان آپ ﷺ حج فرماتے ہیں آپ میرے شریک تھے پھر آپ کتنے اچھے شریک تھے نہ آپ لڑائی کرتے اور نہ جھگڑا کرتے تھے۔

باب: طریق گفتگو

۱۳۱۰: عبدالعزیز، محمد بن سلمہ، محمد بن اسحاق، یعقوب بن علیہ، عمر بن عبدالعزیز، یوسف، حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرنے کے لئے تشریف رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آسمان کی جانب نظر اٹھاتے۔

أَسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تَعْثَرُوا۔

۱۳۰۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يَتَنَوَّنَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِغَيْبِي بِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ يَا بِي أَنْتَ وَإِنِّي كُنْتُ شَرِيكِي فِي عَمَلِ الشَّرِيكِ كُنْتُ لَا تَدَارِي وَلَا تُمَارِي۔

باب الہدی فی الکلام

۱۳۱۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ۔

دوران گفتگو آسمان کی طرف دیکھنا:

گفتگو فرماتے وقت اکثر آپ آسمان کی جانب اس وجہ سے دیکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر تشریف لارہے ہوں۔

۱۳۱۱: محمد بن علاء، محمد بن بشر، مسعر، ایک شخص، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف (یعنی واضح طور پر) گفتگو فرماتے تھے۔

۱۳۱۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْتِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ۔

۱۳۱۲: عثمان اور ابوبکر، سفیان، أسامہ زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ طریقہ سے

۱۳۱۲: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

علحدہ علیحدہ (یعنی واضح الفاظ میں) گفتگو فرماتے کہ ہر ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سمجھ لیتا تھا۔

۱۳۱۳: ابوتوبہ ولید اوزاعی قرہ زہری ابوسلمہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گفتگو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع نہ کی جائے وہ ناقص اور ادھوری ہے امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس کو یونس، عقیل، شعیب، سعید بن عبد العزیز زہری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلاً روایت کیا ہے۔

باب: خطبہ کے بارے میں

۱۳۱۴: مسدذ موسیٰ بن اسماعیل، عبدالواحد بن زیاد، عاصم بن کلیب، ان کے والد حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس خطبہ میں تشہد نہ ہو وہ ایسا ہے کہ جیسے کٹا ہوا ہاتھ (یعنی ایسا خطبہ نامکمل اور ادھورا ہے)۔

باب: ہر ایک شخص کو اس کے درجہ پر رکھنا چاہئے

۱۳۱۵: یحییٰ ابن ابی خلف، یحییٰ بن یمان، سفیان، حبیب، حضرت میمون بن ابی ہبیب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک بھیک مانگنے والا شخص گزرا انہوں نے اس شخص کو روٹی کا ایک ٹکڑا عنایت فرمایا پھر کپڑے پہنے ہوئے ایک معقول صورت شخص گزرا تو انہوں نے اس شخص کو بٹھا کر (کھانا وغیرہ) کھلایا لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر ایک انسان کو اس کے درجہ پر رکھو۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میمون نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیکھا۔

۱۳۱۶: اسحق بن ابراہیم، عبد اللہ بن حمران، عوف بن ابی جمیلہ، زیاد بن محراق، ابوکنانہ، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کرنا اور ایسے حامل قرآن کی عزت

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا فَصَلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ۔

۱۳۱۳: حَدَّثَنَا أَبُو تُوْبَةَ قَالَ رَعِمَ الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ وَعَقِيلٌ وَشُعَيْبٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا۔

باب فِي الْخُطْبَةِ

۱۳۱۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشْهَدُ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ۔

بَاب فِي تَنْزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ

۱۳۱۵: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ الْيَمَانِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ أَنَّ عَائِشَةَ مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَيْمُونٌ لَمْ يَدْرِكْ عَائِشَةَ۔

۱۳۱۶: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْرَانَ أَخْبَرَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِحْرَاقٍ عَنْ أَبِي كِنَانَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ

اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ
الْعَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ۔
انصاف کرنے والا ہو۔

قرآن میں غلو اور نقصان:

مذکورہ حدیث میں غلو کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص قرآن کریم میں حدودِ شرعیہ سے نہ بڑھے یعنی قرآن میں وسوسے یا شک و شبہ سے کام نہ لے یا تلاوتِ قرآن میں غیر معمولی جلدی نہ کرے اور اس کے آداب کی رعایت نہ رکھے اور نقصان کا مفہوم یہ ہے کہ احکامِ قرآن پر عمل پیرا نہ ہو۔

باب: کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان ان کی بلا

بَاب فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

اجازت نہ بیٹھے

بغَيْرِ إِذْنِهِمَا

۱۳۱۷: محمد بن عبید احمد بن عبدہ حماد عامر حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان بلا اجازت گھس کر نہ بیٹھے۔

۱۳۱۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ عَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا يَأْذِنُهُمَا۔

۱۳۱۸: سلیمان بن داؤد ابن وہب، أسامہ، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے لئے درست نہیں کہ بلا اجازت دو شخصوں کو علیحدہ کر دے۔

۱۳۱۸: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْلِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَفْرِقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا يَأْذِنُهُمَا۔

دو آدمیوں کے درمیان بیٹھنا:

مطلب یہ ہے کہ جو دو شخص مل کر یکجا بیٹھے ہوئے ہوں ان کے درمیان ان کی بلا اجازت گھس کر نہ بیٹھے کہ ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دے۔

باب: کس طرح بیٹھنا چاہئے؟

بَاب فِي جُلُوسِ الرَّجُلِ

۱۳۱۹: سلمہ بن شیب، عبد اللہ اسحق بن محمد ربیع بن عبد الرحمن ان کے والد ان کے دادا حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں

۱۳۱۹: حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْخٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ -
ہاتھوں سے احتیاء فرمالتے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابراہیم حدیث کے انکار کرنے والے ایک شیخ ہیں۔

احتیاء کیا ہے؟

احتیاء اس نشست کو کہا جاتا ہے کوئی شخص زمین پر سرین رکھے اور دونوں ہاتھ سے ٹانگوں پر حلقہ بنا لے یہ نشست نماز میں ممنوع ہے نماز کے علاوہ میں درست ہے۔

۱۳۲۰: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالََا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعُمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتَانِي صَفِيَّةُ وَدُحْيَةُ ابْنَتَا عَلِيَّةَ قَالَ مُوسَى بِنْتِ حَرَمَلَةَ وَكَانَتَا رَبِيبَتِي قِيلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ أَبِيهِمَا أَنَّهُمَا أَخْبَرْتَهُمَا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدُ الْقَرْفَصَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمُخْتَشِعَ وَقَالَ مُوسَى الْمُخْتَشِعَ فِي الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ -
۱۳۲۰: حفص بن عمرو، موسیٰ بن اسماعیل، عبد اللہ بن حسان، صفیہ، دُحیہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرفصاء کے طور پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عاجزی و انکساری فرمانے والے تھے تو میں خوف سے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے) گزر گئی۔ (قرفصاء اس نشست کو کہتے ہیں کہ جس میں بطور احتیاء (اس لفظ کا مفہوم اوپر کی حدیث میں ہے) کے طریقہ پر بیٹھنا اور دونوں ہاتھ پرواز دینا یا دونوں گھٹنے کے زور پر بیٹھنا اور دونوں ران کو پیٹ سے ملانا اور دونوں ہتھیلیوں کو بظلوں کے نیچے کرنا ہوتا ہے)۔

باب: ناپسندیدہ نشست

۱۳۲۱: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ اتَّقَعُدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ -
۱۳۲۱: علی بن بحر، عیسیٰ بن یونس، ابن جریج، ابراہیم، عمرو، حضرت شریذ بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں اس طریقہ سے بیٹھا کرتا تھا کہ میرا بائیں ہاتھ پیٹھ پر رکھا تھا اور میں ایک ہاتھ کے انگوٹھے پر سہارا لگائے ہوئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو کہ جن پر غضب الہی نازل ہوا۔

باب: بعد عشاء گفتگو کرنے کا بیان

۱۳۲۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ قَالَ -
۱۳۲۲: مسدد، یحییٰ، عوف، ابو المنہال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے قبل سونے اور بعد عشاء

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى بَاتِمِينَ كَرْنَ كِي مَمَانَعَتِ فَرَمَاتِي تَحِي۔
عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا۔

ایک حکم:

نمازِ عشاء سے قبل سونے سے اس لئے منع فرماتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور بعد عشاء باتمیں کرنے سے اس لئے منع فرماتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز فجر قضا ہو جائے اگر یہ وجہ پائے جانے کا امکان نہ ہو تو نمازِ عشاء سے قبل سونا اور بعد عشاء سے متعلق مذکورہ ممانعت نہ رہے گی۔ واضح رہے کہ بلا ضرورت بعد عشاء باتمیں کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔

باب: آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کا بیان

۱۳۲۳: عثمان بن ابی شیبہ ابوداؤد سفیان، سماک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ فجر پڑھ کر چارزا نوپر بیٹھتے جب تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔

بَاب فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا

۱۳۲۳: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ الْقَوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا۔

باب: سرگوشی کرنے کا بیان

۱۳۲۴: ابوبکر بن ابی شیبہ ابومعاویہ اعمش (دوسری سند) مسدود عیسیٰ اعمش، شقیق، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا دو شخص اپنے تیسرے ساتھی کو نظر انداز کر کے کانا پھونسی (سرگوشی) نہ کریں اس لئے کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی (کہ گفتگو میں مجھے کس وجہ سے شریک نہیں کیا)

بَاب فِي التَّنَاجِي

۱۳۲۴: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْتَجِي اِنْتَانِ دُونَ الْفَالِكِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ۔

۱۳۲۵: مسدود عیسیٰ اعمش، ابوصالح، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طریقہ سے مروی ہے۔ ابوصالح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے میں نے معلوم کیا اگر چار آدمی ہوں تو انہوں نے جواب دیا کوئی حرج نہیں۔

۱۳۲۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلُهُ قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَلَقْتُ لِابْنِ عَمْرٍو فَأَرَبَعَةً قَالَ لَا يَضُرُّكَ۔

سرگوشی کی اجازت کی صورت:

مطلب یہ ہے کہ اگر تین سے زیادہ آدمی ہوں تو اس صورت میں سرگوشی درست ہے کیونکہ اس صورت میں بدگمانی کا امکان نہ رہے گا اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک شخص کو یہ خیال ہوگا کہ شاید میرے متعلق گفتگو ہو کوئی ایک شخص متعین نہ ہوگا۔

باب: کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا اور

دوبارہ آ گیا

۱۳۲۶: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، سہیل بن حضرت ابی صالح سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ایک لڑکا بھی موجود تھا وہ شخص اٹھ کر گیا پھر واپس آیا تو میرے والد صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان فرمائی انہوں نے حضرت رسول اللہ ﷺ سے حدیث بیان کی کہ جب کوئی شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور پھر وہ واپس آئے تو وہی شخص اس جگہ کا حق دار ہے۔

۱۳۲۷: ابراہیم بن موسیٰ، بشر، تمام، کعب ایادی، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ بیٹھتے اور آپ ﷺ کے گرد ہم لوگ بھی بیٹھتے پھر آپ ﷺ کھڑے ہوتے اور آپ ﷺ کا واپس تشریف لانے کا ارادہ ہوتا تو آپ ﷺ اپنے جوتے اتار کر رکھ جاتے یا آپ ﷺ کوئی دوسری چیز (وہاں پر) رکھ جاتے آپ ﷺ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سمجھ جاتے (کہ آپ ﷺ دوبارہ تشریف لائیں گے) لہذا وہ ہیں پڑھ جاتے۔

باب: آدمی کا کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کئے بغیر اٹھ جانا

مکروہ ہے

۱۳۲۸: محمد بن صباح، اسماعیل بن زکریا، سہیل بن ابی صالح، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر (بیٹھ کر پھر اس جگہ سے) کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں تو وہ لوگ گویا مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے اور یہ بیٹھنا ان لوگوں کے لئے (قیامت کے روز) حسرت کا باعث ہوگا۔

۱۳۲۹: قتیبہ بن سعید، لیث، ابن عجلان، سعید مقبری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی جگہ بیٹھے اور وہ اس نشست میں ذکر الہی نہ کرے تو اس کو (قیامت

باب إذا قام الرجل من مجلس

ثم رجع

۱۳۲۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَالِسًا وَعِنْدَهُ غُلَامٌ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ فَحَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ۔

۱۳۲۷: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ الْحَلَبِيُّ عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ كَعْبِ الْإِيَادِيِّ قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرَّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيُبْتُونَ۔

باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه

ولا يذكر الله

۱۳۲۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ۔

۱۳۲۹: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّه قَالَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَبْرَةٌ وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَبْرَةٌ۔

ذکر الہی کے بغیر مجلس:

مطلب یہ ہے کہ خواہ ایک ہی مرتبہ سہی مگر ذکر اللہ ضرور کرے اگر بالکل کسی مجلس میں ذکر الہی نہ کیا تو انسان ایسی مجلس کو یاد کر کے حسرت کرے گا اور سوچے گا کہ کاش میں نے ذکر الہی کر لیا ہوتا۔

باب: مجلس کا کفارہ

باب فِي كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ

۱۴۳۰: احمد بن صالح، ابن وہب، عمرو سعید بن ابی ہلال، سعید بن ابی سعید، حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ چند کلمات ہیں جو شخص ان کلمات کو مجلس سے اٹھتے وقت پڑھے گا تو وہ (مجلس میں کئے گئے گناہوں کا) کفارہ بن جائیں گے اور اگر نیک کام یا ذکر الہی کی مجلس میں ان کلمات کو کہے تو وہ کلمات مہر کے مانند خاتمہ بن جائیں گے جس طرح تحریر پر آخر میں مہر ہوتی ہے وہ کلمات یہ ہیں: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔

۱۴۳۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هَلَالٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ كَلِمَاتٌ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كَفَّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسٍ خَيْرٍ وَمَجْلِسٍ ذِكْرٍ إِلَّا حُجِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُحْتَمُ بِالْخَاتِمِ عَلَى الصَّحِيفَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔

۱۴۳۱: احمد بن صالح، ابن وہب، عمرو اور اسی طریقہ سے عبد الرحمن بن ابی عمرو مقبری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے۔

۱۴۳۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ۔

۱۴۳۲: محمد بن حاتم، عثمان بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، حجاج بن دینار، ابو ہاشم، ابو العالیہ، حضرت ابو ہریرہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْإِلَهَ الْأَنَّتَ الْإِلَهَ الْأَنَّتَ الْإِلَهَ الْأَنَّتَ! آپ ﷺ کی کلمات جو کہتے ہیں پہلے تو یہ نہیں فرماتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان امور کا کفارہ ہیں جو کہ مجلس میں

۱۴۳۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى أَنَّ عَبْدَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِأُخْرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى فَقَالَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ -

باب: شکایت لگانے کی ممانعت کا بیان

۱۴۳۳: محمد بن یحییٰ بن فارس، فریبانی، اسرائیل، ولید (دوسری سند) زہیر بن حرب، حسین بن محمد، اسرائیل، ولید، زید بن زائد، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص میرے پاس دوسرے صحابی کی طرف بطور (شکایت) کوئی بات نہ پہنچائے اس لئے کہ میں چاہتا ہوں (میں) تم لوگوں کے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو۔

بَاب فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ مِنَ الْمَجْلِسِ
۱۴۳۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا الْفَرِيَابِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَنَسَبَهُ لَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حُسَيْنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الْوَلِيدُ ابْنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ زَائِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْلُغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُخْرَجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ -

مَحَلُّ سَوْالِ اللَّهِ ﷻ كِي آرزو:

مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں کسی شخص کی طرف سے کوئی میل نہ ہو اور جب میں تمہاری مجلس میں آؤں تو میرا دل ہر ایک کے لئے صاف ہو اور یہ تب ہی ہوگا جب تم میں سے کوئی بھی کسی کی بات بطور شکایت مجھے نہ بتائے۔

الحمد لله وبفضلہ پارہ نمبر: ۳۰ مکمل ہوا

انصُرُوا رَحَائِي فَقَالَ كَانَتْ لِي اِلَى قَوْمِي حَاجَةٌ قَالَ قُلْتُ اَجَلٌ وَمَضِيًّا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَذَفَعْتُ الْمَالَ اِلَى أَبِي سُفْيَانَ۔

آ رہا ہے۔ میں نے اونٹ کو اور زیادہ دوڑا دیا یہاں تک کہ میں ان سے بہت زیادہ آگے نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہوں تو ان کے ساتھی واپس ہو گئے اور وہ میرے پاس آ کر

کہنے لگا کہ مجھے اپنے لوگوں سے کچھ کام تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کام ہوگا۔ پھر ہم لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ معظمہ میں پہنچ گئے اور وہ مال ابوسفیان کے حوالے کیا۔

آداب سفر:

مذکورہ حدیث میں سفر سے متعلق آداب ارشاد فرمائے گئے حاصل یہ ہے کہ دوران سفر کسی پر حد سے بڑھا ہوا اعتماد نہ کیا جائے اس لئے کہ نہ معلوم دوسرے سے کیا نقصان پہنچ جائے۔ رسالہ ”رفیق سفر“ میں سفر کے آداب مفصل طریقہ سے مذکور ہیں۔

۱۴۳۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَقِيلِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ۔

۱۴۳۵: قتیبہ، لیث، عقیل، زہری، حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ (یعنی ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ دھوکا نہیں کھانا چاہئے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے)۔

باب: چال چلن

۱۴۳۶: وَهَبُ بْنُ بَقِيَّةٍ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى كَانَهُ يَتَوَكَّأُ۔

۱۴۳۶: وہب بن بقیہ، خالد بن خالد، حمید، انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ گویا آپ آگے کی طرف جھکے جا رہے ہیں۔

۱۴۳۷: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خَلِيفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَيْبَضَ مَلِيحًا إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَهْوِي فِي صَبُوبٍ۔

۱۴۳۷: حسین بن معاذ، عبدالاعلیٰ، سعید، حضرت سعید جریر کہتے ہیں کہ حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میں نے کہا اس کیفیت میں دیکھا۔ ابوالطفیل نے جواب دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے ملیح تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا لگتا کہ آپ نشیب میں اتر رہے ہیں۔

باب: لیٹتے وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر نہیں

رکھنا چاہئے

۱۴۳۸: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

۱۴۳۸: قتیبہ بن سعید، لیث (دوسری سند) موسیٰ بن اسماعیل، حماد، زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چت لیٹ کر ایک ٹانگ کو دوسرے ٹانگ پر رکھنے سے منع فرمایا۔ قتیبہ کی

عَلَى الْأُخْرَى

بَاب فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ

روایت میں ہے کہ ٹانگ نہ اٹھائے۔

أَنْ يَضَعَ وَقَالَ قَتَيْبَةُ يَرْفَعُ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى زَادَ قَتَيْبَةُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَيَّ ظَهْرَهُ۔

۱۳۳۹: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَاصْطَعَا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى۔

۱۳۳۹: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَاصْطَعَا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى۔

۱۳۴۰: قَعْنَبِيُّ مَالِكُ ابْنِ شِهَابٍ، حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما ہی طرح کرتے تھے۔

۱۳۴۰: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَقَعْلَانِ ذَلِكَ۔

باب: راز کی بات کسی کو بتانا

باب فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ

۱۳۴۱: ابوبکر بن ابی شیبہ، یحییٰ بن آدم، ابن ابی ذئب، عبد الرحمن بن عطاء، عبد الملک بن جابر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کوئی بات کرے پھر اذھر اذھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ (وہ بات راز ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہئے)۔

۱۳۴۱: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ التَّمَّتْ فِيهِ أَمَانَةٌ۔

۱۳۴۲: احمد بن صالح، عبد اللہ بن نافع، ابن ابی ذئب، ابن اخی جابر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھے تو وہ مجلس امانت ہے مگر تین قسم کی مجالس۔ ایک وہ مجلس کہ جہاں ناحق قتل کی بات ہو دوسرے وہ مجلس کہ جس جگہ بدکاری کی بات کی جائے تیسرے وہ مجلس کہ جس جگہ دوسرے کا مال ناحق لوٹ لینے کی بات ہو۔

۱۳۴۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ ابْنِ أَخِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسٍ سَفَكَ دَمٌ حَرَامٌ أَوْ فَرَجَ حَرَامٌ أَوْ اقْتَطَعُ مَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ۔

۱۳۴۳: محمد بن عطاء، ابراہیم، ابوالاسامہ، عمر، حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہوگی کہ مرد اپنی اہلیہ سے ہمبستر ہو اور عورت شوہر سے ہمبستر ہو پھر مرد اس کے راز کو فاش کر دے۔

۱۳۴۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ

أَعْظَمَ الْأَمَانَةَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي
إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا۔

بہت بڑی خیانت:

مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کی نوعیت بھی اسلام کی نظر میں ایک امانت ہے اور ان خصوصی تعلقات کا کوئی حصہ کہیں بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ مرد یا عورت میں سے کسی نے اگر ایسا اقدام کیا تو روز قیامت اس امانت کی خیانت میں گرفتار ہوگا۔

باب: چغل خور کے بارے میں

بَاب فِي الْقَتَاتِ

۱۳۳۳: مسدّد ابو بکر بن ابی شیبہ ابو معاویہ اعمش، ابراہیم ہمام، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا چغل خور شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

۱۳۳۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ۔

باب: دور خنے پن کا بیان

بَاب فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ

۱۳۳۵: مسدّد سفیان ابو الزناد اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں میں برا وہ شخص ہے جو کہ دو منہ رکھتا ہے ان لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر آئے (یعنی چغل خوری کرے)

۱۳۳۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءَ بِوَجْهِ وَهَوْلَاءَ بِوَجْهِ۔

چغل خوری کی وعید:

چغل خوری اور دور خنے پن شدید ترین گناہ ہے۔ دیگر احادیث میں بھی اس کی سخت ترین وعید مذکور ہے دور خنے پن اور پیشاب

کے قطرے سے نہ بچنا عذاب قبر کا بھی باعث ہے۔ دیگر احادیث میں اس کی صراحت ہے۔

۱۳۳۶: ابو بکر بن ابی شیبہ شریک، زکین، نعیم، حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے دو چہرے ہوں قیامت کے دن اس کی دونہاں ہوں گی آگ کی۔

۱۳۳۶: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ نَعِيمِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ۔

باب: غیبت کے بارے میں

بَاب فِي الْغَيْبَةِ

۱۳۳۷: عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، عبد العزیز، علاء، انکے والد ابو ہریرہ سے

۱۳۳۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ

روایت ہے کہ آنحضرتؐ سے کسی شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ! غیبت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا (غیبت یہ ہے کہ) اپنے (مسلمان) بھائی کا اس طریقہ سے تذکرہ کرنا کہ (اگر وہ سامنے موجود ہو تو) اس کو ناگوار محسوس ہو کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جس کا میں تذکرہ کروں (تو وہ عیب ہے یا نہیں؟) آپ نے فرمایا اگر اس شخص میں وہ عیب موجود ہے تب تو غیبت ہے اور اگر اس شخص میں وہ عیب موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔

۱۳۳۸: مسدّد یحییٰ سفیان، علی بن اقر، حضرت ابو حذیفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرتؐ سے عرض کیا آپ کو (حضرت) صفیہؓ کا فلاں فلاں عیب کافی ہے۔ مسدّد کی روایت میں (اس طرح مذکور ہے کہ) یعنی ان کا قد چھوٹا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ! تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ دریا میں گھول دی جائے تو وہ دریا پر غالب آجائے۔ عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں خواہ مجھے اس قدر اس قدر مال بھی ملے۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغَيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ۔

۱۳۳۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مَزَجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ مَا أَحَبُّ أَبِي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا۔

شدیدترین کلمہ:

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آنحضرتؐ کی زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوکن تھیں۔ بشری تقاضا کی بناء پر سوکنوں میں اس قسم کی بات ہو ہی جاتی ہے اور مذکورہ کلمہ کے دریا میں گھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اس قدر سخت ہے کہ اس سے دریا بھی بدمزہ ہو جائے اور کسی کی نقل اتارنا بھی عیب میں داخل ہے۔

۱۳۳۹: محمد بن عوف، ابوالیمان، شعیب، ابن ابی حسین، نوفل، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام (قسم کی) زیادتیوں سے زیادہ یہ زیادتی ہے کہ کوئی شخص ناحق کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں زبانِ طعن دراز کرے۔

۱۳۳۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نُوْفَلٌ بْنُ مَسَاحِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ مِنْ أُرْمَى الرَّبَا الْإِسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ۔

مسلمان کی عزت سے کھیلنا:

مطلب یہ ہے کہ جس طریقہ سے مسلمان بھائی سے اصل سے زیادہ مال وصول کرنا حرام ہے یعنی سودی لین دین کرنا حرام ہے اسی طریقہ سے اس کی عزت کے درپے ہونا بھی حرام ہے۔

۱۳۵۰: ابن مصفی بقیۃ ابو مغیرہ صفوان، راشد، عبدالرحمن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس رات معراج پر گیا تو میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے تانے کے ناخن تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نونچ رہے تھے، میں نے دریافت کیا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انسانوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کے درپے رہتے تھے (یعنی بے عزتی کرتے تھے) امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچی نے بقیہ سے اس روایت کو بیان کیا لیکن (اس روایت میں) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں ہے اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ نے ابو مغیرہ سے ابن مصفی کے طریقہ سے روایت کیا ہے۔

۱۳۵۰: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ وَأَبُو الْمُغِيرَةَ قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا عَرَجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهُهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَانَ عَنْ بَقِيَّةٍ لَيْسَ فِيهِ أَنَسٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى السَّيْلَحِيْنِيُّ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى۔

گوشت کھانے کا مطلب:

مذکورہ حدیث میں گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنا ہے قرآن میں غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الْبَيْتُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

۱۳۵۱: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ۔

۱۳۵۱: عثمان بن ابی شیبہ، اسود، ابو بکر، اعمش، سعید، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگو! جو کہ زبان سے ایمان لائے ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا تم لوگ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی عزتوں کے پیچھے (یعنی بے عزت کرنے کے درپے نہ ہو) نہ پڑو۔ اس لئے کہ جو شخص کسی شخص کی عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے پیچھے پڑے گا اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے تو وہ اس شخص کو اسی کے گھر میں ذلیل و خوار کرے گا۔

دوسروں کی بے عزتی کرنا:

مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص لوگوں سے پوشیدہ بھی ہو جائے گا جب بھی ایسا شخص دوسرے کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے ضرور ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔

۱۳۵۲: حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ وَالِدِ مَكْحُولٍ وَقَالَ حَضْرَتُ مَسْتُورِ بْنِ شَدَادٍ سَمِعَ مَرْوَةَ بِنْتُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمَّا عَرَجَ عَلَيَّ فِي الْمَعْرَاجِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا عَرَجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهُهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَانَ عَنْ بَقِيَّةٍ لَيْسَ فِيهِ أَنَسٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى السَّيْلَحِيْنِيُّ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُصَفَّى۔

مسلمان بھائی کا عیب ذکر کر کے ایک نوالہ کھالے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے اسی قدر نوالہ کھلائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ذکر کر کے ایک کپڑا پہنے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے اسی قدر کپڑا پہنائے گا اور جو شخص کسی شخص کو یا کسی کی وجہ سے ریا کاری اور تشہیر کے مقام پر پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز ایسے مقام پر کھڑا کرے گا کہ جہاں پر اس کی اچھی طرح سے شہرت ہو۔

وَقَاصٍ بِنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِنْهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسَى قَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِنْهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سَمْعَةَ وَرَبِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سَمْعَةَ وَرَبِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

ایک دنیاوی سزا:

منظرب یہ ہے کہ اس شخص کو سخت سزا دی جائے گی اور اس کو ایسا بدترین عذاب ہوگا کہ تمام لوگوں میں اس شخص کی شہرت ہوگی۔

۱۳۵۳: واصل اسباط بن محمد ہشام بن سعد حضرت زید بن اسلم ابوصالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال اس کی عزت و آبرو اور اس کا خون حرام ہے اور انسان میں اس قدر برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کم تر سمجھے۔

۱۳۵۳: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعَرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔

باب: کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی

باب الرَّجُلُ يَذُبُّ عَنِ

حفاظت کے لئے بولے

عَرَضِ أَخِيهِ!

۱۳۵۴: عبد اللہ بن محمد ابن مبارک یحییٰ بن ایوب عبد اللہ بن سلیمان اسلمیل بن یحییٰ سبیل بن معاذ بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس آدمی نے کسی مسلمان کو کسی منافع شخص سے بچایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو کہ اس کے گوشت کو دوزخ سے بچائے گا اور جو آدمی کسی مسلمان شخص پر الزام تراشی کرے عیب لگانے کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے پل پر روک دے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو۔

۱۳۵۴: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاوِرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَيْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مَنَافِقِ أَرَاهُ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ۔

۱۳۵۵: اسحق بن صباح ابن ابی مریم لیث یحییٰ حضرت اسمعیل بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابوطلمح بن سہل انصاری سے سنا وہ دونوں کہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرے کہ جہاں اس کی عزت کونشانہ بنایا جا رہا ہو یا اس کی عزت کم ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسے مقام پر رسوا کرے گا کہ جہاں پر وہ اس کی امداد چاہے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد کرے ایسی جگہ کہ جس جگہ اس کی عزت کم ہوتی ہو یا عزت جاتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی جگہ مدد کرے گا کہ جس جگہ وہ اس کی مدد چاہے گا (یعنی قیامت کے دن) یحییٰ نے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عبد اللہ اور عقبہ بن شداد نے مجھ سے یہ روایت بیان کی۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سلیم بن زید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کئے ہوئے غلام ہیں اور اسمعیل بن بشیر قبیلہ بنی مغالہ کے آزاد کئے ہوئے غلام ہیں اور عقبہ کی جگہ عقبہ بن شداد بھی بیان کیا گیا ہے۔

باب: اس شخص کا بیان کہ جس کی غیبت کرنا غیبت

میں شمار نہیں ہوتا

۱۳۵۶: علی بن نصر عبد الصمدان کے والد جریری ابو عبد اللہ شمیٰ حضرت جناب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص آیا۔ اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اسے باندھا پھر وہ مسجد میں داخل ہوا اور آنحضرت ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب آپ نے نماز کا سلام پھیر دیا تو وہ اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس کو کھول دیا پھر وہ اس پر سوار ہوا پھر اس نے آواز لگائی اے اللہ میرے اوپر اور حضرت محمد ﷺ پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر آنحضرت ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو یہ دیہاتی شخص زیادہ بے وقوف ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا اس نے کیا کہا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کیوں نہیں سنا (یعنی ہم نے بھی ضرور سنا ہے)

۱۳۵۵: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَمْرٍ يُخْذَلُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تَنْتَهَكَ فِيهِ حُرْمَتَهُ وَيَنْقُصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يَنْقُصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيَنْتَهَكَ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نَصْرَتَهُ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَقْبَةُ بْنُ شَدَادٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ هَذَا هُوَ ابْنُ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَعَالَةَ وَقَدْ قِيلَ عُبَيْدُ بْنُ شَدَادٍ مَوْضِعَ عَقْبَةَ.

باب مَنْ لَيْسَتْ لَهُ

غَيْبَةٌ

۱۳۵۶: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدَ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاحَ وَرَاحِلَتُهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى وَرَاحِلَتُهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ قَالُوا بَلَى.

باب: ٹوہ لگانے کی ممانعت

۱۳۵۷: عیسیٰ بن محمد ابن عوف، فریبانی، سفیان، ثور، راشد، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر تم لوگوں کی عیب جوئی میں لگو گے تو تم انہیں مزید بگاڑ دو گے یا بگاڑنے کے قریب کر دو گے۔ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ جملہ ہے جس کو آنحضرت ﷺ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے فائدہ پہنچایا۔

باب فی النهی عن التجسس

۱۳۵۷: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ وَأَبْنُ عَوْفٍ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَا حَدَّثَنَا الْفَرِيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا۔

لوگوں کی عیب جوئی نہ کرنے کا حکم:

مذکورہ حدیث میں لوگوں کو پردے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جب لوگوں کے عیوب کی جستجو کرو گے اور ان کے عیب ان پر ظاہر کرو گے تو اس کا ان پر غلط رد عمل ہوگا اور وہ اس کے رد عمل میں اعلانیہ گناہ کریں گے کیونکہ اب تک تو وہ چوری سے اور خفیہ طریقہ پر گناہ کر رہے تھے اس لئے حسن تدبیر سے ہی لوگوں کو برائی سے روکنا چاہئے۔ قرآن کا یہی حکم ہے۔

۱۳۵۸: سعید بن عمرو، اسماعیل، ضمضم، شرح، جبیر بن نفیر، حضرت کثیر بن مرہ، حضرت عمرو بن اسود، حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاکم جب لوگوں میں شک کی تلاش کرے گا تو وہ انہیں بگاڑ دے گا۔

۱۳۵۸: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ وَكَثِيرِ بْنِ مَرْوَةَ وَعَمْرٍو بْنِ الْأَسْوَدِ وَالْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدَى كَرِبٍ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرَّبِيَّةَ النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ۔

حاکم کے لئے ایک ہدایت:

مطلب یہ ہے کہ جب حاکم ثبوت شرعی کو نظر انداز کر کے محض اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اس کے اس طریقہ کی وجہ سے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوگا اس لئے حاکم کو چاہئے کہ وہ ثبوت شرعی کے مطابق فیصلہ کرے اور خواہ مخواہ کے لئے لوگوں کو مشکوک مت سمجھے۔

۱۳۵۹: ابوبکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، عمش، زید سے روایت ہے کہ ایک شخص کو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ لوگوں نے بتایا یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی داڑھی سے شراب ٹپکتی ہے عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اگر کوئی بات ظاہر ہو

۱۳۵۹: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فَلَانَ تَقَطَّرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا قَدْ نَهَيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ

جائے تو ہم اس پر گرفت کریں گے۔

وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ۔

باب: مسلمان کے عیب کو پوشیدہ رکھنا بہتر ہے

باب فِي السُّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

۱۳۶۰: مسلم بن ابراہیم، عبداللہ ابراہیم، کعب بن علقمہ، ابوالہیثم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی کے عیب کو دیکھے پھر اس کو چھپالے تو گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کر دیا۔

۱۳۶۰: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَسِيطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى عَوْرَةَ فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْتًا وَدَةً۔

۱۳۶۱: محمد بن یحییٰ، ابن ابی مریم لیث، ابراہیم، کعب بن علقمہ، ابوالہیثم سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے ذہن سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ رہا کرتے تھے جو کہ شراب پیا کرتے تھے میں نے ان لوگوں کو منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئے میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے تمام پڑوسی شراب پیتے ہیں میں نے انہیں منع کیا لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ اب میں ان لوگوں کے لئے پولیس کو بلاؤں گا۔ حضرت عقبہ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ دوسری مرتبہ حضرت عقبہ کے پاس گیا اور کہا کہ ہم لوگوں کے پڑوسیوں نے شراب پینا نہیں چھوڑی اور میں نے ان لوگوں کو روکا لیکن وہ نہیں رکے۔ اب میں ان کے لئے پولیس کو بلانے لگا ہوں حضرت عقبہ نے فرمایا تمہاری خرابی ہو تم خاموش رہو۔ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا پھر اس حدیث کو بیان کیا جو اوپر کی روایت میں بیان ہوئی تھی امام ابوداؤد نے فرمایا ایک روایت میں اس طریقہ سے مذکور ہے کہ عقبہ نے کہا کہ تم داروغہ کو خبر نہ کرنا لیکن ان کو سمجھاتے اور ڈراتے رہو۔

۱۳۶۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَسِيطٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ دُخَيْنًا كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنَّ جِيرَانَنَا هَؤُلَاءِ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَإِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَأَنَا دَاعٍ لَهُمْ الشَّرْطَ فَقَالَ دَعُهُمْ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى عُقْبَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ إِنَّ جِيرَانَنَا قَدْ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ شَرْبِ الْخَمْرِ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمْ الشَّرْطَ قَالَ وَيَبْحَكَ دَعُهُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ لَيْثٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَادَّهُمْ۔

باب: بھائی چارہ اور اخوت کا بیان

بَابُ الْمَوَآخَاةِ

۱۳۶۲: قتیبہ بن سعید، لیث، عقیل، زہری، حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر کسی قسم کا ظلم کرتا ہے نہ اس کو آفت میں چھوڑتا ہے اور جو شخص اپنے مسلمان

۱۳۶۲: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي

بھائی کے کام میں لگا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دُور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو رفع فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے عیب کو چھپائے گا۔

باب: گالم گلوچ کرنے کا بیان

۱۳۶۳: عبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیز، علاء ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب گالم گلوچ کرنے والے جو کچھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو دونوں کا گناہ اس شخص پر ہوتا ہے کہ جس نے پہل کی جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔

باب: تواضع اور عاجزی اختیار کرنا

۱۳۶۴: احمد بن حفص، ابراہیم حجاج، قتادہ، یزید، حضرت عیاض بن ہمار سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے۔

باب: انتقام لینے کا بیان

۱۳۶۵: عیسیٰ بن حماد، لیث، سعید، بشیر، حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے قریب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور ان کو تکلیف پہنچائی اور حضرت ابو بکر خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار تکلیف پہنچائی تو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار چھیڑ خانی کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ ان کے جواب دیتے ہی آنحضرت ﷺ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

حَاجِيَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

باب الاستِيَاب!

۱۳۶۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَانُ مَا قَالَ فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ۔

باب فِي التَّوَاضُّعِ

۱۳۶۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ۔

باب فِي الْإِنْتِصَارِ

۱۳۶۵: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُحَرَّرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَأَذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَذَاهُ الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَذَاهُ الثَّلَاثَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

أَوْحَدَتْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ -

نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ پر ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا وہ تمہیں برا کہنے والے شخص کی تکذیب کرتا رہا جب تم نے جواب دیا تو شیطان (درمیان میں) آ گیا۔ پھر جب شیطان آ گیا تو میں بیٹھ نہیں سکتا۔

۱۳۶۶: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ وَسَاقَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ -

۱۳۶۶: عبد الاعلیٰ بن حماد عجلان ابن سعید بن ابی سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طریقہ پر مروی ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ پر صفوان نے بھی عجلان سے روایت بیان کی ہے۔

۱۳۶۷: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الْإِنْتِصَارِ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ فَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ امْرَأَةِ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَرَزَعُوا أَنَّهَُا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَيَّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَجَعَلَ يَضَعُ شَيْئًا بِيَدِهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حَتَّى فُطِنْتُ لَهَا فَأَمْسَكَ وَأَقْبَلْتُ زَيْنَبُ تَقَمُّمٌ لِعَائِشَةَ فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْهَى فَقَالَ لِعَائِشَةَ سَبِّهَا فَسَبَّهَا فَغَلَبَهَا فَأَنْطَلَقْتُ زَيْنَبُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ إِنَّ عَائِشَةَ عَثَ بِكُمْ وَفَعَلْتَ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا إِنَّهَا جِبَّةٌ أَبِيكَ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ فَأَنْصَرَفْتُ فَقَالَتْ لَهُمْ أَنِّي قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا قَالَ وَجَاءَ عَلِيُّ إِلَى النَّبِيِّ

۱۳۶۷: عبید اللہ بن معاذ ان کے والد (دوسری سند) عبید اللہ بن عمر معاذ حضرت ابن عون سے روایت ہے کہ میں اس آیت کریمہ: ﴿وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ میں لفظ انتصار کے معنی معلوم کرتا تھا تو مجھ سے علی بن زید بن جدعان نے اور انہوں نے اپنے والد کی بیوی ام محمد سے حدیث بیان کی کہ لوگ بیان کرتے تھے کہ وہ حضرت ام المؤمنین (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا) کی خدمت میں جاتی تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور (دوسری زوجہ مطہرہ) حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہمارے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے مجھ کو چھیڑنے لگے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے آپ کو بتلایا کہ حضرت زینب بنت جحش بیٹھی ہوئی ہیں میں نے آپ کو بتایا اور آپ سمجھ گئے تو آپ رک گئے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا کہنے لگیں۔ آپ نے ان کو منع فرمایا۔ انہوں نے نہیں مانا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم بھی ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو برا کہنا شروع کیا اور ان پر غالب آ گئیں تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تمہیں برا بھلا کہا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ آپ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ۔
 کے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے والد کی لاڈلی ہے
 قسم ہے بیت اللہ شریف کے پروردگار کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ تشریف لے گئیں اور انہوں نے قبیلہ بنی ہاشم سے بیان فرمایا
 کہ میں نے آپ سے عرض کیا آپ نے ایسا فرمایا۔ پھر حضرت رسول کریم ﷺ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور
 انہوں نے اس سلسلہ میں آپ سے گفتگو کی۔

باب: مردوں کو برا کہنے کی ممانعت

۱۳۶۸: زہیر بن حرب، وکیع، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب
 تم لوگوں کا ساتھی انتقال کر جائے تو تم لوگ اس کی مذمت کرنا چھوڑ دو
 اور اس کا عیب بیان نہ کیا کرو۔

۱۳۶۹: محمد بن علاء، معاویہ، عمران، عطاء، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
 روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے مردوں کی
 اچھائیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے رک جاؤ۔

باب: شرارت اور غرور کی ممانعت

۱۳۷۰: محمد بن صباح، علی بن ثابت، عکرمہ، ضمیمہ بن جوس، حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا
 آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں دو برابر کے آدمی تھے ایک آدمی تو
 (شب و روز) گناہ کے کام کرتا تھا اور دوسرا عبادت کیا کرتا تھا۔ عبادت
 گزار شخص دوسرے کو ہمیشہ گناہ کا ارتکاب کرتے دیکھتا تو کہتا کہ اس
 گناہ سے باز آ جاؤ۔ ایک دن اس نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو
 اسے کہا کہ باز آ جاؤ تو اس نے کہا کہ تو میرا معاملہ میرے رب کے
 حوالے کر۔ کیا تم میرے نگران بن کر آئے ہو؟ اس (عبادت گزار
 شخص) نے کہا کہ اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا یا کہا
 کہ تم کو جنت میں داخل نہ کرے گا پھر دونوں شخصوں کا انتقال ہو گیا اور
 ان دونوں کی ارواح ایک ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے عبادت گزار شخص سے فرمایا کیا تم کو میرے حال کا علم تھا یا تم میرے

باب فی النهی عن سب الموتی

۱۳۶۸: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ
 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
 قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ وَلَا تَقْعُوا فِيهِ۔

۱۳۶۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ
 بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَطَاءِ
 عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْكُرُوا
 مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنِ مَسَاوِيهِمْ۔

باب فی النهی عن البغی

۱۳۷۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ
 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَارٍ قَالَ
 حَدَّثَنِي ضَمُّمُ بْنُ جَوْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مَتَوَاحِشِينَ
 فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَذُوبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي
 الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ
 عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى
 ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِينِي وَرَبِّي أَبْعَثْ
 عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا
 يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَفَبَضَّ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا
 عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ

بی عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَيَّ مَا فِي يَدِي قَادِرًا وَقَالَ لِلْمَذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخِرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلِّمَنَّ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيَّتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ۔

۱۳۷۱: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَيْنَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغِيِّ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ۔

شدید گناہ:

مطلب یہ ہے کہ شر انگیزی، تکبر اور رشتہ داری منقطع کرنا یہ ایسے سخت گناہ ہیں کہ انسان کی سزا کے لئے یہی گناہ بہت شدید ہیں اور ان گناہوں کی سخت وعید دیگر احادیث میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔

باب: حسد کا بیان

۱۳۷۲: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، أَبُو عَامِرٍ سَلِيمَانَ بْنِ بِلَالٍ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَسَدُ نَيْكٌ كَامُونَ كَوَاسٍ طَرَحَ كَهَالِيَتِي يَأْكُلُ الْإِنْسَانَ كَمَا يَأْكُلُ الْبَقْرَةَ الْخَالِئَةَ۔

۱۳۷۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، أَبُو عَمْرِو سَلِيمَانَ بْنِ بِلَالٍ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَسَدُ نَيْكٌ كَامُونَ كَوَاسٍ طَرَحَ كَهَالِيَتِي يَأْكُلُ الْإِنْسَانَ كَمَا يَأْكُلُ الْبَقْرَةَ الْخَالِئَةَ۔

باب فِي الْحَسَدِ

۱۳۷۲: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سَلِيمَانَ بْنَ بِلَالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ۔

۱۳۷۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، أَبُو عَمْرِو سَلِيمَانَ بْنِ بِلَالٍ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَسَدُ نَيْكٌ كَامُونَ كَوَاسٍ طَرَحَ كَهَالِيَتِي يَأْكُلُ الْإِنْسَانَ كَمَا يَأْكُلُ الْبَقْرَةَ الْخَالِئَةَ۔

دَقِيقَةً كَانَتْهَا صَلَاةٌ مُسَاهِرٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَلَمَّا
 سَلَّمَ قَالَ أَبِي يَرَحْمَكَ اللَّهُ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةُ
 الْمَكْتُوبَةُ أَوْ شَيْءٌ تَنَقَّلْتَهُ قَالَ إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ
 وَإِنَّهَا لَصَّلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْطَأْتُ إِلَّا شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُشَدِّدُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَلِكُ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالذِّيَابِ وَرَهَابِيَّةٍ ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔

باب: لعنت کے بارے میں

باب فِي اللَّعْنِ

۱۳۷۴: احمد بن صالح، یحییٰ، ولید، عمران، اُمّ درداء، حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی شخص پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے اس کے جاتے ہی آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے دائیں بائیں گھومتی ہے اس کو جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر اس شخص کی طرف جاتی ہے کہ جس پر لعنت بھیجی گئی تھی اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت کہنے والے شخص کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ امام ابوداؤد درجمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروان نے بیان کیا کہ وہ (ولید بن رباح نہیں بلکہ) رباح بن ولید ہے جس کا سامع عمران سے ثابت ہے اور یحییٰ بن حسان سے اس میں وہم ہو کہ انہوں نے (نام کو اُلٹ دیا)۔

۱۳۷۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ نِمْرَانَ يَذْكُرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُعَلَّقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُعَلَّقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَمِينِنَا وَشِمَالِنَا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعِرًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعَنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَالْأُورَاقُ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ رَبَّاحُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَسَّانٍ وَهَمَ فِيهِ۔

۱۳۷۵: مسلم بن ابراہیم، ہشام، قتادہ، حسن، حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا نہ لعنت کرو اللہ کی لعنت سے نہ اس کے غصہ سے نہ دوزخ سے (یعنی کسی شخص کو اس طرح نہ کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو یا اس کا غضب نازل ہو)

۱۳۷۵: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِالنَّارِ۔

۱۳۷۶: ہارون بن زیدان کے والد ہشام، ابو حازم، زید بن اسلم، حضرت اُمّ درداء، حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لعنت بھیجنے والے نہ سفارش کریں گے نہ قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ (مفہوم حدیث یہ ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اُمت محمدیہ

۱۳۷۶: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزُّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شَفَعَاءَ

وَلَا شُهَدَاءَ۔ سے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی امت دیگر امتوں پر گواہ ہوگی)۔

خَالِصَةُ النَّبَاتِ مختصر یہ کہ ان حدیث کے ذریعہ لعنت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس چیز کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں اور ہر کسی و ناکس پر لعنت کرتے رہتے ہیں انجام کار خود ہی اس لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت ابتداء ہی سے اس پر متوجہ نہیں ہوتی اور یہ چاہتی ہے کہ ادھر ادھر سے ہو کر باہر نکل جائے مگر جب کسی طرف کوراستہ نہیں پاتی تو آخر کار اس پر متوجہ ہوتی ہے بشرطیکہ وہ اس لعنت کا سزاوار ہو اور اگر حقیقت کے اعتبار سے وہ اس لعنت کا سزاوار نہیں ہوتا تو پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر اس شخص پر واقع ہو جاتی ہے جس نے وہ لعنت کی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب تک یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص لعنت کا واقعی مستوجب ہے اس پر لعنت نہ کی جائے اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کا قابل لعنت ہونا شارع علیہ السلام کی طرف سے بتائے بغیر متعین نہیں ہو سکتا۔

۱۳۷۷: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ ح حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ الطَّائِبِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ زَيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلًا نَارَ عَنَتُهُ الرِّيحُ رَدَّاهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَنَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعُنَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ۔

۱۳۷۷: مسلم بن ابراہیم ابان (دوسری سند) زید بشر ابان بن یزید قتادہ ابو العالیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے لعنت بھیجی۔ مسلم نے بیان کیا کہ دور نبوی میں (تیز) ہوانے ایک شخص کی چادر اڑادی تو اس شخص نے ہوا پر لعنت بھیجی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا پر لعنت نہ کرو کیونکہ وہ فرمانبردار ہے اور بلاشبہ جو شخص کسی پر لعنت کرے اور وہ اس لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اس شخص پر واپس آ جاتی ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ ہوا کا کوئی تصور نہیں وہ تو اپنے پروردگار کے حکم سے ہلکی اور تیز ہوتی ہے اس لئے ہوا یا کسی شے پر لعنت بھیجا جائز نہیں)۔

خَالِصَةُ النَّبَاتِ: ”وہ تو (فرمانبردار) حکم کے تابع ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ ہوا بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور نہ کسی طرح کا تصرف کرنے کے قابل ہے وہ تو چلنے پر منجانب اللہ مامور کی گئی ہے اور حق تعالیٰ نے اپنی حکمتوں اور مصالح کے تحت اس کو پیدا کیا اور چلایا ہے بس اس کا کام چلنا ہے اور وہ چلتی ہے اس صورت میں اگر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس ہوا سے دل برداشتہ ہونا اور اس کو برا بھلا کہنا نہ صرف نہایت ناموزوں بات ہے بلکہ تقاضائے عبودیت اور استقامت کے منافی بھی ہے زمانہ کے حوادث و تغیرات اور انسان کے اپنے تابع ارادوں اور افعال کے بارے میں یہی حکم ہے کہ رنج و حادثہ کے وقت اپنے ظاہر و باطن دونوں میں قلب و زبان کو راضی و ساکت رکھے اور اگر کسی تکلیف و حادثہ کے وقت تقاضائے بشریت اپنے اندر کوئی تغیر اور دل کو متاثر پائے تو لازم ہے کہ زبان کو قابو میں رکھے کہ اس سے شکوہ و شکایت اور اظہار رنج کا کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو مرتبہ عبودیت اور اسلامی تعلیمات و آداب کے خلاف ہو۔

بَابُ فِيمَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

۱۳۷۸: حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ان کے والد سفیان حبیب عطاء حضرت عائشہ

صدقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کی کوئی شے چوری ہوگئی تو انہوں نے چور کو بددعا کرنا شروع کر دی۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا (تم بددعا کر کے) چور پر سے عذاب کم نہ کرو۔

سُقَيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَبِّحِي عَنْهُ.

باب: ناراض ہو کر اپنے بھائی سے ملاقات چھوڑنا

۱۳۷۹: عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا نہ عداوت رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے نہ پشت دکھاؤ ایک دوسرے کو اور آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی سے تین روز سے زیادہ قطع تعلق کرنا درست نہیں۔

باب فِيمَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ

۱۳۷۹: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ.

خلاصہ: ”یہجُر“ کے معنی ہیں ترک کرنا، کاٹنا اور ”تقاطع“ کے معنی بھی یہ ہیں اس اعتبار سے لفظ ”تقاطع“ معنوی طور پر لفظ تھا جری وضاحت اور اس کے بیان کے لئے ہے اور ان دونوں لفظوں سے مراد ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ سلام و کلام اور ملنا جلنا چھوڑے رکھنا، صحبت و ہم نشینی کے تعلق کو منقطع رکھنا اور اسلامی بھائی چارہ کو نظر انداز کرنا چونکہ ان امور کی ممانعت علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ بعض حالت میں اور بعض قیود کے ساتھ ان کو اختیار کرنا کوئی گناہ نہیں رکھتا۔

ترک ملاقات کی ممانعت:

مذکورہ حدیث میں پشت دکھانے کا مطلب یہ ہے یعنی ایسا نہ کرو کہ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دو اور تین دن کے اندر صلح و صفائی کر لینا ضروری ہے یعنی کسی مسلمان سے اگر ناراضگی ہو جائے تو تین دن کے اندر صلح کر لینا چاہئے لیکن اگر والد اپنی اولاد کو یا شوہر بیوی سے کسی شرعی وجہ سے قطع تعلق کر لے تو تین روز سے زیادہ بھی ضرورت کی بنا پر ترک تعلق کی گنجائش ہے۔ واضح رہے کہ اگر وجہ شرعی کی بنا پر کسی سے ترک تعلق کیا ہے تو جب تک کہ وجہ شرعی موجود ہے تو میل جول ختم کرنے کی اجازت ہے۔

۱۳۸۰: عبد اللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب، عطاء، حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لئے اپنے بھائی سے تین روز سے زیادہ گفتگو چھوڑنا درست نہیں۔ کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے پھر جائے اور وہ اس سے پھر جائے (یعنی ایک دوسرے سے دونوں کترا کر چلیں) اور ان دونوں میں وہ شخص بہتر ہے جو سلام میں پہل کرے۔

۱۳۸۰: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فِعْرَضٌ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

۱۳۸۱: عبید اللہ بن عمر احمد بن سعید ابو عامر، محمد بن ہلال ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے

۱۳۸۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْحَسِيُّ أَنَّ أَبَا عَامِرٍ

أَخْبَرَهُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْفَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ زَادَ أَحْمَدُ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَجْرَةِ۔

ارشاد فرمایا مسلمان کے لئے مسلمان بھائی کو تین روز سے زیادہ چھوڑنا درست نہیں کہ اگر تین روز گزر جائیں تو اس سے ملے اور اس کو سلام کرے پھر اگر وہ جواب دے تو دونوں شخص اجز میں حصہ دار ہو گئے اور اگر جواب نہ دے تو تمام گناہ اسی شخص پر رہا (کہ جس نے سلام کا جواب نہیں دیا) احمد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ سلام کرنے والا شخص چھوڑنے کے گناہ سے نکل گیا (یعنی اس پر اب ذمہ داری نہیں رہی)۔

خلاصۃ الباب: ”تین دن سے زیادہ“ کی قید کی بناء پر یہ سمجھا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اظہارِ خفگی کی خاطر تین دن تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا جائے تو یہ حرام نہیں ہے کیونکہ انسان کی طبیعت میں غیظ و غضب، غیرت و حمیت اور تندگی بے صبری کا جو مادہ ہے وہ بہر حال اپنا اثر ضرور ظاہر کرتا ہے اس لئے اس قدرتِ مدتِ معاف کردی گئی ہے تاکہ انسان کے ان جذبات کی بھی کچھ تسکین ہو جایا کرے اور اس تین دن کے عرصہ میں خفگی و ناراضگی اور بغض و نفرت کے جذبات بھی ختم ہو جائیں یا کم سے کم ہلکے پڑ جائیں اور صلح و صفائی ہو جائے۔

بہر حال حدیث کی مراد یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ایک جگہ رہنے سہنے اور روزمرہ کے باہمی معاملات کی وجہ سے آپس میں نزاع ہو جایا کرتا ہے اور ایک دوسرے سے کوئی شکایت پیدا ہو جانے کی وجہ سے خفگی و ناراضگی کی صورت پیش آ جاتی ہے مثلاً ایک شخص نے کسی کی غیبت کر دی۔ اس کو برا بھلا کہہ دیا اور یا اس کو اس شخص سے خیر خواہی کی امید تھی مگر اس نے خیر خواہی نہیں کی تو اس طرح کی صورتوں میں اگر آپس میں ناراضگی و خفگی ہو جائے اور ترکِ ملاقات کی آجائے تو اس خفگی اور ترکِ ملاقات کو تین دن سے زیادہ نہیں رہنے دینا چاہئے۔ ہاں اگر ترکِ موالات کسی دینی معاملہ کی وجہ سے ہو جیسے کوئی شخص خواہشاتِ نفسانی کا غلام بن گیا ہو یا کوئی شخص بدعتی ہو تو اس سے ترکِ ملاقات اس وقت تک جائز ہے۔ جب تک کہ وہ توبہ کر کے راہِ راست اختیار نہ کرے اور حق کی طرف رجوع نہ کرے۔

سیوطی نے موطا کے حاشیہ میں ابن عبدالبر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اگر میں فلاں آدمی سے سلام کروں اور اس سے ملنا جلنا رکھوں تو اس کی وجہ سے مجھے دینی یا دنیاوی نقصان برداشت کرنا پڑے گا اور میرا قیمتی وقت لایعنی امور میں ضائع ہوگا کہ وہ اس شخص سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرے لیکن یہ کنارہ کشی اور دوری اختیار کرنا مجھے انداز میں ہونا چاہئے یہ نہیں کہ اس کی غیبت کی جائے۔ اس پر عیب لگائے جائیں اور اس کے تئیں کینہ و عداوت کو ظاہر کیا جائے۔

آنحضرت ﷺ اور صحابہ کے زمانہ کے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن میں مسلمانوں کا دینی مصالح کے پیش نظر ایک دوسرے سے تین دن سے زیادہ بھی ترکِ ملاقات کئے رہنا ثابت ہے چنانچہ اعیاء العلوم میں صحابہ و غیرہ کی ایک جماعت کے بارے میں منقول ہے کہ ان میں سے بعض مرتے دم تک ترکِ ملاقات پر قائم رہے ان تین صحابہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے جو غزوہٴ تبوک میں نہیں گئے اور آنحضرت ﷺ نے ان میں نفاق کی راہ پا جانے کے خدسہ سے ان کو تمام مسلمانوں سے الگ تھلگ کر دیا

تھا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے تمام صحابہ ان تینوں کی ازواج اور ان کے عزیز و اقارب کو ان سے ترک ملاقات اور ترک سلام و کلام کا حکم دیا تھا، یہ حکم اور اس پر عمل پچاس دنوں تک جاری رہا، خود آنحضرت ﷺ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ﷺ نے ایک مہینہ تک اپنی ازواج مطہرات سے ملنا جلنا چھوڑے رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مدت تک حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا سے ترک ملاقات اختیار کر رکھی اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت بلالؓ سے ایک دینی معاملہ میں اس درجہ ناراض ہوئے کہ ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی۔ غرضیکہ ایسے بہت سے واقعات منقول ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دینی معاملات میں خنگی و ناراضگی تین دن سے زیادہ بھی جاری رکھی جاسکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صادق رکھی جائے اور اس میں کسی نفسانی خواہش اور دنیاوی غرض کا دخل نہ ہو۔

”جو سلام کے ذریعہ ابتداء کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو شخص خنگی و ناراضگی کو ختم کرنے کے لئے پہلے سلام کرے گا۔ اس کا درجہ دوسرے کے مقابلہ پر بڑا ہوگا۔ نیز اس میں اسی طرف بھی اشارہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا ترک ملاقات کے گناہ کو زائل کر دیتا ہے اور یہ کم سے کم ترک سلام کو تو ختم کر ہی دینا چاہئے تاکہ اخوة اسلامی کا یہ بنیادی حق ضائع نہ ہونے پائے۔

۱۲۸۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ يَعْنِي الْمَدَنِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِذَا لَقِيَہُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِأَنفِهِ۔

۱۲۸۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرْزَازِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ۔

۱۲۸۲: محمد بن ثنی، محمد بن خالد، عبد اللہ ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے اپنے بھائی کو تین روز سے زیادہ چھوڑنا درست نہیں پھر جب وہ اس شخص سے ملے تو وہ اس کو تین مرتبہ سلام کرے اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو تمام گناہ اسی شخص پر رہا۔

۱۲۸۳: محمد بن صباح، یزید سفیان، منصور ابو حازم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی کو تین روز سے زیادہ چھوڑنا درست نہیں۔ جس شخص نے تین روز سے زیادہ چھوڑے رکھا پھر اس کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔

۱۲۸۴: ابن سرح، ابن وہب، حیوۃ، ابو عثمان، عمران، حضرت ابو خراش سلمی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے جو آدمی اپنے بھائی کو ایک سال تک چھوڑ دے تو گویا اس نے اس کو قتل کر دیا۔

۱۲۸۴: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي عُمَانَ الْوَلِيدِيِّ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي خِرَاشِ السَّلْمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ۔

بلاوجہ شرعی ترک تعلق کرنا:

یعنی بلاوجہ شرعی ایک سال تک ترک تعلق کرنا شدید گناہ ہے اور یہ گناہ تقریباً اتنا ہی شدید ہے کہ جتنا دوسرے کو قتل کر دینا۔ واضح رہے کہ یہ فرمان نبوی بطور تمبیہ کے ہے۔

۱۴۸۵: مسدؤ ابو عوانہ سہیل، ان کے والد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کے دن کھول دیئے جاتے ہیں پھر ان دونوں دنوں میں ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا لیکن وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی سے بغض و عناد رکھتا ہو (اس کی مغفرت نہیں کی جاتی) پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو رہنے دو جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ ابوداؤد نے فرمایا ان احادیث میں وہ ترک تعلق داخل نہیں جو اللہ کے لئے ہو۔ عمر بن عبد العزیز نے اپنا چہرہ ایک شخص سے ڈھانپ لیا تھا (یعنی ان کو جس شخص سے ملنا پسند نہیں تھا اس سے انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا)۔

۱۴۸۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيَقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا كَانَتْ الْهَجْرَةُ لِلَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بَشْيءٍ وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَطَى وَجْهَهُ عَنْ رَجُلٍ-

باب: بدگمانی کرنے کے بارے میں

۱۴۸۶: عبد اللہ بن مسلمہ مالک، ابوالزناد اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ بدگمانی سے بچو اس لئے کہ بدگمانی کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور نہ خود تجسس کرو اور نہ دوسرے کو تجسس کرنے دو (یعنی تم کسی کے عیب کی ٹوہ لگاؤ اور نہ دوسرے کو اپنے عیب کی ٹوہ لگانے دو)۔

باب فِي الظَّنِّ
۱۴۸۶: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كُفْرًا وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّنُوا وَلَا تَجَسَّنُوا-

خلاصۃ الباب: اس حدیث میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کا معاشرہ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بھاؤ سے براہ راست تعلق ہے ان باتوں سے اگر اجتناب کیا جائے تو معاشرہ میں پھیلنے والی بہت سی خرابیوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ بدگمانی کو باتوں کا سب سے بدتر جھوٹ فرمایا گیا ہے چنانچہ جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا ایسا ہے اور چونکہ وہ شخص حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اس لئے اس فیصلہ کو جھوٹ ہی کہا جائے گا۔ واضح رہے کہ ”باتوں“ سے مراد وہ باتیں ہیں جو نفس پیدا کرتا ہے اور حقیقت میں وہ شیطان کی طرف سے نفس میں ڈالی جاتی ہیں۔ اسی اعتبار سے بدگمانی کو ”بدترین جھوٹ“ کہا گیا ہے یا یہ کہ اس کو ”بدترین جھوٹ“ کا نام دینا گویا اس کی برائی کو زیادہ سے زیادہ کر کے بیان کرنا مقصود ہے! قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا ہے: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌ چنانچہ ان الفاظ میں جس ظن کو گناہ قرار دیا گیا ہے اس

سے بدگمانی مراد ہے اور جیسا کہ علماء نے وضاحت کی ہے جس سے بدگمانی کے بارے میں ممانعت منقول ہے۔ اس سے وہ بدگمانی مراد ہے جو ذہن میں بیٹھ جائے اور اس پر یقین کر لیا وہ بدگمانی مراد نہیں ہے جو محض خیال کے طور پر دل میں گزر جائے اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ”بدگمانی“ گناہ گار اس وقت کرتی ہے جب کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو زبان پر لایا جائے۔ نیز بہر صورت اس بدگمانی کے موجب گناہ ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ اس بدگمانی کو قائم کرنے کے لئے کوئی معقول وجہ اور دلیل نہ ہو یا اگر بدگمانی کی بھی معقول وجہ اور دلیل ہو تو بدگمانی نہ کرنے کی بھی کوئی معقول وجہ اور دلیل ہو اور دونوں دلیلیں باہم متعارض ہوں ہاں اگر اس بدگمانی کو درست ثابت کرنے کے لئے کوئی ایسا واضح قرینہ اور معقول دلیل ہو جس کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہو تو ایسی بدگمانی پر مواخذہ نہیں ہوگا اور نہ اس کو حقیقی معنی میں ”بدگمانی“ کہیں گے۔

تجسس اور تجسس (یعنی ٹوہ اور جاسوسی) بظاہر ایک ہی مفہوم کے حامل دو الفاظ ہیں لیکن علماء نے کئی وجوہ سے ان دونوں کے درمیان فرق ظاہر کیا ہے اس سلسلے میں مختلف اقوال منقول ہیں چنانچہ صاحب قاموس نے جیم کی فصل میں لکھا ہے کہ ”تجسس“ کے معنی ہیں خبروں کی تلاش میں رہنا جیسا کہ تجسس کے معنی ہیں اور ”جاسوس“ ”وجس“ اسی سے مشتق ہیں جن کے معنی ہیں ایسی پوشیدہ خبریں رکھنے والا جو اچھی نہ ہوں۔ پھر انہوں نے حاء کی فصل میں لکھا ہے کہ ”حاسوس“ کے وہی معنی ہیں جو جاسوس کے ہیں یا یہ کہ ”حاسوس“ خاص طور پر ایسی پوشیدہ خبریں رکھنے والے کو کہتے ہیں جو اچھی ہوں۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ”تجسس“ کے معنی ہیں اچھی خبروں کو ہوشیاری اور نرمی کے ساتھ دریافت کرنا اور ”تجسس“ کے معنی ہیں ان خبروں کو قوت حاسہ کے ذریعہ دریافت کرنا جیسے کوئی شخص کسی بات کو چوری چھپے سنتا اور دیکھتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”تجسس“ کے معنی ہیں کسی شخص کی برائیوں اور عیوب کی تفتیش کرنا اور ”تجسس“ کے معنی ہیں ان برائیوں اور عیوب کو سننا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”تجسس“ کے معنی ہیں دوسروں کے لئے خبر کی ٹوہ میں رہنا اور ”تجسس“ کے معنی ہیں اپنے لئے کسی خبر کی ٹوہ لگانا اور طبیب نے یہ کہا ہے کہ اس ارشاد گرامی میں ”تجسس“ مراد ہے خود اپنے طور پر یا کسی کی مدد سے دوسرے لوگوں کے عیوب اور ان کے پوشیدہ ذاتی احوال و معاملات کی ٹوہ لگانا اور ”تجسس“ کے معنی ہیں کسی کی مدد کے بغیر خود اپنے طور پر ٹوہ لگانا! بہر حال اگر حدیث کی مراد لوگوں کے ایسے احوال و معاملات کی لگانے اور ایسی خبروں کی تلاش میں رہنے سے منع کرنا ہے جن کا تعلق عیب و برائی اور کردار و احوال کی کمزوریوں سے ہو تو اس کی ممانعت بالکل ظاہر ہے اور اگر اچھی خبر کی تلاش میں رہنے اور اچھے احوال و معاملات کی ٹوہ میں رہنے سے بھی منع کرنا مراد ہے تو اس صورت میں اس ممانعت کی وجہ یہ بیان کی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی اچھی خبر پانے کے بعد اپنے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہو جائے یا طمع و حرص جاگ اٹھے جو کوئی اچھی چیز نہیں ہے لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ کسی کی اچھی خبر کی ٹوہ میں بھی نہ رہا جائے۔

باب: خیر خواہی کرنے کا بیان

باب فِي النَّصِيحَةِ

۱۴۸۷: ربيع بن سليمان، ابن وهب، سليمان، كثير، وليد، حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مسلمان شخص دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے اور مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی

۱۴۸۷: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بَلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَلَيْهِ صَيِّغَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ۔

ہے وہ اس کا نقصان روکتا اور غائبانہ طور پر (بھی) اس کی حفاظت کرتا ہے۔

باب: تعلق درست کرانے کی فضیلت

۱۳۸۸: محمد بن علاء ابو معاویہ اعمش، عمرو سالم، امّ درداء حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم لوگوں کو وہ بات نہ بتلاؤں جو کہ درجہ کے اعتبار سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بہتر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آپ س میں صلح کرادینا آپ سی لڑائی اور اختلاف موٹ دینے والی ہے (یعنی دین کو ختم کر دینے والی ہے)

باب فی إصلاح ذات البین

۱۳۸۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ۔

۱۳۸۹: نصر بن علی سفیان زہری (دوسری سند) مسدود اسمعیل (تیسری سند) احمد بن محمد عبدالرزاق، معمر زہری، حضرت حمید بن عبدالرحمن نے اپنی والدہ ماجدہ سے روایت کیا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا کہ جس نے دو شخصوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لئے بات بنائی۔ احمد اور مسدود کی روایت میں یہ مذکور ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کرائے پھر وہ شخص نیک بات بیان کرے (یا دوسرے کی طرف سے) بات بنائے۔

۱۳۸۹: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ شُبَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُسَدَّدٌ لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا۔

۱۳۹۰: ربیع بن سلیمان ابوالاسود نافع، ابن الہادی، ابو ہاشم ابن شہاب، حضرت حمید بن عبدالرحمن اپنی والدہ حضرت امّ کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا لیکن تین مواقع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس آدمی کو جھوٹا نہیں سمجھتا جو کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے بات بنا کر کہے جس سے میل جول کرانا منظور ہو یا لڑائی کے دوران کوئی بات بنا کر بیان کرے یا شوہر اپنی بیوی سے کہے یا بیوی اپنے شوہر سے کہے۔

۱۳۹۰: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِزْيِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ نَافِعِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِي أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كَلثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْحُصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُذْبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا

الإِصْلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ
يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

تور یہ اور جھوٹ:

مطلب یہ ہے کہ صاف طور پر جھوٹ بول دینا تو کسی طرح بھی جائز نہیں البتہ ایسے الفاظ میں بات کہہ دے کہ جس سے بات واقعت کے خلاف بھی نہ ہو لیکن سننے والا شخص اس کے ظاہری مفہوم سے دوسرے معنی سمجھے ایسا طریقہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے جائز ہے شریعت میں اس کو تور یہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

باب: گانے سے متعلق

۱۳۹۱: مسدّد بشر خالد بن ذکوان کہتے ہیں کہ ربیع بنت معوذ بنت عفرّاء فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی تشریف لائے اس شب کی صبح کو جس شب میں میں اپنے شوہر کے پاس رہی (یعنی میری شادی کی صبح کو آپ میرے پاس تشریف لائے) تو آپ میرے بستر پر جس طریقہ سے تم بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھ گئے۔ پھر ہمارے یہاں کی لڑکیوں نے ڈھول بجانا اور گانا شروع کر دیا وہ ہمارا باپ دادا جو کہ غزوہ بدر میں قتل کر دیئے گئے تھے انکے بارے میں بیان کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کہنے لگی کہ ہم میں ایک اللہ کے رسول ہیں جو کہ آئندہ کی بات سے واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھیں۔

باب فِي الْغِنَاءِ

۱۳۹۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ صَبِيحَةَ بَنِي بِي فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جَوَابِيَّاتٍ يَضْرِبُنَّ بَدَنًا لَهْنًا وَيَنْدُبُنَّ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ فَقَالَ دَعِيَ هَذِهِ وَقَوْلِي الَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ.

شادی میں دف کا استعمال:

مذکورہ حدیث سے شادی میں دف بجانے کی گنجائش ثابت ہوتی ہے لیکن اس سے وہ دف مراد ہے کہ جس کی آواز میں گانے کی طرح آثار چڑھاؤ نہ ہو اور نکاح کے اعلان کے لئے معمولی طور پر دف بجایا جائے اور یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے جس کی مکمل بحث بوادر النوادر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل طور پر فرمائی ہے۔

۱۳۹۲: حسن بن علی، عبدالرزاق، معمر ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حبشی لوگ آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں اپنے نیزے لے کر کھیلے۔

۱۳۹۲: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَعَبَتْ الْحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحَرَابِهِمْ.

باب: گانے بجانے کی ممانعت کا بیان

۱۳۹۳: احمد بن عبد اللہ ولید بن مسلم، سعید سلیمان، حضرت نافع سے

باب كَرَاهِيَةِ الْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ

۱۳۹۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَّانِيُّ

روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک باجے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور راستہ سے دور ہو گئے (تاکہ گانے کی آواز نہ سن سکیں) اور مجھ سے فرمایا اے نافع اب تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے انگلیاں کانوں سے نکال لیں اور فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ ﷺ کو بھی ایسی آواز آئی اور آپ ﷺ نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے۔

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ مِرْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعِيهِ عَلَى أُذُنِيهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعِيهِ مِنْ أُذُنِيهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعْتُ مِثْلَ هَذَا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللَّوْلُؤِيُّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ۔

باب: میہجروں کے بارے میں

۱۳۹۳: ہارون بن عبد اللہ محمد بن علاء ابو اسامہ، مفضل اوزاعی ابو یسار ابو ہاشم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک میہجرا (یعنی مخنث) لایا گیا جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگ لئے تھے آپ نے فرمایا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ سے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے حکم فرمایا اور اسے شخص کو (مقام) نقیع کی طرف نکال دیا گیا (یعنی اس کو شہر بدر کر دیا گیا) لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس شخص کو قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا مجھے نمازی لوگوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا گیا ہے ابو اسامہ نے کہا نقیع مدینہ منورہ سے باہر ایک مقام کا نام ہے اور یہ نقیع نہیں ہے۔

بَابُ فِي الْحُكْمِ فِي الْمُخَنَّثِينَ
۱۳۹۳: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ مَفْضَلِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي يَسَارِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَصَبَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِجَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ هَذَا قَبِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالنَّقِيعِ۔

۱۳۹۵: ابو بکر بن ابی شیبہ وکیع ہشام ان کے والد عروہ زہب، ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایک میہجرا بیٹھا ہوا تھا وہ ان کے بھائی عبد اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کل (شہر) طائف کو فتح فرمادیں گے تو میں تم کو ایک عورت بتلاؤں گا کہ جب وہ عورت سامنے آتی ہے تو چار تہیں لے کر سامنے آتی ہے اور جس وقت وہ پشت پھیرتی ہے تو وہ آٹھ تہیں لے کر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان میہجروں کو اپنے گھروں سے نکال دو (اسلئے کہ وہ عورتوں کی اچھائی برائی سے واقف ہیں اور انکو عورتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے)۔

۱۳۹۵: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنَّثٌ وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ أَحِبِّهَا إِنْ يَفْتَحُ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تَقْبَلُ بَارِبِعَ وَتُدْبِرُ بِخَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ۔

۱۳۹۶: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ شَيْخٍ شَهِدَ أَبَا وَائِلٍ فِي رَيْمَةَ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعَّبُونَ يَغْنُونُ فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْغِنَاءُ يَنْبِتُ الْبَغَاءَ فِي الْقَلْبِ۔

۱۳۹۷: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخَنِّيِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُعْتَرِجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْنِي الْمُخَنِّيِينَ۔

خلاصۃ الباب: مُخَنَّتٌ یَا مُخَنَّتٌ (زیادہ صحیح مُخَنَّتٌ ہی ہے) اصل ”خنث“ ہے جس کے لغوی معنی نرمی اور شستگی کے ہیں۔ خنث اس مرد کو کہتے ہیں جو عورتوں کا سال لباس پہنے عورتوں کی طرح ہاتھ پیروں کو مہندی کے ذریعہ رنگین کرنے بات چیت میں عورتوں کا لب و لہجہ اختیار کرے اور اسی طرح جملہ حرکات و سکنات میں عورتوں کا انداز اپنائے ایسے مرد کو ہماری بول چال میں بھجرو یا زنانہ بھی کہا جاتا ہے۔ خنث دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو خلقی کہ ان کے اعضاء جسم اور انداز میں خلقی اور جبلی طور پر عورتوں کی سی نرمی و لچک ہوتی ہے، گویا ان میں قدرتی طور پر عورتوں کے اوصاف و عادات ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بعض مرد اگرچہ اپنے اعضاء جسم اور خلقت و جبلت کے اعتبار سے مکمل مرد ہوتے ہیں مگر جان بوجھ کر اپنے کو عورت بنانا چاہتے ہیں چنانچہ وہ بات چیت کے انداز اور رہن سہن کے طور طریقوں میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنے فوطے اور عضو تناسل کٹوا کر نامرد بھی بن جاتے ہیں۔ مخنثوں کی اسی قسم کے حق میں لعنت و مذمت فرمائی گئی ہے۔ اس کے برخلاف پہلی قسم اس لعنت سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ تو معذوری کی شکل ہے اس میں اپنے قصد و ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے جو اپنے آپ کو وضع قطع رہن سہن اور لباس وغیرہ میں مردوں کے مشابہ بناتی ہیں۔ شرعہ الاسلام کی شرح میں لکھا ہے کہ مہندی لگانا عورتوں کے لئے تو مسنون ہے اور مردوں کے لئے بلا عذر لگانا مکروہ ہے کیونکہ اس میں عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اس قول سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے مہندی سے بالکل عاری رہنا مکروہ ہے کیونکہ اس صورت میں اس کی مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

باب: گڑیوں سے کھیلنے کا بیان

۱۳۹۸: مسدّدٌ ہشام بن عروہ ان کے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی تو بعض مرتبہ آنحضرت ﷺ میرے پاس تشریف لاتے اور لڑکیاں بیٹھی ہوتیں

باب فی اللّعبِ بالنّباتِ

۱۳۹۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَرَبَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ

جب آپ تشریف لاتے تو وہ لڑکیاں چلی جاتیں اور جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ لڑکیاں آجاتیں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي الْجَوَارِي فِإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ وَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَ۔

۱۳۹۹: محمد بن عوف، سعید بن ابی مریم، یحییٰ بن ایوب، عمارہ محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے اور میرے گھر کے طاق پر پردہ پڑا تھا (اس میں گڑیاں رکھی تھیں) ہوا جو چلی تو پردہ کا ایک کونا ہوا سے اڑ گیا اور میرے کھیلنے کی گڑیاں نظر آنے لگیں۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا تھا جس کے دونوں پر کپڑے کے تھے آپ نے فرمایا یہ گڑیوں کے درمیان مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کے اوپر یہ کیا لگے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا اس پر پردہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا گھوڑے کے بھی پردے ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے یہ بات سن کر آنحضرت ﷺ ہنس دیئے یہاں تک کہ آپ کے مبارک داڑھیں کھل گئیں۔

۱۳۹۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةَ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَالَتْ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أُجْنِحَةُ قَالَتْ فَضَحِكْتُ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ۔

خلاصہ: یوں تو ہر طرح کی تصویر اور صورت بنانا ناجائز ہے تاہم اکثر علماء نے لڑکیوں کے لئے گڑیوں کو مستثنیٰ رکھا ہے یعنی ان کے نزدیک لڑکیوں کے حق میں گڑیاں بنانا مباح ہے لیکن امام مالک نے مردوں کو ان کا خریدنا مکروہ قرار دیا ہے اور بعض علماء نے مذکورہ اباحت کو منسوخ قرار دیا ہے۔

باب: جھولے کے بارے میں

۱۵۰۰: موسیٰ بن اسماعیل، حماد ہشام، عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے اور میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی میرے بال چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ مجھے لے گئیں اور مجھے سنوار کر خدمت نبوی میں لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جماع کیا۔ اس وقت میں نو سال کی تھی۔

باب فی الأرجوحة

۱۵۰۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَعٍ أَوْ سَيْتٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنِ نِسْوَةَ وَقَالَ بَشْرٌ فَاتَنِي أُمُّ رُوْمَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوْحَةٍ فَذَهَبَ بِي وَهَيَّأَنِي وَصَنَعَنِي فَاتَى بِي رَسُولُ

اللَّهِ ﷻ فَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ۔

۱۵۰۱: بشر بن خالد ابو اسامہ ہشام بن عروہ سے یہی روایت بیان کی گئی ہے کہ میں ایک جھولے پر تھی اور میرے ہمراہ سہیلیاں تھیں وہ مجھے ایک کوٹھری میں لے گئیں وہاں پر انصار کی کچھ خواتین تھیں انہوں نے کہا آؤ خیر و برکت کے ساتھ۔ (یعنی مبارک ہو)

۱۵۰۱: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ وَأَنَا عَلَى الْأَرْجُوْحَةِ وَمَعِيَ صَوَاحِبَاتِي فَأَدْخَلْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ۔

۱۵۰۲: عبید اللہ بن معاذ ان کے والد محمد بن عمرو یحییٰ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم جب مدینہ منورہ آئے اور قبیلہ بنی حارث بنی خزرج کے پاس ٹھہرے تو اللہ کی قسم میں اس وقت جھولے پر تھی تو میری والدہ صاحبہ تشریف لائیں اور انہوں نے مجھے اتارا۔ اس وقت میرے سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے پھر راوی نے حدیث کو اخیر تک بیان کیا۔

۱۵۰۲: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَتَرَكْنَا فِي بَيْتِي الْحَارِثُ بْنُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَعَلَى أَرْجُوْحَةٍ بَيْنَ عِدْقَيْنِ فَجَاءَتْنِي أُمِّي فَأَنْزَلَتْنِي وَلِي جُمَيْمَةٌ وَسَاقِ الْحَدِيثِ۔

باب: شطرنج کھیلنے کی ممانعت کا بیان

۱۵۰۳: عبد اللہ بن مسلمہ مالک موسیٰ سعید حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی شطرنج کھیلے اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

باب فی التَّهْيِ عَنْ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

۱۵۰۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

۱۵۰۴: مسدّد یحییٰ سفیان علقمہ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی شطرنج کھیلے (تو وہ شخص ایسا ہے کہ) گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔

۱۵۰۴: حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَبِيهُ لَكَائِمًا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ۔

شطرنج کھیلنا:

مطلب یہ ہے کہ شطرنج کھیلنا ایسا ہے کہ جیسے خنزیر کے گوشت میں ہاتھ ڈالنا ابن ماجہ شریف کی حدیث میں شطرنج کو نردِ شیبور سے تعبیر فرمایا گیا ہے بہر حال شطرنج کھیلنے کی سخت ممانعت بیان فرمائی گئی ہے۔ حنفیہ شطرنج کھیلنے کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔

خَلَاصَةُ النَّبَاتِ: ایک اور روایت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الشَّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسَرُ الْأَعَاجِمِ۔

”اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے ”شطرنج عجمی لوگوں یعنی غیر مسلم قوموں کا جو ہے“۔ مطلب یہ

ہے کہ غیر مسلم قوموں کے لوگ شطرنج کے ذریعہ حقیقتاً جو اھیلتے ہیں یا شطرنج کھیلنا صورتہ ان کے جوئے کی مشابہت رکھتا ہے اور ان کی ہر طرح کی مشابہت اختیار کرنا ممنوع ہے۔

ہدایہ میں لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی ”جس شخص نے شطرنج یا زرد شیر کھیلنا اس نے گویا سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا“ کی بنیاد پر زرد شیر اور شطرنج کھیلنا مکروہ تحریمی ہے۔ جامع صغیر میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ شطرنج کھیلنے والا ملعون ہے اور جس شخص نے دلچسپی کے ورغبت کے ساتھ شطرنج کی طرف دیکھا گویا اس نے سور کا گوشت کھایا اور بعض کتابوں میں جو یہ نقل کیا گیا ہے کہ امام شافعی نے شطرنج کے کھیل کو کچھ شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے تو نصاب الاحساب میں امام غزالی سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک بھی یہ کھیل مکروہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ شافعی پہلے اس کے جواز کے قائل رہے ہوں گے لیکن پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا۔ درمختار وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کے سب کھیل مکروہ ہیں۔

باب: کبوتر بازی کا بیان

بَاب فِي اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

۱۵۰۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانًا

۱۵۰۵: موسیٰ بن اسماعیل، حماد بن محمد بن عمرو، ابوسلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا جو کبوتر کا پیچھا کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا (یہ شخص) شیطان ہے جو شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔

کبوتر بازی کرنا:

مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کھیل یا تفریح جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے وہ منع ہے کبوتر بازی میں بھی انسان یا والدی سے غافل ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور مذکورہ حدیث میں کبوتر کے پیچھے اس شخص کو دیکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو کبوتر اڑاتے ہوئے دیکھا۔ بہر حال کبوتر پالنا وحشت دور کرنے اور خوش طبعی کے لئے اگرچہ درست ہے لیکن کبوتر بازی اور کبوتر اڑانا منع ہے اور اس پر شرط لگانا حرام ہے۔ رسالہ احکام القمار میں حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جائز اور ناجائز کھیل کی تفصیلی بحث بیان فرمائی ہے اس بارے میں رسالہ کھیل کود کے شرعی احکام مصنفہ مفتی محمود اشرف بھی لائق دید ہے۔

خلاصۃً الباب: اس شخص کو شیطان اس لئے فرمایا ہے کہ وہ حق سے بعد اختیار کئے ہوئے تھا اور لایعنی و بے مقصد کام میں مشغول تھا اور ان کبوتروں کو اس بنا پر شیطان فرمایا کہ انہوں نے اس شخص کو بازی اور لہو و لعب میں مشغول کر کے ذکر الہی اور دین و دنیا کے دوسرے کاموں سے باز رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبوتر بازی حرام ہے اور نوٹی نے لکھا ہے کہ انڈے سے بچے حاصل کرنے کے لئے دل کو بہلانے کی خاطر اور نامہ بری کے مقصد سے کبوتروں کو پالنا بلا کراہت جائز ہے، لیکن ان کو اڑانا مکروہ ہے۔

باب: شفقت کرنا

بَاب فِي الرَّحْمَةِ

۱۵۰۶: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمَسَدَّدُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي

۱۵۰۶: مسدد ابو بکر بن ابی شیبہ سفیان، عمر حضرت ابوقاوس مولیٰ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ

قَابُوسَ مَوْلَى لَعْبِدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ بِرَحْمَتِهِمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يُرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ لَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ -

رحم کرنے کا مطلب:

مطلب یہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ تم اوپر رحم کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے جو شخص اپنے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

۱۵۰۷: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا وَ حَدَّثَنَا ابْنُ كَيْبَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ قَالَ ابْنُ كَيْبَرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأْتَهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَقُولُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ فَقَالَ إِذَا قَرَأْتَهُ عَلَيَّ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ أَبِي عَثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمُضَلِقَ ﷺ صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُولُ لَا تَنْزِعِ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ -

۱۵۰۸: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرُودُهُ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُرْحَمْ صَغِيرًا وَيَعْرِفَ حَقَّ كِبِيرًا فَلَيْسَ مِنَّا -

نصیحت کے بارے میں:

لفظ نصیحت کے مختلف معنی ہیں حدیث مذکور میں نصیحت کے معنی خلوص کے ہیں ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے ”الدين النصيحة“ یعنی دین نصیحت ہے اور نصیحت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور اللہ کی مخلوق اور حکام سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیحت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تمام اعمال صالحہ اس کی رضا مندی کے لئے کرے اور مسلمانوں کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے یعنی اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکے اور مسلمان

حکام کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ نیک کاموں میں ان کی فرمانبرداری کرے اور بلاوجہ شرعی ان کی نافرمانی نہ کرے اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرے اور آپ کے احکام کی فرمانبرداری کرے اور آپ نے جن امور سے منع فرمایا ہے اس سے باز آجائے۔

۱۵۰۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سَهْلِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قَالَوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَإِئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ أَوْ أئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔

۱۵۰۹: احمد بن یونس زہیر سہیل عطاء حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے۔ خیرخواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کس کس کے ساتھ یا رسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے امراء اور حکام کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔

باب: خیرخواہی کے بارے میں

باب فی النَّصِيحَةِ

۱۵۱۰: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ وَكَانَ إِذَا بَاعَ الشَّيْءَ أَوْ اشْتَرَاهُ قَالَ أَمَا إِنَّ الَّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ فَاخْتَرْ۔

۱۵۱۰: عمرو بن عون خالد یونس عمرو بن سعید حضرت ابو زرعہ بن عمرو بن جریر حضرت جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنے اور فرمانبرداری پر بیعت کی (یعنی آپ جس بات کا حکم فرمائیں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے) اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی پر (بیعت کی) حضرت جریر جب کوئی شے فروخت کرتے یا خریدتے تو یہ فرماتے کہ بھائی صاحب ہم تم سے جو شے لے رہے ہیں وہ ہمیں اس چیز سے زیادہ پسند ہے جو تمہیں دے رہے ہیں اب تم کو اختیار ہے۔

خلاصۃ الباب: خیرخواہی پر بیعت..... کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ ہر حالت میں ایک دوسرے کے خیر خواہ و ہمدرد رہیں جو مسلمان سامنے ہے اس کے ساتھ بھی خیرخواہی کی جائے اور جو نظروں سے دور ہے اس کے ساتھ بھی خیرخواہی کریں یہ طرز عمل اختیار نہ کرنا چاہئے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے آئیں تو اس کے ساتھ تملق یعنی خوشامد چالوکی کا رویہ اپنائیں اور جب وہ سامنے نہ ہو تو غیبت کریں یہ خالص منافقانہ رویہ ہے اور منافقوں کی خاصیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے آنحضرت ﷺ سے اس بات پر بیعت کی کہ میں ہر ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں گا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔

باب: مسلمانوں سے تعاون کرنا

باب فی الْمَعُونَةِ لِلْمُسْلِمِ

۱۵۱۱: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ۱۵۱۱: ابوبکر عثمان بن ابی شیبہ ابو معاویہ جریر (دوسری سند) واصل

اسباط اعمش ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان سے کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے قیامت کی تکلیف دور کرے گا اور جو شخص کسی نادار شخص پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا دنیا اور آخرت میں عیب چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہے گا۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عثمان نے (حدیث کی سند میں) ابومعاویہ رضی اللہ عنہ کو اور (حدیث شریف کے متن میں) وَمَنْ يَسِّرْ عَلَيَّ مُعْسِرٍ کے الفاظ بیان نہیں کئے۔

الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عُمَانُ وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ ح وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ عُمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَيَّ مُعْسِرٍ۔

۱۵۱۲: محمد بن کثیر سفیان، ابومعاویہ ربیع، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر ایک نیک کام صدقہ ہے۔

۱۵۱۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جِرَاشٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيِّكُمْ ﷺ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ۔

خلاصۃ الباب: اسی کے اجر کے بارے میں ارشاد بانی ہے:

مَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

”جس نے نیک کام کیا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان رکھتا ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔“

باب: نام تبدیل کرنا

۱۵۱۳: عمرو بن عون (دوسری سند) مسد، ہشیم، داؤد عبد اللہ، حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ قیامت میں اپنے ناموں اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں سے بلائے جاؤ گے تو تم لوگ اچھے نام رکھا کرو۔

باب فی تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

۱۵۱۳: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكْرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَائِكُمْ۔

۱۵۱۴: ابراہیم، عباد عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمام

۱۵۱۴: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سِبْلَانَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ

عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ۔

۱۵۱۵: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطَّلَقَانِيِّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَيْبٍ عَنْ أَبِي وَهَبِ الْجُسَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَوَمْرَةٌ۔

۱۵۱۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَهَبَتْ بَعْدُ اللَّهُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِبَائَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَتَارَلْتُهُ تَمْرَاتٍ فَالْقَاهَنَّ فِي فِيهِ فَلَاكَهَنَّ ثُمَّ فَعَرَّ فَاهُ فَأَوْجَرَهَنَّ يَبَاهُ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ وَسَمَاءُ عَبْدُ اللَّهِ۔

۱۵۱۶: موسیٰ بن اسماعیل، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن ابی طلحہ کو ان کی پیدائش کے وقت خدمت نبوی میں لے گیا اس وقت آپ ایک عبا پہنے ہوئے اپنے اونٹ کو دو الگا رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کھجور ہے میں نے عرض کی جی ہاں پھر میں نے چند کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ نے ان کو اپنے منہ میں ڈال لیا اور ان کو چبا کر بچکا منہ کھولا اور ان کو اس بچہ کے منہ میں ڈال دیا۔ بچہ اپنی زبان چلانے لگا تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کھجور انصار کی جان ہے۔ پھر آپ نے اس لڑکے کا نام عبد اللہ رکھا۔

خلاصۃ الباب: بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس ارشاد گرامی سے مراد ہے کہ یہ دونوں نام عبد اللہ اور عبد الرحمن انبیاء کے ناموں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ دونوں نام اسم محمد سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں بلکہ پسندیدگی میں ان دونوں کا درجہ یا تو اسم محمد کے درجہ سے کم ہے یا برابر ہے۔

باب: برے نام کو تبدیل کر لینا چاہئے

۱۵۱۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالََا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةٌ۔

۱۵۱۷: احمد بن حنبل، مسدد، یحییٰ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عاصیہ کا نام تبدیل فرما دیا اور ارشاد فرمایا تم تو جمیلہ ہو۔

خلاصۃ البیان: عربی زبان میں عاصیہ کے معنی گناہ کرنے والی کے ہیں یہ نام ایک برانام تھا۔ اس وجہ سے آپ نے اس نام کو تبدیل فرما کر ان کا نام جمیلہ تجویز فرمایا لفظ جمیلہ سے بنا ہے جس کے معنی خوبصورت کے ہیں ایسا نام عورتوں کے لئے ایک اچھا نام ہے اور یہ عاصیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کا نام عاصی یا عاصیہ رکھتے تھے اس کے لفظی معنی نافرمان، سرکش، متکبر اور خدا اور اس کے دین کا مخالف ہیں چنانچہ زمانہ اسلام کے ظہور کے بعد آنحضرت ﷺ نے اس طرح کے نام رکھنے کو ناپسند فرمایا اور جس کسی کا نام عاصی یا عاصیہ تھا اس کو بدل کر دوسرا نام رکھ دیا اس سے معلوم ہوا کہ برے ناموں کو بدل دینا مستحب ہے۔

۱۵۱۸: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَتْهُ مَا سُمِّيتِ ابْنَتَكَ قَالَ سَمَّيْتُهَا مَرَّةً فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الْإِسْمِ سُمِّيتُ بَرَّةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالَ مَا نَسَّيْتُهَا قَالَ سَمَّوْهَا زَيْنَبَ.

۱۵۱۸: عیسیٰ بن حماد کی روایت ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے اپنی صاحبزادی کا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا برہ (یعنی نیک بخت نام رکھا ہے) تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو پاک باز نہ ہو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم ہے کہ تم میں سے کون نیک بخت ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔

۱۵۱۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيِّ أَنَّ رَجُلًا يَقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفْرِ الْكَلْبَيْنِ اتَّوَأ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا اسْمُكَ قَالَ أَنَا أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتِ زُرْعَةُ.

۱۵۱۹: مسدد بشر بن یحییٰ ان کے چچا حضرت أسامہ بن اخدری سے روایت ہے کہ ایک شخص کا نام ان شخصوں میں سے جو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے احرم تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا احرم (یعنی کاٹ دینے والا) آپ نے ارشاد فرمایا نہیں تم زرعه ہو (زرعه کے معنی کھیتی اگانے والے کے ہیں)

خلاصۃ البیان: ”اصرم“ صرم سے مشتق ہے جس کے معنی قطع و برید کرنا، ترک سلام و کلام کرنا اور درخت کا ٹٹا ہن ان معنی کی مناسبت سے آپ ﷺ نے اصرم نام کو ناپسند فرمایا اور اس کے بجائے مذکورہ نام رکھ دیا یہ لفظ زراعت سے ماخوذ ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے جو دو سخاوت اور خیر و برکت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

اس حدیث سے قبل اور بعد میں آنے والی احادیث میں امام ابوداؤد نے آنحضرت ﷺ کی طرف سے جن ناموں کے بدلے جانے کا ذکر کیا ہے ان میں عاصی کا مخفف ہے یہ نام لفظی مفہوم کے اعتبار سے عصیان و سرکشی عدم اطاعت اور نافرمانی پر دلالت کرتا ہے جب کہ مؤمن کی خصوصیت اطاعت و فرمانبرداری ہے اس لئے کسی مؤمن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ عاصی یا عاصیہ نام رکھے۔

عزیز چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم پاک ہے اس لئے عبدالعزیز نام رکھنا تو مناسب ہے لیکن صرف ”عزیز“ نام غیر موزوں ہے۔ علاوہ ازیں یہ لفظ غلبہ و قوت عزت اور زور آوری پر دلالت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے جب کہ بندے کی

شان ذلت و انکساری، حضور اور فروتنی ہے۔ اسی طرح حمید نام رکھنا بھی غیر مناسب ہے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات میں سے ایک اسم ہے اور بطریق مبالغہ اس کی ایک صفت ہے اس اعتبار سے کسی شخص کا نام عبدالحمید موزوں ہے کریم وغیرہ کو بھی اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

”عتلہ“ نام کو بھی آپ ﷺ نے اس لئے ناپسند فرمایا کہ اس میں غلظت و شدت اور سختی کے معنی نکلتے ہیں جب کہ مؤمن کو نرم و ملاہمت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔

شیطان نام رکھنا نہ صرف اس ذات کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے بلکہ اس کے لفظی مفہوم کے اعتبار سے بھی نہایت غیر موزوں ہے کیونکہ لفظ شیطان یا تو ”عیط“ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں جل جانا ہلاک ہو جانا یا ”شطن“ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں خدا کی رحمت سے دور ہونا۔

”حکم“ حاکم کا مبالغہ ہے اور حقیقی حاکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ بس اسی کا حکم قابل نفاذ بھی ہے اور لائق اطاعت بھی اس اعتبار سے حکم نام بھی غیر موزوں ہے اور جب آنحضرت ﷺ نے ابوالحکم کی کنیت کو پسند نہیں فرمایا جیسا کہ پیچھے روایت گزری ہے تو حکم نام کا تغیر بطریق اولیٰ مناسب ہے۔

غراب نام کی ناپسندیدگی کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ غراب کوے کو کہتے ہیں جو جانوروں میں پلید جانور ہے وہ مردار اور نجاست کھاتا ہے دوسرے یہ کہ اس کے معنی دوری کے ہیں۔

۱۵۲۰: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ بَرِيدٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُقَدَّمِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكُونُونَ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اُخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ اتَّوَنَى فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كَمَا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ۔

۱۵۲۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

۱۵۲۰: ربیع، یزید ان کے والد ان کے دادا، حضرت شریح، اپنے والد ہانی سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ خدمت نبوی میں اپنی قوم کے ساتھ حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ ان کو ابو الحکم کے نام سے پکارتے ہیں آپ نے ان کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ حکم تو (صرف) اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے تمہارا نام ابوالحکم کس وجہ سے ہے؟ اس شخص نے عرض کیا میری قوم کے لوگ جب کسی معاملہ میں اختلاف کرتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں میں اس معاملہ کا اس طرح فیصلہ کرتا ہوں کہ فریقین رضامند ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا عمدہ بات ہے؟ پھر دریافت فرمایا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے عرض کیا شریح، مسلم، عبد اللہ۔ آپ نے فرمایا ان تمام میں بڑا بیٹا کون ہے؟ میں نے عرض کیا شریح، آپ نے فرمایا بس تم ابو شریح ہو۔

اپنے والد اور وہ ان کے دادا احزن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

کہ آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے عرض کیا: حزن۔ آپ نے فرمایا تم سہل ہو۔ اس شخص نے عرض کیا سہل کو تو لوگ (پاؤں) میں روند دیتے ہیں اور رسوا کرتے ہیں۔ سعید نے بیان کیا میں سمجھا کہ ہم لوگوں کے خاندان میں کچھ شدت اور تکلیف پیش آنے والی ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عاص، عزیز، حتلہ، شیطان، حکم، غراب، حباب، شہاب کا نام تبدیل فرما دیئے اور آپ نے شہاب کا نام (تبدیل فرما کر) ہشام نام رکھ دیا اور حرب (نام تبدیل فرما کر) سلم نام رکھ دیا اور مفضطج کے بدلہ مبعث نام رکھ دیا اور جس زمین کا نام عفرہ تھا آپ نے اس نام کو تبدیل فرما کر خضرہ نام رکھ دیا اور شعب الصلالہ کا نام شعب الہدی رکھا اور بنو الریبہ کا نام بنو رشدہ رکھا اور ابنی مغویہ کا نام بنی رشدہ تجویز فرمایا۔ امام ابوداؤد نے فرمایا میں نے ان ناموں کی تبدیلی کی اسناد بوجہ اختصار بیان نہیں کیں۔

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا السَّهْلُ يُوْطَأُ وَيُمْتَهَنُ قَالَ سَعِيدٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ حَزُونَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيرٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانَ وَالْحَكَمَ وَغُرَابٍ وَحَبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا وَسَمَّى حَرْبًا سَلْمًا وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ الْمُنْبِعَثَ وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفْرَةَ سَمَّاهَا خَضِرَةَ وَشَعْبَ الصَّلَالَةِ سَمَّاهُ شَعْبَ الْهَدَى وَبَنُو الزُّبَيْدِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرَّشْدَةِ وَسَمَّى بَنِي مَغْوِيَةَ بَنِي رِشْدَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلِاخْتِصَارِ۔

درست اور غیر درست نام:

مذکورہ حدیث میں بعض ایسے نام مذکور ہیں کہ جن سے کسی کو موسوم کرنا درست نہیں۔ حزن و شوارگز اور سخت زمین کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے بجائے سہل نام تجویز فرمایا۔ سہل کے معنی آسانی کے بھی ہیں اور نرم اور عمدہ زمین کو بھی سہل کہا جاتا ہے اور عاص کے معنی نافرمان اور گنہگار کے ہیں اور عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس لئے اس نام سے منع فرمایا البتہ عبدالعزیز نام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حتلہ کے معنی شدت اور سختی کے ہیں اور غراب کونے کو کہتے ہیں اور اس کے معنی ڈوری کے بھی ہیں اور حباب شیطان کا دوسرا نام ہے اور شہاب شیطان کو مار بھگانے کے لئے ایک شعلہ ہے حرب کے معنی لڑائی جنگ کے ہیں آپ نے اس کے بدلے سلم نام رکھا اس کے معنی صلح کے ہیں اور مفضطج کے معنی لیٹنے والے کے ہیں اور مبعث کے معنی اٹھنے والا ہیں۔ عفرہ بجز زمین کو کہتے ہیں اور خضرہ سرسبز و شاداب کو۔

۱۵۲۲: ابوبکر بن ابی شیبہ ہاشم ابو عقیل مجالد سعید شععی حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے دریافت فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے عرض کیا مسروق بن الابدع۔ انہوں نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے ابدع شیطان کا نام ہے۔

۱۵۲۲: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْاَجْدَعِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْاَجْدَعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْاَجْدَعُ شَيْطَانٌ۔

۱۵۲۳: نقیلی، زہیر، منصور، بلال، ربیع، حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے غلام کا نام رباح نہ رکھو اور نہ ہی بیسار نام رکھو اور نہ فتح اور نہ اُفْلَح نام رکھو کیونکہ جب تم معلوم کرو گے کیا (وہ) وہاں ہے؟ پھر دوسرا شخص کہے گا نہیں ہے۔ سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ صرف چار نام ہیں اب مجھ پر زیادہ کی تہمت نہ لگاؤ۔

تشریح: رباح کے معنی نفع کے ہیں اور بیسار کے معنی مالداری، فتح کے معنی نجات، اُفْلَح کا میابی۔ آپ نے ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا۔ کیونکہ جب ان میں سے کسی کے متعلق دریافت کیا جائے اور کوئی جواب دے کہ وہ یہاں نہیں ہے تو دریافت کرنے والا بدنامی کا شکار ہو سکتا ہے اور بدنامی سے تو ہم پرستی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

۱۵۲۴: احمد بن حنبل، معتمر، رکیبن، ان کے والد، حضرت سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں کو اپنے غلاموں کا چار ناموں میں سے نام رکھنے سے منع فرمایا۔ (وہ نام یہ ہیں) اُفْلَح، بیسار، نافع، رباح۔

۱۵۲۵: ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبید، عمش، ابوسفیان، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں ان شاء اللہ اپنی امت کو منع کروں گا نافع اور اُفْلَح اور برکت نام رکھنے سے، عمش نے بیان کیا مجھ کو یاد نہیں ہے کہ ابوسفیان نے نافع بھی بیان کیا یا نہیں؟ کیونکہ ایک آدمی معلوم کرتا ہے کہ اس جگہ برکت ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے (اس لئے یہ ایک بری فال ہوتی) امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابوزبیر نے جابر سے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے لیکن اس میں لفظ برکت کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۵۲۶: احمد بن حنبل، سفیان، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے نام والا وہ شخص ہوگا جس کو لوگ (دنیا میں) بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہوں گے۔ (حالانکہ شہنشاہ تو اللہ تعالیٰ ہیں) امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو شعیب نے ابو الزناد سے اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس میں اُفْلَح کے بجائے

۱۵۲۳: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَنْتُمْ هُوَ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلَا تَرِيدَنَّ عَلَيَّ -

۱۵۲۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَبَاحًا -

۱۵۲۵: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ عَشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُى أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَتَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ وَلَا أَدْرِي ذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَنْتُمْ بَرَكَتَةَ فَيَقُولُونَ لَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ بَرَكَتَةَ -

۱۵۲۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْنَعُ اسْمٌ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسْمَى مَلِكَ الْأَمْلَاقِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِإِسْنَادِهِ

قَالَ أَحْتَى اسْمُ-

اختاسم ہے۔

بَاب فِي الْأَلْقَابِ

باب: برے القاب

۱۵۲۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَبْرِةَ بْنُ الصَّحَّاحِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي بَنِي سَلَمَةَ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بَنَسُ الْأِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا فَلَانُ فَيَقُولُونَ مَهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا الْأِسْمِ فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ-

۱۵۲۷: موسیٰ بن اسماعیل و وہیب داؤد عامر حضرت ابو جبرہ بن صحاح سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کی یعنی قبیلہ بنی سلمہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: ﴿وَلَا تَنَابَرُوا﴾ یعنی ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برانام اچھا نہیں ہے ابو جبرہ نے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہم میں سے کوئی شخص نہیں تھا کہ جس کے دو تین نام نہ ہوں (لیکن وہ شخص بعض نام لینے سے خوش ہوتا ہے اور بعض نام لینے سے ناراض ہوتا تھا) تو آنحضرت ﷺ پکارتے اے فلاں! تو لوگ آپ سے عرض کرے یا رسول اللہ ﷺ آپ خاموش رہیں۔ اس لئے وہ شخص اس نام سے غصہ ہوتا ہے اس پر یہ آیت: ﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ نازل ہوئی۔

بَاب فِيمَنْ يَتَكْنَى بِأَبِي عِمْسَى

باب: جو شخص ابو عیسیٰ کنیت رکھے

۱۵۲۸: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ ابْنًا لَهُ تَكْنَى أَبَا عِمْسَى وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكْنَى بِأَبِي عِمْسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَنِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَإِنَّا فِي جَلَدَجِنَا فَلَمْ يَزَلْ يَكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى هَلَكَ-

۱۵۲۸: ہارون ان کے والد ہشام حضرت زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک صاحبزادہ کو اس بات پر مارا کہ اس نے ابو عیسیٰ اپنی کنیت رکھی تھی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم کو ابو عبد اللہ کنیت رکھنا کافی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا میری کنیت آنحضرت ﷺ نے رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنحضرت ﷺ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرمادیئے گئے تھے اور ہم لوگ تو ایک جھنجھناہٹ میں ہیں یا یہ فرمایا کہ ہم لوگ تو اپنے جیسے لوگوں میں ہیں پھر حضرت مغیرہ ہمیشہ ابو عبد اللہ کی کنیت سے پکارے جاتے تھے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تواضع:

مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہماری اور آنحضرت ﷺ کی کیا مثال۔ آپ کے تمام گناہ یعنی لغزشیں معاف فرمادی گئیں اور ہم تو عام آدمی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو ابو عیسیٰ کنیت رکھنے سے اس وجہ سے منع فرمایا کیونکہ اس زمانہ میں مسلمانوں کا مشرکین سے کافی میل جول تھا ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے کفریہ عقیدہ دل میں آجائے کہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی باپ تھے جیسا کہ عیسائی کہتے تھے نعوذ باللہ۔

باب: کوئی شخص دوسرے کے بیٹے کو کہے اے

میرے بیٹے!

۱۵۲۹: عمرو بن عون (دوسری سند) مسدؤ ابن محبوب، ابوعوانہ، ابوعثمان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے میرے بیٹے! (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و محبت سے ان کو بیٹا کہہ کر پکارا اور اس طرح پکارنا درست ہے)۔

باب: ابوالقاسم کنیت رکھنے کا بیان

۱۵۳۰: مسدؤ ابوبکر بن ابی شیبہ سفیان، ایوب سختیانی، محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ میرا نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوصالح نے روایت کیا ہے اور اسی طریقہ سے ابوسفیان کی جابر سے اور ابن منکدر کی حضرت جابر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

باب: جس کی رائے میں نام محمد رکھنا اور کنیت ابو

القاسم رکھنا درست نہیں اس کی دلیل

۱۵۳۱: مسلم بن ابراہیم ہشام ابوزبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی میرا نام رکھے وہ میری کنیت نہ رکھے پور جو شخص میری کنیت رکھے وہ میرا نام نہ رکھے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عجلان نے اسی طریقہ سے ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور حضرت ابوزرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

بَاب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ

غَيْرِهِ يَا بَنِيَّ

۱۵۲۹: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَجُوبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ وَسَمَاءَ ابْنِ مَجُوبِ الْجَعْدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا بَنِيَّ -

بَاب فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ

۱۵۳۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤْا بِكُنْيَتِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ وَسُلَيْمَانَ الشُّكْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُمْ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -

بَاب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَجْمَعَ

بَيْنَهُمَا

۱۵۳۱: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى بِهِذَا الْمَعْنَى ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي

تعالیٰ عنہ سے اسی طریقہ سے کچھ اختلاف روایات کے ساتھ نقل کیا ہے اور اسی طریقہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد الرحمن کی کچھ اختلاف کے ساتھ روایت ہے اس روایت کو ثوری ابن جریج نے ابوزیر کی طرح روایت کیا ہے اور معقل نے ابن سیرین کی طرح اور موسیٰ بن یسار اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اختلاف ہے اس میں حماد بن خالد اور ابن فدیک نے اختلاف کیا ہے۔

هُرَيْرَةُ مُخْتَلِفًا عَلَى الرَّوَاتِبِينَ وَكَذَلِكَ رَوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَ فِيهِ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَبِي لُدَيْكٍ۔

باب: کنیت اور نام دونوں رکھنے کی اجازت کا بیان

۱۵۳۲: عثمان ابوبکر، ابو اسامہ، فطر، منذر، حضرت محمد بن الحنفیہ سے روایت ہے کہ علیؑ نے آنحضرتؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ کے (وصال کے) بعد میرے یہاں کسی لڑکے کی پیدائش ہو تو میں اس لڑکے کا نام آپ کے نام پر رکھوں گا اور اس کی کنیت بھی وہی رکھوں گا جو کہ آپ کی کنیت ہے (یہ سن کر) آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے (حضرت) ابوبکر صدیق بن شیبہ نے لفظ قلْتُ نہیں فرمایا بلکہ بیان فرمایا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔

باب فِي الرَّحْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

۱۵۳۲: حَدَّثَنَا عُمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ فَطْرٍ عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أَسَمِيهِ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

۱۵۳۳: نفیلی، محمد بن عمران، صفیہ بنت شیبہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور اس کی کنیت ابوالقاسم رکھی ہے پھر مجھ سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس کو برا سمجھتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ میرا نام رکھنا تو صحیح ہو اور میری کنیت رکھنا صحیح نہ ہو؟ یا فرمایا میری کنیت حرام ہو اور میرا نام رکھنا جائز ہو۔

۱۵۳۳: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَنْبِيُّ عَنْ جَدِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وُلِدْتُ غُلَامًا فَسَمَيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنَيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذَكَرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي۔

خلاصہ الباب: کنیت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذات کی نسبت باپ یا بیٹے کی طرف کر کے اپنے کو مشہور و متعارف کرائے جیسے ابن فلاں یا ابوفلاں یعنی فلاں کا بیٹا فلاں کا باپ وغیرہ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کنیت اس نام کو کہتے ہیں جو باپ یا بیٹی ماں کے تعلق سے بولا جائے۔

نبی کریم ﷺ کو ایک اور حدیث مبارکہ میں تقسیم کرنے والا بھی کہا گیا اور نبی ﷺ نے فرمایا چونکہ یہ صفت تمہارے اندر موجود نہیں ہے اور تم اس مقام پر فائز نہیں ہو اس لئے تم میری کنیت کو اختیار کرنے کے مجاز نہیں البتہ اپنا نام یا اپنی اولاد کا نام لفظ اور

صورتہ میرے نام پر رکھ سکتے ہو۔ حاصل یہ کہ میں محض اس سب سے ابو القاسم نہیں ہوں کہ میرے بیٹے کا نام قاسم ہے بلکہ مجھ میں قاسمیت کے معنی کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے بایں اعتبار کہ مجھ کو بیٹی و دنیاوی امور و دولت کا تقسیم کنندہ قرار دیا گیا ہے لہذا جب میں نہ تو ذات کے اعتبار سے اور نہ صفات کے اعتبار سے تم میں سے کسی بھی شخص کی مانند ہوں تو تم کو میری کنیت پر اپنی کنیت مقرر نہ کرنی چاہئے۔ واضح رہے کہ اس صورت میں ابو کے معنی باپ کے نہیں ہوں گے بلکہ اس وصف کے مالک ہوں گے جیسا کہ کسی شخص کو ابو الفضل کہا جائے در آنحالیکہ اس کے بیٹے کا نام فضل نہ ہو۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ محمد نام رکھنا تو جائز ہے لیکن ابو القاسم کنیت مقرر کرنا درست نہیں ہے خواہ یہ صورت ہو کہ جس شخص کا نام محمد ہو وہ ابو القاسم کو اپنی کنیت قرار دینا چاہے اور خواہ یہ صورت ہو کہ نام کچھ اور ہو اور محض کنیت ابو القاسم مقرر کرنا چاہے۔ حاصل یہ کہ کسی بھی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ابو القاسم کو اپنی کنیت قرار دے خواہ اس کا نام محمد ہو یا کچھ اور ہو۔ چنانچہ حضرت امام شافعی اور اصحاب ظواہر کا یہی قول ہے اور وہ انہیں حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ دوسرا قول محمد شیبانی کا ہے اور وہ یہ ہے کہ نام اور کنیت کو ایک ساتھ جمع کرنا درست نہیں ہے یعنی جس کا نام محمد ہو وہ اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے البتہ جس کا نام محمد نہ ہو اس کو صرف ابو القاسم کہنا کہلانا جائز ہے۔ ان کے نزدیک ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات کے لئے اس نام و کنیت کو ایک ساتھ اختیار نہ کرے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرنا بھی جائز ہے یعنی جس شخص کا نام محمد ہو وہ بھی اپنی کنیت ابو القاسم رکھ سکتا ہے اس قول کی نسبت حضرت امام مالک کی طرف کی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جن احادیث میں اس کی ممانعت منقول ہے وہ منسوخ ہیں۔ چنانچہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس ممانعت کا تعلق آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک سے تھا آپ ﷺ کے بعد یہ جائز ہے۔ اس جماعت کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ جب انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ اگر آپ ﷺ کے بعد میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو میں اس کا نام اور کنیت آپ ﷺ کے نام و کنیت کی طرح رکھوں گا؟ تو آپ ﷺ نے ان کو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت محمد بن الحنفیہ جو آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی کنیت ابو القاسم رکھی۔ ایک اور جماعت کہ جس کا قول ناقابل اعتماد ہے یہ کہتی ہے کہ کسی شخص کو آنحضرت ﷺ کا نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔

مذکورہ بالا تمام اقوال کی روشنی میں جو قول سب سے صحیح اور حتمی مسلک کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا نام رکھنا تو جائز بلکہ مستحب ہے لیکن آنحضرت ﷺ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھنا اگرچہ اس کا تعلق آنحضرت ﷺ کے بعد سے ہو ممنوع ہے۔ اس اعتبار سے آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں یہ ممنوع تر تھا اسی طرح نام اور کنیت دونوں کو جمع کرنا بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکورہ بالا روایت کا تعلق ہے تو وہ ان کے ساتھ ایک مخصوص معاملہ تھا۔ جیسا کہ حدیث کے سیاق سے واضح ہوتا ہے لہذا ان کے علاوہ کسی اور کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھے۔ اس کی تائید ابن عساکر کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو جمع الجوامع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دن اسی مسئلہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے اپنے لڑکے کا آنحضرت ﷺ کے نام پر محمد رکھا ہے اور اس کی کنیت بھی آنحضرت ﷺ کی کنیت پر ابو القاسم رکھی ہے حالانکہ آنحضرت ﷺ نے کسی ایک شخص کے لئے ان دونوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

تشریحی صحابہؓ کو بلوایا ان سب نے حاضر ہو کر گواہی دی کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخصوص طور پر اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ آنحضرت ﷺ کے بعد اپنے ہونے والے بچے کا نام و کنیت آپ ﷺ کے نام و کنیت پر رکھ لیں۔

باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ

باب: کوئی آدمی کنیت تو رکھے مگر اس کے

وَلَدٌ

بیٹا نہ ہو

۱۵۳۴: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا قَابَتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَرَبِي أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نَعْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَاهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُهُ قَالُوا مَاتَ نَعْرُهُ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعِيرُ۔

۱۵۳۴: موسیٰ بن اسماعیل، حماد ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ہم لوگوں کے پاس تشریف لایا کرتے تھے میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابوعمیر تھی اور اس کے پاس ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ اتفاقاً وہ چڑیا مر گئی پھر ایک دن آنحضرت ﷺ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ وہ (یعنی ابوعمیر میرا بھائی) رنجیدہ ہے۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت فرمائی لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی پالتو چڑیا مر گئی (اس لئے رنجیدہ بیٹھا ہے) آپ نے فرمایا اے ابوعمیر (تمہارا) غیر کیا ہوا؟ (غیر عربی زبان میں ایک چڑیا کا نام ہے جو کہ کبوتر سے چھوٹی اور چڑیا سے بڑی ہوتی ہے)۔

خلاصۃ الباب: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کیا ہے ان کا نام کبشہ تھا اور وہ ان کے اخیالی یعنی ماں شریک بھائی تھے ان کے باپ کا نام ابوطلحہ زید بن سہیل انصاری رضی اللہ عنہ تھا۔

”نعیر“ تصغیر ہے نعر کی جو ایک چھوٹے پرندے کا نام ہے اور چھوٹی چڑیا کی طرح ہوتا ہے اور اس کی چونچ سرخ ہوتی ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ وہ پرندہ چڑیا کی طرح سرخ سر والا ہوتا ہے نیز بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اہل مدینہ اس پرندے کو بلبل کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ وہی پرندہ ہو جس کو ہمارے ہاں لال کہتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کبشہ اس پرندے کو لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس آتے تھے جیسا کہ چھوٹے بچوں کو جب کوئی چڑیا وغیرہ مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں پھر ایک دن اچانک وہ پرندہ مر گیا اس کے بعد جب وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ﷺ ان کو ازراہ مذاق چھیڑتے اور پوچھتے کہ اے ابوعمیر تمہارا غیر کیا ہوا؟ گویا ان کو مخاطب کرتے وقت ظرافت کے ساتھ تفضیل کلام کا اسلوب بھی اختیار فرماتے یعنی غیر کی مناسبت سے اور اس لفظ کے قافیہ کے طور پر ان کو ابوعمیر کی کنیت کے ذریعہ مخاطب فرماتے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کو چڑیا وغیرہ سے دل بہلانا اور ان کے ساتھ کھیل کود کرنا جائز بشرطیکہ اس کو تکلیف دینا نہ پہنچائیں نیز اس سے معلوم ہوا کہ کسی چھوٹے اور کمسن بچے کی کنیت مقرر کرنا جائز ہے اور یہ جھوٹ میں داخل نہیں ہے نیک فالی ہے۔

باب فِي الْمَرَأَةِ تُكْنَى

باب: عورت کی کنیت رکھنے کا بیان

۱۵۳۵: مسدّد سلیمان حماد ہشام ان کے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تمام سہیلیوں کی کنیت ہے۔ آپ ﷺ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی اپنے بیٹے عبد اللہ کے نام سے کنیت رکھ لو (حضرت عبد اللہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے لڑکے ہیں) مسدّد نے بیان کیا عبد اللہ بن زبیر اس لئے ان کی کنیت اُمّ عبد اللہ تھی۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور عمر نے ہشام سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے اور ابو اسامہ نے ہشام عباد بن حمزہ سے اس کو روایت کیا ہے اور حماد اور مسلمہ نے ہشام سے ابو اسامہ کی طرح روایت کیا ہے۔

باب: ذو معنی گفتگو کرنا

۱۵۳۶: حیوۃ بن شریح بقیہ صبارہ ان کے والد عبد الرحمن بن جبیر ان کے والد حضرت سفیان بن اسید حضرمی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے اس قسم کی بات بیان کرو جس کو وہ سچ سمجھے اور تم اس سے جھوٹ بیان کرو۔

باب: لفظ زعموا یعنی لوگوں کا گمان ہے کہنا

۱۵۳۷: ابوبکر بن ابی شیبہ وکیع اوزاعی یحییٰ حضرت ابوقلابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوعبد اللہ سے کہا یا ابو عبد اللہ نے حضرت ابوسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ آپ نے آنحضرت ﷺ سے لفظ زعموا کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے سنا ہے آپ فرماتے تھے انسان کا زعموا نکلیے کلام مذموم ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں ابوعبد اللہ کا نام حدیفہ ہے۔

۱۵۳۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنَى قَالَ فَانْتَبَيْ بِابْنِكَ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ اِخْتِهَا قَالَ مُسَدَّدٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَكَانَتْ تُكْنَى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ وَمَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ عِبَادِ بْنِ حَمْزَةَ وَكَذَلِكَ حَمَادٌ بْنُ سَلْمَةَ وَمُسْلِمَةُ بْنُ قَعْنَبٍ عَنْ هِشَامٍ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ۔

باب فِي الْمَعَارِضِ

۱۵۳۶: حَدَّثَنَا حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ إِمَامٌ مَسْجِدٍ حِمَاضٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ ضَبَّارَةَ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ۔

باب فِي قَوْلِ الرَّجُلِ زَعَمُوا

۱۵۳۷: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي زَعَمُوا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِسْمِ مَطِيَّةِ الرَّجُلِ زَعَمُوا قَالَ أَبُو

ذَاوُدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا حَدِيثُهُ۔

گفتگو سے متعلق ایک ہدایت:

بہت سے لوگ گفتگو میں ایسے موقع پر کہ جہاں پر بات کا یقینی ہونا معلوم نہ ہو وہاں زعمو ابولتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا گمان کیا ہے آپ نے اس طرح بات کو بیان کرنے سے منع فرمایا کیونکہ جو بات یقینی نہ ہو اس کو بیان بھی نہ کرنا چاہئے۔

باب: خطبہ میں اما بعد کہنے کا بیان

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ أَمَّا بَعْدُ

۱۵۳۸: ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن فضیل ابو حیان یزید حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (خطبہ میں) فرمایا: ((أَمَّا بَعْدُ))۔

۱۵۳۸: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ۔

اما بعد پڑھنا:

اما بعد اس جگہ پڑھا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے سے فراغت ہوتی ہے اور بات کا آغاز ہوتا ہے۔

باب: انگور کو کرم کہنے اور زبان کو مشتبہ اور مشکوک الفاظ

بَابُ فِي الْكُرْمِ وَحِفْظِ

سے روکنے کی ممانعت

الْمُنْطِقِ

۱۵۳۹: سلیمان بن داؤد ابن وہب لیث جعفر بن ربیعہ اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص (انگوروں کو) کرم نہ کہے اس لئے کہ کرم مسلمان شخص ہے (بلکہ) اس طرح کہو کہ ”انگور کے باغات“

۱۵۳۹: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمَ وَلَكِنْ قُولُوا أَحْدَانِقَ الْأَعْنَابِ۔

خلاصہً الجواب: انگور کو کرم کہنا: اہل عرب انگور کو کرم کہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے خیال میں انگور سے جو شراب تیار ہوتی ہے اس کو پینے سے انسان میں کرم یعنی مہربانی، سخاوت وغیرہ صفات حسنہ پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام میں جب حرمت شراب کا حکم ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو کرم کہنے سے منع فرمایا تاکہ شراب کا کوئی اچھا پہلو خیال میں نہ آئے کیونکہ لفظ کرم سے بری بات (یعنی شراب) کا بہتر پہلو سامنے آسکتا تھا اس لئے اسلام میں ایسے مبہم الفاظ کے استعمال سے منع فرمایا۔

باب: باندی یا غلام اپنے مالک کو اے میرے

باب لَا يَقُولُ الْمَمْلُوكُ

رب نہ کہے

۱۵۳۰: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ایوب، حبیب، ہشام، محمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص (اپنی باندی یا غلام کو) اس طریقہ سے نہ کہے اے میرے عبد اور میری امہ اور نہ باندی اور غلام میرا رب اور ربہ کہیں (یعنی آقا کو رب اور مالکہ کو ربہ نہ کہیں) مالک اپنے غلام کو میرا جوان اور باندی کو میری جوان کہے اور غلام اور باندی کہے میرے میاں اور اے میری بی بی کیونکہ تم سب لوگ خود غلام ہو اور ماتحت ہو اور مالک حقیقی اور پالنہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے۔

۱۵۳۱: ابن سرح، ابن وہب، عمرو بن حارث، ابو یونس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طریقہ سے روایت ہے اور اس روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے مذکور ہے کہ غلام باندی اس طریقہ سے کہیں سیدی اور میرے مولیٰ۔

۱۵۳۲: عبید اللہ بن عمر، معاذ، ان کے والد، قتادہ، حضرت عبد اللہ بن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ منافق شخص کو سردار نہ کہو کیونکہ اگر وہ منافق سردار ہو تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔

باب: اس طرح نہ کہو کہ میرا نفس خبیث ہو گیا ہے

۱۵۳۳: احمد بن صالح، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، حضرت ابوامامہ، سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ میرا دل خبیث ہو گیا۔ بلکہ (اگر ضرورت پڑے تو) یوں کہے کہ میرا دل پریشان ہو گیا، ویران ہو گیا۔

۱۵۳۴: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ہشام، ان کے والد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم

ربی و ربیبی

۱۵۳۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَهَشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي وَلَيَقُلُّ الْمَالِكُ فَنَائِي وَفَنَائِي وَلَيَقُلُّ الْمَمْلُوكُ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔

۱۵۳۱: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَبْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَيَقُلُّ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ۔

۱۵۳۲: حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَهْكُؤْ لِرَبِّكَ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ۔

باب لا يقال خبيث نفسي

۱۵۳۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثَ نَفْسِي وَلَيَقُلُّ لِقَسَّتْ نَفْسِي۔

۱۵۳۴: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاسَتْ نَفْسِي
وَلَكِنْ لَيَقُلَنَّ لَقَسَتْ نَفْسِي -

لوگوں میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے کہ میرا دل جوش مار رہا ہے (بلکہ
اس طریقہ سے کہے کہ میرا قلب پریشان ہے ویران ہے)

۱۵۳۵: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّائِبِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَدِيفَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فَلَانٌ
وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فَلَانٌ -

۱۵۳۵: ابوولید شعبہ، منصور، عبد اللہ بن یسار، حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا یوں نہ کہو جو اللہ اور
فلاں شخص چاہے بلکہ اس طرح کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر فلاں شخص
چاہے۔

ایک تعلیم بابت عقیدہ:

پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دیا حالانکہ ہر ایک کام میں رضائے الہی ضروری ہے چاہے دوسرے
کی رضامندی ہو یا نہ ہو اور دوسری صورت میں رضائے الہی کے ساتھ دوسرے شخص کا چاہنا بھی شامل کر دیا اس لئے اس میں حرج
نہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو چاہیں گے تو اس کے مقرب بندے بھی وہ کام چاہیں گے اگرچہ اللہ کے نزدیک نیک بندوں کا
چاہنا بھی مرضی الہی کی وجہ سے ہی ہوگا۔

۱۵۳۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ
بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ
تَمِيمِ الطَّائِبِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ خَطِيبًا
خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
مَنْ يُطْعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِمُهُمَا
فَقَالَ قُمْ أَوْ قَالَ أَذْهَبْ فَبَسَّ الْخَطِيبُ أَنْتَ -

۱۵۳۶: مسدد، یحییٰ، سفیان، عبدالعزیز، تميم طائی، حضرت عدی بن حاتم
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آنحضرت ﷺ کے
سامنے خطبہ پڑھا تو کہنے لگا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ
کی فرمانبرداری کی تو اس کو ہدایت ملی اور جس شخص نے ان دونوں کی
نافرمانی کی (صرف یہ بات سن کر) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا چلو
جاؤ تم بدترین خطیب ہو۔

براخطیب:

آپ نے اس شخص کو اس وجہ سے خطبہ دینے سے منع فرمایا کیونکہ اس شخص نے نافرمانی میں اللہ اور رسول کو ساتھ ساتھ بیان کیا
اس کو یہ چاہئے تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتا پھر رسول ﷺ کو بعض حضرات نے اس کی دوسری وجہ بھی بیان کی ہے۔

۱۵۳۷: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ يَعْنِي
ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ يَعْنِي الْحَدَّاءَ عَنْ أَبِي
تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ
رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَثَرْتُ
ذَابَةً فَقُلْتُ تَعَسَّ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَا تَقُلْ تَعَسَّ
الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى
يَكُونَ مِثْلَ النَّبِيِّ وَيَقُولُ بِقَوْتِي وَلَكِنْ قُلْ

۱۵۳۷: وہب، خالد بن عبد اللہ، حضرت خالد حذاء، ابو تميمہ سے اور وہ ابو
الملیح سے اور وہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آدمی بیان کرتا تھا
کہ میں نے آنحضرت ﷺ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ
کی سواری پھیل گئی تو میں نے کہا بیڑا غرق ہو شیطان کا۔ آپ نے فرمایا
یہ مت کہو کہ بیڑا غرق ہو شیطان کا۔ اس لئے کہ اس طرح کہنے سے
شیطان (خوشی سے) پھول جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک گھر کے برابر
ہو جاتا ہے وہ (خوشی سے) کہتا ہے کہ میری طاقت کو مان لیا بلکہ یوں کہو

بسم اللہ جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو شیطان سگڑ کر اس قدر چھوٹا ہو جاتا ہے کہ جس قدر کہی۔

۱۵۳۸: قعنبی مالک (دوسری سند) موسیٰ بن اسماعیل، حماد سہیل ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ برباد ہو گئے تو وہ شخص تمام لوگوں سے زیادہ برباد ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک نے بیان کیا جب کوئی شخص یہ کلمہ رنج و غم سے کہے لوگوں کے (دین کی حالت دیکھ کر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب کوئی شخص تکبر و غرور کی بنا پر دوسروں کو کم تر سمجھ کر کہے تو مکروہ ہے اور اسی کی ممانعت ہے)

بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ۔

۱۵۳۸: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ وَقَالَ مُوسَى إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلْكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَحَزَنًا لِمَا يَرَى فِي النَّاسِ يَعْنِي فِي أَمْرِ دِينِهِمْ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عَجَبًا بِنَفْسِهِ وَتَصَاغَرًا لِلنَّاسِ فَهُوَ الْمَكْرُوهُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ۔

باب: نمازِ عشاء کو عتمہ کہنا؟

۱۵۳۹: عثمان بن ابی شیبہ سفیان ابن ابی لیید ابو سلمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا نہ ہو جائے کہ عرب کے دیہاتی باشندے تم لوگوں پر اس نماز (عشاء) کے نام میں غالب آجائیں خبردار! اس نماز کا نام عشاء ہے لیکن وہ لوگ اونٹنیوں کے دودھ نکالنے میں اندھیرا کرتے ہیں (اس لئے اس کو عتمہ کہتے ہیں)۔

باب فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ

۱۵۳۹: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَلِكِنَّهُمْ يَعْتَمُونَ بِاللَّيْلِ۔

عتمہ کی تشریح:

عربی زبان میں 'عتمہ' اندھیرے کو کہتے ہیں چونکہ عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے اس لئے اس کو اہل دیہات عرب عتمہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس نماز کو بوضاحت نمازِ عشاء فرمایا گیا ہے اس وجہ سے اس کو عشاء ہی کہنا چاہئے مذکورہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ عرب کے دیہات کے لوگوں کو اتباع نہ کرو اور عشاء کو عشاء ہی کہو اس کو عتمہ نہ کہو۔

۱۵۵۰: مسدّد عیسیٰ مشعر، عمرو بن مرہ حضرت سالم بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کاش میں نماز ادا کرتا تو مجھے آرام نصیب ہو جاتا۔ لوگوں نے اس شخص کی اس بات کو معیوب سمجھا اس شخص نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرماتے تھے اے بلال رضی اللہ عنہ تم نماز پڑھنے کے لئے تکبیر کہو، ہم کو نماز سے آرام

۱۵۵۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ قَالَ مِسْعَرُ أَرَاهُ مِنْ حِرَاةٍ لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَانَتْهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ ﷻ يَقُولُ يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرْحَنَا بِهَا۔

۱۵۵۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صَهْرٍ لَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ نَوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ يَا جَارِيَةُ انْتَوِينِي بِوَضُوءٍ لَعَلِّي أَصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ قَالَ فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷻ يَقُولُ قُمْ يَا بِلَالُ فَأَرْحَنَا بِالصَّلَاةِ۔

۱۵۵۲: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷻ يَنْسِبُ أَحَدًا إِلَّا إِلَى الدِّينِ۔

دینداری سے محبت:

مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بیوی یا اہل بیت کی جانب نسبت نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ ہر ایک کام میں دین کا ہی خیال رکھتے تھے۔ اور آپ نسبت بھی دین ہی کی طرف فرماتے تھے اور جو شخص دینداری میں جس قدر زیادہ ہوتا اس کو دوسروں سے مقدم فرماتے۔

باب: جھوٹ بولنے کی وعید

۱۵۵۳: أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَكَعْبُ الْأَعْمَشُ (دوسری سند) مسدد عبد اللہ اعمش، ابو وائل، حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جھوٹ سے بچو۔ اس لئے کہ جھوٹ (انسان کو) گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ (انسان کو) دوزخ کی طرف لے جاتا ہے اور انسان جھوٹ بولتا ہے پھر وہ جھوٹ بولتے بولتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور تم لوگ سچ بولنے کو لازم کر لو کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی (انسان کو) جنت میں لے جاتی ہے اور انسان سچ بولتا ہے پھر سچ بولتے بولتے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا

بَابُ فِي التَّشْدِيدِ فِي الكَذِبِ

۱۵۵۳: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَعْبُ الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ إِنَّا كُفْرًا وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقَ وَيَتَحَرَّى

جاتا ہے۔

۱۵۵۴: مسدد بن مسرمد یحییٰ، حضرت بہز بن حکیم نے اپنے والد سے سنا انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جو کہ لوگوں کو ہانسنے کے لئے جھوٹ بولے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے۔

۱۵۵۵: تميمیہ لیث، ابن عجلان، ایک شخص، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے مجھے ایک دن بلایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے کہا اس طرف آؤ۔ میں تم کو کوئی شے دوں گی۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا تم نے اس کو کیا دینے کی نیت کی ہے؟ اس نے کہا میں کھجور دوں گی۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا۔

۱۵۵۶: حفص بن عمر شعبہ (دوسری سند) محمد بن حسین، علی بن حفص، شعبہ حبیب، حفص بن عاصم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے گناہ کے لئے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو بیان کر دے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حفص بن عمر نے اپنی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان نہیں کیا۔

باب: اس کے متعلق اجازت کا بیان

۱۵۵۷: عمرو بن مرزوق، شعبہ، قادم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں (کسی دشمن کا) خوف محسوس ہوا تو آنحضرت ﷺ حضرت ابوطحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے ڈر کی کوئی بات نہیں محسوس کی اور ہم نے اس گھوڑے کو (رفقار کے اعتبار سے) دریا پایا یعنی بہت زیادہ دوڑنے والا۔

الصِّدْقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا۔

۱۵۵۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرَمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔

۱۵۵۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ دَعَانِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَي أَعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كِذْبَةٌ۔

۱۵۵۶: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصُ أَبَا هُرَيْرَةَ۔

باب فيما يروى من الرخصة في ذلك!

۱۵۵۷: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فَرَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَكَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا شَيْئًا أَوْ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا۔

باب: ہر ایک شخص کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا حکم

۱۵۵۸: موسیٰ بن اسماعیل حماد (دوسری سند) نصر بن علی مہنہ ابی شبیل، حماد بن سلمہ، محمد بن واسع، سہیر یا شیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (مسلمان سے) حسن ظن رکھنا بہترین عبادت ہے۔

۱۵۵۹: احمد بن محمد، عبدالرزاق، معمر زہری، علی بن حسین، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعکاف میں تھے میں آپ کی خدمت میں رات کو آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئی۔ میں نے آپ سے باتیں کیں پھر میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ آپ بھی میرے ساتھ مجھ کو پہنچانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ ان دنوں حضرت صفیہ حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے مکان میں رہتی تھیں۔ اسی دوران انصار میں سے دو آدمی گزرے۔ انہوں نے جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا تم لوگ اپنی رفتار سے چلو یہ خاتون صفیہ بنت حی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ! یا رسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا انسان کے اندر شیطان اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں شیطان بری بات نہ ڈال دے۔

باب: وعدہ کا بیان

۱۵۶۰: ابن شنی، ابو عامر، ابراہیم، علی بن عبد الاعلیٰ، ابو العنمان، ابو وقاص، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے تو اس شخص کی یہ نیت ہو کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا پھر وہ شخص وعدہ وفا نہ کر سکے اور وعدے پر نہ آئے تو اسے کوئی گناہ نہ ہوگا۔

۱۵۶۱: محمد بن یحییٰ، محمد بن سنان، ابراہیم بدیل، عبدالکریم، ان کے والد

باب فی حُسْنِ الظَّنِّ

۱۵۵۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَهْنَةَ أَبِي شَبِيلٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَفْهَمُهُ مِنْهُ جَيْدًا عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ نَصْرُ بْنُ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَصْرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ۔

۱۵۵۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاتَيْتُهُ أُرْوَرَهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ وَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيَ لَيْلَتَيْنِ وَكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ رَسُلُكُمْ إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُثَيْبٍ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَغْدِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا أَوْ قَالَ شَرًّا۔

باب فِي الْعِدَّةِ

۱۵۶۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي النُّعْمَانَ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نَيْتِهِ أَنْ يَفِي لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَبْعِ لِلْمِعَادِ فَلَا إِيْمَ عَلَيْهِ۔

۱۵۶۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الْبَسَابُورِيُّ

حضرت عبداللہ بن ابی الحساء سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے آپ کی نبوت سے قبل کوئی شے خریدی۔ اس شے کی کچھ قیمت میری طرف باقی رہ گئی تھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کل اسی جگہ آکر قیمت ادا کروں گا۔ پھر میں بھول گیا اور مجھے تین روز کے بعد یاد آیا۔ میں وہاں گیا اور دیکھا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ اسی جگہ تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان شخص! تم نے مجھے اذیت پہنچائی میں تین دن سے اسی جگہ پر ہوں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ نے بیان فرمایا کہ ہم لوگوں کے پاس عبدالکریم بن عبداللہ بن شقیق ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بَدِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يَبْعَ وَيَبْعَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتَهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَتَبَيَّنْتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ يَا لَفَنِي لَقَدْ شَقَقْتُ عَلَيَّ أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَذَا عِنْدَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا بَلَّغَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَّغَنِي أَنَّ بَشَرَ بْنَ السَّرِيِّ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ -

باب: جو شخص بطور فخر یا دوسرے شخص کو تکلیف

پہنچانے کے لئے وہ چیزیں بیان کرے جو اس کے پاس نہیں

بَاب فِي الْمُتَشَبِّعِ

بِمَا لَمْ
يُعْطَ

۱۵۶۲: سلیمان بن حرب، حماد، ہشام، فاطمہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے کیا مجھے گناہ ملے گا اگر میں اسے بتلاؤں کہ شوہر نے مجھے یہ دی ہیں حالانکہ اس نے مجھے نہیں دی۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے پاس وہ اشیاء بیان کرے کہ جو اس کو نہیں ملیں تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے فریب اور جھوٹ کے دو کپڑے پہن لئے ہوں۔

۱۵۶۲: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَةً تَعْنِي صَرَّةٌ هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطَ زَوْجِي قَالَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِيسَ ثَوْبِي زُورٍ -

باب: خوش طبعی کرنے کا بیان

۱۵۶۳: وہب بن بقیع، خالد، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سواری عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ہم تم کو اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس شخص نے عرض کیا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا آخر اونٹوں کو بھی تو اونٹنیاں ہی جنتی ہیں۔ یعنی

بَاب مَا جَاءَ فِي الْمِزَاحِ

۱۵۶۳: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِلْنِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا حَامِلُونَكَ عَلَيَّ وَلَكِنَّا نَاقَةٌ قَالَ وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ

وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا التُّوقَ۔

اونٹ بھی تو بچے ہی ہوتے ہیں۔

۱۵۶۳: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاولَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ أَلَا أَرَأَيْكَ تَرَفَعِينَ صَوْتَكُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجِزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتَنِي أَنْقَذْتُكَ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَتْ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا۔

۱۵۶۳: یحییٰ بن معین حجاج بن یونس ابو اسحاق عمیر از حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آواز بلند ہوئی ہے۔ جب وہ اندر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو طمانچہ مارنے کے لئے پکڑا اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آنحضرت ﷺ پر اپنی آواز بلند کر رہی ہو؟ آپ نے ان کو روکنا شروع کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصہ ہو کر باہر نکل گئے۔ جب وہ باہر تشریف لے گئے تو آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم نے دیکھ لیا کہ میں نے تم کو اس شخص سے (یعنی تمہارے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے) کس طرح بچایا؟ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کئی دن تک نہ آئے اس کے بعد جب تشریف لائے اور نبی سے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے دیکھا کہ دونوں (ایک دوسرے سے) رضا مند ہو گئے ہیں (یعنی آپ اور عائشہ صدیقہ کا ملاپ ہو گیا) تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لوگ مجھے اپنی صلح میں (بھی) شامل کرو جس طریقہ سے کہ مجھے لڑائی میں شامل کیا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہم نے شامل کیا، ہم نے شامل کیا۔

۱۵۶۵: مَوْلَى وَلِيدٍ عَبْدِ اللَّهِ بَشْرٌ ابُوَادِرِيسُ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ ایک چمڑے کے خیمے میں تھے میں نے سلام کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا پورا اندر آ جاؤ؟ آپ نے فرمایا پورا تو میں اندر داخل ہو گیا۔

۱۵۶۵: حَدَّثَنَا مَوْلَى بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قَبَّةٍ مِنْ أَدَمَ فَسَلَّمْتُ قَرْدًا وَقَالَ ادْخُلْ فَقُلْتُ أَكَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلْكَ فَدَخَلْتُ۔

۱۵۶۶: صفوان بن صالح، ولید حضرت عثمان بن ابی عاتکہ نے فرمایا کہ عوف نے یہ اس لئے دریافت فرمایا کہ وہ خیمہ چھوٹا

۱۵۶۶: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ قَالَ إِنَّمَا قَالَ

تھا۔

أَدْخُلْ كَلْبِي مِنْ صِغْرِ الْقَبَّةِ۔

۱۵۶۷: ابراہیم، شریک، عاصم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا: اے دوکان والے شخص۔

۱۵۶۷: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ذَا الْأَذْنَيْنِ۔

آپ کی خوش طبعی:

آنحضرت ﷺ کا مذکورہ ارشاد بطور خوش طبعی کے تھا۔ ویسے تو ہر ایک شخص کے دو ہی کان ہوتے ہیں۔ شامل ترمذی میں آنحضرت ﷺ کے خوش طبعی فرمانے کی متعدد روایات تفصیلی طور پر مذکور ہیں۔ جمع البوسائل شرح شامل ترمذی میں اس مسئلہ کی تفصیل مذکور ہے۔

باب: تفریح و طبع میں کسی کی کوئی شے لے لینا

۱۵۶۸: محمد بن بشار یحییٰ (دوسری سند) سلیمان، شعیب، ابن ابی ذئب، حضرت عبداللہ بن سائب بن یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے ان کے دادا سے سنا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی شے نہ لے نہ سچے دل سے اور نہ ہنسی مذاق میں اور جو شخص اپنے بھائی کی لکڑی لے لے تو اس کو واپس کر دے۔ محمد بن بشار نے اپنی روایت میں ابن یزید کا تذکرہ نہیں کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بَابُ مَنْ يَأْخُذُ الشَّيْءَ عَلَى الْمِزَاجِ

۱۵۶۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا وَقَالَ سُلَيْمَانُ لِعَبَا وَلَا جَادًا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا لَمْ يَقُلْ ابْنُ بَشَّارٍ ابْنُ يَزِيدَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ۔

عاریت کا حکم:

مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت کی بنا پر کسی سے کوئی شے بطور عاریت لے لو اس کو واپس کر دے اور عاریت سے متعلق تفصیلی احادیث اس سے قبل بیان ہو چکی ہیں۔

۱۵۶۹: محمد بن سلیمان، ابن نمیر، عمش، عبداللہ، حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ وہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو ان حضرات رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص کو نیند آگئی کسی نے اس کے پاس سے اس کی ایک رتی لے لی تو وہ شخص پریشان ہو گیا۔

۱۵۶۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَيَّ

حَبْلٌ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْوَعَ مُسْلِمًا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لئے
 (دوسرے) مسلمان کو پریشان کرنا درست نہیں ہے۔

باب: ترتر باتیں بنانا

(چپڑ چپڑ گفتگو کرنا)

۱۵۷۰: محمد بن سنان نافع بشران کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے بہت چپا چپا کر گفتگو کرنے والے سے جو کہ اپنی زبان کو اس طریقہ سے گھمائے کہ جس طریقہ سے گائے چپڑ چپڑ کرتی ہے۔

باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَدِّقِ

فِي الْكَلَامِ

۱۵۷۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْبَاهِلِيُّ وَكَانَ يَنْزِلُ الْعَوْقَةَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلَّلَ الْبَاقِرَةَ بِلِسَانِهَا۔

باتیں بنانا:

مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے چپا چپا کر گفتگو کرنے سے منع فرمایا یعنی بغیر سوچے سمجھے دل میں جو آیا وہ کہہ دیا اس کی ممانعت ہے۔

۱۵۷۱: ابن سرح، ابن وہب، عبد اللہ بن مسیب، ضحاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو کوئی آدمی لوگوں کے دل پھیرنے کے لئے بہترین گفتگو سیکھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے نفل اور فرض کچھ قبول نہیں فرمائے گا۔

۱۵۷۱: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرْحَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ صَرَفَ الْكَلَامَ لِيَسْبِي بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوْ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَفًا وَلَا عَدْلًا۔

۱۵۷۲: عبد اللہ بن مسلمہ مالک، حضرت زید بن اسلم، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ دو شخص مشرق کی جانب سے آئے۔ انہوں نے خطبہ دیا لوگوں کو ان کے بیان سے حیرت ہوئی۔ نبیؐ نے ارشاد فرمایا کچھ بیان جادو ہوتا ہے کچھ بیان جادو کی تاثیر رکھتے ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ جادو ہی جیسا اشعار اور بیان کا بھی اثر ہوتا ہے)۔

۱۵۷۲: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ يَعْنِي لَبِيَانَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا۔

۱۵۷۳: سلیمان بن عبد الحمید اسمعیل محمد بن اسمعیل ان کے والد ضمیمہ شریح، حضرت ابوظبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک آدمی سے کہا کہ جس نے بہت لمبی تقریر کی تھی

۱۵۷۳: حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ أَنَّهُ قَرَأَ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ وَحَدَّثَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنَهُ قَالَ حَدَّثَنِي

اگر وہ درمیانہ طریقہ سے گفتگو کرتا تو بہت اچھا ہوتا اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے حکم ہوا یا فرمایا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں گفتگو کرنے میں درمیان کا طریقہ اختیار کروں کیونکہ (تمام کاموں میں) درمیان کی چال بہتر ہوتی ہے۔

أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي صَمَّصَمٌ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْفَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرُو لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أَمِرتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَّازَ هُوَ خَيْرٌ۔

باب: شعر کے بارے میں

۱۵۷۴: ابو الولید شعبہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ اس شخص کا پیٹ اشعار سے بھرے۔ ابوعلی نے بیان کیا کہ مجھے ابو عبید سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بیان کیا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کا پیٹ اشعار سے اتنا بھر جائے کہ وہ قرآن کریم اور ذکر الہی سے محروم رہے۔ جب قرآن کریم یا علم دین زیادہ ہو اور اشعار کم ہوں تو اشعار سے پیٹ کو بھرا ہوا نہیں کہا جائے گا اور (جملہ حدیث) ((وَأَنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لِسِحْرًا)) کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کا بیان اس درجہ کو پہنچ جائے کہ وہ جب کسی کی تعریف کرے تو اس خوش اسلوبی سے بیان کرے کہ لوگوں کے قلوب اس طرف متوجہ ہو جائیں پھر جب کسی شخص کی برائی بیان کرے تو اس طرح بیان کرے کہ دل پھر اسی کی طرف آ جائیں تو اس شخص نے سامعین پر جادو کر دیا۔

۱۵۷۵: ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن مبارک، یونس، زہری، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، مروان بن حکم، عبد الرحمن بن الاسود بن یغوث، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اشعار حکمت ہوتے ہیں۔

۱۵۷۶: مسدد ابوعوانہ، سماک، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ

باب ما جاء في الشعر

۱۵۷۴: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَبْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ بَلَّغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ وَجْهٌ أَنْ يَمْتَلِءَ قَلْبُهُ حَتَّى يَشْعَلَهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبَ فَلَيْسَ جَوْفٌ هَذَا عِنْدَنَا مَمْتَلِئًا مِنَ الشِّعْرِ وَإِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لِسِحْرًا قَالَ كَانَ الْمَعْنَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْ بَيِّنَاتِهِ أَنْ يَمْدَحَ الْإِنْسَانَ فَيَصْدُقَ فِيهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يَذْمُهُ فَيَصْدُقَ فِيهِ حَتَّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ الْآخَرَ فَكَأَنَّهُ سَحَرَ السَّمْعِينَ بِذَلِكَ۔

۱۵۷۵: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ عَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً۔

۱۵۷۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ

عنہما سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے (غیر معمولی فصاحت و بلاغت سے) گفتگو کرنے لگا تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کچھ بیان جا دو ہوتے ہیں اور کچھ اشعار حکمت ہوتے ہیں۔

۱۵۷۷: ۱۵۷۷: محمد بن یحییٰ، سعید ابومیلہ، ابو جعفر، حضرت عبد اللہ بن ثابت، حضرت سحر بن عبد اللہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کچھ بیان جا دو ہوتے ہیں اور کچھ علم جہل ہوتا ہے اور کچھ شعر حکمت ہوتے ہیں اور کچھ گفتگو بوجہ ہوتی ہے۔ صعصہ بن صوحان نے فرمایا کہ رسول ﷺ نے سچ فرمایا کہ جو بیان فرمایا کہ بعض بیان جا دو ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا کسی شخص پر روپیہ واجب ہو وہ شخص اپنے مقروض شخص سے زبان میں تیز ہو اور لوگوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کر کے دوسرے شخص کا روپیہ غضب کر لے اور حدیث میں جو یہ فرمایا ہے بعض علم جہل ہے وہ یہ ہے کہ عالم شخص ایسی باتوں میں اپنے علم کو لے جائے کہ جن کا اس شخص کو علم نہیں تو وہ شخص جاہل بن جائے گا اور یہ جو فرمایا کہ بعض اشعار حکمت ہوتے ہیں تو وہ یہی نصائح اور امثال کے اشعار ہیں جن سے لوگوں کو نصیحت حاصل ہوتی ہے اور یہ جو فرمایا کہ بعض بات بوجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے سامنے اپنا کلام پیش کرو کہ جو اس کلام کا خواہش مند نہ ہو یا اس کلام کے لائق نہ ہو۔

سِمَاكَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَجَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حُكْمًا۔

۱۵۷۷: ۱۵۷۷: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا فَقَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَمَا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا فَالرُّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَنُّ بِالْحُجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ فَيَسْحَرُ الْقَوْمَ بِبَيَانِهِ فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ وَأَمَا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا فَيَتَكَلَّفُ الْعَالِمُ إِلَى عِلْمِهِ مَا لَا يَعْلَمُ فَيَجْهَلُهُ ذَلِكَ وَأَمَا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حُكْمًا فَهِيَ هَذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالْأَمْثَالُ الَّتِي يَتَعَطَّ بِهَا النَّاسُ وَأَمَا قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا فَعَرَضُكَ كَلَامُكَ وَحَدِيثُكَ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ وَلَا يُرِيدُكَ۔

آداب وعظ و تقریر:

مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو دیکھ کر بات کرو اور جاہل یا کم پڑھے لکھے کے سامنے ایسی باتیں بیان نہ کرو کہ جس کو وہ نہ سمجھ سکے گویا جاہل شخص کے سامنے باریک باتیں بیان کرنا اس پر بوجھ ڈالنا ہے اس لئے عربی کی مشہور مثال ہے: كَلِمَاتُ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ۔ یعنی لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے گفتگو کرو۔

۱۵۷۸: ۱۵۷۸: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ وَهُوَ

۱۵۷۸: ۱۵۷۸: ابن ابی خلف، احمد بن محمد، حضرت سفیان زہری، سعید سے روایت ہے کہ عمرؓ کا حسان بن ثابتؓ کے پاس سے گزر ہوا اور وہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے تو عمرؓ نے ان کی جانب دیکھا۔ حسانؓ نے بیان کیا کہ میں

تو مسجد میں اس وقت اشعار پڑھتا تھا جب کہ یہاں آپ سے بہترین صاحب (یعنی آنحضرت ﷺ) تشریف فرما ہوتے تھے۔

۱۵۷۹: احمد بن صالح، عبدالرزاق، معمر زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے اسی طریقہ سے روایت ہے البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو (اشعار پڑھنے سے) منع کروں تو وہ نبی کی اجازت کی دلیل پیش کریں گے اس وجہ سے ان کو اجازت عطا فرمائی گئی۔

۱۵۸۰: محمد بن سلیمان، ابن ابی الزناد، ان کے والد عروہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لئے مسجد میں منبر بچھاتے تھے وہ کھڑے ہو کر بھو (یعنی اشعار میں کفار کی مذمت بیان کرتے تھے) ان لوگوں کی جو کہ آنحضرت ﷺ کی شان اقدس میں بے ادبی کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا حسان کے ساتھ روح القدس (یعنی حضرت جبریل امین) ہیں جب تک کہ وہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے دفاع کرتے رہیں۔

يُنشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ -

۱۵۷۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَخَشِيَ أَنْ يَرْمِيَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ -

۱۵۸۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ لَوْثٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهَشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنبْرًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ يَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَعَ عَن رَسُولِ اللَّهِ -

مدد الہی:

مطلب یہ ہے کہ جب تک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا دفاع کرتے رہیں اور آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کی اشعار کے ذریعہ مذمت کرتے رہیں تو اس وقت تک حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ مدد الہی بھی شامل ہے۔

۱۵۸۱: احمد بن محمد، علی بن حسین، ان کے والد زید نخعی، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ یعنی شعراء کی وہ لوگ اتباع کرتے ہیں جو کہ گمراہ ہیں۔ اس حکم میں سے وہ لوگ مستثنیٰ ہو گئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ میں بیان فرمایا۔ یعنی گمراہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا۔

۱۵۸۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرَوِّزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَنْنَى فَقَالَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا -

باب: خواب کے بارے میں

۱۵۸۲: عبداللہ بن مسلمہ، مالک، الحنفی، زفر، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ

بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّؤْيَا

۱۵۸۲: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ زُفَرِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ يَقُولُ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا وَيَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ يَنْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہو جاتے تو فرماتے کیا تم لوگوں میں سے کسی شخص نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے (وصال کے) بعد نیک خواب کے علاوہ نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔

سچے خواب:

مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں آخری نبی ہوں میرے بعد نہ نبوت کے حصے پائے جائیں گے اور نہ نبوت رہے گی صرف نبوت کا ایک حصہ یعنی سچے خواب باقی رہ جائیں گے۔ مذکورہ بالا حدیث سے واضح ہے کہ سچے خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے خواب سچے اور بالکل درست ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتی۔ اسی طریقہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا چاند سورج اور گیارہ ستاروں کا خواب میں ان کو سجدہ کرنا اور اس کی تعبیر کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے اور خواب کی حقیقت اور اس کے متعلق تفصیلی بحث حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی میں بیان فرمائی ہے۔ مزید تفصیلی بحث وہاں ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہے۔ کتاب ”تعبیر نامہ خواب“ میں بھی تفصیل مذکور ہے۔

۱۵۸۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ۔

۱۵۸۳: محمد بن کثیر شعبہ قتادہ انس حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن کا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔

۱۵۸۴: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْدُرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ أَنْ تَكْذِبَ وَأَصْدَقَهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكُونُ فَلْيَقُمْ فَلْيَصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ قَالَ وَأَحَبُّ الْقَيْدِ وَأَكْرَهُ الْعُلَى وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ قَالَ

۱۵۸۴: قتیبہ عبد الوہاب ایوب محمد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جب زمانہ قریب آجائے گا (یعنی قیامت قریب آجائے گی) تو مسلمان کا خواب جھوٹ نہ ہوگا اور سب سے زیادہ اس شخص کا خواب سچا ہوگا کہ جس کی گفتگو سب سے زیادہ سچی اور صحیح ہوگی اور خواب تین قسم کے ہیں ایک تو بہتر خواب ہے وہ تو من جانب اللہ بشارت ہے۔ دوسرا خواب رنج و اذیت جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ تیسرے اپنے دل کے خیالات۔ پھر تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص خواب میں بری بات دیکھے تو (اس کو چاہئے کہ) کھڑے ہو کر نماز ادا کرے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خواب میں گلے میں زنجیر دیکھنا میں برا سمجھتا ہوں اور پیر میں بیڑی

ابو داؤد إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ يَعْنِي إِذَا اقْتَرَبَ
اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَعْنِي يَسْتَوِيَانِ۔
دیکھنا اچھا سمجھنا ہوں اسلئے کہ اسکے دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص دین
میں ثابت قدم رہے گا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ جملہ حدیث إِذَا
اقْتَرَبَ الزَّمَانُ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت شب و روز برابر ہوں
یعنی بہار کا موسم جو کہ اعتدال کا زمانہ ہوتا ہے۔

۱۵۸۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
أَخْبَرَنَا يَعْلى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ وَكَيْعِ بْنِ عُدْسٍ عَنْ
عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّؤْيَا عَلَى رَجُلٍ طَائِرٌ مَا لَمْ تُعْبَرْ
فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا
تُقَصِّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ۔
۱۵۸۵: احمد بن حنبل، ہشیم، یعلیٰ، کعب، ان کے چچا، حضرت ابورزین
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر بیان نہ کی
جائے۔ جب اس کی تعبیر بیان کر دی گئی تو اسی طرح سامنے آئے گا یعنی
جیسے تعبیر دی گئی اسی کے مطابق ہوگا۔ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال
ہے کہ آپ نے فرمایا خواب صرف دوست یا عقلمند آدمی کو بتاؤ۔

پرندہ کے پاؤں پر خواب ہونے کا مطلب:

پرندہ کے پیر پر خواب کے ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی خواب ٹھیک طرح نہیں جما اور نہ کی تعبیر قرار پائی اور خواب کی جیسی تعبیر
دے دی جائے تو اسی کے مطابق پیش آسکتا ہے۔ اس لئے ایسے ہی شخص سے تعبیر حاصل کی جائے جو اس فن سے اچھی طرح واقف
ہو اور صاحب فہم و فراست ہو اور دوست سے خواب بیان کرنے کا اس لئے حکم فرمایا گیا کیونکہ وہ دوست سے خیر خواہی کرے گا اور
عقل مند شخص سے تعبیر معلوم کرنے کی بھی یہ وجہ ہے کہ وہ تمام نشیب و فراز سمجھ کر اور خواب دیکھنے والے شخص کے حالات پر غور کر کے ہی
خواب کی تعبیر بیان کرے گا اور خواب کے سلسلہ میں مزید تحقیقی مباحث کتاب "تعطیر الانام فی تعبیر المنام" از علامہ شیخ عبد
الغنی نابلسی میں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۵۸۶: حَدَّثَنَا النَّفِیُّ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا
سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّؤْيَا
مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى
أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ لَمْ يَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ۔
۱۵۸۶: نفیسی، زہیر، یحییٰ بن سعید ابوسلمہ، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول کریم ﷺ سے سنا آپ فرماتے
تھے کہ سچے خواب اللہ کی جانب سے اور خراب خیالات اور پریشان کن
خواب شیطان کی طرف سے ہیں اس لئے تم لوگوں میں سے جب کوئی
شخص خواب میں برائی دیکھے تو اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے
اور اس کے بعد اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ برا خواب
اس شخص کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

۱۵۸۷: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ
بْنُ سَعِيدٍ النَّفِیُّ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا
۱۵۸۷: یزید بن خالد، قتیبہ بن سعید، لیث، ابوزبیر، حضرت جابر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص کوئی برا خواب دیکھے تو وہ اپنی

رَأَى أَحَدَكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَصُصْ عَنْ يَسَارِهِ
وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَيَتَحَوَّلْ عَنْ
جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ

بائیں جانب تھوک دے اور اللہ تعالیٰ کی تین مرتبہ شیطان سے پناہ
مانگے اور جس کروٹ پر (سورہا تھا) اسے بدل کر دوسری کروٹ لے
لے۔

۱۵۸۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ
رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسَيَّرَ ابْنِي فِي الْبِقِظَةِ أَوْ لَكَائِمًا
رَأَى فِي الْبِقِظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي۔

۱۵۸۸: احمد بن صالح، عبداللہ یونس، ابن شہاب، حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ
فرماتے تھے جو آدمی خواب میں مجھے دیکھے تو قریب ہے کہ وہ شخص
بیداری کی حالت میں دیکھے گا یا آپ نے اس طرح فرمایا (یہ راوی کو
شک ہے) گویا اس نے مجھے جاگنے کی حالت میں دیکھا اس لئے کہ
شیطان میری شکل و صورت نہیں بنا سکتا۔

خواب میں آپ ﷺ کی زیارت:

جس شخص نے خواب میں آنحضرت ﷺ کو دیکھا درحقیقت اس نے خواب میں آپ کو ہی دیکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو
یہ قدرت نہیں دی کہ وہ آپ کی شکل و صورت بنا سکے اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء اور فرشتوں کا بھی
یہی حکم ہے کہ شیطان ان کی بھی شکل و صورت نہیں بنا سکتا۔ لیکن پہلا قول زیادہ قوی اور علماء محققین کا مسلک ہے مزید تفصیل کے
لئے خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی از حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری اور جمع الوصائل شرح شمائل ترمذی میں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۵۸۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
صَوَّرَ صُورَةَ عَذْبَةِ اللَّهِ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى
يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَمَنْ تَحَلَّمَ كَيْلَفَ أَنْ
يَعْقِدَ شَعِيرَةً وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ
يَقْرُونَ بِهِ مِنْهُ صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْإِنُّكَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ۔

۱۵۸۹: مسدّد سلیمان بن داؤد حماد، ایوب، عکرمہ، حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے کسی
(جاندار) کی تصویر بنائی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عذاب دے
گا جب تک کہ وہ اس میں روح نہ پھونک دے مگر وہ نہیں پھونک سکے گا
اور جو شخص لوگوں کو جھوٹے خواب سناے تو اسے کہا جائے گا کہ وہ جو کے
دو دانوں کو گرہ لگائے اور جو شخص دوسروں کی بات پر کان لگائے جبکہ وہ
اپنی گفتگو اسے نہ سنانا چاہتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں
میں گھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ العیاذ باللہ

۱۵۹۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ
عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ تَكَانًا فِي
دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَإِنَّا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ
طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي

۱۵۹۰: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ثابت، حضرت انس بن مالک سے
روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو خواب
میں دیکھا کہ جیسے ہم لوگ عقبہ بن رافع کے مکان میں ہیں اور ہم لوگوں
کے پاس ابن طاب کی تروتازہ کھجوریں لائی گئیں تو میں نے اس کی یہ
تعبیر کی کہ ہم لوگوں کے لئے دنیا میں بلندی ہے اور ہمارا دین عمدہ اور

بہتر ہوگا۔ (ابن طاب عرب کی اعلیٰ قسم کی کھجور کا نام ہے)۔

الْآخِرَةَ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ۔

باب: جمائی لینے کا بیان

۱۵۹۱: احمد بن یونس، زہیر، سہیل، ابن ابی سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص جمائی لے تو وہ اپنا منہ بند کر لے کیونکہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔

باب مَا جَاءَ فِي التَّأْوُبِ

۱۵۹۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَيَّ فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ۔

۱۵۹۲: ابن علاء و کعب سفیان سے اسی طریقہ سے روایت ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے مذکور ہے کہ جب کسی کو نماز میں جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اپنا منہ بند کر لے۔

۱۵۹۲: حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ نَحْوَهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ۔

۱۵۹۳: حسن بن علی، یزید، ابن ابی ذئب، سعید بن ابی سعید، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی لینے کو برا سمجھتے پھر تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص جمائی لے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکے اور ہا ہا نہ کرے کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وہ انسان کی یہ حالت دیکھ کر ہنستا ہے۔

۱۵۹۳: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّأْوِبَ فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ هَاهُ هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ۔

چھینک اللہ کو پسند ہے:

چھینک اللہ تعالیٰ کو پسند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چھینک لینے کے بعد انسان کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے مسامات کھل جاتے ہیں اور طبیعت میں فرحت محسوس ہوتی ہے جس سے عبادت میں لذت آتی ہے اور جمائی کو نا پسند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمائی لینا سستی کی علامت ہے۔

باب: چھینکنا

۱۵۹۴: مسدد، یحییٰ، ابن عجلان، سہیل، ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھینک لیتے تو اپنا ہاتھ یا کپڑے کو منہ پر رکھ لیتے اور آپ ہلکی آواز سے چھینک لیتے۔

بَاب فِي الْعَطَّاسِ

۱۵۹۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَمِيِّ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ تَوْبَهُ عَلَيَّ فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ شَكَ يَحْيَىٰ۔

۱۵۹۵: محمد بن داؤد، حشیش، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

۱۵۹۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ وَحَشِيشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا

مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَحِبِّهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ۔

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں ہر ایک مسلمان شخص پر دوسرے مسلمان بھائی کے لئے واجب ہیں: (۱) ایک تو سلام کا جواب دینا (۲) چھینک کا جواب دینا (۳) دعوت منظور کرنا (۴) مریض کی عیادت کرنا (۵) جنازہ کے پیچھے چلنا۔ (تدقین کے لئے)

باب: چھینکنے والے شخص کا کس طرح جواب

باب كَيْفَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ!

دینا چاہئے؟

۱۵۹۶: عثمان بن ابی شیبہ جریز منصور حضرت ہلال بن یساف سے روایت ہے کہ ہم لوگ سالم بن عبید کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی نے چھینکا اور کہا السلام علیکم۔ سالم نے جواب دیا تم پر اور تمہارے ماں باپ پر سلام۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا میرا خیال ہے کہ تمہیں میری بات ناگوار لگی ہے۔ اس نے جواب دیا میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ میری والدہ صاحبہ کا نہ بھلائی اور نہ برائی سے تذکرہ کرتے۔ سالم نے جواب دیا تم سے میں نے وہی کہا جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ہم لوگ ایک دن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں میں سے کسی ایک نے چھینکا تو کہا السلام علیکم آپ نے ارشاد فرمایا تم پر اور تمہاری والدہ پر سلام ہو۔ پھر ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص چھینکے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اور جو شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہو تو وہ یرحمک اللہ کہے پھر چھینکنے والا شخص اس کا جواب دے یَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ۔

۱۵۹۷: تمیم بن منصر، اخیق بن یوسف ابو بشر منصور ہلال بن یساف خالد بن عرفہ حضرت سالم بن عبید اشجعی نے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

۱۵۹۸: موسیٰ بن اسماعیل عبدالعزیز عبداللہ عبداللہ بن دینار ابوصالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص چھینکے تو اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ کہے اور اس شخص کا بھائی یا ساتھی

۱۵۹۶: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ قَعَطَسَ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ لَعَلِّكَ وَجَدْتُ مِمَّا قُلْتَ لَكَ قَالَ لَوِ دِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّي بِخَيْرٍ وَلَا بَشَرًا قَالَ إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْمِدِ اللَّهَ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضُ الْمَحَامِدِ وَلَيَقُلُّ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلَيُرِيْدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ۔

۱۵۹۷: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يَوْسُفَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ وَرَفَاءَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْجَعِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ۔

۱۵۹۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلٰی

كُلِّ حَالٍ وَيُقَلُّ أَحْوَهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَيَقُولُ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ - يَرْحَمُكَ اللَّهُ كَبِيْرٌ وَهُوَ جَهَنَّمِيُّ وَالْأَخْفَصُ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ كَبِيْرٌ -

باب: کتنی مرتبہ چھینک کا جواب دیا جائے؟

باب گم مرّة یشمت العاطس

۱۵۹۹: مسدّد یحییٰ، ابن عجلان، سعید بن ابی سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو تین مرتبہ تک چھینک کا جواب دو پھر اگر کوئی شخص اس سے زیادہ چھینکے تو نزلہ اور زکام ہے۔

۱۵۹۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شِمْتُ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زَكَاةٌ -

۱۶۰۰: عیسیٰ بن حماد، لیث، ابن عجلان، سعید بن ابی سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم موسیٰ بن قیس، محمد بن عجلان، سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقہ پر روایت کیا ہے۔

۱۶۰۰: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

۱۶۰۱: ہارون بن عبد اللہ مالک بن اسماعیل، عبد السلام بن حرب، یزید بن عبد الرحمن، یحییٰ بن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ ان کی والدہ حمیدہ یا عبیدہ ان کے والد حضرت عبید بن رفاعہ زرقی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم چھینکنے والے شخص کو تین مرتبہ تک جواب دو اس کے بعد اگر تمہارا دل چاہے تو جواب دو چاہے جواب نہ دو (یعنی تین مرتبہ کے بعد جواب دینا ضروری نہیں ہے)۔

۱۶۰۱: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَشِمْتُ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَإِنْ شِمْتَ أَنْ تَشِمْتَهُ فَشِمْتَهُ وَإِنْ شِمْتَ فَكُفَّ -

۱۶۰۲: ابراہیم بن موسیٰ، ابن ابی زائدہ، عکرمہ بن عمار، ایاس بن سلمہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کے سامنے چھینکا آپ نے یَرْحَمُكَ اللَّهُ فرمایا پھر وہ شخص چھینکا تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو (ایسا محسوس ہوتا ہے کہ) زکام ہے۔

۱۶۰۲: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَارٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّجُلُ مَرْكُومٌ -

باب: کافر ذمی کی چھینک کا کس طریقہ سے جواب

باب کيف یشمت

الدِّمِّي

۱۶۰۳: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدِّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِالْكُفْرِ.

دینا چاہئے؟
۱۶۰۳: عثمان بن ابی شیبہ، کعب سفیان، حکیم حضرت ابوردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی چھینکا کرتے تھے اس توقع سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یَرْحَمُکُمُ اللّٰهُ فرمائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: يَهْدِيكُمْ اللّٰهُ وَيُصَلِّحُ بِالْكُفْرِ یعنی تم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور تمہارا قلب ٹھیک کر دے۔

باب: جس شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ نہ کہے تو؟
۱۶۰۴: احمد بن یونس زہیر (دوسری سند) محمد بن کثیر سفیان سلیمان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھینکا آپ نے ایک کو جواب یعنی يَرْحَمُکُمُ اللّٰهُ فرمایا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دو آدمیوں کو چھینک آئی۔ آپ نے ایک شخص کو تو جواب عنایت فرمایا اور دوسرے کو نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص نے چھینکنے کے وقت الحمد للہ کہا تھا اور دوسرے نے الحمد للہ نہیں کہا تھا (اس لئے میں نے دوسرے شخص کو جواب نہیں دیا)۔

باب فِيمَنْ يَعْطَسُ وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ
۱۶۰۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَنَسِ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ فَسَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ قَالَ لَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلَانِ عَطَسَا فَسَمَّتْ أَحَدَهُمَا قَالَ أَحْمَدُ أَوْ فَسَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَتْ الْآخَرَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ.

أَبْوَابُ النَّوْمِ

نیند کے بارے میں

باب: اگر کوئی پیٹ کے بل لیے تو کیسا ہے؟
۱۶۰۵: محمد بن ثنیٰ معاذ بن ہشام یحییٰ بن ابی کثیر ابوسلمہ حضرت یعیش بن طلحہ ان کے والد طلحہ بن قیس الغفاری سے روایت ہے کہ میرے والد ماجد اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہمارے ہمراہ (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلو تو ہم گئے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا ہم کو کھانا کھلا دو وہ ساگ کی قسم کا کھانا لے کر تشریف لائیں وہ ہم نے کھایا۔ پھر آپ

باب فِي الرَّجُلِ يَنْبَطِحُ عَلَى بَطْنِهِ
۱۶۰۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَعِيشَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ قَيْسِ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّمَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَيْتِ

نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا ہم کو کھانا کھلاؤ۔ وہ چہیا کے برابر قمیص (عرب کا خاص کھانا) لے کر تشریف لائیں ہم نے وہ بھی کھایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا ہم کو پلاؤ سو وہ دودھ کا ایک بڑا پیالہ لے کر آئیں ہم نے پیا پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا ہم کو پلاؤ۔ وہ ایک چھوٹا پیالہ لے کر آئیں ہم نے پیا۔ پھر آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا تمہارا دل چاہے تو سو جاؤ ورنہ مسجد میں چلو۔ میرے والد نے کہا ہے کہ میں صبح کے وقت مسجد میں سینے کے درد کی وجہ سے اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ ایک شخص نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور یہ کہنے لگا کہ ایسا لیٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ (راوی کہتے ہیں کہ) جب میں نے دیکھا تو آنحضرت ﷺ تھے۔

عَائِشَةُ فَأَنْطَلَقْنَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مَعِلِ الْقَطَاةِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فَشَرِبْنَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ بَيْتُكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَيِنَّمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنْ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يَبْفُضُهَا اللَّهُ قَالَ فَتَنَطَّرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

باب: جو آدمی کسی چھت پر سوائے کہ جس پر کوئی

باب فِي النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ

رکاوٹ نہ ہو

غَيْرِ مُحَجَّرٍ

۱۶۰۶: محمد بن ثنی، سالم بن نوح، عمرو بن جابر، حضرت عبدالرحمن بن علی بن شیبان اپنے والد حضرت علی بن شیبان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر کی چھت پر سوائے کہ جس پر رکاوٹ نہ ہو تو اس شخص کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے (اگر گر کر مر گیا تو کوئی ذمہ داری نہیں)

۱۶۰۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرِ الْحَنْفِيِّ عَنْ وَعَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَثَّابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الدِّمَةُ -

ذمہ سے آزاد شخص:

مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی ذمہ داری نہیں رہی وہ خود ہی اپنی ہلاکت اپنے ہاتھوں کر رہا ہے۔ شریعت نے انسان کو اپنی حفاظت کا حکم دیا ہے اور خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ یعنی تم لوگ خود اپنے کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔

باب: با وضو ہونا

باب فِي النَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ

۱۶۰۷: موسیٰ بن اسماعیل، حماد عاصم، شہر بن حوشب، ابو ظبیہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان شخص یا دلہی کر کے با وضو سوائے پھر رات میں

۱۶۰۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادُ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

چونکہ کر اللہ تعالیٰ سے دُنیا یا آخرت کی بھلائی مانگتے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ عنایت فرمائے گا۔ ثابت بنانی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس ابو ظبیہ (بصرہ میں) تشریف لائے اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ثابت بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بیان کیا کہ میں نے بیدار ہوتے وقت ان ذکر واذکار کے پڑھنے کی بہت سعی کی لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔

۱۶۰۸: عثمان بن ابی شیبہ وکیع، سفیان، سلمہ بن کھیل، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی پھر ہاتھ منہ دھو کر سو گئے۔

باب: جس وقت انسان سوئے تو کس طرف چہرہ

کرے؟

۱۶۰۹: مسدّد حماد خالد ابوقلابہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ دار سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اس طریقہ سے بچھا کرتا تھا کہ جس طریقہ سے انسان قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے اور مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہانے (سوتے وقت) ہوتی تھی۔

باب: سوتے وقت کیا دعا مانگے؟

۱۶۱۰: موسیٰ بن اسماعیل، ابان، عاصم، معبد، سواہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے زخار مبارک کے نیچے رکھ لیتے اور ارشاد فرماتے: اَللّٰهُمَّ فِیْیَ عَذَابِكَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ یعنی اے اللہ! مجھے آپ اپنے عذاب سے بچالیں جس روز کہ آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ (یعنی قیامت کے دن)

۱۶۱۱: مسدّد، معتز، منصور، سعد بن عبیدہ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم سونے لگو تو وضو کرو جس طریقہ سے نماز کے لئے وضو کرتے ہو پھر دائیں کروٹ پر

قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ بَيْتٍ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرٍ فَيَتَعَارَىٰ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ظَبْيَةَ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَابِتٌ قَالَ فَلَانَ لَقَدْ جَاهَدْتُ أَنْ أَقُولَهَا حِينَ أَنْبَعْتُ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا۔

۱۶۰۸: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَهَضَى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي بَالَ۔

باب كَيْفَ يَتَوَجَّهُ الرَّجُلُ

عِنْدَ النَّوْمِ!

۱۶۰۹: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلْمَةَ كَانَ لِرَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ الْإِنْسَانُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ۔

باب مَا يَقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ

۱۶۱۰: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَوَّاءٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ فِیْیَ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ فَلَا تَكْ مِرَارًا۔

۱۶۱۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبِيدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِي

لیٹو اور کہو (یعنی یہ دُعا مانگو) اَللّٰهُمَّ اسْئَلُكَ وَنَجِّنِيْ عِنْدَ اللّٰهِ مِثْلَ
خود کو آپ کا فرمانبردار بنالیا اور میں نے تمام کام آپ کو سونپ دیئے اور
میں نے آپ کی ذات سے اپنی پیٹھ کا سہارا حاصل کیا۔ رغبت اور ڈر
صرف آپ کا ہے آپ سے بھاگ کر آپ ہی کی طرف ٹھکانہ اور
جائے نجات ہے۔ میں آپ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا اور آپ
کے نبی مرسل پر بھی ایمان لایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا انتقال
ہو جائے گا تو تمہارا انتقال دین اسلام پر ہوگا اور تم سب سے اخیر میں
یہ دُعا پڑھا کرو۔ براء نے بیان کیا کہ میں اس دُعا کو یاد کر لیتا ہوں تو
میری زبان سے نکل گیا و بِرَسُولِكَ الَّذِيْ اُرْسَلْتُ اَنْتَ اُرْسَلْتُ
نہیں اس طریقہ سے نہیں (بلکہ اس طریقہ سے ہے) وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ
اُرْسَلْتُ۔

۱۶۱۲: مسدّد یحییٰ، فطر سعد، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے کہ
جب تم اپنے بستر پر با وضو جاؤ تو تم اپنے دائیں ہاتھ کا تکیہ کر لو آگے
سابقہ حدیث ہے۔

۱۶۱۳: محمد بن عبد الملک، محمد بن یوسف سفیان، اعمش، منصور سعد بن
عبیدہ، حضرت براء رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقہ سے
روایت کیا ہے اور اس میں اس طریقہ سے ہے کہ ایک راوی نے یہ بیان
کیا کہ جب تم طہارت کی حالت میں بستر پر آؤ دوسرے راوی نے
بیان کیا کہ تم نماز جیسا وضو کرو۔

۱۶۱۴: ابوبکر بن ابی شیبہ، وکیع، سفیان، عبد الملک بن عمیر، ربیع، حذیفہ
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو فرماتے
(یعنی یہ دُعا مانگتے) اے اللہ میں آپ کے ہی نام پر زندہ ہوں اور آپ
ہی کے نام پر مروں گا اور آپ جس وقت بیدار ہوتے تو فرماتے اس
اللہ کا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور ہم

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَيْتَ
مَضَجَعَكَ فَتَوَضَّأَ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ
اضْطَجَعَ عَلٰى سَيْفِكَ الْاَيْمَنِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ
اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ
وَالْبَجَاتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَعْبَةً اِلَيْكَ لَا
مَلْجَا وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ
الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اُرْسَلْتَ قَالَ اِنْ
مِتَّ مِتَّ عَلٰى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَقُولُ
قَالَ الْبَرَاءُ فَقُلْتُ اَسْتَدْرِكُهُنَّ فَقُلْتُ
وَبِرَسُولِكَ الَّذِيْ اُرْسَلْتُ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ
اُرْسَلْتُ۔

۱۶۱۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ فِطْرِ بْنِ
خَلِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ قَالَ
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ
اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُرَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ وَاَنْتَ طَاهِرٌ
فَتَوَسَّدْ يَمِيْنِكَ ثُمَّ ذَكَرْ نَحْوَهُ۔

۱۶۱۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَالِيُّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
الْاَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ
الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ
اَعَدَّهُمَا اِذَا اَتَيْتَ فِرَاشَكَ طَاهِرًا وَقَالَ الْاٰخَرُ
تَوَضَّأَ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ وَسَاقَ مَعْنٰى مُّتَمِّمٍ۔

۱۶۱۴: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيْرٍ
عَنْ رَبِيْعٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَامَ قَالَ اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اٰحِبًّا
وَأَمُوْتٌ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ

أَحْيَانًا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔

سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

۱۶۱۵: احمد بن یونس، زہیر، عبید اللہ، سعید بن ابی سعید، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے (آرام کرنے کے لئے) تو اس کو اپنے تہبند (غیرہ) کے کونے سے جھاڑ لے اس لئے کہ اس کو علم نہیں کہ اس کے پیچھے کون آیا ہے۔ چہرہ شخص دائیں کروٹ پر لیٹ جائے اور (یہ) پڑھے بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ الخ یعنی اے میرے رب میں آپ کے نام پر اپنی کروٹ زمین پر رکھتا ہوں اور میں آپ کے نام پر (سے کروٹ) اٹھاؤں گا اگر آپ میری روح کو روک لیں تو اس پر رحم فرمانا اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو اس کی حفاظت فرما جس طریقہ سے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔

۱۶۱۶: موسیٰ بن اسماعیل، وسیب (دوسری سند) وہب بن بقیہ، خالد سمیل، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے (سونے کے لئے) تو آپ فرماتے (یعنی یہ دُعا مانگتے) اَللّٰهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ یعنی اے اللہ! آسمانوں، زمین کے مالک اور ہر ایک چیز کے پالنہار، چیرنے والے دانے اور گٹھلی کے، تورات، انجیل، قرآن کریم کے نازل فرمانے والے میں آپ سے ہر ایک فتنہ فساد کرنے والے سے پناہ مانگتا ہوں جو کہ آپ کے قبضہ میں ہے آپ سب سے پہلے ہیں آپ سے پہلے کچھ نہیں اور آپ سب کے بعد ہیں گے آپ کے بعد کچھ نہیں ہے آپ ظاہر ہیں آپ سے اُونچا کوئی نہیں ہے آپ پوشیدہ ہیں آپ سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں آپ میرا قرض ادا فرما دیجئے اور مجھ کو میری محتاجی سے بے نیاز کر دیجئے۔

۱۶۱۷: عباس، احوص، عمار، ابو اسحق، حارث اور ابو میسرہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دُعا مانگتے: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ یعنی اے اللہ! میں آپ کے چہرہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کہ بزرگی والا ہے اور آپ

۱۶۱۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَى أَحَدَكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنَبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أُرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ۔

۱۶۱۶: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَرَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنَزِّلِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ زَادَ وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ أَفْضَ عَنِّي الدِّينَ وَأَغْنِيَنِ مِنَ الْفَقْرِ۔

۱۶۱۷: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ يَعْنِي ابْنَ جَوَّابٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ وَأَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

شُرک سے پاک کرتی ہے۔

حَاتِمَتَهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرِكِ۔

۱۶۲۱: قمیہ بن سعید یزید بن خالد بن موہب، مفضل، عقیل، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے ہر ایک رات میں تو (پہلے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے پھر ان میں پھونک مارتے اور قُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور قُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھتے پھر جہاں تک ممکن ہوتا اپنے تمام بدن پر ہاتھ پھیرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تھے اپنے سر اور چہرہ سے اور جسم کے سامنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تین مرتبہ کرتے۔

۱۶۲۱: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الْهُمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِيانَ ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَكَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

۱۶۲۲: بل بن فضل، بقیہ، بحیر، خالد، ابن ابی بلال، عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل مسجات پڑھتے تھے اور فرماتے کہ ان میں ایک آیت کریمہ ہے جو کہ ہزار آیات کریمہ سے بہتر ہے۔

۱۶۲۲: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ عَرَابِضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمَسْبُوحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرُقُدَ وَقَالَ إِنَّ فِيهِنَّ آيَةَ الْفَضْلِ مِنَ اللَّهِ آيَةً۔

مسجات کا مفہوم:

مسجات ان سورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ابتداء میں سَبَّحَ یا يُسَبِّحُ ہے۔ احادیث میں مسجات کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ مثلاً سورۃ الحديد، الحشر، الصافات، التين، اور سورۃ الاعلى۔

۱۶۲۳: علی بن مسلم، عبدالصمد، ان کے والد، حسین، ابن بریدہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعاء پڑھتے: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي.....)) یعنی اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری ہر ایک قسم کی آفت سے حفاظت فرمائی اور مجھے ٹھکانہ عطا فرمایا اور کھلایا اور پلایا اور جس نے مجھ پر احسان کیا تو بڑا احسان کیا اور مجھے عطا فرمایا تو بہت عطا فرمایا ہر ایک حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو کہ ہر ایک شے کے پالن ہار ہیں اور ہر ایک شے کے مالک ہیں اور ہر ایک شے کے معبود ہیں دوزخ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔

۱۶۲۳: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔

۱۶۲۴: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا
لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

۱۶۲۴: حامد بن یحییٰ، ابو عاصم، ابن عجلان، مقبری، حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا جو شخص بستر پر لیٹتے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد نہ کرے تو اس کو قیامت
کے دن افسوس ہوگا اور جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے
قیامت کے روز اس کو شرمندگی اور حسرت ہوگی۔

الحمد لله وبفضلہ پارہ نمبر: ۳۱ مکمل ہوا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پارہ ۳۲

باب: انسان کی جب رات میں آنکھ کھل جائے تو کیا
دُعایا مانگے؟

۱۶۲۵: عبد الرحمن، ولید اوزاعی، عمیر بن ہانی، جنادہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی رات میں بیدار ہو جائے اور آنکھ کھلنے کے وقت یہ دعایا مانگے:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) پھر یہ پڑھے: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) اے میرے پروردگار میرے گناہ معاف فرما دیجئے تو اس شخص کی دعا قبول ہوگی اور اگر کھڑا ہو اور وضو کرے پھر نماز ادا کرے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔

باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا
تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ

۱۶۲۵ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي جِنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ دَعَا رَبَّ اغْفِرْ لِي قَالَ الْوَلِيدُ أَوْ قَالَ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

۱۶۲۶: حاد، ابو عبد الرحمن، سعید، عبد اللہ بن ولید، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو فرماتے: تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اے اللہ تو پاک ہے میں تجھ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ! میرے علم میں اضافہ فرما ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر اور اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرما بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔

۱۶۲۶: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَيْقِظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

باب: سوتے وقت سبحان اللہ کی فضیلت کا بیان

۱۶۲۷: حفص بن عمر شعبہ (دوسری سند) مسدذ یحییٰ شعبہ حکم بن ابن ابی لیلیٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے آنحضرت ﷺ سے اس تکلیف کی شکایت فرمائی جو کہ ان کو چکی پینے سے پہنچتی تھی۔ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں (مشرکین کے) قیدی لائے گئے تو ایک خادم مانگنے کے لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں لیکن آپ نہیں ملے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرما کر چلی گئیں۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے بیان کیا (کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک خادم مانگنے کے لئے تشریف لائی تھیں) یہ بات سن کر آنحضرت ﷺ ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے ہم لوگ سونے کے لئے اپنے اپنے بستروں پر جا چکے تھے ہم لوگوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا نہیں کچھ ضروری نہیں تم لوگ اپنی جگہ رہو پھر آپ تشریف لا کر میرے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تشریف فرما ہوئے یہاں تک

کہ میرے سینہ کو آپ کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جس کا تم نے سوال کیا ہے؟ تم لوگ جب سونے کا ارادہ کرو تو ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ کہو اور ۳۳ مرتبہ الحمد للہ کہو اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر کہو یہ (عمل) تم لوگوں کے لئے ایک خادم سے بہتر ہے۔

۱۶۲۸: مؤول اسماعیل جریری ابو الورد بن ثمامہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابن اعبد سے بیان کیا کہ میں تم سے اپنا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا صاحبزادی رسول کی حالت ذکر نہ کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کو تمام اہل خانہ سے زیادہ لاڈلی تھیں۔ وہ میری خدمت میں رہیں انہوں نے چکی پیسی یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں نشانات پڑ گئے اور انہوں نے مشک سے پانی بھرا یہاں تک کہ ان کے سینے پر نشان (زیادہ مشقت کرنے کی وجہ سے) پڑ گئے۔ اور انہوں نے مکان میں جھاڑو دی یہاں تک کہ ان کے تمام کپڑے گرد و غبار میں بھر گئے اور انہوں نے ہانڈی پکائی یہاں تک کہ ان کے کپڑے (دھوئیں

باب فی التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ

۱۶۲۷: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْمَعْنَى عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ شَكَّتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلَقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى فَأَتَى بِسَبِي فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ فَلَمْ تَرَهُ فَأَخْبِرَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرَتْهُ فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ عَلِيُّ مَكَانِكُمْ فَجَاءَ فَفَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَيَّ صَدْرِي فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمْ فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ۔

۱۶۲۸: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الشُّكْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثَمَامَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ لِابْنِ أَعْبَدَةَ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَكَانَتْ عِنْدِي فَجَعَرْتُ بِالرَّحَى حَتَّى أَكْرُتُ بِيَدِهَا وَاسْتَقَّتْ بِالْقُرْبَةِ حَتَّى أَكْرُتَ لِي نَحْوَهَا وَقَمَّتْ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابَهَا وَأَوْقَدَتْ الْقِدْرَ حَتَّى ذَكَنْتُ ثِيَابَهَا وَأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ

سے) سیاہ ہو گئے اور ان کو تکلیف رہنے لگی پھر ہم لوگوں نے یہ بات سنی کہ چند غلام خدمت نبوی میں لائے گئے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے میں نے عرض کیا کاش تم اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور ان سے ایک خادم مانگتیں جو تمہاری خدمت کے لئے کافی ہوتا یہ بات سن کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور دیکھا کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے بوجہ حیا کچھ عرض نہ کیا اور واپس آ گئیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت آنحضرت ﷺ ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے ہم لحاف اوڑھے ہوئے تھے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر ہانے تشریف فرما ہوئے انہوں نے والد ماجد کے لحاظ سے اپنا سر لحاف کے اندر کر لیا۔ آپ نے دریافت فرمایا: آپ کو آل محمد سے کیا کام تھا جو تم کل آئیں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دو مرتبہ یہ سن کر خاموش رہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ ﷺ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے چکی پیسی اس قدر کہ ان کے (مبارک) ہاتھوں

ضُرُّ كَسِمِعْنَا أَنْ رَقِيقًا آتَى بِهِمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتَ أَبَاكَ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا يَكْفِيكَ فَآتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حَدَانًا فَاسْتَحَيْتُ فَوَجَعَتْ فَعَدَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي لِفَاعِنَا فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَأَدْخَلَتْ رَأْسَهَا فِي اللَّفَاحِ حَيَاءً مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتِكَ أُنْسٍ إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَسَكَتُ مَرَّتَيْنِ فَقُلْتُ أَنَا وَاللَّهِ أَحَدْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ جَرَتْ عِنْدِي بِالرَّحَى حَتَّى أَثْرَتْ فِي يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقُرْبَةِ حَتَّى أَثْرَتْ فِي نَحْرِهَا وَكَسَحَتْ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْقَدَتْ الْقِدْرَ حَتَّى ذَكَّتْ ثِيَابُهَا وَبَلَّغْنَا أَنَّهُ قَدْ آتَاكَ رَقِيقٌ أَوْ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَهَا سَلِيهِ خَادِمًا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحَكَمِ وَأْتَمَّ -

میں نشان ہو گئے اور مشکین بھر بھر کے پانی لائیں یہاں تک کہ سینہ میں اس کا نشان پڑ گیا اور انہوں نے گھر میں جھاڑودی یہاں تک کہ ان کے کپڑے غبار آلود ہو گئے اور انہوں نے کھانا پکایا یہاں تک کہ ان کے کپڑے سیاہ ہو گئے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی خدمت میں غلام باندی لائے گئے ہیں۔ اس بنا پر میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ سے ایک خادم مانگ لیں پھر حدیث کو اخیر تک بیان کیا جس طریقہ سے اوپر حدیث مذکور ہوئی اور وہ روایت زیادہ کامل ہے۔

۱۶۲۹: عباس بن عمری، عبدالملک، عبدالعزیز، یزید بن ہاد، محمد بن کعب، شہب بن ربعی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقہ سے روایت کیا ہے کہ جس طرح اوپر مذکور ہے اور اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا پھر میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تسبیح کو کبھی مانگا نہیں کیا مگر صفین کی رات میں مجھ کو آخر شرب میں یاد آیا۔ میں نے اسی وقت اس کو پڑھ لیا۔

۱۶۲۹: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ عَنْ شَبِّبِ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيهِ قَالَ عَلِيُّ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لَيْلَةَ صِقْيِنَ فَإِنِّي ذَكَرْتُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا -

۱۶۳۰: حفص بن عمر، شعبہ، عطاء، ان کے والد، عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا دو قسم کی خصلت و عادتیں ہیں جو

۱۶۳۰: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مسلمان شخص ان کو ہمیشہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ صلت عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے لوگ کم ہیں۔ ہر ایک نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ کہنا اور دس مرتبہ الحمد للہ کہنا اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہنا پس یہ کل ملا کر زبان کے اعتبار سے تو ایک سو پچاس مرتبہ ہوئے اور قیامت کے دن میزان (نامہ اعمال وزن کرنے کی ترازو) میں ایک ہزار پانچ سو مرتبہ ہوں گے (اس لئے کہ انسان کے ہر نیک عمل کا اجر دس گنا ہوتا ہے) اور سوتے وقت ۳۲ مرتبہ اللہ اکبر، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا یہ زبان سے ایک سو مرتبہ ہوئے اور میزان میں ایک ہزار مرتبہ ہوں گے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے نبیؐ کو دیکھا آپ تسبیحات کو انگلیوں سے شمار فرماتے تھے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں کام آسان ہیں پھر ان پر عمل کرنے والے کم کس طریقہ سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شیطان ان کلمات کے پڑھنے سے قبل سلا دیتا ہے اسی طریقہ سے نماز کے اندر کوئی کام یا دولا دیتا ہے پھر وہ شخص ان تسبیحات کے پڑھنے سے قبل چلا جاتا ہے۔

۱۶۳۱: احمد بن صالح، عبد اللہ عیاش، حضرت فضل بن حسن ضمری کہتے ہیں کہ ابن اُمّ حکم یا ضامہ بنت زینب میں سے کسی ایک نے ان سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں قیدی حاضر ہوئے تو میں اپنی ہمشیرہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کے ہمراہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ہم نے اپنی محنت و مشقت کی حالت عرض کی اور ہم نے قیدیوں میں سے ایک ایک غلام باندی مانگے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے غزوہ بدر کی کچھ یتیم آگئے تھے اور غلام باندی ان میں تقسیم ہو گئے اس کے بعد تسبیح کا واقعہ عرض کیا لیکن نماز کے بعد کا ذکر کیا۔ سونے سے قبل نہیں بیان کیا۔

عَمْرُو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَصَلْتَانِ أَوْ خَلْتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ هَمًا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيَكْتَبِرُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَالْفُؤَادِ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَيَكْتَبِرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَالْفُؤَادِ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْصِمُهَا بِيَدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ يَعْنِي الشَّيْطَانَ فِي مَنَامِهِ فَيَنُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَذْكُرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا۔

۱۶۳۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ ابْنَ أُمِّ الْحَكَمِ أَوْ ضَبَاعَةَ ابْنَتِي الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ سَيِّئًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ النَّسِيحِ قَالَ عَلَى أَثَرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّوْمَ۔

باب: بوقت صبح کیا دعا مانگے؟

باب ما يقول إذا أصبح

۱۶۳۲: مسند ہشیم، یعلیٰ، عمرو بن عاصم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۶۳۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى

سے روایت ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھ کو کلمات کا حکم فرمائیں کہ جن کو میں صبح و شام پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا تم ((اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَشَرِيكِهِ)) تک پڑھ لیا کرو یعنی اے اللہ آسمان و زمین کے خالق حاضر و غیب کے مالک اور ہر ایک شے کا مالک و مختار میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شرک سے یا مکرو فریب سے پناہ مانگتا ہوں تم ان کلمات کو سوتے وقت اور صبح و شام پڑھ لیا کرو۔

۱۶۳۳: موسیٰ بن اسماعیل وہیب سہل انکے والد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صبح کے وقت یہ دُعا فرماتے اے اللہ ہم نے آپ کے نام پر صبح کی اور آپ کے نام پر شام کی اور ہم آپ کے نام پر زندہ ہیں اور آپ کے نام پر مرتے ہیں اور مرنے کے بعد آپ کی ہی طرف لوٹ کر جائیگے اور آپ شام کے وقت یہ پڑھتے اے اللہ ہم نے آپ کے ہی نام پر شام کی اور ہم آپ کے ہی نام پر زندہ ہیں اور آپ کے ہی نام پر مرتے ہیں اور ہم مرنے کے بعد آپ کی ہی طرف لوٹ کر جائیگے۔

۱۶۳۴: احمد بن صالح محمد بن ابی فدیك عبد الرحمن ہشام مکیول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام یہ دُعا مانگے: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ)) الخ یعنی اے اللہ میں نے صبح کی۔ میں آپ کو اور آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اور باقی فرشتوں کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ آپ اللہ ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور بلاشبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا چوتھائی حصہ دوزخ سے آزاد فرمادے گا۔ اگر دو مرتبہ پڑھے تو آدھا حصہ آزاد فرمائے گا۔ اگر تین مرتبہ پڑھے تو تین چوتھائی آزاد فرمائے گا اگر چار مرتبہ پڑھے تو دوزخ سے مکمل آزاد فرمائے گا۔

۱۶۳۵: احمد بن یونس زہیر ولید ابن بریدہ انکے والد بریدہ سے روایت

بُنْ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهِ قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ۔

۱۶۳۳: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا سَهْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔

۱۶۳۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فَدِيكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَزَّازِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مَكْحُولِ الدَّمَشَقِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ۔

۱۶۳۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

۱۶۳۷: حفص بن عمر شعبہ ابو عقیل سابق بن ناجیہ ابوسلام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حص کی مسجد میں تھے کہ ایک شخص گزرا۔ لوگوں نے عرض کیا یہ شخص آنحضرت ﷺ کا خادم ہے (چنانچہ) اس شخص کے پاس ابوسلام پہنچے اور کہا کہ تم مجھ سے ایسی حدیث بیان کرو جو کہ تم نے خاص آنحضرت ﷺ سے سنی ہو درمیان میں کسی (راوی کا) واسطہ نہ ہو۔ اس شخص نے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو آدمی صبح و شام یہ دُعا مانگے: ((رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا)) یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کی رسالت پر راضی ہوئے تو یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اسے خوش کر دے۔

۱۶۳۸: احمد بن صالح، یحییٰ، اسماعیل، سلیمان، ربیعہ، عبد اللہ بن عسبہ، حضرت عبد اللہ بن غنم بیاضی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کو یہ پڑھے: ((اللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِئِي لَهَ الشُّكْرِ)) تک یعنی اے اللہ میرے پاس صبح کو جو نعمتیں ہیں وہ آپ کی ہی عنایت کی ہوئی ہیں آپ تمہاں آپ کا کوئی شریک و حصہ دار نہیں ہے۔ تمام تعریف آپ کے ہی شایان شان ہے میں آپ کا ہی شکر ادا کرتا ہوں تو اس شخص نے اس روز کا شکر ادا کر دیا پھر جو شخص شام کے وقت یہ پڑھے اس نے رات کا شکر ادا کر دیا۔

۱۶۳۹: یحییٰ بن موسیٰ، وکیع (دوسری سند) عثمان بن ابی شیبہ ابن نمیر، عبادہ، حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا وہ کہتے تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دُعا پڑھتے اور ناعہ نہ فرماتے: ((اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ اسْتُرْعَوْرَتِيْ)) تک یعنی اے اللہ! میں آپ سے دُنیا اور آخرت میں صحت و عافیت چاہتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے دین و دُنیا خاندان اور مال و دولت میں غنودر گزر اور عافیت چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہماری ستر چھپا دے اور ہمارے قلوب کو امن عطا فرما۔ اے اللہ میرے سامنے سے اور پیچھے سے میری حفاظت فرما اور دائیں اور بائیں جانب اور اوپر

۱۶۳۷: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَامٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حَفْصِ قَمَرًا بِرَجُلٍ فَقَالُوا هَذَا خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدِيثِي بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلَهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرَّجَالُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ۔

۱۶۳۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَا حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَمِ الْبِيَّاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِئِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مَعْلُ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ۔

۱۶۳۹: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخَعِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُ هَوْلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَاهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ

کی جانب سے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک ہوں (وکج نے بیان کیا کہ یعنی میں زمین میں نہ دھنس جاؤں)

۱۶۳۰: احمد بن صالح، عبداللہ بن وہب، عمرو، حضرت عبدالحمید سے جو کہ قبیلہ بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام ہیں روایت ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ نے آنحضرت ﷺ کی کسی صاحبزادی سے روایت کیا جن کی وہ خدمت کرتی تھیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو سکھلایا کہ تم صبح کے وقت یہ پڑھا کرو: ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) تک یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوں اور اس کی تعریف کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں قوت و طاقت نہیں وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا اور وہ جس کام کو نہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ مجھ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک شے پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو شخص ان کلمات کو صبح کے وقت پڑھے گا وہ شام تک محفوظ رہے گا اور جو شخص شام کے وقت پڑھے گا وہ صبح تک (ہر ایک قسم کی آفت سے) محفوظ رہے گا۔

۱۶۳۱: احمد بن سعید (دوسری سند) ربیع بن سلیمان، ابن وہب، لیث، سعید بن بشیر، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، ان کے والد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی صبح کے وقت یہ کہے: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی شام اور صبح کے وقت پاکی بیان کرو اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس قدر لوگ آسمانوں و زمین میں ہیں اور اس کی پاکی بیان کرو تیسرے پہر اور بوقت دو پہر مذکورہ (اور آیت کریمہ کے جملہ) ﴿تُخْرَجُونَ﴾ تک پڑھے تو اس شخص کے ہاتھ سے اس دن جس قدر اجر و ثواب جاتا رہا وہ اس کو حاصل کر لے گا اور جو شخص ان کلمات کو شام کے وقت کہے گا وہ شخص رات کا ثواب جو اس سے ضائع ہو گیا ہو حاصل کر لے گا (یعنی یہ دعائیں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا)

۱۶۳۲: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، وہیب، سہیل، ان کے والد، حضرت

عُورَيِّ وَقَالَ عُمَانُ عُورَيِّ وَأَمِنْ رَوْعَالِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ وَكَيْعَ يَعْنِي الْخَسْفَ -

۱۶۳۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ سَالِمَةَ الْفَرَّاءَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ وَكَانَتْ تَخْدِمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُولُ قَوْلِي حِينَ تُصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ -

۱۶۳۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا وَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرِ النَّجَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ الرَّبِيعُ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَيَّ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ قَالَ الرَّبِيعُ عَنِ اللَّيْثِ -

۱۶۳۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ

ابوعیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی بوقت صبح یہ پڑھے: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ)) تو اس کو غلام باندی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہو اس کے آزاد کرنے کا اجر ملے گا اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس برائیاں معاف ہوں گی دس درجات بلند ہوں گے اور وہ شیطان کے شر سے شام تک محفوظ رہے گا۔ اور اگر شام کے وقت یہ کہے تو (اس کا) صبح تک یہی حال رہے گی (یعنی وہ صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا) حماد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوعیاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوعیاش سچے ہیں امام ابوداؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو اسماعیل موسیٰ عبد اللہ نے سہیل ان کے والد ابن عائش سے روایت کیا۔

رَوَيْبٌ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَائِشٍ وَقَالَ حَمَادٌ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلٌ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُيِّبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ فِي حَدِيثٍ حَمَادٍ فَرَأَى رَجُلًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يَحَدِّثُ عَنْكَ بَكْدًا وَكَذًّا قَالَ صَدَقَ أَبُو عَيَّاشٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُوسَى الزَّمْعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَائِشٍ -

۱۶۴۳: اسحاق بن ابراہیم، محمد بن شعیب، ابوسعید فلسطینی، حارث بن مسلم ان کے والد حضرت مسلم بن حارث تميمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی کہ تم جب نماز مغرب سے فراغت حاصل کر لو تو سات مرتبہ ((اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ)) یعنی اے اللہ مجھ کو دوزخ سے بچالینے پڑھ لیا کرو تم جب یہ (دعا) پڑھ لو اور اسی رات میں تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے لئے دوزخ سے پناہ لکھی جائے گی اور جب تم نماز فجر پڑھ کر یہ پڑھو پھر اس روز تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری دوزخ سے پناہ لکھی جائے گی۔ محمد بن شعیب نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوسعید نے بیان کیا کہ حارث بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خاموشی سے ہم سے یہ بیان فرمایا اس وجہ سے ہم لوگ اپنے خاص بھائیوں سے اس (عمل) کو بیان کرتے ہیں۔

۱۶۴۳: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْفَلَسْطِينِيُّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَسْرَأَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَنْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ نَمَّ فِي لَيْلَتِكَ كُيِّبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ مَنَّ فِي يَوْمِكَ كُيِّبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ أَسْرَهَا إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَنَحَّنُ نَحْصُ بِهَا إِخْوَانَنَا -

۱۶۴۴: عمرو بن عثمان، مؤمل بن فضل، علی بن سہیل، محمد بن مصعب تميمی سے

۱۶۴۴: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْيَمَامِيُّ وَمُؤَمَّلُ

اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھو یہ (سورتیں) تم کو ہر ایک قسم کی آفت سے کفایت کریں گی۔ (حفاظت کریں گی)۔

۱۶۲۶: محمد بن عوف، محمد بن اسماعیل، ان کے والد، ضمیمہ بن شریح، حضرت ابوماک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگوں کو ایسی دعا سکھادیں کہ جس کو ہم صبح و شام اور لیٹتے وقت پڑھ لیا کریں۔ آپ نے یہ دعا پڑھنے کا حکم فرمایا: ((اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ)) تک یعنی اے اللہ آسمانوں اور زمین کے خالق حاضر اور غیب کا علم رکھنے والے آپ ہر ایک شے کے مالک ہیں اور فرشتے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہم اپنے نفوس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اور شیطان ملعون کے شر سے اور اس کے کمرہ فریب سے یا اس کے شر سے اور خود گناہ کرنے یا کسی مسلمان سے گناہ کرانے سے پناہ مانگتے ہیں۔ امام ابوداؤد نے فرمایا کہ اسی اسناد کے ساتھ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت صبح ہو تو یہ پڑھے: ((أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَرَّ مَا بَعْدَهُ)) تک یعنی ہم نے اور اللہ تعالیٰ کی سلطنت نے صبح کی جو کہ تمام جہان کا پالنہار ہے۔ اے اللہ! میں آپ سے فلاح و خیر کا خواستگار ہوں اس دن کی اور اس کی فتح اور اس کی مدد اور نور و برکت اور ہدایت کا اور پناہ مانگتا ہوں میں اس کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے۔ پھر جب شام ہو جائے تو یہی دعا پڑھے۔

۱۶۲۷: کثیر بن عبید بقیہ عمرازہر حضرت شریح ہوزنی سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی دعا مانگتے؟ انہوں نے جواب دیا تم نے مجھ سے ایسی بات دریافت کی کہ جو تم سے قبل کسی نے دریافت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رات میں بیدار

قُلْ لَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمَعُودَاتِينَ حِينَ تُمِيسِي وَحِينَ تَصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔

۱۶۲۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمِيمٌ عَنْ شَرِيحٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا بِكَلِمَةٍ نَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاصْطَجَعْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشَرِّهِ وَأَنْ نَقْرَبَ سُوئًا عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مَعْلُ ذَلِكَ۔

۱۶۲۷: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَعْفَمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَزْهَرِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَاذِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيحُ الْهُوزَنِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتِيحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ لَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ

عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی طریقہ سے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے اور اس روایت میں فالج کے واقعہ کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۶۵۱: عباس بن عبد العظیم، محمد بن ثنی، عبد الملک بن عمرو، عبد الجلیل بن عطیہ حضرت جعفر بن میمون کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان! میں آپ کو ہر ایک صبح کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنتا ہوں: ((اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)) صبح کو تین مرتبہ اور شام کو تین مرتبہ تو انہوں نے جواب دیا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے دیکھا تو مجھے سنت نبوی پر عمل کرنا پسندیدہ ہے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)) صبح کو تین مرتبہ اور تین مرتبہ شام کو پڑھو مجھے پسند ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کروں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص پریشان ہو اس کے لئے دعا یہ ہے: ((اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي)) بعض راویوں نے (اس دعا کے الفاظ میں) کمی بیشی کی ہے۔

أَسُّ بْنُ عِيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَوْدُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ عُمَانَ عَنْ عُمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْفَالَجِ۔

۱۶۵۱: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالََا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَعِيدَهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِنَّ فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ قَالَ عَبَّاسٌ فِيهِ وَقَوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَعِيدَهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي فَتَدْعُو بِهِنَّ فَأَحَبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَيَّ نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ۔

۱۶۵۲: محمد بن منہال، یزید بن زریع، روح بن قاسم، سہیل، سمی ابوصالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک سو مرتبہ صبح اور ایک سو مرتبہ شام کو پڑھے تو اس شخص کے برابر مخلوق میں کسی شخص کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔

۱۶۵۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سَهِيلٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ لَمْ يُوَافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى۔

باب: جب چاند دیکھے تو کیا

باب ما يقول الرجل إذا

رَأَى الْهَلَالَ

دُعا پڑھے؟

۱۶۵۳: موسیٰ بن اسماعیل، ابان، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہے یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہے میں اسی ذات پر ایمان لایا جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ یہ جملہ آپ تین مرتبہ ارشاد فرماتے پھر فرماتے اس اللہ کا شکر و احسان ہے کہ فلاں مہینہ (نجیر و عافیت) گزر گیا اور فلاں مہینہ شرع ہوا یعنی گزر رہا مہینہ لے گیا اور (اللہ) اگلا مہینہ لے آیا۔

۱۶۵۴: محمد بن علاء، زید، ابوبلال، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو (تو دعا کرتے وقت) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چہرہ پھیر لیتے۔

باب: گھر سے نکلنے وقت کی دُعا

۱۶۵۵: مسلم بن ابراہیم، شعبہ منصور، شععی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب اپنی آنکھ اٹھائی اور فرمایا اے اللہ میں گمراہ ہونے، گمراہ کئے جانے، پھل جانے یا پھلانے جانے، ظلم سے اور ظلم کئے جانے سے اور جہل سے اور جہل کئے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

۱۶۵۶: ابراہیم بن حسن، حجاج، ابن جریج، اسحاق، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ((بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ)) پڑھتا ہے تو اس وقت ملائکہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم نے راہ (ہدایت) حاصل کر لی اور تم ہر ایک قسم کی آفت سے بچائے گئے اور تم کو یہ دُعا کافی ہے پھر اس شخص سے شیطان علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے اب تم اس شخص کا کیا کر سکتے ہو جس کو راستہ مل گیا اور وہ دُعا اس شخص کے لئے کافی ہوئی اور وہ شخص ہر ایک قسم کی آفت سے محفوظ کر دیا گیا۔

۱۶۵۳: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ قَالَ هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا۔

۱۶۵۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَبَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي هَلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ۔

بَاب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

۱۶۵۵: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ۔

۱۶۵۶: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخُثَمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ يَقَالُ حِينَئِذٍ هُدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَرُؤِيتَ فَتَسْتَعِي لُهُ الشَّيَاطِينُ لِيَقُولَ لَهُ شَيْطَانٌ آخِرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هَدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَرُؤِيتَ۔

باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

۱۶۵۷: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي ضَمُّضٌ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيَسَلِمَ عَلَى أَهْلِهِ

باب: گھر میں داخل ہوتے وقت کی دُعا

۱۶۵۷: ابن عوف محمد بن اسماعیل ان کے والد ضمضم شرح حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو یہ پڑھے: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوَكَّلْنَا)) تک یعنی اے اللہ میں آپ سے اندر داخل ہونے کی بہتری اور باہر نکلنے کی بہتری مانگتا ہوں اللہ کے نام پر ہم اندر داخل ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے نام پر ہم باہر نکلتے ہیں اور ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں جو کہ ہمارا پروردگار ہے پھر (وہ شخص) اندر داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرے۔

باب مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتْ الرِّيحُ

۱۶۵۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَابُوسُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ قَالَ سَلَمَةُ فَرُوحُ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُّوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا

باب: آندھی طوفان کے وقت کی دُعا؟

۱۶۵۸: احمد بن محمد سلمہ عبدالرزاق معمر زہری ثابت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کبھی رحمت لاتی ہے کبھی عذاب لاتی ہے۔ جب تم لوگ ہوا کو دیکھو تو اس کو برا نہ کہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کے شر سے پناہ مانگو۔

۱۶۵۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ مُسْتَجِيمًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَسَمَّى وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عَرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءً أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتَ فِي وَجْهِكَ الْكِرَاهِيَةَ فَقَالَ يَا

۱۶۵۹: احمد بن صالح عبد اللہ عمرو ابونضر حضرت سلیمان بن یسار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے میان کیا کہ میں نے کبھی آنحضرت ﷺ کو اس قدر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کا کوا (تالوں میں لٹکا ہو کٹرا) دیکھ سکوں بلکہ آنحضرت ﷺ ہمیشہ تبسم فرماتے تھے (یعنی مسکراتے تھے) اور آپ جب بادل یا ہو کو دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرہ انور پر معلوم ہوتا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب لوگ ابر دیکھتے ہیں تو اس توقع سے خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی اور آپ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرہ انور پر ناگواری معلوم ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس میں عذاب

الہی (پوشیدہ) نہ ہو۔ ایک قوم کو ہوا سے عذاب دیا جا چکا ہے اور اس قوم نے جب عذاب کو دیکھا تو وہ کہنے لگے تھے یہ تو برسنے والا بادل ہے اور وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔

۱۶۶۰: ابن بشار، عبدالرحمن سفیان، مقدم اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت جب آسمان کے کنارے سے بادل اٹھتا ہوا دیکھتے تو آپ جس کام میں مشغول ہوتے اس کو چھوڑ دیتے اگرچہ آپ نماز میں بھی مشغول ہوتے اور ارشاد فرماتے اے اللہ میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں پھر اگر وہ بادل برسنے لگتا تو ارشاد فرماتے اے اللہ اچھے طریقے سے بارش برسائیے بابرکت۔

باب: بارش کے بارے میں

۱۶۶۱: مسدّد، قتیبہ بن سعید، جعفر ثابت، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے لگی آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنا جسم مبارک کھول دیا یہاں تک کہ بارش آپ کے جسم پر گری ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کس وجہ سے کیا؟ ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ وہ ابھی تازہ دم اپنے پروردگار کے پاس سے آئی ہے۔

باب: مرغ اور چوپاؤں کے بارے میں

۱۶۶۲: قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز، صالح، عبید اللہ، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرغ کو برا نہ کہو اس لئے کہ وہ نماز (نجر) کے لئے بیدار کرتا ہے۔

۱۶۶۳: قتیبہ بن سعید، اعرج، جعفر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جب مرغ کی اذان سنو تو فضل الہی طلب کرو اس لئے کہ وہ فرشتہ کو دیکھتا ہے اور جس وقت تم لوگ گدھے کی آواز سنو تو شیطان ملعون سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔

عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدْ عَذَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمَ الْعَذَابِ لِقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا۔

۱۶۶۰: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُقَدَّمِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أْفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ لَمْ يَقُولِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا فَإِنْ مُطِرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَيِّئْنَا۔

باب ما جاء في المطر

۱۶۶۱: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَسَرَ نَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدٌ بِرَبِّهِ۔

باب ما جاء في الديك والبهائم

۱۶۶۲: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يَرْقُطُ لِلصَّلَاةِ۔

۱۶۶۳: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْلُؤُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا۔

۱۶۶۳: ہناد بن سری، عبدہ، محمد بن اسحاق، محمد بن ابراہیم، عطاء بن یسار، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا آواز سناؤ تو تم اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے (یعنی عذاب و ثواب وغیرہ کو اور دنیا میں نازل ہونے والی آفات کو)۔

۱۶۶۵: قتیبہ بن سعید، لیث، خالد بن یزید، سعید بن ابی ہلال، سعید بن زیاد، حضرت جابر بن عبد اللہ (دوسری سند) ابراہیم بن مروان، ان کے والد لیث بن سعد، یزید بن عبد اللہ، حضرت علی بن عمر بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (بلا ضرورت رات کو) آمد و رفت موقوف ہونے کے بعد نہ نکلا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جانور ہیں کہ جن کو وہ زمین میں پھیلا دیتا ہے پھر کتوں اور گدھوں کے شور کرنے کو بیان کیا جس طریقہ سے اوپر مذکور ہے۔ اور اس حدیث میں یہ اضافہ ہے ابن الہادی نے بیان کیا کہ شرحبیل بن حاجب نے مجھ سے حضرت جابر بن عبد اللہ کے واسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اسی طریقہ سے روایت کیا ہے۔

باب: بچے کے کان میں (اس کی پیدائش کے بعد)

اذان دینا

۱۶۶۶: مسدد، یحییٰ، سفیان، عاصم بن عبید اللہ، عبید اللہ، ان کے والد حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے کان میں جب وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کے پیدا ہوئے ایسی اذان دی کہ جیسی نماز کے لئے اذان دیتے ہیں۔

۱۶۶۷: عثمان بن ابی شیبہ، محمد بن فضیل (دوسری سند) یوسف بن موسیٰ، ابواسامہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

۱۶۶۳: حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ نَبَاحَ الْكَلْبِ وَنَهَيْقَ الْحُمْرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ۔

۱۶۶۵: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى قَوَابٍ يَبْهَتُنَّ فِي الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ مَرْوَانَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَقَالَ فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا نَمَّ ذَكَرَ نَبَاحَ الْكَلْبِ وَالْحُمَيْرِ نَحْوَهُ وَرَأَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي شَرْحُبَيْلُ الْعَاجِبُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ۔

باب فی الصببي یولد فیؤذن

فی اذنیہ

۱۶۶۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ۔

۱۶۶۷: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلِ ح وَحَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے تھے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے برکت کی دعا فرماتے اور کھجور
چبا کر ان کے منہ میں دیتے۔

مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يُؤْتِي بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ زَادَ
يُوسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ۔

۱۶۶۸: محمد بن ثنیٰ، ابراہیم داؤد بن عبد الرحمن، ابن جریج، ان کے والد
امّ حمید، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کسی شخص نے
مخربین دیکھے ہیں میں نے عرض کیا مغربین کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا (مغربین وہ ہیں کہ) جن میں جنات کی شرکت
ہو۔

۱۶۶۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْعَطَّارُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ
رَأَيْتِ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا فَيَكُمُ الْمُغْرِبُونَ قُلْتُ وَمَا
الْمُغْرِبُونَ قَالَ الَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْحِنُّ۔

باب: کوئی شخص کسی شخص سے پناہ مانگے تو کیسا ہے؟

باب فی الرجل یستعید من الرجل

۱۶۶۹: نصر بن علی، عبید اللہ بن عمر، خالد بن حارث، سعید نصر بن ابی عروبة
قائدہ ابو نعیم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی پناہ مانگے اس
کو پناہ دو اور جو شخص اللہ کے نام پر مانگے اس کو دے دو۔

۱۶۶۹: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ
الْجَشْمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ قَالَ نَصْرُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ
أَبِي نَهَيْكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ
فَاعْطُوهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ۔

۱۶۷۰: مسدد، سہل، ابو عوانہ (دوسری سند) عثمان بن ابی شیبہ، جریر
اعمش، مجاہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں جو شخص اللہ کی پناہ مانگے
تو اس کو پناہ دو اور تم سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگے تو اس کو
دے دیا کرو سہل اور عثمان نے بیان کیا کہ جو شخص تمہاری دعوت کرے
تو تم اس کو قبول کرو اور تم پر جو شخص احسان کرے تو اس کا صلہ دو۔ مسدد
اور عثمان نے بیان کیا کہ اگر تم اس کا عوض نہ دے سکو تو اس شخص کے
لئے دعا کرو یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ اس شخص کے احسان کا بدلہ تم نے
چکا دیا ہے۔

۱۶۷۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ الْمَعْنَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ
فَاعْطُوهُ وَقَالَ سَهْلٌ وَعُثْمَانُ وَمَنْ دَعَاكُمْ
فَأَجِبُوهُ ثُمَّ اتَّفَقُوا وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا
فَكَافِئُوهُ قَالَ مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ۔

باب: دوسوہ رفع کرنے کا طریقہ

باب فی ردِّ الوَسْوَسَةِ

۱۶۷۱: عباس نضر بن محمد، مکرّمہ بن عمار ابو زبیل سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا (نہ معلوم) میرے دل کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا واللہ میں ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتا انہوں نے فرمایا کیا کوئی شبہ ہے اور پھر ہنسنے لگے اور فرمایا اس سے کوئی شخص محفوظ نہیں رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اگر تم کو اس کلام میں شبہ ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے دریافت کر لیں جو کتاب (یعنی توریت انجیل) پڑھتے ہیں آپ سے پہلے۔ آخر آیت تک۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب تمہارے دل میں اس قسم کے خیالات آئیں تو تم یہ آیت پڑھو: ((هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ))۔

۱۶۷۲: احمد بن یونس زہیر سمیل ان کے والد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اپنے دلوں میں اس قسم کے دوسوے محسوس کرتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا ہمارے پر بہت گراں ہے اور ہم ان کو نقل کرنا نہیں چاہتے آپ نے دریافت فرمایا کیا تم واقعی لوگوں کو دوسوے پیش آتے ہیں؟ ان حضرات نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ بات تو خاص ایمان کی علامت ہے۔

۱۶۷۳: عثمان بن ابی شیبہ ابن قدامہ جریر منصور زر عبد اللہ بن شداد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سے کسی کے دل میں اس طرح کا دوسوہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے راکھ بن جانا یا جل کر کوئلہ بن جانا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ سن کر) ارشاد فرمایا: اللہ اکبر اللہ اکبر اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے شیطان کے کمر و فریب کو دوسوہ میں بدل دیا۔

۱۶۷۱: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ يَعْنَى ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِي أَشَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَضَحِكًا قَالَ مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ الْآيَةَ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔

۱۶۷۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا الشَّيْءَ نَعْظُمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ أَوْ الْكَلَامَ بِهِ مَا نُحِبُّ أَنْ لَنَا وَأَنَا تَكَلَّمْنَا بِهِ قَالَ أَوْقَدُ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ۔

۱۶۷۳: حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ قَدَامَةَ بْنُ أَعْيَنَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ يَعْزُضُ بِالشَّيْءِ لِأَنَّهُ يَكُونُ حَمَمَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ قَالَ ابْنُ قَدَامَةَ رَدَّ أَمْرَهُ مَكَانَ رَدَّ كَيْدَهُ۔

باب فِي الرَّجُلِ يَنْتَمِي إِلَيَّ

باب: جو غلام اپنے آزاد کرنے والے کو چھوڑ کر

دوسرے کو اپنا آزاد کرنے والا بتلائے؟

غَيْرِ مَوَالِيهِ

۱۶۷۴: نفیلی، زہیر، عاصم، احو، ابو عثمان، حضرت سعد بن مالک سے روایت ہے کہ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والد کے علاوہ قصد خود کو دوسرے کسی کا بیٹا قرار دے تو اس پر جنت حرام ہے۔ ابو عثمان نے بیان کیا کہ یہ حدیث سن کر میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے بیان کیا کہ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا کہ آنحضرت ﷺ نے اسی طریقہ سے ارشاد فرمایا۔ عاصم نے بیان کیا کہ میں نے ابو عثمان سے کہا کہ آپ کے ہاں دو مردوں نے گواہیاں دیں تو وہ دو مرد کون کونسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ایک تو ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے راہ اللہ میں تیر پھینکا دوسرے وہ ہیں کہ جو کہ (مقام) طائف سے بیس سے زیادہ افراد کے ساتھ پیدل آئے پھر ان کی فضیلت بیان کی۔ ابوعلی بیان کرتے ہیں کہ امام ابوداؤد سے میں نے فرماتے ہوئے سنا نفیلی نے جب یہ حدیث بیان کی تو فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ حدیث شہد سے زیادہ میٹھی معلوم ہوتی ہے یعنی لفظ حدیث اور حدیثی، ابوعلی بیان کرتے ہیں کہ امام ابوداؤد نے احمد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ کوفہ کے حضرات کی حدیث میں نور نہیں موجود ہے۔ احمد نے فرمایا میں نے بصرہ کے حضرات کی طرح کسی کو نہیں دیکھا جنہوں نے حضرت شعبہ سے پڑھا ہے۔

۱۶۷۵: حجاج، معاویہ، زائدہ، عمش، ابوصاح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں سے ولاء کرے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے روز نہ اس کے فرض قبول ہوں گے اور نہ نفل۔

۱۶۷۴: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ أَذْنَائِي وَرَوَّعَاهُ قُلَيْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْعَى إِلَيَّ غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ أَذْنَائِي وَرَوَّعَاهُ قُلَيْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ عَاصِمٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عُمَانَ لَقَدْ شَهِدْتُكَ رَجُلَانِ أَيُّمَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بَسْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ يَعْنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَالْآخَرُ قَدِيمٌ مِنَ الطَّائِفِ فِي بَضْعَةٍ وَعَشْرِينَ رَجُلًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ فَذَكَرْتُ فَضْلًا قَالَ النَّفِيلِيُّ حَيْثُ حَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ إِنَّهُ عِنْدِي أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَعْنِي قَوْلُهُ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَسَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ لَيْسَ لِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ نُورٌ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانُوا تَعْلَمُوهُ مِنْ شُعْبَةَ.

۱۶۷۵: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ.

۱۶۷۶: سليمان، عمر، عبدالرحمن، جابر، سعيد، حضرت انس بن مالک رضی

۱۶۷۶: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا والد قرار دے یا اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کو آقا قرار دے تو اس پر لگاتار قیامت تک اللہ کی لعنت۔

باب: حسب و نسب پر ناز کرنا

۱۶۷۷: موسیٰ بن مروان معانی (دوسری سند) احمد بن سعید ابن وہب ہشام سعیدان کے والد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دور جاہلیت کے تکبر اور غرور اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کو دور کر دیا۔ اب انسان دو قسم کے ہیں یا مؤمن متقی ہیں یا فاجر بد بخت ہیں (یاد رکھو) تم سب آدم کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کی خاک سے پیدا ہوئی (تو تمام انسانوں کی اصل برابر ہے) تم لوگوں کو چاہئے کہ اپنی اپنی قوم پر فخر کرنا ترک کر دو وہ تو دوزخ کے کولوں میں سے ایک کولہ ہیں (اگر تکبر و فخر نہ چھوڑا تو) اللہ تعالیٰ کے ہاں گوبر کے کیڑے سے (زیادہ) ذلیل ہیں وہ گوبر کا کیڑا جو کہ گندگی کو اپنی ناک سے دھکیل کر لے جاتا ہے (مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے فخر کرنا نہ چھوڑا تو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے)

باب: تعصب کرنا

۱۶۷۸: نفیلی زہیر سماک عبد الرحمن حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی قوم کی ناحق مدد کی تو اس شخص کی ایسی مثال ہے کہ جیسے اوتھ کنویں میں گر گیا اب اس کی دم کو پکڑ کر اُسے کھینچا جائے۔

۱۶۷۹: ابن بشار ابو عامر سفیان سماک بن حرب عبد الرحمن حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ (اس وقت) ایک قبہ کے اندر تھے جو کہ کھال کا تیار کردہ تھا۔ پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا جو کہ اوپر مذکور ہے۔

الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَّاحِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَنَحْنُ بِيْرُوتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَيَّ غَيْرَ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَيَّ غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمَتَابِعَةُ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

باب فی التفاخر بالأحساب

۱۶۷۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِي ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَقَانِجِرٌ شَقِيٌّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لِيَدَّعَنَّ رَجُلٌ فَخَرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فِئَمٌ مِنْ فِئَمٍ جَهَنَّمَ أَوْ لِيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّيْنَ۔

باب فی العصبية

۱۶۷۸: حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدِّيَ فَهُوَ يَنْزِعُ بِدَنْبِهِ۔

۱۶۷۹: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي قَبَّةٍ مِنْ آدَمَ قَدْ كَرَّ نَحْوَهُ۔

۱۶۸۰: محمود بن خالد فریابی سلمہ بنت واہلہ حضرت واہلہ بنت اسقع سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ عصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم ناحق اپنی قوم کی مدد کرو (یہ عصیت ہے)۔

۱۶۸۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرِّبَابِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ بَشْرِ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ بِنْتِ وَاللَّةِ بِنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ۔

۱۶۸۱: احمد بن عمرو ابوب' أسامہ سعید بن مسیب' حضرت سراقہ بن مالک بن جشم مدحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو کہ اپنی قوم کا دفاع کرے جب تک کہ گناہ نہ ہو۔

۱۶۸۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يُحَدِّثُ عَنْ سَرَّاقَةَ بِنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمِ الْمُدَلِجِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ خَيْرُكُمْ الْمَدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْتُمْ۔

۱۶۸۲: ابن سرح' ابن وہب' سعید' محمد بن عبد الرحمن' عبد اللہ حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو تعصب کی دعوت دے اور تعصب کی وجہ سے لڑائی کرے اور تعصب پر مرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

۱۶۸۲: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيِّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ۔

۱۶۸۳: ابوبکر بن ابی شیبہ' ابواسامہ' عوف' زیاد ابوکنانہ' حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی قوم کا بھانجہ اسی قوم میں سے ہے۔

۱۶۸۳: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مِحْرَاقٍ عَنْ أَبِي كِنَانَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ۔

۱۶۸۴: محمد بن عبد الرحیم' حسین بن محمد' جریر' محمد بن اسحاق' داؤد' عبد الرحمن' حضرت ابو عقبہ سے روایت ہے کہ وہ ملک فارس کے باشندہ تھے اور عرب کے آزاد کردہ غلام تھے کہ میں غزوہ احد میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھا میں نے مشرکین میں سے ایک شخص کو مارا اور میں نے کہا کہ لو یہ ہے میرا وار اور میں فارسی غلام ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ یو میرا وار اور میں انصاری غلام ہوں۔

۱۶۸۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغَلَامُ الْفَارِسِيُّ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فَهَلَّا قُلْتَ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا
الْعُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ۔

بَابُ إِحْبَابِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ

بِمَحَبَّتِهِ أَيَّاهُ

۱۶۸۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ
قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ
مَعْدَى كَرِبٍ وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخَبِّرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ۔

۱۶۸۶: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ
بُنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي لِأَحِبُّ هَذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْلَمْتَهُ قَالَ لَا قَالَ أَعْلَمْتَهُ قَالَ فَلِحَقِّقَهُ
فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ فَقَالَ أَحَبُّكَ الَّذِي
أُحِبَّتَنِي لَهُ۔

بَابُ الرَّجُلِ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى

خَيْرٍ يَرَاهُ

۱۶۸۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ
الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْعَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا
أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أُحِبَّتِ قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أُحِبَّتِ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ
فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ۔

۱۶۸۸: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ

باب: جس سے محبت کرے تو کہہ دے کہ میں تم سے

محبت کرتا ہوں

۱۶۸۵: مسدد یحییٰ ثور حبیب حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے تو
اس سے کہہ دے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔

۱۶۸۶: مسلم بن ابراہیم مبارک بن فضالہ ثابت بنانی انس بن مالک
سے روایت ہے کہ نبی کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ اسی وقت ایک
آدی نبی کے پاس سے گزرا اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس
سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو اطلاع دی ہے۔ اس
نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بتلا دو یہ بات سن کر وہ اٹھا اور
اس سے مل کر کہا کہ میں تم سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں اس شخص نے
جواب دیا تم سے بھی وہ محبت کرے کہ تم نے جس کی وجہ سے مجھ سے
محبت کی (یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی) وجہ سے۔

باب: ایک شخص کا دوسرے سے کسی نیک کام کی وجہ

سے محبت رکھنا

۱۶۸۷: موسیٰ بن اسماعیل سلیمان حمید عبد اللہ ابو ذر سے روایت ہے
کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے
لیکن ان جیسا کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر! تم اسی شخص
کے ساتھ ہو گے کہ جس سے محبت کرتے ہو۔ ابو ذر نے عرض کیا میں تو
اللہ اور اسکے رسول سے محبت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ
ہو گے کہ جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت ابو ذر نے پھر یہی عرض کیا
آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔

۱۶۸۸: وہب بن بقیہ خالد یونس ثابت حضرت انس بن مالک رضی

اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس قدر خوش کبھی نہیں دیکھا کہ جس قدر اس بات پر خوش ہوئے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے لیکن وہ خود اس طرح کے اعمال نہیں کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت و تعلق رکھتا ہو گا۔

يُونُسُ بْنُ عَبِيدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرِحُوا بِشَيْءٍ لَمْ أَرَهُمْ فَرِحُوا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔

باب: مشورہ کا بیان

۱۶۸۹: ابن شنی، یحییٰ، شیبان، عبدالملک، ابوسلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص سے مشورہ کیا جائے وہ شخص امین ہے۔

بَابُ فِي الْمَشُورَةِ
۱۶۸۹: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ۔

باب: نیک کام کی رہنمائی کرنے والا نیک کام کرنے

والے کے برابر ہے

۱۶۹۰: محمد بن کثیر، سفیان، اعمش، ابو عمرو شیبانی، حضرت ابوسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس سواری موجود نہیں مجھے آپ سواری عنایت فرمادیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس تو سواری ہے نہیں البتہ تم فلاں آدمی کے پاس جاؤ ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو سواری دے دے۔ وہ شخص اس کے پاس پہنچا اس نے سواری دے دی پھر خدمت نبوی میں واپس آیا اور آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا جو کوئی نیک کام کی رہبری کرے تو اس کو اسی قدر اجر ہے کہ جس قدر کہ اس کام کے انجام دینے والے کو ہے۔

باب فی الدال علی

الخیر

۱۶۹۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عُمَرَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبَدِّعُ بِي فَأَحْمِلُنِي قَالَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ إِنِّي فَلَانًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكَ فَاتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ۔

باب: خواہش نفس

۱۶۹۱: طہوۃ بن شریح، بقیہ، ابوبکر خالد بن محمد بلال، حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی شے کی محبت تم کو بہر اور ناپسینا بنا دیتی ہے۔

بَابُ فِي الْهَوَى
۱۶۹۱: حَدَّثَنَا حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّقْفِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ قَالَ حَبَّتْ الشَّيْءُ يُعْمَى وَيُصْمُ.

باب: سفارش سے متعلق

۱۶۹۲: مسدّد سفیان بریدہ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھ سے سفارش کرو تا کہ تم کو اجر و ثواب ملے نبی کی زبان سے فیصلہ تو وہی ہوگا کہ جو اللہ کو منظور ہوگا۔

باب: خط لکھتے وقت اپنا نام پہلے

۱۶۹۳: احمد بن حنبل، ہشیم، منصور ابن سیرین، احمد، حضرت علاء بن حضرمی کے کسی بیٹے سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بحرین کے گورنر تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے تو اپنے نام سے ابتداء کرتے۔

۱۶۹۴: محمد بن عبد الرحیم، معلى، ہشیم، منصور ابن سیرین ابن العلاء حضرت علاء بن حضرمی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کو انہوں نے خط تحریر کیا تو پہلے اپنا نام تحریر کیا۔

باب: کافر و مشرک کو کس طریقہ سے خط تحریر کیا جائے؟

۱۶۹۵: حسن بن علی، محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق، معمر زہری، عبید اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو اس طریقہ سے تحریر فرمایا: محمد (ص) کی جانب سے جو کہ رسول اللہ ہیں ہرقل شاہ روم کو اس شخص پر سلام ہو جو راہ ہدایت پر عامل پیرا ہو ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے کہ ان سے حضرت ابوسفیان نے بیان کیا کہ ہم لوگ ہرقل کے پاس پہنچے ہمیں اس نے اپنے روبرو بٹھایا۔ پھر اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

باب فی الشَّفَاعَةِ

۱۶۹۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا إِلَيَّ لِيُجْرُوا وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

باب فِيمَنْ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

۱۶۹۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ مَرَّةً يُعْنَى هُشَيْمًا عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْعَلَاءِ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

۱۶۹۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْعَلَاءِ يُعْنَى ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَبَدًا بِاسْمِهِ.

باب كَيْفَ يَكْتُبُ إِلَى

الدِّمِيِّ

۱۶۹۵: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلٍ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى قَالَ ابْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سَفِيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلٍ فَاجْلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ

مکتوب گرامی طلب کیا اس میں یہ تحریر تھا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ محمد اللہ کے رسول کی جانب سے ہر قل عظیم الروم کو سلام اس شخص پر کہ جو راہ ہدایت پر چلے۔ ابا بعد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ اِلٰی هِرَقْلٍ عَظِیْمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی اَمَّا بَعْدُ۔

باب: والدین سے حسن سلوک

۱۶۹۶: محمد بن کثیر سفیان، سہیل بن ابی صالح، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا لڑکا اپنے والد کے احسان کا عوض ادا نہیں کر سکتا مگر صرف ایک صورت میں کہ اپنے والد کو کسی شخص کا غلام دیکھے اور خرید کر اس کو آزاد کر دے۔

۱۶۹۷: مسدّد یحییٰ، ابن ابی ذئب، حارث، حمزہ، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک خاتون میرے نکاح میں تھی میں اس سے محبت کرتا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا تم اس کو طلاق دے دو۔ میں نے انکار کر دیا۔ وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو (یعنی والد کی فرمائیں داری کرو)

۱۶۹۸: محمد بن کثیر سفیان، حضرت بہز بن حکیم سے روایت ہے کہ اپنے والد سے انہوں نے سنا انہوں نے انکے دادا سے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ پھر اپنی والدہ کے ساتھ پھر اپنی والدہ کے ساتھ۔ پھر اپنے والد کے ساتھ پھر جو سب سے نزدیکی رشتہ دار ہو پھر اسکے بعد جو اس سے نزدیکی رشتہ دار ہو اسی طریقہ سے پھر جو اس سے نزدیکی رشتہ دار ہو اور آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے آزاد کئے ہوئے غلام سے اس مال کا مطالبہ کرے جو کہ اسکی ضرورت سے زائد ہو پھر وہ اسے مال زدے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل و صورت میں اسکے سامنے آئے گا۔

۱۶۹۹: محمد بن یحییٰ، حارث بن مرہ، حضرت کلیب بن منفعہ نے اپنے دادا بکر بن حارث سے سنا وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی والدہ اور والد اور بہن بھائی کے ساتھ اور اپنے آزاد

باب فی برّ الوالدین

۱۶۹۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَهِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْزِي وَالدَّ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ۔

۱۶۹۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ عَنْ حَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَلِّقْهَا۔

۱۶۹۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلَا اقْرَبَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلَاهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلَّا دَعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شَجَاعًا أَقْرَبَ۔

۱۶۹۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مَرَّةٍ حَدَّثَنَا كَلْبُ بْنُ مَنَفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ قَالَ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَجْتِكَ

کرنے والے شخص کے ساتھ جن کا حق ادا کرنا لازمی ہے اور جس سے رشتہ کو قائم رکھنا اور صلہ رچی کرنا ضروری ہے۔

۱۷۰۰: محمد بن جعفر بن زیاد (دوسری سند) عباد بن موسیٰ ابراہیم ان کے والد حمید حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تمام گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے والدین پر انسان کس طرح لعنت بھیج سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ کوئی شخص کسی کے والد پر لعنت بھیجے اور وہ جواب میں اس کے والد پر لعنت بھیجے یا وہ اس کی والدہ پر لعنت بھیجے اور وہ جواب میں اس کی والدہ پر لعنت بھیجے۔

۱۷۰۱: ابراہیم عثمان بن ابی شیبہ محمد بن علاء ابو عبد اللہ عبد الرحمن اُسید ان کے والد حضرت ابو اُسید مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ قبیلہ بنی سلمہ میں سے ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا اب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ضرور۔ ان کے لئے دُعا و استغفار کرنا ان کی وصیت یا ان کے معاہدہ کو پورا کرنا اور اس رشتہ کو ملانا جو ان ہی سے قائم تھا اور ان کے دوست کی خاطر مدارات کرنا۔

۱۷۰۲: احمد بن منیع، ابو النضر لیث، یزید، عبد اللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں کی خاطر مدارات کرے جب والد کا انتقال ہو جائے۔

۱۷۰۳: ابن ثنی، ابو عاصم، جعفر عمارہ بن ثوبان، حضرت ابو طفیل رضی اللہ

وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ۔

۱۷۰۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَايِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أَبَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ۔

۱۷۰۱: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عُمَيْدٍ مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٍ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا۔

۱۷۰۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبْرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلًا وَوَدَّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوْتَى۔

۱۷۰۳: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو (مقام) جہرانہ پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے میں ان دنوں ایک لڑکا تھا جو اونٹ کی ہڈی اٹھایا کرتا تھا اسی وقت ایک عورت آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو آپ نے اپنی چادر اس کے لئے بچھادی وہ اس پر بیٹھ گئی میں نے دریافت کیا یہ کون عورت ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ وہ عورت ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔

قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَمَّارَةَ بْنِ ثُوْبَانَ أَخْبَرَنَا عَمَّارَةُ بْنُ ثُوْبَانَ أَنَّ أَبَا الطَّفِيلِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجَعِرَانَةِ قَالَ أَبُو الطَّفِيلِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غَلَامٌ أَحْمَلُ عَظْمَ الْجَزْوَرِ إِذْ أَقْبَلْتُ امْرَأَةً حَتَّى دَنَّتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَا رِذَائَهُ فَجَلَسْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ فَقَالُوا هَذِهِ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ۔

۱۷۰۴: احمد بن سعید، ابن وہب، عمرو بن حارث، حضرت عمر بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی والد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اپنے کپڑے کا ایک کونہ بچھایا وہ اس پر تشریف فرما ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اپنے کپڑے کا دوسرا کونہ بچھادیا وہ اس پر بیٹھ گئیں پھر آپ کے دودھ شریک بھائی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔

۱۷۰۴: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَمَرَ بْنَ السَّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرَ فَجَلَسْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أُخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ۔

باب: یتیم بچوں کی پرورش کرنے کا ثواب

۱۷۰۵: عثمان، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، ابومالک، ابن حدیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے بیٹی ہو پھر وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے نہ اس کو ذلیل و خوار سمجھے نہ لڑکے کو اس پر فضیلت دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ عثمان نے لڑکوں کا ذکر نہیں کیا۔

باب فی فضل من عال یتامی

۱۷۰۵: حَدَّثَنَا عُمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ ابْنِ حُدَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَنْدُهَا وَلَمْ يَهْنُهَا وَلَمْ يُؤَثِّرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الدُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَانُ يَعْنِي الدُّكُورَ۔

۱۷۰۶: مسدّد خالد، سہیل، سعید اعشی، امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ وہ سعید بن عبدالرحمن بن کمل تھے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تین لڑکیوں کو پرورش کرے پھر ان کو تعلیم دے اور ان کا نکاح کر دے اور

۱۷۰۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ الْأَعَشِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكَيْمِلٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ

ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کے لئے جنت ہے۔

۱۷۰۷: یوسف جریر سہیل سے اسی طریقہ سے روایت ہے اور اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ کسی کے تین بہنیں یا تین لڑکیاں ہوں یا دو بہنیں یا دو لڑکیاں ہوں۔

۱۷۰۸: مسدؤذیزید نہاس شداد حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اور سیاہ رخسار کی بدبیت خاتون اس طرح ہوں گے (یہ فرما کر) آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی سے اشارہ فرمایا اس سے وہ خاتون مراد ہے کہ جو شوہر کے انتقال کے بعد یتیم بچوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے اپنے کو روکے رکھے دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہاں تک کہ وہ بچے بالغ ہو جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے۔

باب: یتیم بچے کی پرورش کی ذمہ داری لینے والا شخص

۱۷۰۹: محمد بن صباح عبدالعزیز ان کے والد حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح نزدیک ہوں گے (یہ فرما کر) آپ نے کلمہ اور درمیان کی انگلی سے اشارہ فرمایا (یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہوں گے)

باب: پڑوسی کا حق

۱۷۱۰: مسدؤ حماد یحییٰ ابو بکر عمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھ سے حضرت جبریل امین ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرماتے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ وہ اس کو وراثت میں حق دلوائیں گے۔

۱۷۱۱: محمد بن عیسیٰ سفیان بشیر مجاہد حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ تم نے میرے یہودی پڑوسی کے پاس حصہ بھیجا ہے اس لئے کہ میں نے

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَذَبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ۔

۱۷۰۷: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهِيلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَانِ۔

۱۷۰۸: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَمْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخُدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَاءُ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ أَمْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا۔

باب في من ضم اليتيم

۱۷۰۹: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَقَرْنٌ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ۔

باب في حق الجوار

۱۷۱۰: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى قُلْتُ لِيُورَثَنَّهُ۔

۱۷۱۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَشِيرِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ

آنحضرت ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جبریل مجھے ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے یہاں تک کہ میں سمجھاؤں اس کو وارث قرار دیں گے۔

۱۷۱۲: ربیع بن نافع، سلیمان بن حیان، محمد بن مجلان، ان کے والد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر سے کام لو وہ شخص دو تین مرتبہ پھر آیا۔ آپ نے فرمایا تم اپنا سامان گھر سے نکال کر راستہ میں ڈال دو اس شخص نے اپنا سامان راستہ میں ڈال دیا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کرنا شروع کر دی۔ اس شخص نے اپنے پڑوسی کے تکلیف پہنچانے کی کیفیت بیان کی تو لوگوں نے اس شخص کے پڑوس پر لعنت بھیجتا اور بددعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ اس شخص کو ایسا بنا دے ویسا بنا دے اس بات پر اس شخص کا پڑوسی آیا اور اس نے کہا کہ اپنے گھر میں چلو اب آئندہ میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کروں گا کہ جو تم کو ناگوار ہو۔

۱۷۱۳: محمد بن متوکل، عبدالرزاق، معمر زہری، ابوسلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہئے کہ زبان سے خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔

۱۷۱۴: مسدّد سعید بن منصور، حارث ابو عمران، طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں میں کس کے ساتھ پہلے احسان کا معاملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جس شخص کا دروازہ قریب ہو۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبہ نے اس حدیث میں فرمایا کہ طلحہ قریش میں سے تھے۔

لِحَارِي الْيَهُودِيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِيهِ۔

۱۷۱۲: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ أَذْهَبُ فَاصْبِرْ فَإِنَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ أَذْهَبُ فَاطْرُحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبْرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَّ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ۔

۱۷۱۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔

۱۷۱۴: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرُودٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبِيدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ بَيْنَهُمَا أَبَدًا قَالَ بِأَدْنَاهُمَا بَابًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَلْحَةَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ۔

باب: غلام باندی کے حقوق

۱۷۱۵: زہیر عثمان بن ابی شیبہ محمد بن فضیل مغیرہ ام موسیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر گفتگو یہ تھی کہ نماز کا دھیان رکھو نماز کا دھیان رکھو اور باندی (غلام) کے بارے میں خوف الہی اختیار کرو۔

۱۷۱۶: عثمان بن ابی شیبہ جریر اعمش معرور بن سوید سے روایت ہے کہ میں نے ربذہ میں ابوذر کو دیکھا موٹی چادر اوڑھے ہوئے اور انکا غلام بھی اسی قسم کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابوذر! تم غلام کی چادر کیوں نہیں لیتے تاکہ تمہارا جوڑا مکمل ہو جائے۔ تم اس کو ایک دوسرا کپڑا لے کر دے دینا۔ ابوذر نے فرمایا میں نے ایک شخص کو برا بھلا کہا اس کی ماں عرب میں سے نہیں تھی تو میں نے اسکی ماں کو گالی دی۔ اس نے نبی سے میری شکایت کر دی۔ آپ نے فرمایا اے ابوذر! تم اس قسم کے آدمی ہو کہ جس میں دور جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ آپ نے فرمایا غلام باندی تمہارے بھائی بہن ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو تم کو جس سے مفاہمت نہ ہو اس کو فروخت کر دو (اور یہ نہ کرو کہ بلاوجہ ظلم و زیادتی کر کے اس کو رکھو) اور اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ پہنچاؤ۔

۱۷۱۷: مسدّد عیسیٰ اعمش حضرت معرور سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس (مقام) ربذہ میں گئے وہ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی اسی طرح کی چادر اوڑھے ہوئے تھا ہم لوگوں نے کہا تم اپنے غلام کی چادر کس وجہ سے نہیں لیتے۔ تمہارا ایک جوڑا بن جائے گا اور تم اس کو دوسرا کپڑا دے دینا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے پھر جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو وہ شخص خود جو کچھ کھائے وہ ہی اس کو کھلائے اور خود جو پہنے وہی اس کو پہنائے اور اس سے ایسے کام کونہ کہے کہ جیسے وہ نہ کر سکے اگر کہے تو خود بھی اس کی امداد کرے امام ابوداؤد

باب فی حق المملوک

۱۷۱۵: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ مَغِيرَةَ عَنْ أُمِّ مُوسَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَانَ آخِرَ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔

۱۷۱۶: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبِذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلَهُ قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ كُنْتَ أَخَذْتَ الْإِدْيَ عَلَى غُلَامِكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَ هَذَا فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتُ غُلَامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ إِنِّي كُنْتُ سَابَيْتُ رَجُلًا وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَغَيَّرْتُهُ بِأَمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَلَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يَلَائِمْكُمْ فَبِعُوهُ وَلَا تَعْدِبُوا خَلْقَ اللَّهِ۔

۱۷۱۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبِذَةِ فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلَامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً وَكَسَوْتَهُ ثَوْبًا غَيْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَحْوَهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَكْسِهِ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْلِفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ الْأَعْمَشُ

نَحْوَهُ۔

فرماتے ہیں کہ اسی طرح ابن نمیر نے اعمش سے روایت کیا۔

۱۷۱۸: محمد بن علاء (دوسری سند) ابن شنیٰ ابو معاویہ اعمش ابراہیم ان کے والد حضرت ابوسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا اسی وقت پیچھے سے ایک آواز آئی۔ اے ابوسعود! خوب یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے کہ جس قدر تم اس پر اختیار رکھتے ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے لئے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس طرح نہ کرتے تو تم کو دوزخ کی آگ گھیر لیتی۔

۱۷۱۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أُضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا أَعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى مَرَّتَيْنِ لِلَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حَرٌّ لَوْ جِهِ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَعْتَكَ النَّارَ أَوْ لَمَسْتِكَ النَّارَ۔

۱۷۱۹: ابوالکامل عبد الواحد اعمش سے اسی طریقہ سے روایت ہے اس میں یہ مروی ہے کہ میں کوڑے سے اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا اور اس روایت میں آزاد کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۷۱۹: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ نَحْوَهُ قَالَ كُنْتُ أُضْرِبُ غُلَامًا لِي أَسْوَدَ بِالسُّوْطِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْعَنْقِ۔

۱۷۲۰: محمد بن عمرو جری، منصور مجاہد، مورق، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو غلام باندی تمہارے مزاج کے مطابق ہو تو جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ۔ اگر وہ تمہارے موافق نہ ہو تو اس کو فروخت کرو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔

۱۷۲۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْرِقٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَأْتَمَّكُمْ مِنْ مَمْلُوكِكُمْ فَأَطِعْمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَكْسُوهُ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَمَنْ لَمْ يَلَأْتَمَّكُمْ مِنْهُمْ فَبِعُوهُ وَلَا تَعْدَبُوا خَلْقَ اللَّهِ۔

۱۷۲۱: ابراہیم بن موسیٰ، عبدالرزاق، معمر، عثمان بن زفر، بنورافع کا بیٹا، حارث، حضرت رافع بن مکیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا باعث خیر و برکت ہے اور بر اسلوک کرنا باعث نحوست ہے۔

۱۷۲۱: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسْنُ الْمَلَائِكَةِ يَمْنٌ وَسُوءُ الْخَلْقِ شُؤْمٌ۔

۱۷۲۲: ابن مصفیٰ، بقیہ عثمان، حضرت محمد بن خالد بن رافع، رافع قبیلہ جہینہ میں سے تھے اور صلح حدیبیہ میں شامل تھے ان سے روایت ہے کہ

۱۷۲۲: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا غلام باندی کے ساتھ حسن سلوک کرنا خیر و برکت کا سبب ہے اور بدسلوکی کرنا نحوست ہے۔

رَافِعُ بْنُ مَكِيثٍ عَنْ عَمِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَدْ شَهِدَ الْحَدِيثَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَسَنُ الْمَلَائِكَةِ يَمْنُ وَسُوءُ الْخُلُقِ شُومٌ۔

۱۷۲۳: احمد بن سعید احمد بن عمرو ابن وہب ابوہانی عباس حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ پھر اس شخص نے (دوبارہ) دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزانہ ستر مرتبہ معاف کیا کرو۔

۱۷۲۳: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَهَذَا حَدِيثٌ الْهَمْدَانِيُّ وَهُوَ أَتَمُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئِ الْخَوْلَانِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ جَلِيدِ الْحَجْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً۔

۱۷۲۴: ابراہیم بن موسیٰ (دوسری سند) مؤمل بن فضل عیسیٰ فضیل ابو نعیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو القاسم نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے غلام یا باندی پر زنا کا الزام لگائے حالانکہ وہ غلام یا باندی اس فعل سے پاک ہو تو اگر چہ دنیا میں اس آقا پر حد قذف نہیں لگے گی (لیکن) قیامت کے دن اس کے حد قذف میں کوڑے مارے جائیں گے۔

۱۷۲۴: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْخَوْرَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا فَضِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَزْرَوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ ﷺ قَالَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جَلِدْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدًّا قَالَ مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنِ الْفَضِيلِ يَعْنِي ابْنَ عَزْرَوَانَ۔

۱۷۲۵: مسدد، فضیل، حصین ہلال بن یساف سے روایت ہے کہ ہم لوگ سوید بن مقرن کے گھر میں اترے تھے اور ہم لوگوں کے ساتھ ایک ضعیف العمر گرم مزاج شخص تھا اس کی ایک باندی تھی۔ اس نے اس باندی کے طمانچہ ماریا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سوید اس قدر غصہ ہوئے ہوں جس قدر اس دن غصہ ہوئے اور فرمایا اب تم اس کے تدارک سے عاجز ہو علاوہ اس کے کہ تم اس کو آزاد کردو اور میں نے خود اپنے کو دیکھا کہ میں

۱۷۲۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا نَزُولًا فِي دَارِ سُؤَيْدِ بْنِ مَقْرَنٍ وَفِينَا شَيْخٌ فِيهِ حِدَّةٌ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَلَطَمَ وَجْهَهَا فَمَا رَأَيْتُ سُؤَيْدًا أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرٌّ وَجْهَهَا لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةٍ

مقرن کی ساتویں نمبر کی اولاد تھا اور ہم لوگوں کے پاس ایک خدمت گزار تھا ہم میں سے جو سب سے چھوٹا تھا اس نے اس خدمت گزار کے منہ پر طمانچہ مارا تو رسول اللہؐ نے ہمیں اس غلام کے آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔

۱۷۲۶: مسدّد یحییٰ سفیان سلمہ حضرت معاویہ بن سوید بن مقرن سے روایت ہے کہ میں نے ایک آزاد کردہ غلام کے طمانچہ رسید کیا تو میرے والد صاحب نے مجھے اور اس کو طلب فرمایا پھر اس غلام سے کہا کہ تم اپنا بدلہ لے لو کیونکہ ہم مقرن کے لڑکے ہیں ہم سات اشخاص تھے دور نبوی میں اور ایک خادم کے علاوہ اور کوئی خادم نہیں تھا ہم لوگوں میں سے کسی نے اس کے ایک طمانچہ مار دیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس غلام کو آزاد کر دو۔ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی خدمت گزار نہیں ہے (یہ سن کر) آپ نے ارشاد فرمایا جب تک یہ لوگ مالدار نہ ہوں اس وقت تک یہی خدمت گزار خدمت کرے جب مالدار ہو جائیں تو اس کو آزاد کر دیں۔

۱۷۲۷: مسدّد ابوکامل ابو عوانہ فراس ابو صالح حضرت زاذان سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا انہوں نے اپنا ایک غلام آزاد کیا تھا۔ انہوں نے زمین سے ایک تکیا کوئی اور چیز اٹھائی اور پھر فرمایا کہ مجھے اس غلام کے آزاد کرنے میں اس قدر بھی ثواب نہیں ہے کیونکہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص اپنے غلام کے طمانچہ لگائے یا اس کی پٹائی کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دے۔

باب: غلام یا باندی جب اپنے مالک کے ساتھ بھلائی

کریں تو ان کے لئے کس قدر اجر ہے

۱۷۲۸: عبد اللہ بن مسلمہ مالک نافع حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جب غلام اپنے مالک کی خیر خواہی کرے اور بہتر طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کو دو گنا ثواب ملے گا۔

مِنْ وَكَلِدٍ مُّقْرَنٍ وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَ أُصْغَرْنَا وَجْهَهَا فَأَمَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْفِهَا۔

۱۷۲۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُؤَيْدِ بْنِ مُقْرِنٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا قَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي فَقَالَ اقْتَصَّ مِنْهُ فَإِنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقْرِنٍ كُنَّا سَبْعَةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقُوهَا قَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا قَالَ فَاتَّخِذْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا فَإِذَا اسْتَغْنُوا فَلْيُعْتِقُوهَا۔

۱۷۲۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ذُكِرَ عَنْ زَادَانَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عَوْدًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَنْبَوِي هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ۔

بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا

نَصَحَ

۱۷۲۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ۔

باب: جو شخص کسی شخص کے غلام باندی کو بھڑکائے تو

اس کو کس قدر سخت گناہ ملے گا

۱۷۲۹: حسن بن علی زید، عمار، عبداللہ، عکرمہ، یحییٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کی بیوی یا باندی یا غلام کو بھڑکائے اور اس کے شوہر یا مالک سے باغی بنا دے تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔

باب: اجازت حاصل کرنے کا بیان

۱۷۳۰: محمد بن عبید اللہ، حماد، عبید اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں جھانکا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیراٹھا کر کھڑے ہوئے گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بے خبری میں مار دیں۔

۱۷۳۱: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، اسمیل، ان کے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکے پھر وہ اس کی آنکھ پھوڑ ڈالے تو اس کی آنکھ ضائع گئی (اور اس سے انتقام نہیں لیا جائیگا)

۱۷۳۲: ربیع بن سلیمان، ابن وہب، سلیمان، کثیر، ولید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گھر کے اندر نظر ڈال لی تو پھر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے۔

۱۷۳۳: یحییٰ بن حبیب، روح (دوسری سند)، ابن بشار، ابو عاصم، ابن جریج، عمرو بن ابی سفیان، عمرو بن عبد اللہ، کلدہ بن حنبل سے روایت ہے کہ حضرت صفوان بن امیہ نے ان کو خدمت نبوی میں دودھ ہرن اور گلزیاں دے کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منگے معظمہ کے بالائی حصہ میں تھے میں گیا اور سلام نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

بَابُ فِيمَنْ حَبَبَ مَمْلُوكًا

عَلَى مَوْلَاهُ

۱۷۲۹: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَبَبَ زَوْجَةَ امْرَأٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.

بَابُ فِي الْاِسْتِئْذَانِ

۱۷۳۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجُرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصٍ قَالَ فَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْتَلِلُهُ لِيَطْعَنَهُ.

۱۷۳۱: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَطْلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَقَنُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ.

۱۷۳۲: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْبَصْرُ فَلَا إِذْنَ.

۱۷۳۳: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رُوْحٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سَفْيَانَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ كَلْدَةَ بِنْتِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنِ وَجَدَائِيَّةٍ وَضَغَائِيْسٍ وَالنَّبِيِّ ﷺ بِأَعْلَى

فرمایا واپس جاؤ اور السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ اور یہ واقعہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پیش آیا۔ عمرو نے بیان کیا کہ مجھے ابن صفوان نے یہ تمام روایت بتلائی لیکن اس روایت میں سننے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور یحییٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ کلدہ بن حنبل نے عمرو بن عبد اللہ بن صفوان سے یہ روایت بیان کی۔

مَكَّةَ فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُسَلِّمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ عَمْرُو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ صَفْوَانَ بِهَذَا أَجْمَعَ عَنْ كَلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلْدَةَ بْنَ الْحَنْبَلِ أَخْبَرَهُ.

۱۷۳۴: ابو بکر بن ابی شیبہ ابوالاحوص، منصور، حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ گھر میں تھے تو وہ کہنے لگا کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ آپ نے خادم سے فرمایا تم جاؤ اور اس کو اجازت کا طریقہ سکھلا دو کہ اور اسے کہو کہ وہ کہے السلام علیکم، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اس شخص نے یہ بات سن لی۔ اس نے کہا السلام علیکم کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔

۱۷۳۴: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ أَلْحُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِخَادِمِهِ اخْرُجْ إِلَيَّ هَذَا فَعَلِمَهُ الْإِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ.

۱۷۳۵: عثمان بن ابی شیبہ جریر (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، حفص، اعش، طلحہ، زبیر سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا۔ عثمان، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر اجازت مانگنے کے لئے کھڑا ہوا اور بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہوا۔ ان سے ارشاد فرمایا دروازے کے اس طرف کھڑے ہو یا اس طرف اس لئے کہ اجازت حاصل کرنا اسی وجہ سے ضروری ہے کہ گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔

۱۷۳۵: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ هَزْرَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ قَالَ عُثْمَانُ سَعْدُ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ قَالَ عُثْمَانُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ.

۱۷۳۶: ہارون بن عبد اللہ ابوداؤد سفیان، اعش، طلحہ، بنو سعد کے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

۱۷۳۶: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَصْرَفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ -

۱۷۳۷: ہناد بن سری، ابوالاحوص، منصور، ربیع سے روایت ہے قبیلہ بنو

۱۷۳۷: حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي

عامر کے ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے اجازت مانگی پھر اسی طریقہ سے روایت کیا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس طریقہ سے مسد نے ابوعوانہ منصور سے روایت کیا ہے اور اس روایت میں قبیلہ بنو عامر کے شخص کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۷۳۸: عبید اللہ ان کے والد شعبہ منصور ربیع قبیلہ بنی عامر کے ایک شخص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول کریم ﷺ سے اجازت مانگی پھر اسی طریقہ سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا السلام علیکم کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟

باب: انسان اجازت لینے کے لئے کتنی مرتبہ سلام کرے

۱۷۳۹: احمد بن عبدہ سفیان یزید بن حصیفہ بسر بن سعید حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مجلس میں انصار کے پاس بیٹھا تھا کہ ابوموسیٰ گھبرائے ہوئے پہنچے۔ ہم نے معلوم کیا کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلب کیا میں چلا گیا اور میں نے ان سے تین مرتبہ اندر جانے کی اجازت مانگی لیکن مجھے کسی قسم کا جواب نہیں ملا تو میں واپس ہو گیا۔ انہوں نے دریافت فرمایا تم کیوں اندر نہیں آئے؟ میں نے جواب دیا کہ میں آیا تین مرتبہ اجازت مانگی لیکن کوئی جواب نہ ملا اور نبی نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت مانگے پھر اس کو اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے عمر نے فرمایا تمہیں اس بات پر کوئی گواہ پیش کرنا پڑے گا کہتے ہیں کہ ابوسعید نے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ شخص جائے گا جو مجلس کے لوگوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ پھر حضرت ابوسعید حضرت ابوموسیٰ کے ساتھ گئے اور شہادت پیش کی۔

۱۷۴۰: مسد عبد اللہ بن داؤد طلحہ بن یحییٰ ابوربدہ ابوموسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ وہ عمر فاروق کے پاس آئے اور تین مرتبہ اندر داخل ہونے کی اس طریقہ سے اجازت مانگی کہ ایک مرتبہ کہا کہ ابوموسیٰ (اندر

الْأَحْوَصَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَدَّثْتُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُسَدُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ -

۱۷۳۸: حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ -

باب کمر مرتبہ یسلم الرجل فی

الاستئذان

۱۷۳۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَحْبَرَنا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْفَةَ عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَرِعًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَفْرَعَكَ قَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ آتِيَهُ فَاتِيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي قُلْتُ قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ قَالَ لَتَأْتِيَنَّ عَلَيَّ هَذَا بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ -

۱۷۴۰: حَدَّثَنَا مُسَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ آتَى عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَقَالَ

آنے کی) اجازت چاہتا ہے پھر کہا اشعری اجازت چاہتا ہے پھر کہا عبد اللہ بن قیس اجازت چاہتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ واپس ہوئے تو عمر نے ان کے پیچھے ایک شخص روانہ کیا جب وہ واپس ہوئے تو کہا تم کس وجہ سے واپس ہو گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے ہر ایک شخص تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگے اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو ورنہ واپس چلا جائے۔ عمر نے فرمایا تم اس بات پر گواہ پیش کرو۔ وہ واپس آئے اور اُبی بن کعب کو لے کر آئے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ یہ اُبی اس بات پر شاہد ہیں اُبی نے فرمایا اے عمر! رسول اللہ کے اصحاب کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ عمر نے کہا میں ہرگز آپ کے اصحاب کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔

۱۷۴۱: یحییٰ بن حنیب، روح ابن جریج، عطاء، حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی پھر یہی واقعہ بیان کیا یہاں تک کہ حضرت ابو موسیٰ ابوسعید کو لے کر آئے۔ انہوں نے شہادت دی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حدیث مجھ سے مخفی رہ گئی مجھے بازار کے لین دین نے غافل بنا دیا اب تم جتنی مرتبہ چاہو سلام کیا کرو اور اندر آنے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

۱۷۴۲: زید بن اخزم، عبد القاہر، ہشام، حمید، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طریقہ پر روایت کیا ہے اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے تم کو جھوٹا نہیں سمجھا لیکن حضور اکرم ﷺ سے حدیث روایت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔

۱۷۴۳: عبد اللہ بن مسلمہ، مالک، ربیعہ اور مدینہ منورہ کے دیگر علماء سے اس واقعہ کے سلسلہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا میں نے تمہیں جھوٹا آدمی نہیں سمجھا لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ لوگ آپ پر باتیں بناٹے لگیں گے (یعنی حدیث نقل

يَسْتَأْذِنُ أَبُو مُوسَى يَسْتَأْذِنُ الْأَشْعَرِيُّ يَسْتَأْذِنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ قَالَ انْتَبِي بَيْنِي عَلَى هَذَا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ هَذَا أَبِي فَقَالَ أَبِي يَا عُمَرُ لَا تَكُنْ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَكُونُ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

۱۷۴۱: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ فَاَنْطَلَقَ بِأَبِي سَعِيدٍ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ أَخْفَى عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَائِي السَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَلَكِنْ سَلِمَ مَا شِئْتَ وَلَا تَسْتَأْذِنُ۔

۱۷۴۲: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى إِنِّي لَمْ أَتَّهَمُكَ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ۔

۱۷۴۳: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فِي هَذَا فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهَمُكَ وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ

يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -

کرنے میں احتیاط سے کام نہ لیں گے)

۱۷۴۴: حَدَّثَنَا هِشَامُ أَبُو مَرْوَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمُعَنَّى قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنْزِلِنَا فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَردَا سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا قَالَ قَيْسٌ فَقُلْتُ أَلَا تَأْتِنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَرَّهُ يَكْثُرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَردَا سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِيَكْثُرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ قَالَ فَانصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغَسَلٍ فَاتَّغَسَلَ ثُمَّ نَارَاهُ مِلْحَمَةً مَضْبُوعَةً بِزَعْفَرَانَ أَوْ وَرْسٍ فَاسْتَمَلَ بِهَا ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَيَّ آلِ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ قَالَ ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمَّا أَرَادَ الْإِنْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا قَيْسُ اصْحَبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْكَبْ فَأَيُّتُ ثُمَّ قَالَ إِمَّا أَنْ تَرَكِبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ قَالَ فَانصَرَفْتُ قَالَ هِشَامُ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ

۱۷۴۴: محمد بن ثنیٰ ہشامؓ اولیٰد اوزاعیؓ یحییٰؓ محمد بن عبد الرحمنؓ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ملاقات کے لئے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (باہر سے ہی) السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی آواز سے جواب دیا۔ قیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سلام کر لینے دو۔ آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پھر ہلکی آواز سے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے چل دیئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا سلام سن رہا تھا لیکن میں ہلکی آواز سے اس تمنا میں جواب دے رہا تھا کہ آپ زیادہ (مرتبہ) ہم لوگوں کو سلام کریں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس تشریف لائے حضرت سعد نے آپ کے لئے غسل کے پانی کے بندوبست کا حکم دیا۔ آپ نے غسل فرمایا پھر حضرت سعد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک چادر پیش کی جو کہ زعفران یا ورس میں رنگی ہوئی تھی۔ آپ نے اس چادر کو لپیٹ لیا اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ارشاد فرمایا اے اللہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی اولاد پر رحمت و برکت نازل فرما۔ پھر آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ کی سواری کے لئے ایک گدھا لے کر حاضر ہوئے جس پر چادر پڑی ہوئی تھی آپ اس پر سوار ہوئے۔ حضرت سعد نے کہا اے قیس تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جاؤ۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سوار ہو جاؤ میں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا یا تو تم سوار ہو جاؤ ورنہ واپس ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں واپس آ

گیا۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد الواحد اور ابن سمعہ نے اس روایت کو مرسلًا اوزاعی سے روایت کیا ہے۔ قیس بن سعد کا ذکر نہیں کیا۔

۱۷۴۵: مؤمل بقیہ، محمد بن عبد الرحمن، حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے دروازے پر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی جانب چہرہ کر کے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دروازے کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوئے اور السلام علیکم السلام علیکم کہتے اس لئے کہ ان دنوں دروازوں پر پردے موجود نہیں ہوتے تھے۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَابْنُ سَمَاعَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ۔

۱۷۴۵: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ فِي آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْبَةِ الْيَمِينِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمئِذٍ سُتُورَ۔

باب: بوقت اجازت دروازہ کھٹکھٹانا

۱۷۴۶: مسند بشر شعبہ، حضرت محمد بن منکدر سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قرضہ کی گھنگو کرنے کے سلسلے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دریافت فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا: نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں گویا آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔

بَابُ دُقِّ الْبَابِ عِنْدَ الْإِسْتِئْذَانِ
۱۷۴۶: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَشْرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِينِ أَبِيهِ فَدَقَّقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا قَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ۔

۱۷۴۷: یحییٰ بن ایوب، اسماعیل، محمد بن عمرو، ابوسلمہ، حضرت رافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ میں ایک باغ میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس کا دروازہ بند رکھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دریافت کیا کون؟ پھر حدیث کو اخیر تک بیان کیا۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں یعنی ابوموسیٰ کی حدیث کو بیان کیا۔ فَدَقَّقُ الْبَابِ کو

۱۷۴۷: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ يَعْنِي الْمُقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لِي أَمْسِكِ الْبَابَ فَضَرَبَ الْبَابُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا وَسَأَقِ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ فِيهِ فَدَقَّقُ الْبَابَ۔

باب: کیا کسی شخص کا بلایا جانا اس کے لئے اجازت

ہوگا؟

بَابُ فِي الرَّجُلِ يُدْعَى أَيْكُونُ

ذَلِكَ إِذْنُهُ

۱۷۴۸: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، حبیب، ہشام، محمد، حضرت ابو ہریرہ رضی

۱۷۴۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ

عَنْ حَبِيبٍ وَهَشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ

اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کسی کو بلانے کے لئے بھیجے تو وہی اس کی اجازت ہے۔

۱۷۴۹: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللَّوْلُوِيُّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ شَيْئًا۔

۱۷۴۹: حسین بن معاذ، عبدالاعلیٰ سعید، قتادہ، حضرت ابورافع، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگوں میں سے کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور ہے کہ قتادہ کا سماع ابورافع سے ثابت نہیں ہے۔

باب: علیحدگی کے تین اوقات میں اجازت

بَابِ الْإِسْتِئْذَانِ فِي الْغُورَاتِ

لِئِنِّي كَأَحْكَمِ

الثَّلَاثِ!

۱۷۵۰: ابن سرح (دوسری سند) ابن صباح، ابن عبدة، سفیان، عبید اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اجازت لینے کی آیت کریمہ پر زیادہ تر لوگوں نے عمل نہیں کیا لیکن میں نے اپنی اس باندی کو بھی حکم دے دیا کہ میرے پاس اجازت لے کر آئے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس طریقہ سے روایت کیا ہے وہ اجازت لینے کا حکم فرماتے تھے۔

۱۷۵۰: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ بْنُ سَفْيَانَ وَابْنُ عَبْدَةَ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرَ النَّاسِ آيَةَ الْإِذْنِ وَإِنِّي لَأَمْرٌ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَمْرٍ بِهِ

۱۷۵۱: عبد اللہ بن مسلمہ، عبدالعزیز، عمرو، عکرمہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے جو کہ عراق کے باشندے تھے، ابن عباس سے عرض کیا کہ اس آیت کے سلسلہ میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جس میں ہمیں حکم ہوا جو حکم ہوا۔ لیکن کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا یہ آیت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ یعنی اہل ایمان! چاہئے کہ تمہارے پاس تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں اور جوڑوں کے سمجھ دار ہیں لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے (یعنی مراهق اور بلوغت کے قریب لڑکے) تین مرتبہ اجازت لے کر داخل ہوا کریں، نماز فجر سے پہلے اور جس وقت تم دوپہر کے وقت کپڑے اتارتے ہو اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ تین اوقات ہیں

۱۷۵۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ تَرَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي أَمَرْنَا فِيهَا بِمَا أَمَرْنَا وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا فَلَا تَمْرَاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ

کہ جن میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ان تین اوقات کے علاوہ کسی قسم کا گناہ نہیں نہ تم پر اور نہ ان پر (یعنی ان داخل ہونے والوں پر) کہ ایک دوسرے کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ بہتر طریقہ سے واقف ہیں حکمت والے۔ ابن عباسؓ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ علم والے اور رحمت کرنے والے ہیں اہل ایمان کے ساتھ اور پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں جس وقت آیت نازل ہوئی تو اس وقت لوگوں کے مکانات میں نہ پردے تھے نہ مسہریاں تھیں تو اکثر خدام یا لڑکے یا یتیم ایسے وقت میں آجاتا کہ انسان اپنی اہلیہ سے ہم بستری کرتا ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان اوقات میں اجازت لینے کا حکم فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پردے عطا فرمادیئے اور تمام کچھ عنایت فرمایا جب سے میں نے کسی شخص کو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

الظَّهِيرَةَ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ تِلْكَ لَأَنَّ عَوْرَاتِكُمْ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ قَرَأَ الْقَعْنَبِيُّ إِلَى عَلِيٍّ حَكِيمٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُجِبُّ السُّتْرَ وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ وَلَا حِجَالٌ فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوْ الْوَالِدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمُ اللَّهُ بِالسُّتُورِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَرِ أَحَدًا يَعْمَلُ بِدَلِّكَ بَعْدُ۔

أَبْوَابُ السَّلَامِ

احکام اسلام

باب: بوقت ملاقات سلام کرنا

۱۷۵۲: احمد بن ابی شعیب زہیر امش ابو صالح حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم لوگ جنت میں داخل نہ ہو گے جس وقت تک تم ایمان نہ لاؤ اور تم لوگوں کا ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک کہ تم لوگ باہمی طور پر ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو اور میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں کہ جب تم اس کام کو انجام دو تو باہمی طور پر محبت کرنے لگو وہ کام یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کو خواب رواج دو۔

۱۷۵۳: قتیبہ لیث یزید ابو الخیر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کا کونسا کام اچھا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور ہر ایک شخص کو سلام کرنا چاہے اس سے تمہاری واقفیت ہو یا

باب فی إفشاءِ السَّلَامِ

۱۷۵۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أَدَلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفَلَسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔

۱۷۵۳: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ

لَسَّلَامَ عَلَيَّ مَنْ عَرَفْتِ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفِ۔

واقفیت نہ ہو۔

باب كَيْفَ السَّلَامُ

باب: کس طریقہ سے سلام کیا جائے؟

۱۷۵۴: محمد بن کثیر، جعفر، عوف، ابورجاء، عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا السلام علیکم۔ آپ نے اس کو جواب دیا۔ وہ شخص بیٹھ گیا آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو دس نیکیاں مل گئیں۔ پھر دوسرا شخص آیا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا آپ نے اس کو جواب عطا فرمایا۔ وہ شخص بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اس شخص کو بیس نیکیاں مل گئیں۔ پھر ایک شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے جواب عطا فرمایا وہ شخص بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو تیس نیکیاں مل گئیں۔

۱۷۵۴: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَوَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَوَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَوَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ۔

۱۷۵۵: اسحاق بن سوید، ابن ابی مریم، نافع، ابومرہوم، حضرت سہل بن معاذ، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس (نیکیاں مل گئیں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طریقہ سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

۱۷۵۵: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمٍ قَالَ أَظُنُّ ابْنَ سَمْعَةَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ قَالَ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ۔

باب: سلام میں پہل کرنے کی فضیلت

۱۷۵۶: محمد بن یحییٰ، ابو عاصم، ابو خالد، ابوسفیان، حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جو کہ سلام کرنے میں پہل کرے۔

باب فِي فَضْلِ مَنْ بَدَأَ السَّلَامَ

۱۷۵۶: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الدُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَهَبٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْحَمَصِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ۔

باب: سلام کس کو کرے؟

۱۷۵۷: احمد بن حنبل، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا چھوٹا شخص بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو

باب مَنْ أَوْلَى بِاللَّهِ

۱۷۵۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَثَبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْلَمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ

سلام کریں۔

۱۷۵۸: یحییٰ بن حبیب، روح ابن جریج، زیاد، حضرت ثابت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا سواری والا شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے پھر اسی حدیث کو بیان کیا۔

باب: جب کوئی شخص دوسرے سے علیحدہ ہو کر دوبارہ

ملاقات کرے تو سلام کرنا چاہئے

۱۷۵۹: احمد بن سعید، ابن وہب، معاویہ بن صالح، ابوموسیٰ، ابومریم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے اگر دونوں کے درمیان ایک درخت یا دیوار یا پتھر کی آڑ ہو جائے پھر ملاقات کرے تو پھر سلام کرنا چاہئے۔ معاویہ نے بیان کیا کہ عبد الوہاب نے ابو الزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت اسی طریقہ سے بیان کی ہے۔

۱۷۶۰: عباس غزالی، اسود بن عامر، حسن بن صالح، ان کے والد سلمہ بن کھیل، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرہ میں تشریف فرما تھے انہوں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم کیا عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اندر آسکتا ہے؟

باب: بچوں کو سلام کرنے کا بیان

۱۷۶۱: عبد اللہ بن مسلمہ، سلیمان، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے پاس سے گزر ہوا جو کہ ایک جگہ کھیل رہے تھے۔ آپ نے ان کو سلام کیا۔

وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ۔

۱۷۵۸: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّأَكِبُ عَلَى الْمَاشِي ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ۔

بَاب فِي الرَّجُلِ يَفَارِقُ الرَّجُلَ

ثُمَّ يَلْقَاهُ أَيْسَلِّمُ عَلَيْهِ

۱۷۵۹: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُحْتٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً۔

۱۷۶۰: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عُمَرُ۔

بَاب فِي السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

۱۷۶۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى غُلَمَانٍ يَلْعَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ۔

۱۷۶۲: ابن ثنیٰ، خالد بن حارث، حمید، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں لڑکوں میں ایک لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام کیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنا خط دے کر روانہ فرما دیا اور میرے واپس ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے سائے میں تشریف فرما رہے۔

باب: خواتین کو سلام کرنے کا بیان

۱۷۶۳: ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عیینہ، ابن ابی حسین، حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ انہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت یزید نے بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم خواتین کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا۔

باب: کفار کو کس طریقہ سے

سلام کیا جائے؟

۱۷۶۴: حفص بن عمر، شعبہ، حضرت سہیل بن ابی صالح سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ ملک شام کے سفر پر گیا تو لوگ نصاریٰ کے گرجوں سے پاس سے گزرنے لگے اور ان کو سلام کرنے لگے تو میرے والد نے فرمایا تم لوگ سلام کرنے میں پہل نہ کرو کیونکہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں حدیث سنائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ یہود و نصاریٰ کو سلام نہ کرو اور جب تم انہیں راستوں میں ملو تو ان کو تنگ راستہ پر چلنے پر مجبور کر دو۔

۱۷۶۵: عبد اللہ بن مسلمہ، عبد العزیز بن مسلم، عبد اللہ بن دینار، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی آدمی جب تم لوگوں میں سے کسی کو سلام کرتا ہے تو السلام علیکم کے بجائے السام علیکم کہتا ہے (یعنی تم کو موت آئے) تو تم لوگ اس کے جواب میں وعلیکم کہا کرو (یعنی تم کو ہی موت آئے) امام ابوداؤد فرماتے ہیں عبد اللہ بن دینار سے مالک نے اسی طریقہ پر روایت کیا

۱۷۶۲: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حَمِيدٌ قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَنْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غَلَامٌ فِي الْعِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَأَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ وَقَعَدَ فِي ظِلِّ جِدَارٍ أَوْ قَالَ إِلَى جِدَارٍ حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ۔

بَاب فِي السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ

۱۷۶۳: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ سَمِعَهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ يَقُولُ أَخْبَرْتُهُ أَسْمَاءُ ابْنَةَ يَزِيدَ مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا۔

بَاب فِي السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ

الدِّمَّةِ

۱۷۶۴: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الشَّامِ فَجَعَلُوا يَمْشُونَ بِصَوَاعٍ فِيهَا نَصَارَى فَيَسْتَمُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبِي لَا تَبْدُؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبْدُؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاصْطَرُّوهُمْ إِلَى أَصْبَحِ الطَّرِيقِ۔

۱۷۶۵: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فِقُولُوا وَعَلَيْكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ

اور ثوری نے عبد اللہ بن دینار سے روایت کرتے ہوئے وعلیکم کا لفظ بیان کیا۔

۱۷۶۶: عمرو بن مرزوق شعبہ قوادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اہل کتاب ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو ہم لوگ کس طریقہ سے ان کو جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم کہا کرو۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابو عبد الرحمن ابوبصری غفاری کی روایت ہے۔

باب: مجلس سے اٹھتے وقت سلام کرنا چاہئے

۱۷۶۷: احمد بن حنبل، مسدد، بشر بن عجلان، مقبری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے جب کوئی شخص کسی مجلس میں جائے تو السلام علیکم کہے پھر جب مجلس سے اٹھنے لگے تو سلام کرے اس لئے کہ مجلس کی پہلی حالت اس کی آخری حالت سے زیادہ حقدار نہیں ہے (کہ آتے ہوئے سلام کیا جائے اور جاتے ہوئے نہ کیا جائے)۔

باب: لفظ علیک السلام کہنے کی کراہت

۱۷۶۸: ابوبکر بن ابی شیبہ، ابو خالد ابو غفار، ابو تمیمہ الجعفی، حضرت ابو جری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علیک السلام نہ کہو اس لئے کہ یہ مردوں کا سلام ہے۔

باب: جماعت میں سے کوئی ایک شخص سلام کا جواب

دے دے تو کافی ہے

۱۷۶۹: حسن بن علی، عبد الملک بن ابراہیم، سعید بن خالد، عبد اللہ بن فضل، عبید اللہ بن ابی رافع، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے

مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ فِيهِ وَعَلَيْكُمْ۔

۱۷۶۶: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَايَةُ عَائِشَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي بَصْرَةَ يَعْنِي الْغِفَارِيَّ۔

باب فِي السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

۱۷۶۷: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ يَعْنِيَانَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيَسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيَسَلِّمْ فَلْيَسَلِّمْ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ۔

باب كَرَاهِيَّةُ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلَامُ

۱۷۶۸: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَبِي غِفَارٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ الْهَجِيمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى۔

باب مَا جَاءَ فِي رَدِّ الْوَاحِدِ عَنِ

الْجَمَاعَةِ

۱۷۶۹: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ

روایت ہے امام ابوداؤد نے فرمایا کہ اس حدیث کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے مرفوع روایت کہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایک جماعت گزرے اور ان میں سے ایک ہی آدمی سلام کرے تو پوری جماعت کا سلام متصور ہوگا اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی ایک کا جواب دینا کافی ہوگا (سب کو جواب نہ دینے کی ضرورت نہیں ہے)

باب: مصافحہ کرنے کا بیان

۱۷۷۰: عمرو بن عون، ہشیم، ابی بلج، زید، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس سے بخشش مانگیں تو ان کی بخشش ہوگی۔

۱۷۷۱: ابوبکر بن ابی شیبہ، ابو خالد، ابن نمیر، جلیح، ابوالسحق، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان شخص ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو ان کے علیحدہ ہونے سے قبل ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

۱۷۷۲: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، حمید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اہل یمن حاضر ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یعنی لوگ آئیں ہیں اور یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مصافحہ کیا۔

باب: معانقہ کرنے کا بیان

۱۷۷۳: موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ابو حسین، ایوب بن بشیر، عنزہ قبیلہ کے ایک شخص نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جب وہ ملک شام سے رخصت ہونے لگے کہ میں تم سے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دریافت کرتا ہوں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بتلا دوں بشرطیکہ کوئی راز نہ ہو۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں راز کی بات نہیں ہے۔ (وہ سوال یہ ہے کہ) کیا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت ملاقات تم سے

الْحُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَمِيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ يُجْزَأُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزَأُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ۔

باب فِي الْمَصَافِحَةِ

۱۷۷۰: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلَجٍ عَنْ زَيْدِ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنْزِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا۔

۱۷۷۱: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَجْلِحِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا۔

۱۷۷۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمَصَافِحَةِ۔

باب فِي الْمَعَانِقَةِ

۱۷۷۳: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنزَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ حَيْثُ سِيرَ مِنَ الشَّامِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِذَا أُخْبِرَكَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِرًّا قُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ بِسِرٍّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقَيْتُمُوهُ قَالَ مَا لَقَيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافِحْنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ لِي فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ۔

مصافحہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی جب حضرت رسول کریم ﷺ سے ملاقات کی تو آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ایک دن آپ نے مجھ کو بلا بھیجا مگر میں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا جب واپس گھر پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ نے مجھے بلا بھیجا ہے۔ میں حاضر ہوا اس وقت حضرت رسول کریم ﷺ تخت پر تشریف رکھتے تھے آپ نے مجھ کو گلے لگا لیا۔ یہ منظر نہایت عمدہ تھا نہایت عمدہ تھا۔

حَلَاةُ النَّبَاتِ: ”مصافحہ“ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ دست یکدیگر را گرفتن۔ دو آدمیوں کا باہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا۔ معاہدہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے دست درگرون یکدیگر درآوردن۔ یعنی دو آدمیوں کا ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالنا دو آدمیوں کا باہم ایک دوسرے کو سینے سے لگانا۔

باہمی ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے نیز دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہئے، محض ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا غیر مسنون ہے کسی خاص موقع پر یا کسی خاص تقریب کے وقت مصافحہ ضروری سمجھنا غیر شرعی بات ہے چنانچہ بعض مقامات پر یہ جو رواج ہے کہ کچھ لوگ عصر کی نماز یا جمعہ کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ تخصیص وقت کے سبب اس طرح کا مصافحہ مکروہ ہے اور بدعت مذمومہ ہے ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور لوگ نماز میں مشغول ہوں یا نماز شروع کرنے والوں ہوں اور وہ شخص نماز ہو جانے کے بعد ان لوگوں سے مصافحہ کرے تو یہ مصافحہ بلاشبہ مسنون مصافحہ ہے بشرطیکہ اس نے مصافحہ سے پہلے سلام بھی کیا ہو تاہم یہ واضح رہے کہ اگرچہ کسی متعین اور مکروہ وقت میں مصافحہ کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کوئی شخص اس وقت مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھائے تو اس کی طرف سے ہاتھ کھینچ لینا اور اس طرح بے اعتنائی برتنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھانے والے شخص کو دکھ پہنچے گا اور کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچانا آداب کی رعایت سے زیادہ اہم ہے۔

جوان عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے اور اس بوڑھی عورت سے مصافحہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جس کی طرف جنسی جذبات مائل نہ ہو سکتے ہوں چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ان بوڑھیوں سے مصافحہ کرتے تھے جن کا دودھ انہوں نے پیا تھا اسی طرح وہ بڑھامرد جو جنسی جذبات کی فتنہ خیزیوں سے بے خوف ہو چکا ہو اس کو جوان عورت سے مصافحہ کرنا جائز ہے عورت کی طرح خوش شکل امرد سے بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ واضح رہے کہ جس کو دیکھنا حرام ہے اس کو چھونا بھی حرام ہے بلکہ چھونے کی حرمت دیکھنے کی حرمت سے بھی زیادہ سخت ہے جیسا کہ مطالب المؤمنین میں مذکور ہے۔

صلوٰۃ مسعودی میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص سلام کرے تو اپنا ہاتھ بھی دے یعنی مصافحہ کے لئے ہاتھ دینا سنت ہے لیکن مصافحہ کا یہ طریقہ ملحوظ رہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھے محض انگلیوں کے سروں کو پکڑنے پر اکتفا نہ کرے کیونکہ محض انگلیوں کے سروں کو پکڑنا مصافحہ کا ایسا طریقہ ہے جس کو بدعت کہا گیا ہے۔

معافقہ یعنی ایک دوسرے کو سینے سے لگانا مشروع ہے خاص طور پر اس وقت جب کوئی شخص سفر سے واپس آیا ہو جیسا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث منقول ہے، لیکن اس کی اجازت اسی صورت میں ہے جب کہ اس کی وجہ سے کسی برائی میں مبتلا ہو جانے یا کسی شک و شبہ کے پیدا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔

حضرت امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے بارے میں منقول ہے کہ یہ دونوں حضرت معافقہ اور تقبیل یعنی ہاتھ کو منہ اور آنکھوں کے ذریعہ چومنے کی کراہت کے قائل ہیں ان کا یہ کہنا کہ معافقہ کے بارے میں نبی منقول ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے یہ نہیں ثابت ہے۔ یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جن روایتوں سے معافقہ کی اجازت ثابت ہوتی ہے ان کا تعلق اس زمانہ سے جب کہ معافقہ کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا تھا۔ بہر حال اس سلسلے میں جو احادیث منقول ہیں اور جن کے درمیان بظاہر اختلاف نظر آتا ہے کہ بعض سے ممانعت کی اجازت ثابت ہوتی ہے اور بعض معافقہ کا تعلق محبت و اکرام کے جذبہ سے ہو وہ بلا شک و شبہ جائز ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ معافقہ کے بارے میں فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس صورت میں ہے جب کہ جسم پر کپڑے نہ ہوں بدن پر قمیص و جبہ وغیرہ ہونے کی صورت میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ بالاتفاق جائز ہے۔

تقبیل یعنی ہاتھ یا پیشانی وغیرہ چومنا بھی جائز ہے بلکہ بزرگان دین اور قبیحین سنت علماء کے ہاتھ پر بوسہ دینے کو بعض حضرات نے مستحب کہا ہے۔ لیکن مصافحہ کے بعد خود اپنا ہاتھ چومنا کچھ اصل نہیں رکھتا بلکہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے اور مکروہ ہے۔

امراء سلطنت اور علماء مشائخ کے سامنے زمین بوسی کرنا حرام ہے زمین بوسی کرنے والا اور اس زمین بوسی پر راضی ہونے والا دونوں ہی گنہگار ہوتے ہیں۔ فقہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ سلطان و حاکم کے سامنے زمین بوسی اور سجدہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے بشرطیکہ اس کی زمین بوسی و سجدہ عبادت کی نیت سے ہو اور اگر تجہ سلام کے طور پر ہو تو کافر نہیں ہوتا لیکن آثم اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور بعض علماء کے قول کے مطابق کسی بھی طرح کی نیت نہ ہونے کی صورت میں بھی کافر ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اکثر علماء کے نزدیک زمین بوسی کرنا زمین پر ماتھا سینے یا رخسارہ رکھنے سے پاک نفل ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ کسی عالم یا سلطان و حاکم کے ہاتھ کو چومنا ان کے علم و انصاف کی بنا پر اور دین کے اعزاز و اکرام کے جذبہ سے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اور اگر ان کے ہاتھ چومنے کا تعلق کسی دنیاوی غرض و منفعت سے ہو تو سخت مکروہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی عالم یا کسی بزرگ سے اس کا پیر چومنے کی درخواست کرے تو اس کو ہرگز نہیں ماننا چاہئے بچوں کو بوسہ سے پیار کرنے کی اجازت ہے اگرچہ غیر کاپچہ ہو بلکہ وہاں طفل پر بوسہ دینا مسنون ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ جو بوسہ شرعی طور پر جائز ہے اس کی پانچ صورتیں ہیں ایک تو مودت و محبت کا بوسہ جیسے والدین کا اپنے بچے کے رخسار کا چومنا دوسرے احترام و اکرام اور رحمت کا بوسہ جیسے اولاد کا اپنے والدین کے سر پر بوسہ دینا تیسرے جنسی جذبات کے تحت بوسہ دینا جیسے شوہر کا بیوی کے چہرہ کا بوسہ لینا چوتھے تجہ سلام کا بوسہ جیسے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ کو چومنا اور پانچویں وہ بوسہ جو بہن اپنے بھائی کی پیشانی کا لیتی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ اور چہرہ کا بوسہ دینا مکروہ ہے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا بوسہ لینا واجب ہے۔

امام نووی نے یہ لکھا ہے کہ شوہر بیوی کے علاوہ کسی اور جنسی جذبات کے تحت بوسہ لینا بالاتفاق حرام ہے خواہ وہ باپ ہو یا کوئی

باب: کسی کی عظمت و عزت افزائی کے لئے کھڑے

باب مَا جَاءَ فِي

ہونے کا بیان

الْقِيَامِ

۱۷۷۴: حفص بن عمر شعبہ سعد بن ابراہیم ابو امامہ بن سہل بن حنیف، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنو قریظہ کے لوگ حضرت سعد کے حکم پر اپنے قلعوں سے نیچے اترے تو رسول اللہ نے انہیں بھلا بھیجا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر پہنچے۔ نبی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے سردار کیلئے کھڑے ہو جاؤ یا فرمایا اپنے سے اعلیٰ شخص کی (عزت افزائی کیلئے) کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور حضرت رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھ گئے۔

۱۷۷۴: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَهْلَ قَرْيَظَةَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمُوا إِلَيَّ سَيِّدُكُمْ أَوْ إِلَيَّ خَيْرِكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

۱۷۷۵: محمد بن بشار، محمد بن جعفر، حضرت شعبہ سے اسی طریقہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسجد کے قریب پہنچے تو آپ نے انصار حضرات سے فرمایا تم لوگ اپنے (سربراہ و) سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔

۱۷۷۵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قَوْمُوا إِلَيَّ سَيِّدُكُمْ۔

۱۷۷۶: حسن بن علی، ابن بشار، عثمان، اسرائیل، میسرہ، منہال، حضرت عائشہ بنت طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے گفتگو اور چال چلن میں حسن کہتے ہیں کہ بات اور گفتگو کرنے میں۔ حسن نے چال چلن اور انداز کا تذکرہ نہیں کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جس وقت وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور شفقت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو پیار کرتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طریقہ سے جس وقت آنحضرت ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ (آپ کی تعظیم کے لئے) جگہ سے کھڑی ہو جاتیں اور محبت سے آپ کو پیار کرتیں اور اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتیں۔

۱۷۷۶: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمَاءَ وَهَدِيًّا وَذَلًّا وَقَالَ الْحَسَنُ حَدِيثًا وَكَأَلَمًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَسَنُ السَّمْتَ وَالْهُدَى وَالذَّلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا۔

خلاصہ الباب: ”کھڑے ہونے“ سے مراد ہے کسی کے لئے تعظیماً کھڑے ہونا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مجلس میں یا اپنے پاس آنے والے شخص کی تعظیم و توقیر کے لئے کھڑے ہو جانا مسنون ہے۔ ان حضرات نے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد

گرامی ﷺ سے استدلال کیا ہے کہ قوموا الی سید کہ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مکروہ و بدعت ہے اور اس کی ممانعت ثابت ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس طرح عجمی کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح تم نہ اٹھو اور فرمایا کہ یہ عجمیوں کا دستور ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ تفصیل طلب ہے اس لئے یہاں کچھ مفصلاً تحریر کئے دیتا ہوں۔

صحیحین میں ہے کہ ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم و ثالث بنانے پر اتر آئے تو رسول کریم ﷺ نے کسی شخص کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا (تا کہ وہ ان کو بلالائے اور وہ آ کر بنو قریظہ کا مطالبہ طے کریں) اس وقت حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کی قیام گاہ کے قریب ہی فروکش تھے چنانچہ وہ خر پر بیٹھ کر آئے اور جب مسجد کے قریب پہنچے تو رسول کریم ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا اے انصار تم اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔“

”بنو قریظہ“ مدینہ کے یہودیوں کے ایک قبیلہ کا نام ہے۔ سن ۵ھ میں غزوہ خندق کے دوران ان یہودیوں نے جو منافقانہ کردار کیا اور باوجودیکہ سابقہ معاہدہ کے تحت مدینہ کے اس دفاعی مورچہ پر ان یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ کفار عرب کی جارحیت کا مقابلہ کرنا چاہئے تھا لیکن انہوں نے اپنی روایتی بد عہدی اور شرارت کا مظاہرہ کیا اور مختلف قسم کی سازشوں کے ذریعہ اس دفاعی مورچہ کو توڑنے کے لئے کفار عرب کے آلہ کار بن گئے ان کی اس بد عہدی اور سازشی کارروائیوں کی بناء پر آنحضرت ﷺ نے غزوہ خندق کی فتح سے فارغ ہوتے ہی ان بنو قریظہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا اور ان سب یہودیوں کو ان کے قلعہ میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے بنو قریظہ کے قلعہ کا محاصرہ ۲۵ دن تک جاری رہا آخر کار انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ ہمارا معاملہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا جائے جو قبیلہ اوس کے سردار تھے اور قبیلہ اوس و بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ ان یہودیوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا جائے جو قبیلہ اوس کے سردار تھے اور قبیلہ اوس و بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ ان یہودیوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بیچ اور حکم تسلیم کرتے ہیں وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو بے چون و چرا مان لیں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ چونکہ ہمارے حلیف قبیلے کے سردار ہیں اور ان کے اور ہمارے درمیان تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہے اس لئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ یقیناً ہمارے ہی حق میں فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا کہ وہ آ کر اس معاملہ میں اپنا فیصلہ دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اگرچہ اس وقت آنحضرت ﷺ کی قیام گاہ کے قریب ہی فروکش تھے لیکن چونکہ غزوہ خندق میں وہ بہت سخت مجروح ہو گئے تھے اور خاص طور پر رگ ہفت اندام پر ایک زخم پہنچا تھا۔ جس سے خون برابر جاری تھا اس لئے نچر پر بیٹھ کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اس وقت تک ان کے زخم سے خون جاری تھا لیکن یہ آنحضرت ﷺ کا اعجاز تھا کہ جب آپ نے ان کو بلوا بھیجا تو خون رک گیا۔ بہر حال حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے پورے معاملہ کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے اور ان کے جرم بد عہدی و غداری کی بنا پر انہی کی شریعت کے مطابق جو فیصلہ دیا اس کا اصل یہ تھا کہ ان کے لڑکنے والے مرد قتل کر دیئے جائیں عورتیں اور بچے غلام بنائے جائیں اور ان کے مال و اسباب کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس فیصلہ پر کسی حد تک عمل بھی ہوا۔

یہاں حدیث میں اسی وقت کے واقعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے تو آنحضرت ﷺ نے انصار سے کہا کہ دیکھو تمہارے سردار آ رہے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ اکثر علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب فضل و قابل تکریم شخص آئے تو اس کے اعزاز و احترام کے لئے کھڑے ہو جانا چاہئے۔ اس کے برخلاف بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قوموا

الی سید کمہ سے آنحضرت ﷺ کی یہ مراد نہیں تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ کی تعظیم و تکریم کے لئے کھڑے ہو جاؤ جیسا کہ کسی بڑے آدمی کے آجانے پر کھڑے ہونے کا رواج ہے اور جس کی ممانعت ثابت ہے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ چیز عجیبوں کے راجح کردہ تکلفات میں سے ہے۔ نیز یہ عمل آنحضرت ﷺ کے نزدیک آخزمانہ تک ناپسندیدہ رہا۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ اگر اس ارشاد سے آنحضرت ﷺ کی مراد تعظیم و تکریم کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم دینا ہوتا تو آپ ﷺ اس موقع پر قوموا الی سید کمہ نہ فرماتے بلکہ یہ فرماتے کہ قوموا السید کمہ لہذا ان علماء کے مطابق اس حکم سے آنحضرت ﷺ کی مراد یہ تھی کہ دیکھو تمہارے سردار سعد رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں ان کی حالت اچھی نہیں ہے جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس جاؤ اور سواری سے اترنے میں ان کی مدد کرو تا کہ اترتے وقت ان کو تکلیف نہ ہو اور زیادہ حرکت کی بنا پر زخم سے خون نہ بہنے لگے۔ ان علماء کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جب بارگاہِ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے تھے یا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی جو یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ ﷺ میرے لئے یا تو کھڑے ہو جاتے یا اپنی جگہ سے اہل جایا کرتے تھے تو ان روایتوں سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ محدثین نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔

جو حضرات اہل فضل و کمال کے آنے پر کھڑے ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکورہ بالا روایتیں ضعیف ہیں اور ان سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے تو پھر اس روایت کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں منقول ہے کہ جب آنحضرت ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے لئے کھڑی ہو جاتی تھیں اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آنحضرت ﷺ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ اگر اس روایت کی یہ تاویل کی جائے کہ ان کا کھڑا ہونا اظہارِ محبت و استقبال کے طور پر ہوتا نہ کہ تعظیم و جلال کے طور پر، تو یہ تاویل بعید از حقیقت سمجھے جانے سے خالی نہیں ہوگی علاوہ ازیں خود طیبی نے محی السنۃ سے نقل کیا ہے کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث کے پیش نظر اہل فضل و کمال جیسے علماء و صلحاء اور بزرگانِ دین کا اعزاز و اکرام کرنا جائز ہے۔ علاوہ ازیں محی الدین نووی نے یہ لکھا ہے کہ یہ کھڑا ہونا اہل فضل کے آنے کے وقت مستحب ہے اور نہ صرف یہ کہ اس سلسلے میں احادیث منقول ہیں بلکہ اس کی صریح ممانعت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

مطالب المؤمنین میں فقیہ کے حوالہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آنے والے کی تعظیم کے طور پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا قیام یعنی کھڑے ہو جانے مکروہ نہیں ہے اور یہ کہ قیام بنفسہ مکروہ نہیں ہے بلکہ قیام کی طلب و پسندیدگی مکروہ ہے۔ چنانچہ وہ قیام ہرگز مکروہ نہیں ہوگا جو کسی ایسے شخص کے لئے کیا جائے جو نہ تو اپنے لئے قیام کی طلب رکھتا ہو اور نہ اس کو پسند کرتا ہو۔ قاضی عیاض مالکی نے یہ لکھا ہے کہ کھڑے ہونے کی ممانعت کا تعلق اس شخص کے حق میں ہے جو بیٹھا ہو اور بیٹھے رہنے تک لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں جیسا کہ ایک حدیث میں منقول ہے۔

حاصل یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص نظر آئے جو علم و فضل اور بزرگی کا حامل ہو تو اس کی تعظیم و توقیر کے طور پر کھڑے ہو جانا جائز ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ ایسے شخص کے آنے پر کھڑے ہونا جو نہ صرف یہ کہ اس اعزاز کا مستحق نہ ہو بلکہ اپنے آنے پر لوگوں

کے کھڑے ہو جانے کی طلب و خواہش بھی رکھتا ہو، مکروہ ہے اور اسی طرح بے جا خوشامد و چاپلوسی کے طور پر کھڑے ہونا بھی مکروہ ہے۔ نیز دنیا داروں کے لئے کھڑے ہونا اور ان کی تعظیم کرنا بھی نہایت مکروہ ہے اور اس بارے میں سخت وعید منقول ہے۔

باب: اپنے بچے کو پیار کرنا

۱۷۷۷: مسدّد سفیان زہری ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ آپ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو (شفقت سے) پیار کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ میرے دس بچے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو انسان رحم نہ کرے اس (پر بھی) رحم نہیں ہوگا۔

۱۷۷۸: موسیٰ بن اسماعیل حماد ہشام بن عروہ عروہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے (واقعا فک) بیان فرمایا پھر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمہاری برائت نازل فرمادی ہے اور آپ نے وہ آیات پڑھ کر سنائیں اس وقت میرے والدین نے فرمایا اٹھو اور تم آنحضرت ﷺ کو مبارک کا بوسہ لے لو۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تمہارا۔

باب: دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دینا

۱۷۷۹: ابوبکر بن ابی شیبہ علی بن مسہر الجلیح حضرت شعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو آپ نے ان سے معاف فرمایا اور ان کی دو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔

باب: رخسار پر بوسہ دینا کیسا ہے؟

۱۷۸۰: ابوبکر بن ابی شیبہ معتمر ایاس بن عفل سے روایت ہے میں نے ابونصرہ کو دیکھا انہوں نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہما کے رخسار کا بوسہ لیا۔

۱۷۸۱: عبداللہ بن سالم ابراہیم ان کے والد ابو اسحق حضرت براء رضی

باب فی قبلة الرجل وکده

۱۷۷۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْبَلُ حُسَيْنًا فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ۔

۱۷۷۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَالَ تَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عَذْرَكَ وَقَرَأَ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَبُو آيٍ قَوْمِي فَقَبِلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَا كَمَا۔

باب فی قبلة ما بین العینین

۱۷۷۹: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔

باب فی قبلة الخد

۱۷۸۰: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ دَعْفَلٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۔

۱۷۸۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا جس وقت کہ وہ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا ان کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی ہیں اور ان کو بخار ہو گیا ہے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ بیٹی تم کیسی ہو؟ اور انہوں نے ان کے رخسار کا بوسہ لیا۔

بُنُّ يُوْسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُصْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتِي وَقَبَّلَ خَدَّهَا۔

باب: ہاتھ کا بوسہ لینا

۱۷۸۲: احمد بن یونس، زہیر بن یزید بن ابی زیاد، عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔

باب فِي قِبْلَةِ الْيَدِ

۱۷۸۲: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ فَذَنُونَا يَعْنِي مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ۔

باب: بدن کی دوسری جگہ کا بوسہ دینا

۱۷۸۳: عمرو بن عون، خالد، حصین، عبدالرحمن، اسید بن حنظلہ سے روایت ہے جو کہ انصار میں سے ایک شخص تھے دو لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے اور ہنسی مذاق کر کے لوگوں کو ہنساتے تھے اسی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوکھ میں لکڑی کی ایک ٹھونگ لگائی اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اس کا بدلہ دیں۔ آپ نے فرمایا چلو بدلہ لے لو۔ اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرتے زیب تن فرمائے ہوئے ہیں میں (جب آپ نے مارا تھا) برہنہ تھا۔ آپ نے اپنا کرتہ مبارک اٹھایا تو آپ سے حضرت اسید رضی اللہ عنہ لپٹ گئے اور آپ کے پہلو مبارک کا بوسہ لینے لگے اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ! میرا یہی مقصد تھا۔

باب فِي قِبْلَةِ الْجَسَدِ

۱۷۸۳: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حَصِينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حَضِرٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي خَاصِرَتِهِ بَعْدَ فَقَالَ أَصْبِرْنِي فَقَالَ أَصْطَبِرُ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَمِيصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يَقْبَلُ كَشْحَهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ۔

خلاصہ: الباب لفظ "رجل" جس طرح مذکور ہے یعنی لام کے ساتھ وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جس شخص کے مزاج میں خوش طبعی و ظرافت تھی اور جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ کا مطالبہ کیا وہ خود اسید رضی اللہ عنہ ہیں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہوا۔ لیکن جامع الاصول میں یہ لفظ نہیں بلکہ رجلا منقول ہے۔ چنانچہ روایت کے الفاظ یوں ہیں عن اسید بن حنظلہ قال ان رجلا من الانصار كان فيه مزاح فبيهما هو يحدث القوم يضحكهم اذ طعنه النبي (يعني حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص تھے جن کے مزاج میں خوش طبعی و ظرافت تھی چنانچہ ایک موقع پر جب لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کو ہنسا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں لکڑی سے ٹھوکا دیا اس سے یہ واضح ہو کہ خوش طبعی و ظرافت سے ہنسانے والے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کا مطالبہ کرنے والے کوئی دوسرے صاحب تھے۔ خود حضرت

اسید رضی اللہ عنہ نہیں تھے حضرت اسید رضی اللہ عنہ تو ان کے واقعہ کو نقل کرنے والے ہیں۔

چنانچہ طیبی نے جامع الاصول ہی کی روایت کے پیش نظر متن حدیث کی روایت میں توجیہ و تاویل کر کے اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ صاحب واقعہ خود اسید رضی اللہ عنہ نہیں ہیں بلکہ وہ محض اس واقعہ کے راوی ہیں اور انہوں نے کوشش اس بنا پر کی ہے کہ حضرت اسید رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے ان کا تعلق اونچے درجہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمرہ سے تھا لہذا ان کی جلالت شان سے یہ مستبعد معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق خود ان کی ذات سے ہو۔ واللہ اعلم۔

آنحضرت ﷺ نے ان کو پہلو میں ایک لکڑی سے ٹھوکا دیا ان الفاظ کا محمول یہ ہے کہ وہ صاحب (خواہ اسید رضی اللہ عنہ ہوں یا کوئی دوسرے صحابی) مزاح و ظرافت کی پھلھڑیاں چھوڑ رہے تھے اور اپنی باتوں سے لوگوں کو ہنسا رہے تھے اس لئے آنحضرت ﷺ نے بھی اس موقع پر خوش طبعی فرمائی اور بطور مزاح ان کے پہلو میں لکڑی سے ٹھوکا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوش طبعی و ظرافت کی باتیں کرنا اور ان باتوں کو سننا مباح ہے بشرطیکہ ان کی وجہ سے کسی غیر شرعی اور ممنوع بات کا صدور نہ ہو۔

باب: پیر کا بوسہ لینا

بَابُ فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ

۱۷۸۴: ۱۔ محمد بن عیسیٰ، مطر حضرت اُم ابان اپنے دادا زراع سے روایت کرتی ہیں کہ وہ وفد عبد القیس میں (شامل) تھے۔ عرض کیا کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو ہم لوگ اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترنے لگے اور ہم لوگ آنحضرت کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لینے لگے۔ اٹح نے انتظار کیا یہاں تک کہ اپنی کٹھڑی سے دو کپڑے نکال کر پہن لئے پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا تمہارے میں دو عادتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ایک تو محل دوسرے سکون و سنجیدگی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ دو عادتیں جو مجھ میں ہیں میں نے ان کو اختیار کیا یا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت سے مجھ میں یہ عادتیں (پوشیدہ) رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت سے تم میں یہ عادتیں رکھی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے اس نے میرے اندر دو اس قسم کی عادتیں بتائیں کہ جن کو اللہ اور رسول پسند فرماتے ہیں۔

۱۷۸۴: ۱: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْنَقِيُّ حَدَّثَنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الزَّوَارِعِ بْنِ زَارِعٍ عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَبَادِرُ مِنْ رِوَاكِجِنَا لِنَقْبِلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَلَهُ قَالَ وَانْتَظَرُ الْمُنْدِيرُ الْأَشْجُ حَتَّى آتَى عَيْتَهُ فَلَبَسَ ثَوْبِيهِ ثُمَّ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فِيكَ خَلْتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْإِنَانَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَنْخَلِقُ بِهِمَا أَمْ اللَّهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا قَالَ بَلِ اللَّهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلْتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔

حَلَاكَةُ النَّبَاتِ: اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے پیروں کو چومنا جائز ہے لیکن فقہاء اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں چنانچہ وہ اس حدیث کی تاویل کرتے ہیں کہ یا تو یہ آنحضرت ﷺ کے خصائص میں سے تھا کہ صرف آپ ﷺ کے پاؤں کو بوسہ دینا جائز تھا۔ یا یہ ابتدا جائز تھا مگر پھر ممنوع قرار دے دیا گیا یا وہ لوگ اس مسئلہ سے ناواقف تھے اور اس ناواقفیت کی بنا پر سے انہوں نے آپ ﷺ کے پاؤں کے بوسہ دیا اور یا یہ کہ شوق ملاقات میں اضطرابی طور پر ان سے یہ فعل صادر ہو گیا تھا۔

باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ

۱۷۸۵: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ
ح و حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَمَادٍ
يَعْنِيانِ ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ
أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لِيَبِّكَ
وَسَعْدِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا فِدَاؤُكَ۔

باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ اَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا

۱۷۸۶: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
اَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَاَنْعِمَ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ
الْاِسْلَامُ نَهَيْنَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ
مَعْمَرٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ اَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَيْنِكَ۔

باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ حَفِظَكَ اللَّهُ

۱۷۸۷: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
حَمَادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِبَاحِ
الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَطَعَشُوا فَانْطَلَقَ سَرْعَانَ
النَّاسِ فَلَزِمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِلَيْلَةٍ
فَقَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ۔

باب: کوئی دوسرے سے کہے اللہ تم پر مجھ کو قربان کرے؟

۱۷۸۵: موسیٰ بن اسماعیل حماد (دوسری سند) مسلم ہشام زید حضرت
ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے مجھ کو آواز دی۔ اے ابوزر! میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر اور تیار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان
ہوں۔

باب: کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھیں؟

۱۷۸۶: سلمہ عبدالرزاق معمر قتادہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں یوں کہا کرتے
تھے یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ ٹھنڈی رکھے یا تم صبح کو شاد و آباد رہو۔
جب اسلام آیا تو اس طرح کہنے کی ممانعت ہو گئی۔ عبدالرزاق نے بیان
کیا، معمر نے بیان کیا کہ یہ کہنا مکروہ ہے یعنی اَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا اور
اس طریقہ سے کہنے میں کسی قسم کا حرج نہیں اَنْعَمَ اللَّهُ عَيْنِكَ یعنی اللہ
تعالیٰ تمہاری دونوں آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔

باب: کوئی شخص دوسرے سے کہے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت میں رکھے

۱۷۸۷: موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت عبد اللہ بن رباح حضرت
ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے
لوگوں کو پیاس لگی۔ وہ تمام لوگ جلدی سے چلے گئے اور میں ساری
رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ
تمہاری حفاظت فرمائے جس طریقہ سے تم نے اس کے رسول کی
حفاظت کی۔

باب: کسی کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونے کا بیان

۱۷۸۸: موسیٰ بن اسماعیل، حماد صیب، حضرت ابو جہر سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن زبیر اور ابن عامر کے پاس تشریف لائے تو ابن عامر کھڑے ہو گئے اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما (اسی طرح) بیٹھے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن عامر سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ کیونکہ آنحضرتؐ سے میں نے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کے لئے (یعنی اسکی تعظیم کیلئے) کھڑے ہوں تو وہ شخص دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔

۱۷۸۹: ابوبکر بن ابی شیبہ، عبد اللہ بن نمیر، مسعر، ابو العباس، ابو العباس، ابو مزوق، ابوغالب، حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر سہارا لگائے تشریف لائے تو ہم تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح اہل عجم ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔

باب: کسی کا سلام پہنچانا اور جواب دینا

۱۷۹۰: ابوبکر بن ابی شیبہ، اسماعیل، حضرت غالب سے روایت ہے کہ ہم لوگ حسن کے دروازے پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا انہوں نے میرے دادا سے سنا کہ میرے والد ماجد نے مجھے آنحضرتؐ کی خدمت اقدس میں بھیجا اور فرمایا کہ تم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہو تو تم میری طرف سے سلام عرض کرنا چنانچہ میں خدمت نبویؐ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد صاحب نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تمہارے اُور اُور تمہارے والد پر سلام ہو۔

۱۷۹۱: ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالرحیم، زکریا، شععی، ابوسلمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کو حضرت جبریل امین سلام کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ - یعنی ان پر سلام اور

باب فِي قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

۱۷۸۸: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمُتَلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

۱۷۸۹: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي الْعَدْبَسِ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يَعْظُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا -

باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فَلَانٌ يَقْرُنُكَ السَّلَامَ

۱۷۹۰: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ فَأَقْرَبُهُ السَّلَامَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي يَقْرُنُكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ -

۱۷۹۱: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ

اللہ کی رحمت ہو۔

السَّلَامُ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

باب: کسی کی پکار پر لبیک کہنے

بَاب فِي الرَّجُلِ يُنَادِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ

کابیان

لَبَيْكَ

۱۷۹۲: موسیٰ بن اسماعیل، حماد بن علی، ابوہمام، حضرت عبدالرحمن فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ حنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا گرمیوں کے ایک سخت دن میں ہم چلے پھر ہم نے درخت کے سایہ میں پڑاؤ کیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو میں زرہ پہنے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں قیام پذیر تھے۔ میں نے عرض کیا السلام عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اب رواگکی کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں پھر آپ ﷺ نے فرمایا اے بلال اٹھو اٹھو۔ وہ ایک درخت کے نیچے سے کود کر نکلے ان کا سایہ اس قدر پڑتا تھا کہ جس طرح کہ ایک چڑیا کا سایہ ہوتا ہے انہوں نے کہا لبیک وسعدیک میں آپ پر قربان! آپ نے ارشاد فرمایا میرے گھوڑے پر زین کس لو انہوں نے ایک زین نکالی جس کے دونوں کنارے گھور کی پوست کے تھے نہ ان میں بڑائی تھی نہ غرور۔ پھر آپ سوا ہوئے اور ہم لوگ بھی سوار ہو گئے۔

۱۷۹۲: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَهْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا فِيسَرْنَا فِي يَوْمٍ فَانْطَبَ شَدِيدَ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبَسْتُ لِأُمَّتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ حَانَ الرَّوْحُ قَالَ أَجَلٌ لَمْ قَالَ يَا بِلَالُ قُمْ فَفَارَ مِنْ تَحْتِ سَمْرَةٍ كَانَ ظِلُّهُ ظِلُّ طَائِرٍ فَقَالَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِذَاؤُكَ فَقَالَ أَسْرِجْ لِي الْفَرَسَ وَلَا بَطْرَ فَوَكَبْتُ وَرَكَبْنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

باب: ایک شخص دوسرے سے کہے اللہ تعالیٰ تم کو

بَاب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَضْحَكَ اللَّهُ

ہنستار کھے

سِنَّكَ

۱۷۹۳: عیسیٰ بن ابراہیم، ابوالولید، عیسیٰ عبدالقادر بن سری، حضرت ابن کنانہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا مرواس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہنستار کھے۔

۱۷۹۳: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرْكِيُّ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ وَأَنَا لِحَدِيثِ عِيسَى أَضْبَطُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ بِعَنِي السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ كِنَانَةَ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

باب: مکان تیار کرنا

۱۷۹۳: مسدد، حفص، اعمش، ابوالسفر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ میں اور میری والدہ صاحبہ ایک دیوار پر مٹی لگا رہے تھے آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ اے عبداللہ میں نے عرض کیا، دیوار کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا موت تو اس سے بھی جلدی آنے والی ہے۔

۱۷۹۵: عثمان بن ابی شیبہ، ہناذ ابو معاویہ، اعمش سے اسی طریقہ سے روایت ہے اس روایت میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا میرے پاس سے گزرے اور ہم لوگ اپنے حجرہ کو ٹھیک کر رہے تھے آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہم لوگوں کا حجرہ ہے جو کہ پرانا ٹوٹا پھوٹا ہو گیا تھا ہم لوگ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو موت کو اس سے بھی جلدی آنے والی سمجھتا ہوں۔

۱۷۹۶: احمد بن یونس، زہیر، عثمان، ابراہیم، ابوطحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے راستہ میں ایک بلند گنبد دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ فلاں انصاری شخص کا گھر ہے۔ آپ سن کر خاموش ہو گئے اور آپ نے دل میں اس بات کو رکھا۔ جب وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے مجلس میں آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور چند مرتبہ اسی طریقہ سے کیا یہاں تک کہ اس کو آپ کے غصہ کا علم ہو گیا۔ اس شخص نے اپنے دوستوں سے شکایت کی اور کہا واللہ میں آنحضرت ﷺ کے رویے میں ناگواری محسوس کرتا ہوں لوگوں نے عرض کیا آپ ایک دن باہر نکلے تھے تو آپ نے تمہارا مکان دیکھا تو یہ بات سن کر وہ شخص واپس گیا اور اس کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا پھر ایک دن آپ نکلے اور اس مکان کو نہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس مکان کا کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے اس مکان کے مالک نے آپ کی بے توجہی کی

باب ما جاء في البناء

۱۷۹۳: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسْرُودٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَطْبِقُ حَائِطًا لِي أَنَا وَأُمِّي فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ أَصْلَحُهُ فَقَالَ الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ۔

۱۷۹۵: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَذَا الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَعَالِجُ خُصًّا لَنَا وَهِيَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا خُصُّ لَنَا وَهِيَ فَتَحَنُّ نَصْلِحُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ۔

۱۷۹۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى قَبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفُلَانِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَسَكَّتْ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْلِمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْعُضْبَ فِيهِ وَالْأَعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُنْكِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قَبَّتِكَ قَالَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قَبْتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ مَا فَعَلْتَ الْقَبَّةُ قَالُوا شَكَا إِلَيْنَا

شکایت کی تو ہم نے اس کو بتلا دیا۔ اس لئے اس نے اس کو گرا دیا تو آپ نے فرمایا ہر ایک گھر اس کے مالک پر باعث وبال ہے مگر یہ کہ اس کے بغیر کام نہ چلے (گزارانہ ہو سکے)۔

صَاحِبُهَا إِعْرَاصَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرْنَا هَهُدَمَهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالَ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَا لَا إِلَّا مَا لَا يَعْينِي مَا لَا بُدَّ مِنْهُ۔

باب: بالا خانہ بنانا

۱۷۹۷: عبد الرحیم، عیسیٰ، اسماعیل، قیس، حضرت دکین بن سعید مزنی سے روایت ہے کہ ہم لوگ غلہ مانگنے کے لئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عمر! جاؤ اور ان کو دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (یہ سن کر) ہم کو ایک بالا خانہ پر لے کر چڑھے پھر اپنے کمرے سے چابی لے کر اس کو کھولا۔

باب فِي اتِّخَاذِ الْغُرَفِ

۱۷۹۷: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّبٍ الرَّوَّاسِيُّ حَدَّثَنَا عَيْسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْمَزْنِيِّ قَالَ آتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ الطَّعَامَ فَقَالَ يَا عُمَرُ أَذْهَبُ فَأَعْطِهِمْ فَأَخَذَ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْرَتِهِ فَفَتَحَ۔

باب: بیری کے درخت کا ثنا

۱۷۹۸: نصر بن علی، ابو اسامہ، ابن جریج، عثمان بن ابی سلیمان، سعید بن محمد، حضرت عبد اللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی بیری کا درخت کاٹے تو اس نے اپنا سر دوزخ میں ڈال دیا۔

باب فِي قَطْعِ السِّدْرِ

۱۷۹۸: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ۔

۱۷۹۹: مخلد بن خالد، سلمہ بن شیبیب، عبد الرزاق، معمر، عثمان بن ابی سلیمان قبیلہ ثقیف کا ایک شخص حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

۱۷۹۹: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلْمَةُ بْنُ شَيْبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَبِيبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ۔

۱۸۰۰: عبید اللہ حمید، حسین بن ابراہیم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ہشام بن عروہ سے دریافت کیا کہ بیری کا درخت کاٹنا کیسا ہے اور حضرت عروہ کے گھر سے سہارا لگائے ہوئے تھے تو ہشام نے کہا تم ان دروازوں اور چوکھٹوں کو کیا سمجھتے ہو یہ تمام بیری کے بنے ہوئے ہیں اور حضرت عروہ اس کوزمین سے کاٹ کر لائے تھے اور فرمایا اس میں کوئی قباحت نہیں حمید نے اضافہ کیا کہ پھر ہشام نے کہ اے عراقی تم یہ بدعت لے کر آئے ہو۔ ہشام نے جواب دیا میں نے کہا یہ بدعت تو تم لوگوں کی طرف سے ہے میں نے سنا کوئی شخص مکہ معظمہ میں کہتا تھا کہ

۱۸۰۰: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَمِيدٍ بْنُ مُسْرَةَ وَحَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ وَهُوَ مُسْتَبَدٌّ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ أَرَى هَذِهِ الْأَبْوَابَ وَالْمَصَارِعَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ كَانَ عُرْوَةَ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ زَادَ حَمِيدٌ فَقَالَ هِيَ يَا عِرَاقِي جَنَسِي بِيَدَعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا الْبِدْعَةُ مِنْ قِبَلِكُمْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ بِمَكَّةَ لَعَنَ رَسُولُ

آنحضرت ﷺ نے پیری کے درخت کاٹنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔

اللَّهِ ﷻ مَنْ قَطَعَ السِّدْرَ ثُمَّ سَاقَ مَعَاهُ۔

باب: راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا

۱۸۰۱: احمد بن محمد علی بن حسین ان کے والد عبد اللہ بن بریدہ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آدمی کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اس کو چاہئے کہ ہر ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس میں اس قدر قوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوک (وغیرہ) دفنانا (دبانا) اور ایذا پہنچانے والی شے کو راستہ سے ہٹا دینا (اس میں بھی صدقہ کا اجر ملتا ہے) اگر یہ نہ ہو سکے تو (کم از کم) نماز چاشت کی دو رکعت تم کو کافی ہیں۔

بَابُ فِي إِطَاةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

۱۸۰۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرَوَّزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصَلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصَلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ النَّحَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تَنْجِيهِهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تَجْزِيكَ۔

۱۸۰۲: مسدّد حماد (دوسری سند) احمد بن مہج عباد واصل، یحییٰ بن عقیل، یحییٰ بن یحییٰ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے ہر ایک پورے پر صبح کے وقت ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اپنے ملنے والے شخص کو سلام کرنا صدقہ ہے اور خیر کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے اور اپنی اہلیہ سے ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنی شہوت پوری کرے گا تو بھلا یہ صدقہ کیسے ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ شخص اس شہوت کو غلط جگہ پر پوری کرتا تو گنہگار ہوتا یا نہیں؟ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ان تمام کی طرف نماز چاشت (یعنی اشراق کی دو رکعت) کافی ہیں۔

۱۸۰۲: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبَّادٍ وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَنْتُمْ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِطَاةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بِي شَهْوَةٌ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْتِمُّ قَالَ وَيُجْزِيءُ مِنْ ذَلِكَ كَيْلَهُ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى۔

۱۸۰۳: وہب بن بقیہ خالد بن واصل، یحییٰ بن عقیل، یحییٰ بن یحییٰ ابو الاسود حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اسی طریقہ سے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے۔

۱۸۰۳: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّبَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَسْطِهِ۔

۱۸۰۴: عیسیٰ بن حماد لیث، محمد بن مجلان، زید ابوصالح، حضرت

۱۸۰۴: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے کسی قسم کا کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا علاوہ اس کے کہ ایک کانٹے کی شاخ راستہ میں تھی اس کو راستہ سے ہٹا دیا تھا جو کہ درخت میں تھی اور اسے کاٹ دیا یا راستہ میں پڑتی تھی اور اسے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا یہی نیک عمل قبول فرمایا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وَالْقَاهُ وَإِمَّا كَانَ مَوْضِعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْحَلَهُ الْجَنَّةَ.

باب: سوتے وقت چراغ بجھا دینا چاہئے

۱۸۰۵: احمد بن محمد بن حنبل، سفیان زہری، سالم ان کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب (رات کو) تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑا کرو۔

بَاب فِي إِطْفَاءِ النَّارِ بِاللَّيْلِ
۱۸۰۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَوَايَةً وَقَالَ مَرَّةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ.

۱۸۰۶: سلیمان بن عبد الرحمن، عمرو بن طلحہ، اسباط، سماک، عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک چوبیا ایک جتنی کھینچی ہوئی آئی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بوریا پر ڈال دیا کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اس میں سے ایک درہم کے برابر جلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ سونے لگو تو اپنے چراغ گل کر دیا کرو کیونکہ شیطان اسی قسم کی چیزوں کو یہ باتیں سکھاتا ہے اور وہ تمہیں جلا دیتے ہیں۔

۱۸۰۶: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أُسْبَاطُ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَارَةٌ فَأَخَذَتْ تَجْرُ الْفَيْتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَالْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدَّرْهَمِ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرَقُكُمْ.

باب: سانپوں کو مار ڈالنا

۱۸۰۷: اسحاق، سفیان ابن عجلان، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہم لوگوں نے سانپوں سے دوستی نہیں کی جب سے ان سے لڑائی شروع کی تو جو شخص خوف کی وجہ سے کسی سانپ کو چھوڑ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

بَاب فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ
۱۸۰۷: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا سَأَلْنَا مِنْهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُنَّ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

۱۸۰۸: عبد الجبید، اسحاق، شریک، ابوالاسحاق، قاسم، ان کے والد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا سانپوں کو قتل کر ڈالو اور جو شخص انتقام سے ڈر جائے تو وہ ہم میں سے

۱۸۰۸: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ السُّكْرِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُونُسَ عَنْ شَرِيكَ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ

نہیں ہے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَقْتُلُوا الْحَيَاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ فَارْهَنْ فَلَيْسَ مِنِّي۔

۱۸۰۹: عثمان بن ابی شیبہ، عبد اللہ موسیٰ، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سانپوں کو ان کے انتقام کے خوف سے چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نے ان سے جب سے لڑائی شروع کی ہے کوئی صلہ نہیں کی۔

۱۸۰۹: حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ لِيَمَّا أَرَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْحَيَاتِ مَخَافَةَ طَلِيهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَأَلْنَا عَنْهُ مِنْدُ حَارِبِنَاهُنَّ۔

۱۸۱۰: احمد بن مہدی، مروان بن معاویہ، موسیٰ، عبد الرحمن، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا ہم لوگ زمزم کے نزدیک جھاڑو دینا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر چھوٹے قسم کے سانپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار دینے کا حکم فرمایا۔

۱۸۱۰: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنَسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِي الْحَيَاتِ الصَّغَارَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ۔

۱۸۱۱: مسدّد سفیان زہری، حضرت سالم اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا سانپوں کو قتل کر ڈالو اور اس سانپ کو (قتل کر ڈالو) کہ جس کے پیٹ پر دو سفید لائن ہوں اور جو بغیر دم کا ہو اس لئے کہ وہ آنکھ کی روشنی ختم کر دیتے ہیں اور حمل ساقط کر دیتے ہیں راوی نے بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو جو سانپ ملتا وہ اس کو مار دیتے ایک مرتبہ حضرت ابولبابہ یا حضرت زید بن خطاب نے ان کو ایک سانپ پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ آنحضرت نے گھروں کے سانپ قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔

۱۸۱۱: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْتُلُوا الْحَيَاتِ وَذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبْلَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ۔

۱۸۱۲: قعنی مالک نافع، حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان سانپوں کے مارنے سے منع فرمایا جو گھروں میں ہوتے ہیں مگر یہ کہ وہ سانپ دو دم کا ہو یا دم کٹا سانپ ہو اس لئے کہ وہ آنکھ کی روشنی خراب کر دیتے ہیں اور خواتین کے حمل (دہشت کی وجہ سے) ساقط کر دیتے ہیں۔

۱۸۱۲: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بَطُونِ النِّسَاءِ۔

۱۸۱۳: محمد بن عبید، حماد ابوب، حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت

۱۸۱۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے بعد یعنی حضرت ابولبابہ کی حدیث سننے کے بعد اپنے گھر میں ایک سانپ دیکھا تو انہوں نے اس کو بیع (نامی قبرستان) میں پھکوا دیا۔

۱۸۱۳: ابن سرح، احمد بن سعید، ابن وہب، أسامہ نافع نے اس حدیث میں یہ بیان کیا کہ میں نے پھر اس سانپ کو ان کے گھر میں دیکھا۔

۱۸۱۵: مسدد یحییٰ، محمد بن ابی یحییٰ، ان کے والد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض (قسم کے) سانپ جنات ہوتے ہیں جس وقت کوئی شخص اپنے گھر میں سانپ پائے تو اس سے تین مرتبہ کہہ دے کہ آئندہ پھر نہ نکلا ورنہ تجھ کو اذیت ہوگی پھر اگر وہ سانپ (دوبارہ) باہر نکلے تو اس کو قتل کر دے۔ اس لئے کہ وہ شیطان ہے۔

۱۸۱۶: یزید لیث، ابن عجلان، صلی، حضرت ابوالسائب سے روایت ہے کہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ان کے تخت کے نیچے سے سرسراہٹ محسوس ہوئی دیکھا تو سانپ ہے۔ میں کھڑا ہوا حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ایک سانپ ہے انہوں نے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں سانپ کو مارے دیتا ہوں اور کہا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک کوٹھڑی بتلائی اور بتلایا کہ اس کوٹھڑی میں میرا بچا زاد بھائی رہتا تھا جب غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا تو اس نے حضرت رسول اللہ ﷺ سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی اور اس نے نبی نئی شادی کی تھی تو آنحضرت ﷺ نے اس کو اجازت عطا فرمادی اور حکم فرمایا کہ اسلمہ لے کر جاؤ۔ وہ گھر پہنچا تو

زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَعْنٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِي بَعْدَ مَا جَدَّهُ أَبُو لُبَابَةَ حَيَّةً فِي دَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ يَعْنِي إِلَى الْبَيْعِ -

۱۸۱۳: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَافِعٌ نَمَّ رَأَيْتَهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ -

۱۸۱۵: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ يَبْعُو دَانِيَهُ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِينَا صَاحِبَ لَنَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَأَقْبَلْنَا نَحْنُ فَجَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْهُوَامَ مِنَ الْجِنَّ فَمَنْ رَأَى فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فَلْيُخْرِجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ -

۱۸۱۶: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ صَبِيئِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيرِهِ تَحْرِيكَ شَيْءٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَمُتُّ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَا لَكَ قُلْتَ حَيَّةٌ هَاهُنَا قَالَ فَتَرِيدُ مَاذَا قُلْتَ أَقْتَلُهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ بَيْتٍ فِي دَارِهِ تَلَقَاءَ بَيْتِهِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو لِي كَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ اسْتَأْذَنَ إِلَيَّ أَهْلِي وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس نے اپنی بیوی کو گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا تو نیزہ سے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس کی اہلیہ نے اس سے کہا کہ جلدی نہ کرو اور یہ دیکھو کہ میں کس وجہ سے نکلی ہوں وہ شخص گھر میں داخل ہوا تو اس نے ایک بری شکل و صورت کا سانپ دیکھا اس نے اس کو نیزہ سے مارا پھر اس سانپ کو نیزہ میں چھو کر باہر لے کر آیا جبکہ وہ تڑپ رہا تھا۔ مجھ کو علم نہیں کہ اس شخص اور سانپ میں سے کون جلدی مرا (پھر) اس شخص کی قوم والے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگیں کہ ہمارے دوست کو واپس فرمادے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس کے لئے دعاء مغفرت کرو پھر ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا ہے۔ پس تم لوگ جب ان سے میں سے کسی کو دیکھو تو اس کو تین مرتبہ ڈراؤ کہ اب نہ نکلتا ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا پھر اگر وہ نکلے تو تم اس کو قتل کر دو۔

۱۸۱۷: مسدّد یحییٰ ابن عجلان سے مختصر طور پر اسی طریقہ سے روایت ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے مذکور ہے کہ تم اس کو تین مرتبہ خبردار کرو پھر اگر وہ نکلے تو تم اس کو قتل کر دو اس لئے کہ وہ شیطان ہے۔

۱۸۱۸: احمد بن سعید ابن وہب مالک صلیٰ ابوالسائب حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریقہ سے روایت ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے مذکور ہے کہ اس کو تین دن تک خبردار کرو اگر وہ اس کے بعد بھی نکلے تو تم اس کو قتل کر دو اس لئے کہ وہ شیطان ہے۔

۱۸۱۹: سعید علیٰ ابن ابی لیلیٰ ثابت بنانی حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ سے گھروں میں (رہنے والے) سانپوں کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جب تم لوگ کسی کو اپنے گھروں میں دیکھو تو تم اس طرح کہو ہم تم کو اس اقرار کی قسم کھلاتے ہیں جو کہ تم سے حضرت نوح علیہ السلام نے لیا تھا اور ہم تم کو اس اقرار کی قسم کھلاتے ہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تم سے

وَأَمْرُهُ أَنْ يَذْهَبَ بِسِلَاحِهِ فَأَتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَقَالَتْ لَا تَعْمَلْ حَتَّى تَنْظُرَ مَا أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمْحِ تَرْتِكِضُ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الرَّجُلُ أَوْ الْحَيَّةُ فَأَتَى قَوْمَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ صَاحِبَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ اسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ فَحَذِّرُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ۔

۱۸۱۷: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصِرًا قَالَ فَلْيُؤْذَنُ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَأَ لَهُ بَعْدَ فَيَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ۔

۱۸۱۸: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيِّ مَوْلَى ابْنِ أَلْفَلَحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ قَالَ فَأَذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ۔

۱۸۱۹: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ عَنْ حَيَاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا أَنشُدْكُمْ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ

لیا تھا کہ تم ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نکلیں تو تم ان کو قتل کر دو۔

۱۸۲۰: عمرو بن عون، ابو عوانہ، مغیرہ ابراہیم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تمام قسم کے سانپوں کو قتل کر دو مگر جو بالکل سفید ہوں جیسے کہ چاندی کی چھڑی۔

عَلَيْكُمْ نُوحٍ أَنْشُدُكُمْ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سَلِيمَانُ أَنْ لَا تَوُدُّونَا فَإِنْ عُدْنَا فَاقْتُلُوهُنَّ۔

۱۸۲۰: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَبَانَ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبٌ فِضَّةٍ۔

باب: گرگٹ کو مار ڈالنا

۱۸۲۱: احمد بن محمد بن حنبل، عبد الرزاق، معمر زہری، عامر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا اور اس کو آپ نے چھوئے قسم کا فاسق فرمایا۔

باب فی قتل الأوزاع

۱۸۲۱: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمْرٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْوَزَّاعِ وَسَمَاهُ فَوَيْسِقًا۔

۱۸۲۲: محمد بن صباح، اسماعیل، سہیل، ان کے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص پہلے وار میں ہی گرگٹ کو قتل کر ڈالے تو اس کو اس قدر نیکیاں ملیں گی اور جو شخص دوسرے وار میں اس کو قتل کرے تو اس کو اس قدر نیکیاں ملیں گی جو کہ پہلے کے مقابلہ میں کم ہوں گی اور جو شخص اس کو تیسرے وار میں قتل کرے تو اس کو اس قدر نیکیاں ملیں گی جو کہ دوسری مرتبہ سے (درجہ کے اعتبار سے) کم ہوں گی۔

۱۸۲۲: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبُرَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَزَّاعًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الْأُولَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ۔

۱۸۲۳: محمد بن صباح، اسماعیل، سہیل، ان کے بھائی یا بہن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے وار میں قتل کرنے پر ستر نیکیاں ملیں گی۔

۱۸۲۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبُرَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً۔

باب: چیونٹی مارنا

۱۸۲۴: قثمیہ بن سعید، مغیرہ ابو الزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے اس درخت کے نیچے سے سامان

باب فی قتل الدَّبِّ

۱۸۲۴: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمُغِيرَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ

نکالنے کا حکم فرمایا اس کے بعد اس میں آگ لگا دی (تو تمام چیونٹیاں جل گئیں) اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ تم نے (صرف) ایک چیونٹی کو سزا کیوں نہیں دی۔

۱۸۲۵: احمد بن صالح، عبد اللہ یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی علیہ السلام کے ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے چیونٹیوں کے بل کو آگ میں جلا ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ تمہیں ڈسا تو ایک چیونٹی نے تھا اور تم نے ایک اُمت کو ہلاک کر دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی تھی۔

۱۸۲۶: احمد بن حنبل، عبدالرزاق، معمر زہری، عبید اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کے قتل سے منع فرمایا چیونٹی، شہد کی مکھی، ہد ہد اور چڑیا۔

۱۸۲۷: ابوصالح، ابواسحق، فزاری، ابواسحق شیبانی، ابن سعد، حضرت عبد الرحمن بن عبد اللہ اپنے والد حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے ہم لوگوں نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دو بچے تھے۔ ہم نے اس کے بچے اٹھائے۔ اس کی ماں (یعنی چڑیا) گرنے اور ترپنے لگی۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور دریافت فرمایا اس چڑیا کا بچہ لے کر کس نے اس کو اذیت میں مبتلا کیا ہے؟ اس کا بچہ اس کو واپس کر دو اور آپ نے چیونٹیوں کا ایک بل دیکھا جو ہم نے جلا ڈالا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو کس نے جلا یا؟ ہم نے عرض کیا ہم نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ مناسب نہیں کہ آگ کے رب کے علاوہ کوئی شخص کسی مخلوق کو جلانے۔

نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِيَجَاهِرَهُ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ قَهْلًا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ۔

۱۸۲۵: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرِيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَلَّا أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَّمِ تَسْبِيحُ۔

۱۸۲۶: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةَ وَالنَّحْلَةَ وَالْهُدْهُدَ وَالضَّرَدَ۔

۱۸۲۷: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَعْبُودُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرُخَانٌ فَأَخَذْنَا فَرُخِيهَا فَجَاءَتْ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تُقْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرِيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ فَلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ۔

۱۸۲۸: محمد بن کثیر، سفیان، ابن ابی ذئب، سعید بن خالد، سعید بن مسیب، حضرت عبد الرحمن بن عثمان سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طبیب نے مینڈک کو دو ا میں ڈالنے کے بارے میں معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔

باب: کنکریاں مارنا

۱۸۲۹: حفص بن عمر، شعبہ، قادم، عقبہ، حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (کھیل کے طور پر بچوں کو بہلانے کے لئے) چھوٹی چھوٹی کنکریاں پتھر مارنے سے منع فرمایا کہ نہ اس سے شکار مرتا ہے نہ دشمن مگر یہ آنکھ پھوڑ سکتی اور دانت توڑ سکتی ہے۔

باب: ختنہ کرنے کا بیان

۱۸۳۰: سلیمان، عبد الوہاب، مروان، محمد بن حسان، عبد الوہاب، کوئی، عبد الملک بن عمیر، حضرت أم عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت عورتوں کا ختنہ کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم بہت گہرا ختنہ نہ کیا کرو اس لئے کہ اس میں عورت کو مزہ محسوس ہوتا ہے اور پسندیدہ ہوتا ہے مرد کو۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طریقہ سے عبد الملک سے روایت کیا ہے لیکن یہ سند قوی نہیں ہے۔

۱۸۲۸: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَفْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَائِهِ فَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا۔

باب فِي الْخَذْفِ

۱۸۲۹: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهَبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَصِيدُ صَيْدًا وَلَا يَنْكُحُ عَدُوًّا وَإِنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ۔

باب مَا جَاءَ فِي الْخِتَانِ

۱۸۳۰: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ۔

حَاطَةُ الْبَابِ: وروایہ مجهول (اور اس کے راوی مجهول ہیں) میں جس طرح یہ احتمال ہے کہ یہاں جنس راوی مراد ہے یعنی اس حدیث کے سب راوی مجهول ہیں اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ اس جملہ سے اصل میں یہ مراد ہے کہ کوئی ایک راوی مجهول ہے جیسا کہ ایک دوسرے صحیح نسخے میں منقول ہے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے وہی روایۃ مجهول بہر حال اس روایت کو طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ اور حاکم نے اپنی مستدرک میں ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: احفضنی ولا تنهکی فانہ انضر للزوجة واحظی عند الزوج۔

باب: راستہ میں خواتین کس طریقہ

سے چلیں

۱۸۳۱: عبد اللہ بن مسلمہ، عبد العزیز بن محمد، ابوالیمان، شداد ان کے والد حمزہ بن ابی اسید، حضرت ابواسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جب کہ آپ ﷺ مسجد سے باہر تشریف لارہے تھے جب خواتین کے ساتھ راستہ میں مرد مل گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا تم سب پیچھے ہٹ جاؤ تم کو راستہ کے درمیان میں نہیں چلنا چاہئے بلکہ سب ایک کونہ پر چلو۔ پھر عورت دیوار سے اس قدر لگ کر چلا کرتی کہ اس کا کپڑا اس کے لگ کر چلنے کی وجہ سے دیوار سے اٹک جاتا تھا۔

۱۸۳۲: محمد بن یحییٰ، ابو قتیبہ، داؤد بن ابی صالح، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مرد کو دو خواتین کے درمیان میں چلنے سے منع فرمایا۔

باب: زمانہ کو برا کہنے کے بارے میں

۱۸۳۳: محمد بن صباح، سفیان، ابن سرح، زہری، سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ زمانہ کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں تمام کام میرے دست قدرت میں ہیں۔ میں شب و روز کو گردش دیتا ہوں۔ راوی ابن سرح نے سعید کی جگہ ابن المسیب بیان کیا ہے۔

باب فی مَشِي النَّسَاءِ مَعَ الرَّجَالِ فِي

الطَّرِيقِ

۱۸۳۱: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النَّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ اسْتَخْرُونِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنْ ثَوَّبَهَا لِيَتَعَلَّقَ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.

۱۸۳۲: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ سَلَمٌ بْنُ قَتَيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَمْشِيَ يَعْنِي الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرَاتِينِ.

بَاب فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ الدَّهْرَ

۱۸۳۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سَفْيَانَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالََا حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ مَكَانَ سَعِيدٍ.

خلاصہً البَابُ: زمانہ جاہلیت میں عام طور پر لوگوں کی عادت تھی کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی یا وہ کسی آفت و

مصیبت میں مبتلا ہوتے تو یوں کہتے: یا خبیبة الدھر۔

اور درحقیقت اس لفظ کے ذریعہ گویا وہ زمانہ کو برابر کہتے تھے جیسا کہ اب بھی جاہلوں کی عادت ہے کہ وہ بات بات پر زمانہ کو برا کہتے ہیں۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو اس سے منع فرمایا کیونکہ زمانہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ حالات میں الٹ پھیر اور زمانہ کے انقلابات مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں کہ جس بھلائی و برائی اور مصیبت و راحت کی نسبت زمانہ کی طرف کی جاتی ہے حقیقت میں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور وہی فاعل حقیقی ہے پس زمانہ کو برا کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے اور اسی وجہ سے اس کی احادیث مبارکہ میں اتنی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔

تَمَّ وَكَمَلْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

بجملہ اللہ پارہ نمبر ۳۳ مکمل ہوا اور اسی پر ”سنن ابوداؤد شریف“ کا ترجمہ مکمل ہوا

خورشید حسن قاسمی

رفیق دارالافتاء و رکن رویت ہلال کمیٹی دارالعلوم دیوبند یونیورسٹی انڈیا

۱۵/ اکتوبر ۲۰۰۰ء بوقت مغرب